

خطابات نور



حضرت مولانا حکیم نور الدین بھیروی
رض خلیفۃ المسیح الاول

فہرست خطاباتِ نور

نمبر شمار	عنوان	تاریخ فرمودہ	صفحہ
۱	مذہب کی غرض و غایت	۲۷ دسمبر ۱۸۹۶ء	۱
۲	اطاعت اللہ اطاعت الرسول اور خلافت	۲۷ دسمبر ۱۸۹۷ء	۴
۳	اطفال کے لئے زریں نصائح	الحکم ۶ جولائی ۱۸۹۸ء	۱۹
۴	ابتلاؤں اور مصائب پر صبر	۳۳ ستمبر ۱۸۹۸ء	۲۹
۵	صحبت صادقین	نومبر ۱۸۹۹ء	۳۵
۶	قرآن کریم اس کے حقائق و معارف اور اعلیٰ تعلیم	۱۲ نومبر ۱۸۹۹ء	۸۴
۷	مشکلات و مصائب سے رہائی پانے کا گر	۲۷ دسمبر ۱۹۰۰ء	۱۱۹
۸	خرید الہی	الحکم ۱۰ مارچ ۱۹۰۱ء	۱۳۸
۹	سورۃ جمعہ پر وعظ	۲۸ دسمبر ۱۹۰۱ء	۱۴۵
۱۰	اتفاق اور اختلاف	اکتوبر ۱۹۰۳ء	۲۰۲
۱۱	قرآن کریم اور فضل الہی کا سائبان	۲۸ مئی ۱۹۰۳ء	۲۱۲
۱۲	عورتوں کو وعظ	۱۴ جولائی ۱۹۰۳ء	۲۱۷
۱۳	تقویٰ اور اس کے اصول و نتائج	۳۰ اکتوبر ۱۹۰۴ء	۲۲۸
۱۴	جلسوں کی اغراض	۲ نومبر ۱۹۰۴ء	۲۴۰
۱۵	بت پرست شکر گزار نہیں ہو سکتا	۱۲ مئی ۱۹۰۷ء	۲۴۲
۱۶	خلیفہ وقت کی اطاعت کی اہمیت	۲۷ مئی ۱۹۰۸ء	۲۴۵
۱۷	وفات انبیاء پر سنت الہی اور اس کا ظہور	خلافت کے بعد پہلی تقریر	۲۴۶
۱۸	وفات مسیح موعودؑ	ریویو آف ٹیچرز جون جولائی ۱۹۰۸ء	۲۵۰

نمبر شمار	عنوان	تاریخ فرمودہ	صفحہ
۱۹	اطاعت اور وحدت	ستمبر ۱۹۰۸ء	۲۷۲
۲۰	کلمہ شہادت کے دونوں حصوں کی اغراض	۲۶ دسمبر ۱۹۰۸ء	۲۷۵
۲۱	فلسفہ حُبِّ	۲۸ دسمبر ۱۹۰۸ء	۳۲۴
۲۲	بچوں کو نصیحت	۲۳ جنوری ۱۹۰۹ء	۳۲۵
۲۳	ایمان کی مضبوطی	۲۸ مارچ ۱۹۰۹ء	۳۲۸
۲۴	حقیقت البیعت	۲۵ مارچ ۱۹۱۰ء	۳۵۲
۲۵	ختم نبوت	۲۶ مارچ ۱۹۱۰ء	۳۵۶
۲۶	قبولیت دعا	۲۳ اپریل ۱۹۱۰ء	۳۷۵
۲۷	اسلام اور دیگر مذاہب	۳۱ جولائی ۱۹۱۰ء	۳۸۲
۲۸	لا الہ الا اللہ کے تین عظیم الشان فائدے	۲۵ دسمبر ۱۹۱۰ء	۳۹۳
۲۹	حربہ دعا	۲۷ دسمبر ۱۹۱۰ء	۴۰۳
۳۰	انجمنوں کے کارکنان کو نصیحت	۲۷ دسمبر ۱۹۱۰ء	۴۰۵
۳۱	البلاغ من الشاهد الی الغائب	ستمبر ۱۹۱۱ء	۴۱۲
۳۲	فہم قرآن کے گُر، ناسخ و منسوخ کا حل اور جبل اللہ کو پکڑنے کی نصیحت	۲۷ دسمبر ۱۹۱۱ء	۴۱۶
۳۳	عمارتوں کی تعمیر کی غرض و غایت	۱۵ جون ۱۹۱۲ء	۴۵۰
۳۴	خلافت، اس کا حقدار اور امر خلافت میں روک	جون ۱۹۱۲ء	۴۵۶
۳۵	احسان عام کی اسلامی تعلیم	۱۶ جون ۱۹۱۲ء	۴۸۱
۳۶	منعم علیہ اور مغضوب وصال	۱۷ جون ۱۹۱۲ء	۴۹۵
۳۷	قرآنی قسموں کی حقیقت	۱۷ جون ۱۹۱۲ء	۵۰۸

نمبر شمار	عنوان	تاریخ فرمودہ	صفحہ
۳۸	اتباع قرآن کے منافع	۱۹ جون ۱۹۱۲ء	۵۱۸
۳۹	تُرکی چندہ کے متعلق قول فیصل	الحکم ۱۴ دسمبر ۱۹۱۲ء	۵۲۸
۴۰	قرآن کو دستور العمل بناؤ۔ دین کو دنیا پر مقدم کرو	۲۵ دسمبر ۱۹۱۲ء	۵۳۱
۴۱	اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو آسان بنایا ہے نیز گزشتہ تقریر کا تتمہ	۲۶ دسمبر ۱۹۱۲ء	۵۴۸
۴۲	اسلام کیا چیز ہے؟	۲۲ مارچ ۱۹۱۳ء	۵۶۱
۴۳	تفرقہ کے اسباب اور چندہ کی چند تحریکیں	۲۷ دسمبر ۱۹۱۳ء	۵۶۳
۴۴	پیدائش جسمانی اور تکوین روحانی کے مدارج ستہ	۲۸ دسمبر ۱۹۱۳ء	۵۶۹
۴۵	قرآن مجید کا نزول کیوں ضروری تھا؟	ریویو آف ریڈیچر ستمبر ۱۹۲۳ء	۵۸۶



مذہب کی غرض و غایت

﴿تقریر فرمودہ ۲۷ دسمبر ۱۸۹۶ء بر موقع جلسہ اعظم مذاہب﴾

خدا تعالیٰ کی مہربانی اور اس کا فضل اور اس کی ربوبیت عامہ اور اس کا وہ فضل جو خاص خاص بندوں پر ہوتا ہے اگر انسان کے شامل حال نہ رہے تو اس کا وجود کب رہ سکتا ہے۔ منجملہ اس کی مہربانیوں کے جو ہم پر آج کل عطا فرمائی ہیں۔ علم کے حاصل کرنے کے ذریعے اور اس کے مخازن ہیں جو عطا کئے ہیں۔ کاغذ کا افراط سے بننا، مطبوعوں کا جاری ہونا، پوسٹ آفسوں کی وہ ترقی کہ نہایت ہی کم خرچ پر ہم اپنے خیالات کو دور دراز ممالک میں پہنچا سکتے ہیں۔ پھر تار کا عمدہ انتظام، ریل اور جہاز کے ذریعہ سفر میں آسانی یہ تمام انعام الہی ہیں۔ اگر انسان اس کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ ضرور عذاب میں گرفتار ہوگا لیکن جو شکر کرتا ہے خدا اس میں بڑھوتی کرتا ہے۔ میں نے اپنے ابتدائی زمانہ میں دیکھا ہے جو کتا ہیں ہمیں مشکل سے ملتی تھیں بلکہ جن کے دکھانے میں تاہل اور مضائقہ ہوتا تھا۔ تھوڑے زمانہ سے دیکھتے ہیں کہ قسطنطنیہ کی عمدہ عمدہ کتابیں اور ایسا ہی الجزائر، مراکش، تیونس، طرابلس اور مصر سے آسانی کے ساتھ گھر بیٹھے پہنچتی ہیں۔ ہر ایک شخص کو واجب ہے کہ اس امن کے زمانہ میں اس نعمت الہی سے بڑا فائدہ حاصل کرے۔ مذہب میرے نزدیک ایسی چیز ہے کہ کوئی آدمی دنیا میں بغیر قانون کے زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ گورنمنٹ کے قانون کی منشا حقوق کی حفاظت ہے لیکن ان قانونوں پر عمل درآمد کرنے کے لئے جو جو حدود باندھے گئے ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ ان سے ممکن ہے جرائم کا انسداد ہو لیکن محرکات جرائم کو روکنا ان کے احاطہ سے باہر ہے مثلاً یہ تو ممکن ہے کہ اگر کوئی شخص زنا بالجبر کا مرتکب ہو تو گورنمنٹ اسے سزا دے لیکن بد نظری سے بد صحبتوں سے بدخواہشوں سے جو انسان میں پیدا ہو کر اس سے طرح طرح کے جرائم کراتی ہیں۔ اس کا انسداد

قانون گورنمنٹ سے باہر ہے۔ گورنمنٹ کا قانون انہیں نہیں روک سکتا۔ ایسا قانون مذہب ہے جو ان امور سے ہم کو روکتا ہے۔ ہمارے بعض افعال سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اَقَمْنَ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (السجدة: ۱۹) یعنی مومن اور فاسق ایک جیسے نہیں اپنے معتقدات اور اعمال کے لحاظ سے وہ ایک دوسرے کے مساوی نہیں ایسے ہی ان کے اعمال یکساں نتائج مرتب نہیں کرتے۔ یہ ایک مذہب کا ہی قانون ہے جس نے فاسق کو ان امور کے لئے بھی مجرم ٹھہرا کر اسے ان کے ارتکاب سے روکا ہے جن کا انسداد گورنمنٹ کے قانون سے باہر ہے۔ چنانچہ بعض ایسی سیہ کاریاں بھی ہیں جو اگرچہ عقلاً نقلاً بری نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں اور اہالیان گورنمنٹ اور ایسے ہی سوسائٹی کے دوسرے افراد اسے کامل بد اخلاقی سمجھتے ہیں۔ لیکن نہ تو بذات خود گورنمنٹ بحیثیت گورنمنٹ اور نہ افراد سوسائٹی کوئی حکمی انسداد اس کی، بند کرنے کا اپنے پاس رکھتے ہیں مثلاً شراب خوری یا عیاشی جس میں فریقین راضی ہوں ایسے جرائم اور سیہ کاریوں کی انسداد کے لئے اگر کوئی قانون مفید ہو سکتا ہے تو وہ صرف مذہب کا ہی قانون ہے جو نہ صرف ایسے جرائم کو ہی روکتا ہے بلکہ ان خیالات اور خطرات نفس پر بھی اس کی حکومت ہے جو ان جرائم اور کج اخلاقیوں کے محرک ہوتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جب انسان مدنی بالطبع ہونے کی صورت میں ایک قانون کا طبعاً اور مجبوراً محتاج ہے تو وہ قانون صرف شریعت الہی ہے جس میں سیاست مدن کی تکمیل کا حقد ہو سکتی ہے اور یہی شریعت اصلاح انسانی کے لئے اپنے اندر وہ طاقت رکھتی ہے اور اسی شریعت کو انسانی طبیعت پر اس قدر غلبہ ہے جو کسی گورنمنٹ کے قانون کو خواہ اس میں کیسی ہی جاہلانہ طاقت کیوں نہ ہو نصیب نہیں۔ لہذا مذہب میں انسان کو دلچسپی پیدا کرنا گورنمنٹ کے قوانین امن کی حفاظت کی ضرورت سے ہے نہیں بلکہ صدمات سے محفوظ رکھنے کا پہلا باعث ہے۔ اس ضروری چیز کے لئے فکر چاہئے۔ فکر ہے تو ضرورتوں کے موافق سامان بن جاتا ہے۔ اس وقت جب ہمیں طرح طرح کے سامان خدا تعالیٰ نے مہیا کر دیئے ہیں تو یہ گویا خدا تعالیٰ کی ناشکری ہوگی اگر ہم ان خدا کی عطا کردہ نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر ان قوانین پر غور نہ کریں جو خدا کی طرف سے مذہب نے مرتب کر کے

ہمارے اعمال اور افعال کو ان کے ماتحت کیا اس لئے نہایت ضروری ہے کہ ہم مذہب کی نگہبانی کریں اور یہ جلسہ اس لئے قائم کیا گیا ہے۔ اس لئے میرے دل سے یہی دعا ہے کہ جس طرح کل کا دن امن و آرام سے گزرا۔ ویسے ہی آج کا دن بھی گزرے اور غالباً مولوی ثناء اللہ صاحب جو امرتسر کے ایک ہونہار نوجوان ہیں۔ اپنے ابتدائی خیالات سے آپ کو خوش کریں گے۔

(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب صفحہ ۵۶، ۵۷)



اطاعت اللہ، اطاعت الرسول اور خلافت

﴿تقریر جلسہ سالانہ فرمودہ ۲۷ دسمبر ۱۸۹۷ء﴾

اشہد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشہد ان محمدا عبده ورسوله
 اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 قُلْ اطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَیْهِ مَا حَمَلَ وَعَلَیْكُمْ
 مَا حَمَلْتُمْ ۗ وَاِنْ تُطِيعُوْهُ تَهْتَدُوْا ۗ وَمَا عَلَی الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِیْنُ ﴿۵۸﴾
 وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْاَرْضِ كَمَا
 اسْتَخْلَفَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ وَلَیُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِیْنَهُمُ الَّذِی ارْتَضٰ لَهُمْ
 وَلَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اٰمٰنًا یَعْبُدُوْنَیْ لَا یُشْرِكُوْنَ بِیْ شَیْئًا ۗ وَمَنْ
 كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۵۹﴾ وَاَقِمْوْا الصَّلٰوةَ وَاَتُوْا الزَّكٰوةَ وَاَطِيعُوا
 الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۶۰﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِیْنَ فِی الْاَرْضِ
 وَمَا وُجُوْهُمُ النَّارُ ۗ وَلَیْسَ الْمَصِیْرُ ﴿۶۱﴾ (النور: ۵۵ تا ۵۸)

اس آیت شریف میں اللہ جل شانہ انسان کو یہ تاکید فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول
 کی اطاعت کرو اور یاد رکھو کہ اگر تم اس کی اطاعت نہ کرو گے تو اس کا ذمہ تو صرف اتنا ہی تھا کہ تبلیغ
 کر دی اور یہ تمہارا ذمہ تھا کہ تم مان لو۔ کیونکہ یہ اطاعت ہی کامیابی کی راہ ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور فائز المرام ہونے کے لئے ایک صراط مستقیم بتلایا
 ہے جو اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول سے بنی ہے یہ ہدایت فرماتے وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
 اَطِيعُوا اللّٰهَ یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ چونکہ اللہ تعالیٰ تو ایک ایسی فوق الفوق اور
 وراء الوراہ ہستی ہے جس کی شان ہے لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ (الانعام: ۱۰۴)۔ پھر اس کی

اطاعت کیونکر ہو سکتی۔ اس کی سبیل اور صورت یہ ہے کہ **وَاطِيعُوا الرَّسُولَ**۔ اطاعت الرسول ہی اطاعت اللہ ہوتی ہے کیونکہ رسول اللہ تو گویا مرضات اللہ کے دیکھنے اور معلوم کرنے کے لئے ایک آئینہ صافی ہوتا ہے اس کی زندگی اس کا چال چلن اس کی نشست برخاست۔ غرض اس کی ہر بات رضائے الہی اور اطاعت الہی کا نمونہ ہوتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے **اطِيعُوا اللَّهَ** کے بعد **اطِيعُوا الرَّسُولَ** کہہ کر اس مشکل کو حل کر دیا جو اطاعت اللہ کے سمجھنے اور سوچنے میں پیدا ہو سکتی تھی اور اس کی صراحت اور توضیح اور بھی ہو جاتی ہے جب ہم یہ پڑھتے ہیں **فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ** اس حصہ آیت میں **فَإِنَّمَا عَلَيْهِ** میں ضمیر جو رسول کی طرف راجع ہے بتلا رہی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس اطاعت کو جو ابتدائے آیت میں اللہ اور رسول کی اطاعت میں منقسم تھی یہاں صرف رسول ہی کی اطاعت سے مخصوص کر دیا ہے اور پھر جب ہم **إِنْ تَطِيعُوهُ تَهْتَدُوا** والے حصہ پر غور کرتے ہیں تو یہ راز اور بھی کمال صفائی سے حل ہو جاتا ہے غرض یہ ہے کہ اطاعت اللہ وہی ہے جو اطاعت رسول ہے۔ قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر اس عقیدہ کو صاف الفاظ میں حل کیا گیا ہے جیسے **فَمَا يَأْتِيَنَّكَ مِنْهُ** **تَحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي** (ال عمران: ۳۲)۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے محبت اور عزیز بن جاؤ تو اس کے لئے تدبیر یہ ہے کہ میری اطاعت کرو اور دوسرے مقام پر فرمایا: **مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ** (النساء: ۸۱) جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔

فی الجملہ اس آیت میں حصول کامیابی کے لئے ایک گرتلا یا ہے جس کا نام ہے اطاعت الرسول جو اپنے اصل معنوں میں اطاعت اللہ ہی ہے کیونکہ رسول مرضات اللہ کا مظہر ہوتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ کی کل ہوتا ہے اس کا اپنا ارادہ کچھ ہوتا ہی نہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ **وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ** (النجم: ۴)۔

اللہ تعالیٰ یہ طریق کامیابی بتلا کر ایک پیشگوئی کے ذریعے سے اس اصول کی صداقت ظاہر کرتا ہے کیونکہ **وَإِنْ تَطِيعُوهُ تَهْتَدُوا** میں تو ایک دعویٰ کیا گیا ہے کہ فائدہ اس اطاعت الرسول

میں یہ ہوگا کہ تم دین اور دنیا میں فائز المرام ہو جاؤ گے۔ پس اس دعوے کو اللہ تعالیٰ ایک پیشگوئی کے رنگ میں دلیل دے کر ثابت کرتا ہے چنانچہ فرمایا: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَانًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۵۶﴾ (النور: ۵۶)

یعنی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں میں سے جو تم میں سے ایمان لائے (یعنی لوازم ایمان حقیقی ان میں پائے جاتے ہیں) اور اعمال صالحہ بجالاتے ہیں۔ (یعنی عملی طور پر بھی ایمان کا واقعی نتیجہ اپنی زبان اور اعضاء اور اپنے اموال پر دکھاتے ہیں) ان سے اللہ تعالیٰ نے حتمی وعدہ کر لیا ہے کہ یقیناً یقیناً ان کو ضرور اسی زمین پر خلیفہ بنا دے گا جیسا کہ ان لوگوں کو بنایا جو تم سے پہلے تھے اور ان کا وہ دین جو ان کے لئے پسند کر چکا ہے۔ اس کے کر دکھانے اور پھیلانے کی ان کو قوت عطا کرے گا اور خوف کے بعد ان کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ وہ مجھے ہی پوجیں گے۔ (یعنی میری ہی اطاعت اور عبادت کریں گے) میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گے۔ جو (یعنی ان نشانات کو دیکھ کر) اس کے بعد کفر ان کریں گے وہ لوگ فاسق ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک عظیم الشان اور تسلی بخش وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے جس کی تشریح اور تفسیر ابھی تھوڑی دور چل کر کی جاوے گی۔

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تشریف رکھتے تھے اس وقت حضور کے اعداء کفار کا خیال تھا کہ ہم اس شخص کا نام و نشان تک مٹا دیں گے۔ چونکہ وہ ابتدائے اسلام کا زمانہ تھا اور دنیا کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عام کامیابی بلکہ وجود تک کی بھی خبر نہ تھی ایسے زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بڑے وعدے فرمائے تھے جو قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف طرز میں بیان ہوئے ہیں۔ کفار اور اعداء تو یہ خیال کرتے تھے کہ ہم اس مدعی نبوت کو گم کر دیں گے مگر وہ نادان نصرت الہی سے ناواقف اور سنت اللہ سے نابلد مطلق تھے ان کی ایسی باتوں اور دعاوی کو سن کر ارشاد ہوتا تھا۔

مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ (الحج: ۱۶)

قرآن کریم کے پرغور مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے اور ایسا ہی تو رات شریف پر نظر کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ہادی اکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رسول کے مثل ہیں جو فرعون کے وقت برگزیدہ اور بنی اسرائیل کا ہادی ہو کر آیا تھا۔ جیسے فرمایا:۔ **إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلاً۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ (المزمل: ۱۶ تا ۱۸)** یعنی ہم نے ہی تمہاری طرف تمہارا نگران رسول بھیجا ہے اور ٹھیک اسی طرح بھیجا ہے جیسا کہ فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا جب فرعون نے نافرمانی کی اس رسول کی تو ہم نے اسے سخت سخت پکڑ لیا۔ پس تم اگر اس رسول کی مخالفت اور انکار کرو گے تو کیونکر بچ سکتے ہو۔

اب اس آیت میں جو سورہ مزمل (مکی سورہ) کی ایک آیت ہے اس وقت حضور نے مثل موسیٰ کے رنگ میں اپنے اعداء کے نیست و نابود ہونے کی پیشگوئی کی جبکہ وہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اب امروز فردا میں ہم اس کو نیست و نابود کر دیں گے اور وہ اپنے خیال میں طرح طرح کے منصوبے گاٹھ رہے تھے اور اخراج یا قتل کی خوفناک اور کمینہ سازشیں کر رہے تھے اور بظاہر ان کی موجودہ حالت اور سامان نے ان کے ارادوں کے پورا ہونے کی قوی امید دل رکھی تھی۔ مثل موسیٰ کو یہ صدا آ رہی تھی کہ **وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (المائدة: ۶۸)** اس وعدہ الہی کو پکار پکار کر دشمنوں کو سنا دیا کہ تمہاری شرارتیں اور شیطنتیں مجھے ضرر نہ پہنچا سکیں گی بلکہ میں ان کے اثر سے محفوظ اور مصون رہوں گا اس پر وہ عرب کی غیور اور کینہ تو زقوم اور بھی جھلائی مگر آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب وعدہ الہی ان کے زرعے سے محفوظ نکل آئے اور وہ خدا کے دشمن رسول کے دشمن انسان کی اصلاح و فلاح کے دشمن ہاتھ کاٹتے رہ گئے۔ یہی نہیں کہ اس کثرت اعدائے ملت اور قلت انصار دین کے وقت اپنے اپنے بچ جانے ہی کی پیشگوئی کی۔ نہیں! بلکہ وہ بات جس نے عرب جیسی جنگجو قوم کو اور بھی چڑا دیا وہ اس دردناک عذاب کی خبر تھی جو مثل موسیٰ والی آیت میں ان کو سنائی کہ یاد رکھو جیسے فرعون موسیٰ علیہ السلام کے عصیان و کفر ان کے باعث عرضہ تیغ ہلاکت

ہوئے ہیں ایسا ہی میرے مخالف بھی تباہ اور ہلاک ہو جاویں گے اب غور تو کرو کہ اس حالت اور صورت میں جبکہ مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم یہاں تک کہ انگلیوں پر گنی جاسکے اور پھر ابھی تک مرجع قوم لوگ بھی شامل نہ ہوئے تھے۔ یہ پکار کر کہہ دینا کہ میرا عصیان و کفر ان تم پر ہلاکت لائے گا۔ کوئی آسان بات نہ تھی۔

الغرض یہ ایک عام بات ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی کو اپنے یہ قدرت سے پرورش کرتا ہے تو اپنی قدرت نمائی عجیب عجیب پیرایوں میں ظاہر کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب مبعوث کر کے فرعون کے پاس بھیجا تو اس نے نہایت ذلت اور حقارت کی نگاہ سے ان کو دیکھا اور کہا اَمَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَّ لَا يَتَّكِدُ يَدَيْهِ (الزخرف: ۵۳) یعنی میں تو اس سے بہتر ہوں وہ تو ایک ذلیل آدمی ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا مگر دیکھو کہ وہ انسان جو اپنے لشکر اپنے شکوہ و طاقت کے گھمنڈ پر کھڑا ہوا تھا۔ آخر کہاں گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ پس یہ خوب یاد رکھو کہ یہی کامیابی ایک راحت بخش معیار سچائی کا ہے جو ہمیشہ سے چلا آیا ہے اور چلا جائے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چونکہ تمام خوبیاں مجتمع تھیں اور ہر ایک نبی یا رسول کے اعداء جو فرداً فرداً تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سب دشمن مجموعی طور پر موجود تھے اس لئے آپ کی کامیابی تمام انبیاء علیہم السلام کی کامیابیوں کا مجموعہ تھی اسی لئے مدینہ طیبہ کے یہود اور نصاریٰ کے مصائب و معاصی بصیغہ ماضی بیان فرماتے فرماتے اب یوں فرماتا ہے کہ **يَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ** (ال عمران: ۲۲) یعنی مضارع کا صیغہ استعمال فرمایا گیا اس ایک نبی کے قتل کے ارادہ سے ہی تمام نبیوں کو قتل کر دیا ہے۔ پس ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام خوبیوں اور صفات کے جامع تھے جو مختلف اوقات میں انبیاء علیہم السلام میں موجود تھیں اور قرآن کریم کل کتب کی جامع اور تمام خوبیوں کی جامع ہے۔ **لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا (البینة: ۲)** یعنی یہ لوگ سیدھے ہی کب ہونے والے تھے جب تک کہ ان کے پاس ایک بیئہ نہ آ جاتی۔۔۔۔۔ جس کے پاس ایک کتاب ہو۔ جس میں الگ الگ سورتیں ہوں اور دنیا بھر کی مضبوط و مستحکم کتابوں کی جامع ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ محرف کتابیں ہوں بلکہ یہ فرمایا کہ **كُتِبَ قِيَمَةٌ (البینة: ۴)** قرآن کریم کا نام

مہین بھی ہے یعنی محافظ اور نگہبان اور یہ نام اس لئے رکھا گیا کہ وہ ان تمام کتابوں کا جامع شارح اور مفسر ہے جو مختلف اوقات میں فرداً فرداً کسی قوم کے پاس بھیجی گئی تھیں یہ ایک سچی بات ہے جو مشہور ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی دنیا میں گزرے ہیں اور یہ بھی مشہور بات ہے کہ حضرت ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد بھی اسی قدر تھی جن کے حالات اور سوانح کتب الرجال میں مرقوم ہیں۔ گویا ہر ایک میں نبوت کا رنگ موجود تھا اور صحابہ کو دکھ پہنچانے والوں کے لئے بھی یہی فتویٰ تھا۔ اب میں پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کی مماثلت میں دئے ہوئے عظیم الشان وعدہ کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ یہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے۔ اس کو موسیٰ علیہ السلام کے وعدے کے رنگ میں دکھایا ہے کہ موسیٰ کے دشمن جب ہلاک و نابود ہو گئے تو تم اگر کفران و عصیان کرتے ہو تو بتلاؤ تم کیونکر بیچ سکتے ہو۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ (المزمل: ۱۸)۔

جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ایک دشمن تھا ویسے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد اور خاص دشمن تھے جو اسی طرح معذب کئے گئے جس طرح وہ اَمَّا اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا (الزخرف: ۵۳) کہنے والا نابود کیا گیا یہ ایک خاص بات ہے کہ کبھی کسی خاص شخص کو کسی خاص صفت کے سبب معنوں میں وسیع کر دیا جاتا ہے دنیا میں مثل مشہور ہے۔ لِكُلِّ فِرْعَوْنَ مُوسٰی۔

الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں کی قلت اور اعداء کی بے حد کثرت کے دنوں میں ایسے الفاظ میں جو اہل عرب کی جنگجو اور کینہ توز اور لفظ لفظ پر بھڑک اٹھنے والی قوم کے لئے (گویا بارود کا کام کرنے والے تھے اپنے محفوظ رہنے اور ان کے مورد غضب الہی ہونے کی پیشگوئی فرمائی جو لفظ بلفظ پوری ہوئی)۔ نادان سمجھتے تھے کہ بس اس کے ساتھ ہی یہ سارا کھیل بگڑ جائے گا اور ہم کامیاب ہو جائیں گے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اور بھی ذلیل کرنے کے لئے یہ وعدہ فرمایا جو آیت استخلاف میں بیان ہوا یعنی جس طرح پر جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم مصر کے آہنی تنور سے نکل کر اور اپنے دشمنوں کے پنجے سے نجات پا کر آخر معزز و ممتاز ہوئی اور خلعت خلافت اور حکومت سے سرفراز ہوئی۔ اسی طرح ٹھیک اسی طرح اس رسول کے اتباع بھی موسیٰ علیہ السلام کے اتباع کی طرح اسی زمین میں حکومت اور خلافت سے بہرہ ور ہوں گے کہ (کاف) علت کا ہے اور سبب کے

معنے دیتا ہے یعنی ہم اسی زمین میں خلیفہ بنا کر دکھائیں گے۔ کیونکہ پہلوں کو بھی بنایا تھا اور یہ زرا دعویٰ ہی دعویٰ نہ رہے گا بلکہ لَيَمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ یعنی یہ دین اسلام جو ان کے لئے میں پسند کر چکا ہوں اس کی اشاعت کی ان کو قدرت دوں گا کہ وہ حامی دین ہوں اور دین ان کے سبب سے قدرت اور مکانت حاصل کر لے وَلَيَبَدِّلَنَّهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اب جو ڈرتے ہیں کہ ان کی جان و مال پر حملہ ہو رہا ہے ہم وہ وقت لانے والے ہیں اس کے بدلے میں کہ خوف امن سے بدل جاوے۔ اب دیکھنا یہ واجب ہے کہ یہ مواعید الہی کس طرح جلوہ گر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مقابلہ میں عرب کا سارا ملک اٹھ کھڑا ہوا تھا لیکن کوئی ہم کو بتلائے کیا ہمارے ہادی بلکہ ہادی انام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم میں نہیں نہیں آپ کے مولد مسکن اور آپ کے ملک میں آپ کا کوئی دشمن رہا؟ دشمن کیسے؟ ان کے آثار اور نشان تک نہ رہے اور جس طرح پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا پورا ہوا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے کوچ کرتے ہی ایک عالمگیر شور برپا ہو گیا اور عرب کے ہر چہار گوشوں میں ایک زلزلہ سا آ گیا۔ بعض نے جودل کے کمزور اور ایمان میں ناتواں تھے یہ سمجھ کر کہ اب یہ کارخانہ ہی ختم ہوا اس سے انکار ہی کر دیا اور بعض نے زکوٰۃ وغیرہ ضروریات دین سے انکار کر دیا بعض نے صرف توحید ہی کو اصل مقصد اور غرض سمجھ لیا۔ غرض جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات منقلبین علمی الاعقاب اور شاکرین دو فریقوں کے ہو جانے کی پیشگوئی خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرما چکے تھے پوری ہو گئی۔ اس عظیم الشان زلزلہ میں ارتداد، بغاوت اور فتنہ عظیم برپا ہوا اور قریب تھا کہ یہ حالتیں اسلام کا نام و نشان تک مٹا دیتیں اگر اللہ تعالیٰ کا زبردست ہاتھ اس کا حامی نہ ہوتا۔ اب دیکھو کہ خدا تعالیٰ کا وہ زبردست وعدہ کہ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ۔ اس وقت میں کیسا سچا ثابت ہوا کہ متزلزل عرب کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ٹھہرا دیا۔ اسلام کی عظمت اور شوکت کو پھر از سر نو قائم کیا اور کمالات اسلام کو تازہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت سخت معرض خطر میں تھی بلکہ خود ان کے باپ کو تعجب تھا کہ کیونکر ان کی خلافت کو ایسے فتنہ عظیم میں تسلیم کر لیا گیا ہے اصل بات یہ ہے کہ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (آل عمران: ۴۱)

يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (المائدة: ۲)۔ منشاء الہی یونہی تھا سو پورا ہوا۔ ابو بکر کوئی ملکی اجتماع قوم وغیرہ نہ رکھتے تھے لیکن بایں ہمہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ وعدہ کیا تھا اس کو حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت سے ثابت کر دکھایا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مرتے ہی یوشع بن نون کو خلیفہ کیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہوتے ہی بلا فصل ابو بکر خلیفہ ہوئے اور ان کے بعد معاً حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی وغیرہم رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اسی طرح پر لگاتار یہ سلسلہ قیامت تک چلا جائے گا۔

میں پھر ایک بار یہ امر آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ایک جامع کمالات تھی۔ غور تو کرو کہ ایک طرف عرب کے جنگجو اور لڑائی پر ادھار کھائے ہوئے وحشیوں سے مقابلہ دوسری طرف لکھے پڑھے یہودیوں سے سامنا۔ ایک طرف جاہل دوسری طرف عالم۔ ایک طرف جاہلوں میں وحدت ارادی کی روح پھونکنا اور دوسری طرف ان کو خدا تک پہنچانا۔ پھر ان تمام امور میں کسی مشیر اور صلاح کار کی ضرورت نہیں۔

علاوہ ازیں کس قدر اہم امور آپ کے درپیش تھے۔ آپ ہی نمونہ بن کر دکھانا۔ آپ ہی خط و کتابت کرنی قضا بھی آپ ہی کرنی۔ فوجوں کے کمانڈنگ آفیسر بھی بذات خود۔ خطرات آویں تو سینہ سپر ہونا۔ پھر ایک نہیں دو نہیں نو بیویوں کا خاوند ہونا۔ الغرض کیا یہ کسی معمولی حیثیت کے آدمی کا کام ہے؟ کہ اس قدر کام کرے اور سب کے سب باحسن وجوہ پورے ہوں کہتے ہیں ایک بار مدینہ طیبہ میں شورا ٹھا۔ صحابہ پہنچے تو دیکھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام واپس آ رہے ہیں اور فرمایا کہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔

گھر کے نظام، بیویوں سے سلوک اور پھر ایسا اطمینان کہ جاہلیت کے قصبے بھی ہو رہے ہیں۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے آپ کے ان کمالات اور انوار کو حسب استعداد مخلوق میں پھیلا دیا۔ کچھ لوگ احادیث کی حفاظت کے لئے آپ کے سینہ کی طرح مامور ہو گئے۔ کچھ فقہاء بن گئے۔ کچھ منتظم ملک اور پھر بعد زمانہ کے جب یہ جامعیت اٹھ گئی تو کچھ متکلم، کچھ قراء، کچھ مفسر، کچھ حواشی احادیث لکھنے والے پیدا ہو گئے اور بعض بادشاہ ہو گئے۔ ایک وقت میرے قلب پر کچھ تغیر تھا کہ حضرت علی مرتضیٰ سے خدا نے کیا کام لیا۔ آخر کار مجھے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے اندرونی فتوحات

کا کام علی مرتضیٰ سے لیا۔ آپ دیکھیں گے کہ اولیاء کے کمالات میں تمام متعارف سلسلے اپنے اپنے سلسلہ کو حضرت علی تک ہی پہنچاتے ہیں ہمارے امام کی سوانح عمری میں ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ روحانی کمالات میں اہل بیت تک پہنچتے ہیں۔ المختصر خدا تعالیٰ نے ان انوار محمدیہ کو مختلف طور پر آپ کی امت میں پھیلا یا۔

اب میں پھر اس وعدہ الہی کی طرف آتا ہوں اس وعدے کے پورا ہونے میں ایمان اور اعمال صالحہ کی شرط ہے اور یہ وعدہ کوئی خاص وقت اور زمانے کے لئے نہیں تھا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہے۔ جوں جوں ایمان اور اعمال صالحہ میں کمزوری ہوتی گئی اور نبوت کے زمانہ پر عرصہ گزرتا گیا اسی قدر کمزوری اور تفرقے اسلام میں پیدا ہوتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ وہ زمانہ آ گیا جو ہمارا زمانہ ہے۔

شامت اعمال اور تفرقہ باہمی سے اگر شوکت اسلام کمزور ہوئی تو خیر! اس پر بھی صبر کیا گیا لیکن افسوس تو یہ ہے کہ روحانی سلطنت بھی باقی نہ رہی۔ بلکہ دونوں طرف آرا چلا۔ مخالفان دین کو دیکھو کہ کیسی سر توڑ کوششیں اس کے مٹانے میں کر رہے ہیں۔ اگر دین ان کے ہاتھ میں ہوتا تو آج تک کانیست و نابود ہو گیا ہوتا۔ ہاں خدا تعالیٰ ہی کا فضل و کرم ساتھ نہ ہوتا تو مسلمانوں نے بھی کوئی دقیقہ اس کے مٹانے میں باقی نہیں رکھا تھا۔ چرچ آف انگلینڈ سالانہ چھتیس کروڑ روپیہ اشاعت عیسویت میں خرچ کرتا ہے اور اس سے بجز اس کے کچھ غرض نہیں کہ تخریب اسلام ہو۔ ادھر مسلمان ہیں کہ بے فکر خواب غفلت میں استراحت کی نیند سمجھ کر سو رہے ہیں۔ ان کے نزدیک کوئی دہریہ ہو جاوے آریہ یا بے دین ہو جاوے کچھ پرواہ ہی نہیں۔ میرے کانوں میں اب تک ایک صدا گونجتی ہے۔ کسی شخص کا بھائی مسلمان ہو گیا اس نے کہا کہ کاش وہ دہریہ ہو جاتا!

اسلام پر جہاں ایک طرف بیرونی اور خارجی دشمنی میں آریہ، برہمو، عیسائی، دہریہ، طلبعی، فلسفی اور کیا کیا سینکڑوں قسم کے لوگ حملہ آور ہو رہے تھے وہاں اندرونی مخالفت کے لئے بھی بہت سے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ جنہوں نے اپنے خیالات کو اپنا رہبر قرار دے لیا اور اسلام سے غرض واسطہ ہی نہیں رکھا۔ بلکہ اپنے خیالات کو سچا ثابت کرنے کے لئے قرآن کریم کی اصلی تعلیمات پر گستاخانہ حاشیے چڑھانے شروع کر دیئے بیرونی دشمنوں نے تو تخریب دین کے لئے کوئی دقیقہ

فرگذاشت کرنا ہی نہ تھا مگر اندرونی مخالفتوں نے بھی عجیب طور پر اسلام کی مخالفت کی ہے۔ اگر دل اور دماغ انسان کا ضائع نہ ہو گیا ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے۔ اہل دل جو لوگ کہلاتے ہیں یعنی صوفی اور گدی نشین۔ ان کی حالت تو یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ قریب بہ اباحت پہنچ گئی ہے۔ قرآن پر تدبر کرنا، قرآن کریم کو امام بنانا حرام کر دیا۔ وظائف اور قواعد بھی اپنے ہی بنا لئے۔ چند اشعار کا پڑھنا عبادت کا لب لباب قرار دے دیا اور وحدت وجود کے ایسے مسائل ایجاد کئے اور ایسی امثلہ یاد کیں کہ اس کا نتیجہ اباحت ہے۔ اب بتلاؤ وہ مخالفان ملت کی کیا اصلاح کرتے ہیں۔ اہل دماغ گروہ کو دیکھو یہ وہ گروہ ہے جو اپنے آپ کو علماء کا گروہ کہلاتا ہے میں نے خود اس گروہ میں عرصہ تک رہ کر دیکھا ہے اور میں خوب جانتا ہوں کہ یہ گروہ دین کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ جھوٹے اور بے معنی قصے ایجاد کر کے جن کا کہیں قرآن و حدیث میں ذکر تک نہیں مخالفان دین کو انگشت نمائی کا موقع دیتے ہیں اور اکثروں کی ہلاکت کا موجب ہوتے ہیں۔ میں ایک دفعہ ریل میں سفر کر رہا تھا۔ اسی کمرے میں ایک بڈھا سا آدمی بھی بیٹھا تھا۔ اس نے جب مولوی کا نام سنا تو اسے نفرت ہوئی اور اس نے اپنا سر کھڑکی سے باہر نکال لیا۔ میں نے حسب معمول ایک انگریزی خواں کے سوالوں کا جب جواب دینا شروع کیا تو اس نے پھر سر اندر کر لیا اور اس نے بیان کیا کہ مجھے مولویوں کے نام سے نفرت کی وجہ یہ ہے کہ جب میں ایک بار لودھیانہ آیا تو کشمیری بہت تھے اور ایک مسجد میں فضائل دریائے نیل کے وعظ میں بیان ہو رہے تھے بیان کیا گیا کہ دریائے نیل چاند کے پہاڑوں سے نکلتا ہے اس پر جب کسی نے اعتراض کیا کہ یا حضرت! ہندو کہتے ہیں کہ گنگا جی بھی شیوجی کی جٹوں سے نکلتی ہے ہم ان پر کیا انکار کر سکتے ہیں۔ اس پر واعظ صاحب نے سائل کو پٹوایا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مجھے اسلام سے نفرت ہو گئی اور میں عیسائی ہو گیا اور کچھ عرصہ تک گجرات میں رہا۔ برانڈرس صاحب ایک انگریز تھے انہوں نے ایک پمفلٹ دکھایا کہ دیکھو یورپین لوگ کیسے مستعد ہیں سات پشت سے دریائے نیل کے منبع کی تلاش میں لگے تھے۔ اب معلوم ہو گیا کہ دریائے نیل جبل القمر سے نکلتا ہے۔ میں یہ سن کر رو پڑا اور اس دن سے عہد کر لیا کہ کسی مولوی سے نہیں ملوں گا اور مسلمان ہو گیا۔

(یہ ہنسنے کا مقام نہیں رونے کی جا ہے۔ یہاں تک اسلام کے علماء کی حالت پہنچ گئی ہے کہ

تحقیقات سے ان کو مس تک نہیں رہی) بے سود لفظی مباحث میں ان کی یہاں مویشگافی ہو رہی ہے اب ایسی حالت میں غور کرو اور سوچو کہ یہ اسلام کس نرغہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس زمانہ میں جبکہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے رخصت ہوئے ہوں اور ابھی اسلام بھی ایسا طور پر نہ پھیلا ہو اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو۔ اس وقت جبکہ مخالفت حد سے زیادہ بڑھ گئی ہو ایمان اور اعمال کا نام و نشان تک اٹھ گیا ہو۔ ہر طرف اور ہر پہلو سے تخریب دین قدیم کی تدابیر ہو رہی ہوں جبکہ نہ اہل دل ہی باقی ہوں نہ اہل دماغ ہی ہوں۔ خدا تعالیٰ کی نصرت اور تائید کا وعدہ پورا نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرما کر کہ **إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ** (الحجر: ۱۰)۔ پھر عین ضرورت کے وقت اپنی تائید اور حفاظت کا ہاتھ کھینچ لے؟ ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں!!!

وہ اپنے دین کی خود حفاظت کرتا ہے اور اس نے اب بھی حفاظت کی اور اس کا ایک نگہبان امام بھیج دیا جو تم ہی میں سے ہے اور اس لئے وہ منکم کا مصداق ہے۔ یہ کہنا کہ کتابیں موجود ہیں فضول ہے جب تک کہ سچی گریہ و زاری نہ ہو، خدا تعالیٰ سے ملانے والا نہ ہو۔ ممکن نہیں کہ کوئی فائدہ ان کتابوں سے پہنچ سکے!

میں خدا تعالیٰ کو گواہ رکھ کر اور اس وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنی ان امراض کا جو مجھے لاحق ہیں کوئی علاج نہیں پایا جب تک کہ خدا تعالیٰ کے خاص فضل سے میں نے امام کو شناخت نہیں کیا مجھے کسی نے تسلی نہیں دی جب تک کہ میں نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ کیا میرے جیسے اور لوگ بتلائے امراض نہ ہوں گے جو مرض مجھے لاحق ہے میں اس کی تفسیر نہ کروں گا یہاں تک کہ میں نے کبھی امام کے سامنے بھی اس کا اظہار نہیں کیا مگر میں یہ صاف صاف کہتا ہوں کہ اگر میری جیسی مرض کا علاج نہ ملتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ جب میں ایسی مرض کا تریاق اگر کسی کو پاتا ہوں تو وہ یہی امام ہے تو میں کیونکر کہوں کہ اور دکھوں اور امراض کا تریاق یہ نہیں ہے۔ میں اپنے جیسی استعداد اور مرتبہ کے آدمیوں کو تو کھول کھول کر بتلا دیتا ہوں کہ میں نے اپنے مرض کا تو خطا نہ کرنے والا علاج پالیا ہے اور وہ یہی تریاق موجود ہے جو تم میں بیٹھا ہے اور جو اسی وعدہ الہی کے موافق آیا ہے جو اس نے **وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا** میں فرمایا ہے کوئی معجزہ۔ کوئی آیت۔ کوئی دلیل میرے لئے

ضروری نہیں کیونکہ میں نے اپنی مرض پر اس تریاق کا تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے۔ یہ وہاں جو ہر ایک کو ہلاک کرتی ہے اس کا تریاق کس کے گھر اور گھر میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو وہ کسی کو اپنے امراض کی شناخت کی توفیق دیتا ہے اور پھر اس کے علاج کو پہچاننے کی بھی توفیق بخشتا ہے۔

میں پھر اس مسجد میں جو خدا تعالیٰ کا گھر کہلاتا ہے اس کے سامنے یہ شہادت دیتا ہوں میرے جیسا بیمار خطرناک اور تندرستی میں بینظیر عمر کا بہت بڑا حصہ گزار چکا ہوں جس کا ایک ٹکٹ بھی واپس نہیں آسکتا یہاں اگر اپنے مرض کا علاج نہیں پاتا ہوں تو کیوں بیٹھا ہوں؟ میرے جیسا پیشہ ور انسان آسائش کے سامان کہیں سے حاصل کر سکتا ہے مگر بتلاؤ تو سہی کہ یہاں کس قدر سامان مل سکتے ہیں۔ ہمارے بھائی سوچ سکتے ہیں کہ ہم یہاں رہ کر کس قدر آمد اپنی کر سکتے ہیں۔ پھر بائیں ہمہ جو میں یہاں پڑا ہوا ہوں کیا پاگل اور مجنون ہوں؟ اگر کوئی دق مجھے اندر ہی اندر نہ کھا رہی تھی تو میں خود مجنونوں کا علاج کرنے والا ایک مجنون کے پاس ہی وہ تریاق پاتا؟ سوچو! اور پھر سوچو!

مجھے کوئی دلیل اس امر سے روک نہیں سکتی جبکہ میں خود اپنی دلیل بن گیا ہوں۔ کیا میں خود اپنے لئے بین دلیل نہیں ہوں۔ مسیح مر گیا۔ یہ تو میں اپنی لمبی چوڑی تقریروں کے وقت بھی جانتا تھا کہ **وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (الاحزاب: ۶۳)**۔ **كُلٌّ مِّنْ عَلَيَّاهَا قَانَ (الرحمن: ۲۷)** میں کسی کی کوئی تخصیص نہیں۔

دوسرا سلسلہ کہ متوفی واپس آتا ہے؟ صاحبان! قرآن کریم سے تو میت کا رجوع ثابت ہوتا ہے مگر متوفی کا رجوع ثابت نہیں۔ چند قصوں میں احیاء موتی کا ذکر ہے مگر وہ متوفی کا نہیں۔ متوفی کے لئے خدا کا وعدہ ہے کہ وہ واپس نہیں آتا۔ مسیح بھی متوفی ہو چکے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ابن مریم آئے گا۔ صریح طور پر بتلا رہا ہے کہ یہ دونوں مسیح جدا جدا ہیں **مَاتَ زَيْنَدٌ وَجَاءَ زَيْنَدٌ** میں کیا زید جدا جدا نہیں ہیں؟ سوچو! مگر بائیں ہمہ میں کہتا ہوں کہ عزیز!

ابن مریم ہوا کرے کوئی

اپنے دکھ کی دوا کرے کوئی

یہ ایک سچی بات ہے کہ کامیابی راستبازی صداقت کا ایک زبردست معیار ہے۔ پودوں کی

طرف دیکھو جن کی کوئی حفاظت اور پرداخت نہیں کی جاتی ان کو کیڑے اور جانور رکھتے ہیں مگر جن کی حفاظت اور نگہداشت میں کوئی فروگذاشت نہیں کی جاتی ہے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پس اسی طرح پر یاد رکھو کہ اگر اس پودے کو خدا نے لگایا ہے اور ضرور لگایا ہے تو پھر کوئی بھی نہیں جو اس کو گزند پہنچا سکے۔ وہ اس کی نگرانی میں پرورش پا رہا ہے میں یہ بات بھی کھول کر سنا دیتا ہوں کہ بعد آیات و نشانات ایمان کوئی نفع نہیں دیتا۔ دیکھو مہاجر اور انصار کے ساتھ کسی اور کا نام بھی لگایا گیا ہے؟ کیوں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جبکہ ظاہری اسباب اور حالت یہ بتلا رہی تھی کہ ابھی چند روز میں ہی خاتمہ ہوا چاہتا ہے۔ ابو بکرؓ نے کیا دیکھا تھا؟ جو اس نے دیکھا تھا وہ دیکھو! اگر چہ مدت گزر گئی جو عمرؓ نے دیکھا تھا وہ دیکھو!

الغرض خدا تعالیٰ کے دین کی حمایت و حفاظت کے لئے اس کے مقررہ قانون اور وعدہ صادقہ کے موافق ایک شخص تم میں سے ہی خلیفہ ہو کر آیا ہے چونکہ جیسا کہ آیت وعدہ پر غور کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ خلیفہ کے لئے ضروری ہے کہ اس پر ایسی حالت بھی آ جاوے کہ مختلف قسم کی شرارتیں اور افتراء پردازیاں۔ دنی الطبع مخالفوں کی منصوبہ سازیاں بظاہر یہ خیال پیدا کرنے کا موقع دیں کہ بس اب خاتمہ ہے۔ نہیں! مگر صادق اور اخلاص مند مومن کا یہ کام ہونا چاہئے کہ وہ ایسے زلزلوں اور فتنوں کے وقت اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ پر کہ **لَيَمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ** پر نظر رکھے اور اطمینان کو ہاتھ سے نہ دے کیونکہ راحت اسی میں ہے پھر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ کو گھبراہٹ اور خوف کا سامنا بھی ہو اور یہ لازمی بات ہے کیونکہ پھر سچے امن کی عافیت اور قدر معلوم نہیں ہو سکتی۔ پس ایسے وقت میں ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ پر ایمان صادق ہو کہ **لَيَسْبُدَنَّ لَهُمْ** **مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا** کیونکہ خلیفہ آتا ہی اس وقت ہے جبکہ ارتداد و الحاد کا زور ہو اس لئے کئی قسم کے افکار اور گھبراہٹیں لاحق حال ہو جاتی ہیں مگر اس وقت سے نکال دینے کا خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے اس لئے کبھی خوف اور خطرہ کے وقت گھبرانا صادق کا کام نہیں۔

اور اس سے بیشتر جو مکانت دین کا وعدہ فرمایا ہے اس دین سے مراد وہی دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور ازلی دین یہی ہے۔ **رَضِيَتْ**

لَكُمْ الْإِسْلَامُ دِينًا (المائدة: ۴) اسی کی ہی شان میں وارد ہے۔ دین کے چند خصائص ایسے ہیں جو محدثین نے احادیث میں جمع کئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ (بخاری کتاب الایمان باب المسلم من سلم المسلمون) مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی مسلمانوں کو خصوصاً اور کسی بنی نوع انسان کو عموماً اپنے ہاتھ یا زبان سے تکلیف نہ پہنچائے۔ کل ایک دوست کہہ رہا تھا کہ صفیں چیرتے ہوئے بعض آدمی آگے چلے جاتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اکثر لوگوں نے یہ شکایت کی ہے۔ یہاں تک کہ امام صاحب کی حضور تک بھی یہ شکایت پہنچی ہے کہ اس کو پیچھے ہٹا دیا۔

پس ان باتوں کا بڑا بھاری لحاظ رکھو! تم بڑے ذمہ دار ہو۔ تم نے کسی کے ہاتھ پر کسی کے نہیں خدا تعالیٰ کے ہاتھ پر دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا اقرار کیا ہے۔ عسریسیر میں قدم آگے ہی بڑھاتے رہو۔ کوئی شخص ثواب حاصل کرنے کے لئے کسی کا سر پکچل کر آگے نہیں آسکتا۔ منافقین نے جن تدابیر سے کچھ حاصل کرنا چاہا سو چو! کیا وہ پاسکے؟ ہرگز نہیں؟ قرب اسی کو ملتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرب دے۔ پس پھر ایک عظیم الشان مسئلہ ہے کہ مسلمان مسلمان نہیں ہو سکتا جبکہ اس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان مامون نہ ہو جاویں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے ایسا نہ ہو کہ ان منافقوں میں شامل ہو جاؤ (خدا نہ کرے) جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے میں تمہیں ایک بہت بڑی خطرناک بات سناتا ہوں۔ یہ بھی معلوم رہے کہ ہمارا امام خدا تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ خشک ڈالی مجھ سے کاٹی جاوے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافقوں کے حق میں کہ ہم ان کو مدینہ میں نہ رہنے دیں گے بلکہ نکال دیں گے۔ غرض یہ بڑی غور طلب اور ڈرا دینے والی بات ہے میں نے اس بات کو بجکم امام بھی خصوصاً تمہارے پاس پہنچا دیا ہے میں نے مامور ہو کر کہا ہے اپنی خواہش سے نہیں۔ پھر دیکھو کہ امن کے ساتھ خوف کیوں بدلا جاوے گا؟ اسی لئے کہ وہ پرستار الہی ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں کسی دوسرے کا بھی حصہ ہے تو یاد رکھو کہ وعدہ الہی کے نیچے نہیں آسکتے۔ بالآخر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ یعنی باوجود ان باتوں کے بھی اگر کوئی نہیں مانتا اور انکار کرتا ہے تو وہ دشمن اسلام اور فاسق ہے۔ پس اب اس نعمت کی قدر

کرو۔ خلیفۃ اللہ تم میں آیا ہے اور وہ وعدے جو اللہ تعالیٰ نے کئے ہیں پورے ہونے والے ہیں۔ اب وقت ہے کہ اس وعدہ سے حصہ لینے کے لئے رضائے الہی کے حاصل کرنے کی فکر میں لگ جاؤ۔ اپنی کمزوریوں کو یاد کر کے دعائیں مانگو۔ نمازوں کو درست کرو۔ زکوٰتیں دو اور رسول کی اطاعت کرو کیونکہ یہی کامیابی کی مینار کا زینہ ہے جو تکالیف خلیفۃ اللہ کے ساتھ ہونے والوں کے لئے آتی ہیں وہ لازمی ہیں۔ اس لئے استقلال اور سکینت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ نصرت دین اور اشاعت کے لئے ہمہ تن سعی کرو۔ ہر طرح سے مدد کے لئے تیار رہو۔ اب وقت ہے پھر اگر زیادہ مال آگئے تو اتنا ثواب نہ رہے گا۔ بالآخر میں پھر ایک بار کہتا ہوں کہ امام کے ساتھ تعلق پیدا کر کے اس غرض کو حاصل کرو جس کے لئے وہ امام ہو کر آیا ہے۔ خدا تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کی سچے توفیق عطا فرمادے! اور ہمیں توفیق دے کہ اس وعدہ الہیہ کو حاصل کریں جس کا ذکر آیت **وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** میں فرمایا ہے۔ آمین!!! وَاخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

(تحفہ سالانہ یارپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۱۶۸ تا ۱۸۲)



اطفال کے لئے زریں نصاب

﴿تقریر فرمودہ بتقریب جلسہ انجمن ہمدرد اسلام قادیان﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

اخویم مکرم سلّمکم اللّٰہ تعالیٰ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریر ذیل اگرچہ جناب مولانا مولوی نور الدین صاحب نے انجمن ہمدرد اسلام قادیان دارالامن والامان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنائی ہے مگر میرے خیال میں اعلیٰ وادنیٰ ہر طبقہ کے لوگوں میں سے ہر ایک قسم کے لوگ اپنی اپنی استعداد کے لحاظ سے اس پر معارف تقریر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ یہ پاک الفاظ جو اس خدا کے برگزیدہ بندے کے منہ سے نکلے اور ایک دنیا کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں ان کو چند ہی کانوں تک محدود رکھ کر اور ان کی ناقدری کر کے ہوا ہی میں نہ اڑا دیا جاوے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے خوان کی جو اس نے محض اپنے فضل سے بغیر کسی محنت اور کوشش کے عنایت فرمایا ہے قدر کریں اور اس کو اپنے سر آنکھوں پر لے کر اس کی قدر کا حق ادا کریں اور اس کے دیئے میں سے اس کے حکم کی فرمانبرداری کے لئے جیسا کہ وہ فرماتا ہے کہ **مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ** (البقرہ: ۴) کمر بستہ ہو کر اس کو اس طرح خرچ کریں کہ ان پاک الفاظ کو ہوا کے گھوڑے سے اتار کر کاغذ کے گھوڑے پر سوار کر دیں۔ اس طرح پر یہ الفاظ محفوظ ہو کر وقتاً فوقتاً خلق اللہ کو فائدہ دے سکیں گے لہذا میں نے مذکورہ بالا غرض کے پورا کرنے کے لئے اس تقریر کو اکٹھا کر کے آپ کی خدمت میں ارسال کیا ہے کہ آپ براہ مہربانی اس کو اپنے اخبار کے کسی کونے میں گوشہ گزین بنا دیں۔ عین مہربانی ہوگی خدا آپ کو جزا خیر دیوے اور ان الفاظ کو مخلوق کی ہدایت کا موجب بناوے۔

آمین ثم آمین۔

راقم۔ عاجز عبدالرحمن قادیانی سیکرٹری انجمن ہمدرد اسلام قادیان

وہو ہذا

اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اَمَّا بَعْدُ۔
 بچو! تم جانتے ہو کہ میں نے یہ کیا پڑھا ہے یہ وہ پاک کلمہ ہے جو اسلام کے شروع میں ہی
 پڑھایا جاتا ہے۔ جانتے ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کیا مطلب ہے۔ یہی کہ کوئی
 اللہ (جامع جمیع صفات کاملہ اور ہر ہدی سے منزہ) کے سوائے سچی فرمانبرداری کے لائق نہیں اور
 اس کی فرمانبرداری کے سکھلانے والے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ دنیا میں پہلے وہ شخص آئے ہیں جن کی نظیر
 اولین و آخرین میں نہیں پائی جاتی۔ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ کیونکہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے اور اسی کی
 فرمانبرداری کی راہیں سکھاتے ہیں اور ان سارے احکام کے مجموعے کو جو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 لائے ہیں قرآن شریف کہتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ جس وقت سے انسان لا الہ الا اللہ محمد
 رسول اللہ پڑھتا ہے اسی وقت سے اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی سچی فرمانبرداری
 نہ کرے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے محمد رسول اللہ اور قرآن شریف سے مشورہ لیوے اور
 اپنی ساری ضرورتوں اور حاجتوں کا پورا کرنے والا انہی کو جان کر ہر حال میں انہی سے استمداد چاہے
 کیونکہ وہ خدا جس نے محمد کو رسول اور اپنے احکام کا مجموعہ قرآن شریف اسے دے کر دنیا کی ہدایت
 کے لئے بھیجا ہے وہ بڑی قدرت اقتدار اور جبروت کا مالک ہے۔ وہی ہوا پانی اور ساری ان چیزوں
 کا جن سے تم وقتاً فوقتاً اپنی ضروریات پوری کرتے ہو فائق ہے۔ اسی نے تم کو آنکھ دی کہ تم دنیا کی
 عجائبات قدرت کو دیکھو کان دیئے کہ سنو۔ ان کے سوا سارے اعضاء جن سے تم مختلف قسم کے
 فائدے حاصل کرتے ہو اسی کی عنایت ہیں۔ اب ذرا اس کے عطیات اور انعامات پر غور کر کے فکر
 تو کرو کہ وہ کیسا طاقتور اور کیسا عظیم الشان بادشاہ ہے جس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
 کے اقرار کرنے والا انسان مانتا ہے اور درحقیقت انسان کو ضرورت بھی ایسے ہی خدا کی ہے جو اس کی
 ساری حاجتوں اور ضرورتوں کو جو اسے پیدا ہونے بلکہ نطفہ ہونے کی حالت سے اس دنیا سے قطع
 تعلق کرنے تک اور اس کے بعد اس لا انتہا زمانے میں ہوتی ہیں پورا کر سکے۔ ورنہ ایسے خدا کے سوا
 انسان کا دنیا میں رہنا ممکن ہی نہیں اور نہ آخرت میں اس کے سوا چارہ ہے۔ ایسا خدا قادر مطلق رب

رحمن رحیم اور مالک یوم الدین ہو سوائے اسلامی تعلیم کے اور کہیں نہیں مل سکتا۔ وہ وہی خدا ہے جس کا بیان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ہے جب ہمیں جس خدا کی ضرورت تھی اور جو ہماری ربوبیت کر سکتا ہے مل گیا تو ہم کو چاہیے کہ جس طرح وہ فرماتا ہے اس کے مطابق عملدرآمد کریں تاکہ اس کی فرمانبرداری سے ایسے عظیم الشان بادشاہ کی مہربانیوں کے مورد بنیں جو اس دنیا کے بادشاہوں سے اعلیٰ اور بے تشبیہ ہے اور ہر ایک امر میں اس کی کلام پاک اور اس کے رسول سے مشورہ لیں کیونکہ وہی ایک ہے جو ہماری بچپن بڑھاپے اور اس دنیا کے بعد کی ضرورتوں کو جانتا اور پورا کر سکتا ہے۔

اس موجودہ حالت میں تمہیں کس مشورہ کی ضرورت ہے یہ تمہاری بچپن کی عمر ہے تو اس کے مناسب حال مشورے ہی کی ضرورت ہے اس لئے میں تم کو ایک بچے ہی کا قصہ جو قرآن شریف نے بیان فرمایا ہے سنادیتا ہوں اور وہ اس طرح پر ہے کہ ایک بچہ یوسف نام جس کے گیارہ اور بھائی تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑے مضبوط زبردست تھے کیونکہ جب انہوں نے اس کو اپنے باپ سے باہر لے جانے کے لئے مانگا تو ان کے باپ نے اس بچے کی کمزوری اور ناتوانی پر رحم کر کے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جاوے۔ دوسرے بھائیوں کا خطرہ نہیں کیا کہ ان کو بھی بھیڑیا کھا جاوے گا کیونکہ وہ مضبوط اور ہوشیار تھے اور ان کا جواب وَنَحْنُ عُصْبَةٌ (یوسف: ۹) جس کا ترجمہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں بھی اسی پر دلالت کرتا ہے۔ خیر قصے سے مطلب نہیں انہوں نے جو توں کر کے اس کو باپ سے جدا کر کے جنگل میں جا کر کسی اندھے کنوئیں میں گرا دیا (بچو خیال رکھو وہ بھی تمہارے جیسا ایک بچہ ہی تھا اس کا معاملہ سناتا ہوں) خدا نے جس حالت میں چاہا اسے کنوئیں میں رکھا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک قافلہ وہاں آیا قافلہ والوں نے یوسف کنوئیں سے نکال کر اپنے ساتھ لیا اور دروازہ ملک مصر میں جا کر اسے کسی امیر کے ہاں تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں فروخت کر دیا اور اس کی ذرا بھی پروا نہ کی۔ اب جانتے ہو کہ وہ چھوٹی سی عمر میں جس میں شاید کوئی اور بچہ ذرا سی دیر بھی ماں سے جدا ہونا گوارا نہیں کر سکتا پیارے ماں باپ سے بڑی بے رحمی سے توڑ کر الگ کر دیا گیا۔ ملک سے بے ملک کیا گیا۔ زبان وہاں کی بالکل سمجھ نہیں سکتا۔ گویا اس کے واسطے سارے لوگ حیوان ہی ہوں گے اور وہ ایسی جگہ ہے کہ بظاہر کوئی حامی و مددگار و تسلی دہ اور

نغمگسار نہیں ہے۔ وہاں بھیجا گیا۔

بچو غور کرو۔ گو اس کو ایک طرف بڑی تکلیفوں کا مقابلہ تھا۔ حیرانی، پریشانی اور بے کسی کا سامنا تھا۔ مگر دوسرے صرف اندر ہی اندر ایک آواز دینے والے نے اُس عین کنوئیں کی مصیبت کے وقت بھی بڑی سریلی آواز اور دل کے اندوہ کو دور کرنے والی کلام سے اور دل کو باغ باغ کرنے والی آواز سے خوش کیا۔ جیسے کلام مجید میں ذکر ہے۔ **وَ اَوْحَيْنَا اِلَيْهِ لَنُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِ هٰذَا وَ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ** (یوسف ۱۶) جس سے خواہ بظاہر لوگوں کی نظر میں کیسی اشد سے اشد تکلیف ہو تکلیف معلوم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اس امیر کے دل میں جس نے اسے خرید کیا تھا اور وہ انہیں غلام بنا کر رکھ سکتا تھا اس کے دل میں محبت ڈال دی، محبت بھی ایسی محبت کہ اس کے بجائے اس کے کہ اسے غلام بناوے گھر کا مالک بنا دیا اور ہر طرح کے آرام، راحت، آسائش اور خوشی وہاں انہیں ملی۔ یہاں تک کہ ایک وقت وہ ایک قسم کا بادشاہ ہی بن گیا بہت سے ملکی اختیارات اسے مل گئے۔ وہی بھائی معافی کے خواستگار ہوئے جن کو ایک وقت میں جب وہ کنوئیں میں گرانے لگے ہوں گے وہ کہتا ہوگا کہ مجھے کنوئیں میں نہ گراؤ۔ اب وہی فرمانبرداری کے لئے کمر بستہ ہیں۔ بھلا کیا وجہ ہے کہ بظاہر اسباب تو اسی کے مقتضی تھے کہ وہ ذلیل و خوار ہووے لوگوں کا ماتحت اور غلام بنے۔ در بدر پھرے۔ بھوکا رہے۔ مگر وہ برعکس اس کے ہر جگہ ذلت سے بچا۔ بلکہ اس کے مخالف آخر اس کے سامنے ذلت سے آئے لوگ اس کے ماتحت بنے وہ کسی کی ماتحتی میں نہ آیا۔ بلکہ یہاں تک ترقی کی کہ گویا بادشاہی کے درجے تک نوبت پہنچی۔ جانتے ہو اس کی کیا وجہ ہے؟ میں بتا دیتا ہوں۔ لڑکو تم جانتے ہو کہ جس لڑکے پر اس کا استاد خوش ہو۔ اسے وہ استاد کیسا پیار کرتا ہے۔ محبت سے سبق دیتا ہے اسے انعامات دیتا ہے۔ کوئی لڑکا اسے مار نہیں سکتا کیونکہ اگر کوئی اسے مارنے یا لڑنے کا ارادہ کرے استاد اسے روک دیتا بلکہ الٹی اس لڑکے کو سزا دیتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ استاد اس لڑکے سے پیار کرتا ہے انعام دیتا ہے اور اگر کوئی اسے مارنے لگے تو اس کو سزا دیتا ہے، اس کی صرف یہی وجہ ہے کہ وہ لڑکا اپنے استاد کا حکم مانتا سبق یاد کر کے اسے خوش کر لیتا ہے اس طرح پر وہ آرام میں رہتا ہے اور دوسرے لڑکوں میں اور اس میں بھی فرق اور تمیز ہوتی ہے۔ پس اب ذرا سوچو کہ جب ایک چھوٹے

سے استاد یا حاکم کو خوش کر کے آدمی خوش رہ سکتا ہے تو کیا اس استادوں کے استاد اور حاکموں کے حاکم کو یعنی اللہ کو جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے خوش کر کے کوئی ذلیل اور خوار ہو سکتا یا کوئی اور اسے ذلیل یا خوار کر سکتا ہے۔ ہرگز ہرگز نہیں۔ وہ بڑی آرام و آسائش میں رہتا ہے۔ اللہ اسے دوسرے لوگوں سے اچھی طرح پر محبت سے رکھتا ہے اور اس کی ساری مرادیں پوری کرتا ہے۔

اس چھوٹے بچے نے بھی جس کا نام یوسف تھا اپنے اللہ کو خوش کر لیا تھا وہ وہی کام کیا کرتا تھا جو اس کے مولیٰ کو پسند ہوتے تھے۔ وہ چوری، جھوٹ، چغلی، غیبت، حرص، طمع، سستی، بزدلی اور شہوات نفسانی سے اور اور جتنی بُری عادات خدا کو ناراض کرنے والی ہیں سب سے بچتا تھا۔ دیکھو یوسف کو اسی عورت نے جن کے گھر میں وہ رہتا اور پرورش پاتا تھا حرام کاری کے لئے کہا تو اس نے ذرا بھی خوف یا طمع نہ کی۔ خدا کا خوف کیا۔ محسن (محسن کے معنی بتائیں گے) بن گیا اور کہہ دیا تو بہ اللہ کی پناہ ایسا کام ہرگز ہرگز نہیں کروں گا۔ اللہ نے تو مجھے ایک بڑی عمدہ جگہ دی ہے وہ ایسی حالت ہے کہ اس کے مقابلہ میں ایسی گندی خوشیاں ہیچ اور ناکارہ ہیں اور اس حرام کاری کے کام سے باز رہا۔ ایسا نہ ہو کہ خدا ناراض ہو جاوے۔ اسی طرح وہ ہر ایک کام میں اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ خدا ناراض ہو جاوے۔ غرض جب اس نے خدا کو ناراض نہ کیا اور جس طرح یوسف نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا اللہ تعالیٰ نے بھی یوسف کو خوش کر دیا اور اسے ملک میں بڑی طاقت عنایت فرمائی کیونکہ وہ بڑا نیک کردار اور محسن تھا اور فرمایا کہ ہم سارے لوگوں کو جو ایسے کام کرتے ہیں ایسا ہی آرام اور انعام دیا کرتے ہیں۔ محسن کے معنی یہ ہیں کہ ہر وقت اللہ کو حاضر ناظر جان لے۔ جب کوئی کام کرے دل میں دھیان ہو کہ اللہ دیکھتا ہے۔ بچو! خدا نے اس کی بڑی قدر کی اور اس کو بڑی عزت دی یہاں تک کہ اپنی پاک کتاب میں اس کے قصے کو احسن القصص بیان فرمایا ہے۔ بھلا اس سے بڑھ کر اور کیا مرتبہ ہو گا کہ الہی دفتر میں مخلصوں، سچوں، نیکوں میں اس کا نام درج ہو گیا۔

تم بھی اگر چاہتے ہو کہ اس جیسے بن جاؤ۔ خدا تم سے پیاری پیاری باتیں کرے اور تم کو سچی کامیابیاں عنایت فرماوے۔ تم دنیا اور آخرت میں سچی خوشی پاؤ تو تم کو بھی چاہئے کہ یوسف کے پاؤں پر پاؤں مارو تا تم ویسی ہی کامیابی حاصل کر لو..... اس کے قصے کو آنکھوں کے سامنے رکھ

کر کہ کس طرح وہ ماں باپ سے الگ اور ملک سے بدر کیا گیا تھا اس کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا۔ اپنے دل کے ان جھوٹے خیالوں کو دور کر دو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیونکہ کسی کا باپ نہیں کسی کی ماں نہیں کسی کا کوئی تربیت کرنے والا نہیں۔ پیارو یہ خیال محض غلط ہیں کہ ماں باپ نہیں۔ اخراجات کی مشکلات ہیں۔ تربیت کرنے والا کوئی نہیں۔ بھلا اس بچے کا کون متولی تھا۔ اس کی تربیت کون کرتا تھا۔ اس غریب الوطنی کی حالت میں اس کے ماں باپ کوئی ساتھ نہ تھے۔ نہیں تو پھر کیا وجہ کہ اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ یہی کہ نیک تھا اور خدا کو ناراض نہیں کرتا تھا۔ تم بھی اگر وہی اقتدار اور تمکین حاصل کرنا چاہتے ہو تو آؤ تم کو چند ایک ضروری باتیں بتائیں۔

پہلی بات جو تم کو کرنی چاہئے وہ یہی ہے کہ شریر اور شہوانی لڑکوں سے دور رہا کرو۔ ان کی صحبت سے ہر وقت پرہیز کرو۔ بچو! شریر لڑکے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پھسلاتے اور برباد کرتے ہیں۔ ان کی ہر طرح کی بدیوں سے پرہیز کرو۔ ایسے لڑکوں کے دماغ اور آنکھیں بالکل کمزور ہو جاتی ہیں کوئی محنت کا کام نہیں کر سکتے۔ ان کی ساری عمر سخت تکلیف سے گزرتی ہے اور ان کو اس بدی کی سزا اسی دنیا میں آخرت کے بعض نمونے کے لئے ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ تم ایسے مشرب کے لوگوں سے بچنا۔ یہ تو عام لڑکوں میں بُری عادت ہوتی ہے اور ان کے اس کام کا بُرا اثر قریباً ان کی اپنی جان تک ہی محدود ہوتا ہے مگر بعض اور جوان ہی شرارت کے میدان میں بڑھ کر قدم رکھنے والے ہوتے ہیں وہ کئی طرح سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ضائع کرتے ہیں۔ کبھی ان سے بُری بُری باتیں کرتے ہیں کبھی خود ان کے سامنے ننگے ہو جاتے کبھی ان کو ننگے کرتے ہیں۔ کبھی اپنی پیشاب گاہ ان کے ہاتھ میں پکڑاتے اور طرح طرح کی ناقابل ذکر بد معاشیاں کرتے ہیں۔ غرض ایک تو شریر اور بد معاش لڑکوں کی صحبت بد سے بچو کیونکہ ایسی صحبت زہر قاتل کی طرح اندر ہی اندر اپنا اثر کر جاتی ہے جس سے بچنا مشکل و محال ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو بعض وقت ایسے شریر انفس استاد بھی مل جاتے ہیں ان کا قطعاً خوف مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کو ان کی رضا مندی سے مقدم سمجھو۔

اس کے بعد بہت بانگنیں سے بھی بچنا چاہئے کیونکہ بانگے ہو کر وہ پوشاک وہ وضع قطع، ڈھال چال ان کو بڑا است بنا دیتی ہے کام کرنا تو ان کی شان کو دھبہ لگاتا ہے جب کام نہ کیا پھر لباس پوشاک

خوراک وغیرہ بغیر روپے کے کہاں سے آسکتی ہے تو ایسی ہی جب گھر سے ان کو روپیہ نہیں ملتا تو ان کو بڑی بڑی بد معاشیوں اور شرارتوں سے کام لینا پڑتا ہے۔ اکثر چوری کرتے چوری کرواتے ہیں۔ تو چوری ایک ایسی بُری عادت ہے کہ اس کی چاٹ چھوٹی مجال ہوتی ہے۔ تم نے سنا ہوگا کہ اکثر چوروں کی ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے کہ چوری کی پکڑے گئے۔ قیدی بنے جب میعاد گزر گئی تو پھر وہی چوری کی پھر قید خانے کی ہوا کھانے کو چلے گئے۔ غرض اسی طرح پر ان کی ساری عمر قید خانہ میں ہی گزر جاتی ہے۔ مگر وہ عادت کسی سزا وغیرہ سے چھوٹ نہیں سکتی۔ دیکھ لو اسی لئے شریعت نے چور کے ہاتھ تک کاٹنے کا حکم فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ بانگے لوگوں کو کنجروں کا پیشہ اختیار کرنا پڑتا ہے کیونکہ سوائے اس کے ان کا گزارہ نہیں ہو سکتا۔ اب تم جانتے ہو کہ کنجروں کا دینی یا دنیوی امور ہر دو میں کیا حال ہے۔ دیکھ لو اگرچہ میں آج جمعہ ہے حکم بھی ہے کہ دھلے ہوئے کپڑے پہنو، نیا جبہ پہنو اور مجھے استطاعت بھی اللہ کے فضل سے ہے مگر میں نے دیکھ لو معمولی کورے لٹھے کا پاجامہ پہنا ہوا ہے۔ غرض تم کو چاہئے کہ بانگین سے بہت بچو اور ضرور بچو۔ یاد رکھو کہ ادنیٰ ادنیٰ بُرائیوں سے اعلیٰ درجے کی شرارتوں تک انسان پہنچتا ہے۔ بازار کی مٹھائی کا استعمال جہاں تک ہو سکے نہایت ہی کم کرو کیونکہ یہ بھی ایک بُری عادت ہے اور اس کا چھوٹنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ یہ بھی روپیہ چاہتی ہے تو پھر روپیہ حاصل کرنے کے سارے بُرے وسیلے اس میں بھی استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ اس سے بھی بُرے بُرے خطرناک نتائج کا خوف ہوتا ہے اور بازار کی مٹھائی کھانے کی عادت بچوں کے لئے زہر قاتل کا اثر رکھتی ہے۔

ان کے سوائے ہر ایک قسم کی بد صحبت سے بچو۔ سستی، بزدلی، کم ہمتی کو اپنے دل میں جگہ نہ دو۔ ہر ایک قسم کے فساد اور لڑائی جھگڑوں سے بچو اور اس کے مقابل پر نیک صحبت جو ہر ایک نیکی کی جڑ ہے اختیار کرو کیونکہ قرآن شریف فرماتا ہے کہ **اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ** (التوبة: ۱۱۹) یعنی تقویٰ اختیار کرو اور وہ اس طرح پر حاصل ہو سکتا ہے کہ صادق راست بازار نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔

قرآن شریف عمل کی غرض سے خواہ ایک دو آیت ہی کیوں نہ ہوں عمل کی غرض سے پڑھا سنا کرو۔ پانچوں نمازوں کو باجماعت عمدہ طور پر ادا کیا کرو۔ آپس میں اتفاق سے رہو۔ لڑائی جھگڑا

مت کرو۔ تھوڑی تھوڑی باتوں میں اختلاف کر کے اس انجمن سے الگ نہ ہو جایا کرو۔ دعائیں کیا کرو۔ اس کم ہمتی کودل میں نہ آنے دو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں چھوٹے ہیں اور کل بارہ لڑکے ہیں تم ابھی سن چکے ہو کہ اس بچے یوسف نامی کو ماں باپ سے ملک سے گھر بار سے جدا کر دیا گیا تھا چھوٹی سی عمر تھی اور اس میں لطیفہ یہ کہ تم میں سے تو ہر ایک کے گیارہ معین و مددگار ہیں اس بیچارے کے گیارہ بھائی جانی دشمن تھے۔ تو دیکھو اس نے اپنے خدا کو راضی کر کے کیا مرتبہ حاصل کیا اور کس کامیابی کو پہنچا۔ اللہ فرماتا ہے۔ **مَكْنًا لِيُوسَفَ فِي الْأَرْضِ** (یوسف: ۲۲) یعنی ہم نے اس کو زمین میں بڑی طاقت عنایت فرمائی تھی۔ نام ایسا عزت سے اب بھی لیا جاتا ہے کہ جو بولتا ہے وہی یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کر کے بولتا ہے۔ غرض خدا کے دربار سے ناامید نہ ہو جیو۔ اس کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش سے جس طرح یوسف علیہ السلام نے کامیابیاں حاصل کیں تم بھی اپنی اس انجمن کو ترقی دو اور خدا تعالیٰ سے ایک محبت کا رشتہ بنا لو تا وہ تم کو اور لوگوں سے تمیز کر کے رکھ لے اور تم اس کی نظر میں پیارے ہو جاؤ۔

قربان جائیے اس کتاب کے کہ انسان کی ساری ضرورتوں کو جو اسے موقع بموقع بچپن سے بڑھاپے تک اور مرنے تک پڑتی ہیں ان سب کو ہی پورا کرتی ہے۔ دیکھو آج تم بچوں کے سامنے کچھ بیان کی ضرورت تھی اور نمونہ بھی دکھانا تھا جس کو مد نظر رکھ کر کام کرو تو کس طرح اس نے میرے دل میں مناسب موقع اس بچے کا حال ڈال دیا۔ اسی پر کفایت نہیں کرو ابھی سن لو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام تم جانتے ہو گے ایک بڑے عظیم الشان خدا کے پیارے نبی گزرے ہیں۔ ان کو خواب میں دکھایا گیا کہ گویا وہ اپنے بیٹے اسمعیل کو ذبح کرتے ہیں اس وقت اس بچے کی عمر معلوم ہوتا ہے کہ قریباً تیرہ برس کی تھی۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹے میں نے دیکھا ہے کہ تم کو ذبح کرتا ہوں بیٹے کی فرمانبرداری دیکھو کہ کوئی عذر نہیں کیا بلکہ کہہ دیا کہ **يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ** (الصُّفَّت: ۱۰۳) اے باپ جو آپ کو حکم ہوا ہے اسے بجالائیے انشاء اللہ تعالیٰ مجھے آپ صابر پائیں گے۔ اس وعدہ پر پکار ہوں گا۔

اب ذرا دیکھو! اللہ تعالیٰ نے اس فرمانبردار بچے کو جس نے اپنے آپ کو حکم الہی کے موجب گویا

ذبح کروا ہی لیا کیا کیا اجد دیئے۔ وہ لڑکا جس نے رضا الہی کے لئے مرنے سے پہلے مرنا اختیار کیا خدا نے اسے کیسا زندہ کیا کہ قیامت تک بادشاہ لوگ اپنے آپ کو اس کی اولاد میں سے ہونے کا فخر کرتے رہیں گے۔ اس کی اولاد کے بچے بھی سید یعنی سردار کہلاتے ہیں۔ خدا نے اس کا نام صادق الوعد رکھ دیا۔ کیا یہ کوئی چھوٹے بدلے ہیں۔ نہیں نہیں یہ بڑی بات ہے جو ہر ایک کے نصیب نہیں ہوتی۔ سرور کائنات بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ کیا یہ کوئی تھوڑی بات ہے مگر کیا وجہ وہی کہ اس نے خدا کو ناراض نہ کرنا چاہا۔ اس کی رضا کے لئے مرنے سے پہلے مرنا اختیار کیا۔ خدا عملوں کو دیکھتا ہے ظاہر شان و شوکت پر ہی یہ انعامات منحصر نہیں جس کو چاہے چن لیوے۔

ایک اور یتیم بچے کا حال بھی سن لو۔ اس بچے کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی ہمارا سید و مولیٰ وہی ہمارا آقا و شفیع۔ ان کے والد ماجد جب وہ ماں کے پیٹ میں تھے اور والدہ بزرگوارہ ڈھائی سال کا بچہ چھوڑ کر اس جہان سے کوچ کر گئے تھے۔ کون تھا جس کے ہاتھ سے پرورش ہوتی۔ تم سوچو اس بچے کا کیا حال ہوتا ہے جس کے والدین اسے چھوٹی عمر میں فوت ہو جائیں۔ مگر پھر اس یتیم بچے کی کامیابیاں دیکھو کہ کیا اس سے پہلے دنیا میں کوئی آج تک کامیاب ہوا۔ نہیں ہرگز نہیں ویسا کامیاب نہ کوئی ہوا اور نہ ہوگا۔ اس کا باعث بھی یہی تھا کہ اس نے مخلوق کی پرواہ نہ کر کے خدا سے تعلق پیدا کر لیا تھا اور اس کے ساتھ دوستی لگائی تھی اور ساری کامیابی کہ آج دنیا میں کروڑوں آدمی کے قریب ہر دم اس پر درود پڑھے اور اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کے نعرے اُڑ رہے ہیں۔ صرف اسی دوستی کا نتیجہ ہے جو اس خدا کے پیارے نے خدا سے کی تھی۔ تم کو ان کے بچپن کا ایک حال سنا تا ہوں۔ مکہ معظمہ میں ان دنوں ایک بڑی انجمن تھی جس میں چالیس سال کے کم عمر کے لوگ شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ اس انجمن کو ندوہ کہتے تھے اور ان لوگوں نے ان بچوں کو فضول سمجھ رکھا تھا۔ تو رسول اللہ ایسی انجمن میں شریک ہوئے جو کم عمر لوگوں سے بنی تھی۔ اس انجمن کا ایک کام یہ تھا کہ کوئی مسافر وہاں آ گیا ہو اور کسی مصیبت کے باعث اس کے پاس واپس جانے کا خرچ نہ رہا ہو تو اس کی مدد کرنا اور غرباء مساکین کی مدد کرنا اور ایسی قسم کے مظلوموں کی امداد کرنا جن کے ننگ و ناموس پر کسی نے حملہ کیا ہو وغیرہ وغیرہ۔ غرض اپنی نیک نیتی کے باعث سے انہوں نے اس میں بڑی بڑی کامیابیاں حاصل

کیں۔ اسی طرح اب یہ تمہاری انجمن بھی اس کے مشابہ ہے۔ تم بھی نیک نیتی خدا ترسی اور اتفاق اور دعا سے کام لو تا کہ کامیاب بن جاؤ۔ جانتے ہو کہ میں نے تم کو کیا کچھ کہا ہے اچھا پھر خلاصے کے طور پر بیان کر دیتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر پورا ایمان رکھو کہ اللہ کے سوا کسی کی سچی فرمانبرداری نہ کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کو اپنے ضرر یا نفع پہنچانے والا سوائے خدا کے نہ مانو، کسی کو سوائے اللہ کے قاضی الحاجات اور دعاؤں کے سننے والا نہ گردانو۔ بہر حال عسرویسر میں اسی کی طرف جھکوا اور محمدؐ کو اس کا بھیجا ہوا اور اس کی کتاب کا معلم جانو۔

بعض کام ہیں جن سے بچتے رہو اور بعض ہیں جن کو ہمیشہ کرتے رہو مثلاً (نہ کرنے والے) بُرے، نفس پرست، شہوانی لوگوں کی صحبت سے، حرص، چوری، بانکلین، غیبت، چغلیاں، دوسروں کے حقوق کو تلف کرنے والے اور ہر ایک قسم کے بدکار شریر لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ پرہیز کرتے اور بچتے رہو، سستی نہ کرو، لڑائی جھگڑوں سے بچو، بازار کی مٹھائیوں کا استعمال نہ کرو، خودروی اختیار نہ کرو، اور ان سب سے بڑھ چڑھ کر خدا سے جنگ نہ کرو۔ اور کرنے کے کام، نیک صحبت اختیار کرو، ہر ایک قسم کی بُری عادتوں کو چھوڑ دو، سادگی اختیار کرو، حق اللہ اور حق العباد کا خیال رکھو، قرآن شریف عمل کی غرض سے پڑھو یا سنو، نماز باجماعت پڑھو، محنت کے عادی بنو، ہمت اور بلند حوصلگی اختیار کرو دلیری کرو، دعائیں مانگو، اللہ پر بھروسہ رکھو، نیک نمونہ بننے کی کوشش کرو، خدا کو کامیاب کرنے والا ہونے پر یقین رکھو پھر استقلال اختیار کرو اور ان سب سے بڑھ چڑھ کر خدا سے صلح کر لو۔ دعا۔ خدا تعالیٰ مجھ کو اور تم سب کو میں نے جو باتیں کہی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرماوے اور ہم سب کو اپنی سچی فرمانبرداری کرنے کی توفیق دے اور اسی سچی فرمانبرداری میں ہی سب کو اس دنیا سے اپنی طرف بلا ليوے اور ہماری آخری پکار یہی ہو الحمد لله رب العالمین۔

امین ثم امین۔

(الحکم ۶، ۱۳ جولائی ۱۸۹۸ء صفحہ ۹ تا ۱۳)



ابتلاؤں اور مصائب پر صبر

﴿تقریر فرمودہ ۳ ستمبر ۱۸۹۸ء بعد نماز عصر﴾

وعظ جو مولانا مولوی نور الدین صاحب نے ۳ ستمبر ۱۸۹۸ء کو بعد عصر اپنے گھر میں کہا۔ اس کے بعض بعض حصہ کا اظہار میں امید کرتا ہوں کہ میرے ناظرین اس وعظ کو اپنے گھروں میں سنا کر اپنے اس فرض سے سبکدوش ہوں گے جو **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا** (التحریم: ۷) کے رو سے ان پر ہے اور الحکم کے پڑھنے سننے والی نیک بیبیاں کوشش کریں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے جو اس وعظ میں بیان کی گئی ہے۔ (ایڈیٹر الحکم)

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَنْبَلُو نَكُمْ بِمِئَةٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمْرِاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابِرِ اللَّهِ. (البقرة: ۱۵۶ تا ۱۵۹)

ترجمہ: اور ضرور ضرور ہم انعام دیں گے تم کو بدلہ میں تھوڑے خوف اور بھوک اور کمی ہر مالوں اور جانوں اور پھلوں کے۔ کیا معنی اگر تم ذرا سا بھی اللہ تعالیٰ سے خوف کرو اور اس کی رضا جوئی کے لئے کسی خوف کی برداشت کر لو اور اللہ کی راہ میں روزہ وغیرہ بھوک کو اختیار کرو۔ اموال اور جانوں اور پھلوں کو اس کی راہ میں دے دو یا کھو بیٹھو۔ اور خوشی کی خبر سنا دو ان مستقل مزاجوں کو جو سکھ اور دکھ دونوں میں اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑتے بلکہ ثابت کر دکھاتے ہیں کہ ہم اللہ کے اور اسی کی طرف ہمارا جانا ہے۔ ایسے لوگ ان کے لئے شاباش ہے اور رحمت، وہی راہ راست پر ہیں۔ صبر کا

نتیجہ دیکھ صفا و مروہ پر کہ کیسے مقام پر ہاجرہ نے رہنا اختیار کر لیا جو بے کھیت کا ملک ہے پھر صبر کے بدلہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کو کیسا سکھ دیا۔

میں نے تمہیں یہ چند آیتیں جو قرآن کریم کی سنائی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے چند ایک نصیحتیں اپنے بندوں کو فرمائی ہیں جن میں سے ایک صبر بھی ہے۔ صبر کے نتیجے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کس طرح اور کیونکر دیتا ہے اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ جن کو اگر مفصل بیان کیا جاوے تو بیان بہت لمبا ہو جاتا ہے مگر میں تمہیں بتلاؤں بغیر بھی نہیں رہ سکتا۔ شاید تم میں کوئی نیک بی بی ہو جو اس پر محض اللہ تعالیٰ کی رضاء کے لئے عمل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک عورت تھی جس کا خاوند زمینداری کرتا تھا اور ان کا لڑکا بیمار تھا۔ ایک روز خاوند باہر کام پر گیا اور پیچھے سے لڑکا فوت ہو گیا۔ اس کی بیوی نے لڑکے کو ایک چارپائی پر ایک کونے میں لٹا دیا اور آپ خوب عمدہ لباس پہن کر خاوند کے آنے سے پیشتر عمدہ کھانا تیار کر کے شاداں و فرحاں بیٹھ رہی۔ جب خاوند آیا تو اس نے لڑکے کا حال دریافت کیا۔ عورت نے جواب دیا اس نے آج آرام کیا ہے۔ خاوند نے سمجھا کہ ٹھیک کہتی ہے جی تو اس نے عمدہ لباس پہنا ہے غرض دونوں نے کھانا کھایا اور ہر طرح سے لطف اٹھایا جب کھانا کھا کر اور جماع سے بھی فارغ ہو چکے تو عورت نے خاوند سے پوچھا ہمارے پاس کسی شخص کی امانت کچھ روز رہے پھر وہ صاحب امانت اپنی امانت مانگنا چاہے تو ہم کو بخوشی وہ امانت دے دینا چاہیے یا نہیں؟ خاوند نے کہا کہ امانت والے کو دینا چاہیے۔ پس عورت نے کہا کہ بچہ بھی امانت کے طور پر ہمارے پاس تھا۔ صاحب امانت نے اسے لے لیا۔ پھر خاوند ترساں و ہراساں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ حضور نے فرمایا کہ اس صبر کے معاوضہ میں جو تیری بیوی نے کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو سات یا نو بچے دیئے جو سب کے سب قاری ہوئے ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میں نے ان سب کو دیکھا ہے۔

دیکھو کس قدر بدلہ عظیم اللہ تعالیٰ نے ایک صبر کرنے پر دیا۔ سنو؟ عورتوں میں دستور ہے کہ جب دو چار مل کر بیٹھتی ہیں تو غیبت، بدگوئی، گلہ اور طرح طرح کی شرارتیں کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب عورتیں آپ کی مرید ہونے کو آتی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايَعَنَّكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُسْرِخَنَّ بِإِلَهِهِ (الممتحنة: ۱۳)

اے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تیرے پاس مومن عورتیں اس غرض کے واسطے آویں کہ وہ تجھ سے بیعت کریں پس ان سے یہ اقرار لے کر بیعت کر کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یعنی کوئی منت اور نذر غیر اللہ کی نہ مانیں اور نہ غیر اللہ سے مرادیں مانگیں۔ چوری نہ کریں۔ زنا نہ کریں ہاتھ کا زنا، کان کا زنا، ناک کا، آنکھ کا اور وہ زنا تو بدرجہ ادنیٰ نہ کریں جسے عام زنا یا بدکاری کہتے ہیں، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں اولاد کو قتل کرنے کی کئی راہیں ہیں۔ اول تو اس وقت کئی عورتیں اپنی لڑکیوں کو جب وہ پیدا ہوتی تھیں مار ڈالتی تھیں۔ چنانچہ اب بھی میں دیکھتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے۔ دوئم اولاد ہونے کے بعد ایسی دوا کھاتی ہیں کہ جو مانع حمل ہو۔ تیسرا حمل کا گرا دینا۔ چہارم اگر لڑکیاں بیمار ہو جاویں تو ان کا علاج نہ کرنا اور یہ کہنا کہ ان کو موت کہاں آتی ہے۔ پھر بہتان باندھنے سے باز آؤ۔ بہتان وہ عیب کی بات ہے کہ جو کسی شخص میں نہ ہو اور اس پر وہ عیب لگایا جاوے۔ وہ بہتان جو تم اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے بناتی ہو اور بھلے کاموں میں تیری نافرمانی نہ کریں۔ پھر ایسی عورتوں کے واسطے مغفرت مانگ۔ پس ہر ایک عورت کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید ہونا چاہتی ہے یا اپنے آپ کو مرید سمجھتی ہے یعنی مسلمان کہلاتی ہے ضروری ہے کہ وہ ان بری باتوں کو چھوڑ دے ورنہ وہ نام کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار میں شامل ہو کر خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے حصہ نہیں لے سکتی۔

غور کرو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کریم کے پہنچانے میں کتنی کتنی مصیبتیں بھی آئیں آخر حضور نے اس کو پہنچایا۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جس نے صرف خدا تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے سارے قرآن کو ایک بار بھی سمجھ کر پڑھا ہو یا سنا ہو۔ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھی جس کو کافروں نے کہا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے مگر اس نے انکار کیا۔ اس پر ان شریروں نے اس کی شرمگاہ میں برچی مار کر گلے سے نکالی۔ اس کا خاوند دیکھتا تھا اسے کہا تو بھی گالی دے ورنہ تیرا بھی ایسا ہی حال ہوگا چنانچہ اس نے بھی انکار کیا اور انہوں نے اس کی ایک ٹانگ ایک اونٹ سے اور

دوسری دوسرے سے باندھ کر ان کو الگ الگ چلا دیا اور اس کو اس طرح پر پھڑوا کر مروا ڈالا۔ دیکھو وہ کیسے مبارک لوگ تھے۔ اس قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کیا کیا تکلیفیں برداشت کیں اگر تمہارے کسی پیارے شخص کی کوئی چٹھی آوے تو جب تک تم اسے پڑھ یا پڑھانہ لو تمہیں چین نہیں آتا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی چٹھی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم الشان شخص لانے والا مگر اس کی کچھ پرواہ نہیں کی جاتی۔

پیارو! اللہ تعالیٰ بڑا نکتہ گیر اور نکتہ نواز ہے ہر وقت اس سے ڈرنا چاہئے۔ میں تمہیں ایک آپ بیتی کہانی سناتا ہوں شاید تم میں سے کوئی نیک بی بی نصیحت پکڑے۔ میری والدہ صاحبہ نے اسی برس تک قرآن پڑھایا اور ان کے ہم نوجے تھے۔ ہمارے ہاں ایک بڑا مال و اسباب اور کتب خانہ بھی تھا۔ جن دنوں روس اور روم کی لڑائی ہو رہی تھی میں نے اپنی والدہ سے ایک روز کہا کہ اچھا ہوا اگر تم اپنا ایک بچہ اس وقت قربان کر دو اور اسے مسلمانوں کی مدد کے لئے لڑائی میں بھیج دو خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ میری والدہ نے کہا کہ ایس! میرے جیتے جی! تم مجھ سے الگ ہو جاؤ نہیں ہو سکتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سب اولادیں بجز میرے ان کی زندگی میں فوت ہو گئیں۔ ایک روز میں اس کتب خانہ کے مکان میں لیٹا ہوا تھا جب کہ وہ بالکل خالی پڑا تھا۔ میری والدہ صاحبہ وہاں آئیں اور انہوں نے اس حالت کو دیکھ کر بہت بلند آواز سے کہا کہ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ (البقرة: ۱۵۷) میں نے کہا کہ امان یہ آواز کی بلندی بے صبری سے معلوم ہوتی ہے۔ مجھے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے مرنے پر شاید میں بھی نہ پاس ہوں گا یا اسی کے قریب الفاظ ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جب ان کا انتقال ہوا تو میں کہیں دور تھا۔ غرض اللہ تعالیٰ بڑا ہی بے نیاز اور نکتہ نواز ہے تم اپنے الفاظ سمجھ کر خدا سے ڈر کر منہ سے نکالا کرو۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ عورتیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی بالکل پرواہ نہیں کرتیں اور اپنے رسومات کی ایسی پابند ہیں جس کی کچھ حد نہیں ہے۔ ہمارے پڑوس میں ایک عورت کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ میرا دل اس بات کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ اس نے اپنی کسی ممت کے واسطے قبل از تولد اور عین تولد پر تو بکرے ذبح کر دیئے مگر جو امر مسنون اور ساتویں دن عقیقہ کرنے کا حکم تھا اس کے واسطے اس کے پاس خرچ نہیں۔ کبھی اس لڑکے کا باپ آوے گا تو شاید

کرے گا۔ ایک اور عورت ہمارے پڑوس میں رہتی ہے کہ جو اپنی اولاد کو ایسے ایسے خطرناک الفاظ سے پکارتی ہے کہ اگر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئین کہنے میں شامل ہوویں اور آئین کہہ دیں اور اس کی وہ بددعا قبول ہو جاوے تو شاید اللہ تعالیٰ پر اسے کتنی بڑی بدظنی اور ناراضی ہو۔ آیات میں جو میں نے پڑھ کر سنائیں ہیں اللہ تعالیٰ ایک خاص صابر آدمی کا ذکر فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا اور وہ شاہ مصر کی لڑکی تھی اس کے باپ نے اسے بہت بڑی دولت اور مال دے کر بیاہ دیا تھا۔ وہ چھوٹی عمر کی تھیں اور ان کو حمل ہو گیا۔ جب حمل ہو گیا تو حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی نے اسے گھر سے نکال دیا اور اس کا سارا مال رکھ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ خواہ وہ کچھ کہے تم اس کے گھر چلی جاؤ۔ پس وہ چلی گئی جب لڑکا تولد ہوا تو پہلی بیوی نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ میں نے تم سے اقرار لیا ہوا ہے کہ جو میں کہوں اسے تم پورا کرو۔ پس ان ماں بیٹے کو ایسے جنگل میں چھوڑ آؤ جہاں نہ دانہ ہونہ پانی ہونہ سبزی وہ اسے ایک جنگل میں پہنچانے کے واسطے لے گئے۔ جب وہاں چھوڑا تو ہاجرہ نے پوچھا تم یہاں ہم کو کس کے حکم سے چھوڑ چلے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کے حکم سے۔ ہاجرہ بولی اب جاؤ اب ہم تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ تھوڑا سا پانی ان کے پاس تھا جب وہ خرچ ہو گیا تو بچے کو پیاس لگی۔ ماں کا دودھ خود پیاس کے سبب سے خشک ہو گیا تھا۔ پس بچہ شدت بھوک پیاس سے زمین پر ایڑیاں مارنے لگا۔ گویا اس بھوک پیاس سے اب اس کی جان نکلتی ہے۔ اس کی والدہ نے بڑے صبر سے کام لیا۔ پھر وہ ایک پہاڑی پر گئیں جس کا نام صفا ہے۔ حاجی لوگ اس جگہ کو خوب جانتے ہیں اور لگی پہاڑیوں پر ادھر ادھر دوڑنے کہ شاید کوئی بستی یا گاؤں نظر آوے مگر جب ناامید ہو کر واپس آئیں تو دیکھا کہ بچے کے پاؤں کے نیچے سے آب زمزم جاری ہے۔ پھر وہاں ایک قافلہ آیا۔ اس نے کہا کہ اگر کہو تو یہاں ایک سرارے بنا لیں۔ انہوں نے کہا کہ پانی کی سرداری میری رہی۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اس مقدس شہر کو آباد کیا جس کا نام مکہ ہے اور جہاں آج ساری دنیا کے مسلمان حج کو جاتے ہیں۔

دیکھو یہ سب کچھ صبر ہی کا نتیجہ تھا۔ سنو! جس گھر میں کوئی مصیبت یا تکلیف آتی ہے اللہ تعالیٰ

وہاں اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جو کچھ گھر والے کہیں تم ساتھ آمین کہو۔ پس جو عورت بے صبری سے کلمات زبان پر لاتی ہے اگر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آمین کہہ دیں اور وہ دعا منظورِ خدا ہو جاوے تو اس عورت کا کیا حال ہو۔ ایسی بے صبریوں میں کوئی آنکھیں کھوپٹھتی ہے کوئی ہاضمہ بگاڑ لیتی ہے۔ کسی کا سر خراب ہو جاتا ہے۔ غرض طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ پس بڑے صبر سے کام لو۔ کاش میری بیویاں بھی میرے کہنے پر بتسامہ عمل کرتیں تو میں ان کو اس سے کہیں زیادہ محبت کرتا جواب کرتا ہوں۔

پھر میں دیکھتا ہوں کہ انسان جس دنیا اور مال و اولاد کی خاطر ایسی ایسی تکلیفیں اٹھاتا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی اس کی مصائب میں حصہ نہیں لے سکتا۔ ذرا پیٹ میں درد ہو تو اس کے ہٹانے والا کوئی نہیں۔ غور کرو۔ مجھے حضرت مرزا صاحب نہایت ہی پیارے ہیں۔ میں نے ملک، وطن، نوکریاں، زمین، ہر قسم کے ذرائع، تحصیل مال و منال ان کے حضور خاص رہنے کی خاطر چھوڑیں ہیں۔ اگر کہیں جاتا بھی ہوں تو صرف ان کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے اور بھی یہاں تک مجھے وہ پیارے ہیں کہ اگر میرے پچاس بیٹے ہوں تو میں اس کے ایک بیٹے پر ان پچاس کو قربان کر دوں لاکن غور کرو جب مجھے کوئی دکھ، درد، تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ بھی بجز رضاءِ الہی کے ہرگز ہرگز میرے دکھ درد کا حصہ نہیں لے سکتے۔ پس اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگو اور صبر اور استقلال سے کام لو۔ اس کی رضاء پر راضی ہو جاؤ اور قرآن کریم پر عمل کرو۔

اللہ تعالیٰ مجھ کو اور تم کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق دے اگر کوئی مجھ پر کسی ایسے کلمہ سے جس کے ساتھ اس کی دل آزاری ہوئی ہو ناراض ہوئی ہو تو وہ معاف کرے کیونکہ میں نے صرف درِ دل اور اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے کی خاطر سچی ہمدردی سے یہ باتیں کہی ہیں۔

(الحکم ۶، ۱۳ ستمبر ۱۸۹۸ء صفحہ ۱۰ تا ۸)



صحبت صادقین

﴿تقریر فرمودہ نومبر ۱۸۹۹ء بر موقع تقریب جلسہ الوداع﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (التوبة: ۱۱۹)

ہر ایک مریض و بیمار کے لئے ضروری ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی اور صحت کی کچھ بھی قدر جانتا ہے تو کسی تجربہ کار طبیب کے حضور حاضر ہو اور اپنی بیماری کے حالات عرض کرے اور پھر صبر اور استقلال کے ساتھ اس کے علاج اور طبی مشورہ سے فائدہ اٹھائے۔ گھبرائے نہیں! بے دل نہ ہو! جلد بازی نہ کرے! بد پرہیز نہ ہو۔ طبیب کی رائے میں اپنی رائے کا دخل نہ دے اور نہ کسی دوسرے کی رائے کو اس پر مقدم کرے اور پوری احتیاط اور ہوشیاری کے ساتھ اس کے تجویز کردہ نسخہ کو استعمال کرے۔ یہ قاعدے اور اصول ہیں جو ہر مریض کو اختیار کرنے چاہئیں۔ اگر وہ اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے۔ ایسا مریض اگر اس کا مرض حد علاج سے باہر نہیں ہو گیا۔ یعنی مرض اس پر پورا پورا اثر کر کے اس کے قوی کو مضمحل اور بیکار نہیں کر چکا ضرور ہے کہ اس تجربہ کار طبیب سے فائدہ اٹھائے۔ لیکن اگر مرض اس کو کھا چکا ہے اور علاج کے لئے کوئی وقت اور موقع باقی نہیں رہا تو گودہ مریض بچ نہ سکے تاہم کسی نہ کسی حد تک فائدہ اٹھائے گا۔ لیکن اگر مریض ان قواعد اور اصول کی پیروی نہیں کرتا اور جلد بازی اور عجلت سے کام لیتا ہے تو طبیب اس کی کیا پروا کرے گا۔ کچھ بھی نہیں اور وہ شخص جس سے طبی مشورہ لیا جاوے، جس کی صحبت میں رہ کر اپنے دکھوں کا علاج کیا جاوے تجربہ کار ہونا ضروری ہے۔

اس اصل کو یاد رکھنے کے بعد اب یہ سمجھنا چاہئے کہ امراض دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو جسمانی امراض ہوتے ہیں اور دوسرے روحانی، جسمانی امراض کا اثر بھی روح پر پڑتا ہے۔ اس لئے سرور عالم فخر ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے علوم کی تقسیم بیان فرماتے ہوئے یہی فرمایا العلم علمان علم الابدان و علم الاديان (الفوائد المجموعۃ کتاب الفضائل۔ فی فضائل العلم و ما ورد فیہ لما لم یصح)۔ علم الابدان کو علم الاديان پر مقدم اسی لئے کیا ہے۔

یہ مسئلہ بہت ہی صاف اور واضح ہے کہ جسمانی امور اور حوادث کا اثر روح پر ضرور پڑتا ہے۔

اگر کسی کے سر میں چوٹ لگ جاوے تو اس کی قوت حافظہ متفکّرہ اور دوسرے عقلی قویٰ میں فتور آجاتا ہے۔ انسان اگر بیرونی حوادث سے متاثر ہو تو اس کی روح پر بھی ایک اثر ہوتا ہے اور اس کے قلب میں رقت پیدا ہو جاتی ہے۔ غرض اس امر کی بہت سی مثالیں ہیں اور اس پر مجھ کو کسی لمبی بحث کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ ایک عام مسلم بات ہے۔

جس طرح پر جسمانی امراض بے شمار ہیں۔ اسی طرح روحانی امراض بھی کثرت سے ہوتی ہیں اور ہر عضو اور قوت کی جدا جدا بیماریاں ہوتی ہیں۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان ان کو بالکل معمولی باتیں سمجھتا ہے لیکن وہ اندر ہی اندر اپنی باریک رفتار سے بہت سی روحانی قوتوں کا ستیاناس کر دیتی ہیں اور آخر روحانی طور پر انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ پس جیسے کسی جسمانی عارضہ کو گو وہ کیسا ہی خفیف کیوں نہ ہو کبھی خفیف نہیں سمجھنا چاہئے اور تجربہ کار اور حاذق طبیب کی صحبت میں رہ کر اس کے مشورہ اور ہدایت کے موافق علاج اور پرہیز کے اصول مدنظر رکھ کر علاج کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح پر روحانی امراض کے علاج کی فکر چاہئے۔ علاج کرانے کے اصول اس میں بھی وہی ہیں جو جسمانی علاج کے ہیں یعنی بدظنی نہ ہو، شتاب کاری، بد پرہیزی اور اپنی یا کسی اور کی رائے کا تقدّم طبیب کی رائے پر نہ ہو۔ ایسا مریض فائدہ اٹھانے کی توقع کر سکتا ہے اور فائدہ اٹھاتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے موقع دیا ہے کہ امراض اور ان کے علاج کا ایک علم اور تجربہ مجھے عطا فرمایا اور ایک فقیر سے لے کر بادشاہ جاہل سے لے کر عالم غرض ہر طبقہ اور عمر کے لوگوں کے امراض اور ان کے طرز علاج کا علم سیکھا اور چونکہ جسمانی اور روحانی امراض کے اصول ایک ہی ہیں۔ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے باریک در باریک روحانی امراض کا علم بھی مجھے دیا گیا ہے اور میں مولیٰ کریم کی حمد کرتا ہوں اور اس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے جیسے مجھے امراض کا علم عطا کیا۔ اس کے علاج کی طرف بھی توجہ دلائی اور تمام قسم کے روحانی امراض کا مجرب نسخہ میں نے پالیا۔ وہ مجرب نسخہ خدا تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن شریف ہے۔ جس کا نام رحمت، ہدایت، شفا، نور، فرقان، کتاب منیر وغیرہ وغیرہ ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ بھی احسان کیا کہ اس نسخہ کا عشق اور محبت میرے دل میں ڈال دی اور اس رحمت اور شفا کتاب کو میرے لئے روحانی غذا بنا دیا جس کے بغیر

میں سچ کہتا ہوں کہ زندہ نہیں رہ سکتا۔

اور پھر اس کے فضلوں میں سے ایک عظیم الشان فضل مجھ پر یہ بھی ہے کہ اس نسخہ کا سچا عامل اور حاذق طبیب جو اس زمانہ کے مریضوں کے لئے مسیح ہے۔ اس کا مجھے پتہ دیا اور نہ صرف پتہ بلکہ اس کی خدمت میں پہنچا کر مجھے موقع اور توفیق دی کہ میں اپنی روحانی امراض کا علاج کروں۔ چنانچہ میں یہ ساری باتیں تحدیث بالعمت کے طور پر ظاہر کرتا ہوں کہ میں نے اس کی صحبت میں رہ کر اپنی بہت سی بیماریوں سے خدا کے فضل سے شفاء پائی اور بہت سے امراض ہیں جو دور ہو رہے ہیں۔ میں چونکہ اصول علاج سے واقف اور تجربہ کار ہوں۔ اس لئے میں جو کچھ کہوں گا وہ خیالی اور فرضی باتیں نہیں ہو سکتیں ہیں اور میں اس لئے بیان کرتا ہوں کہ شاید کسی کو فائدہ پہنچ جاوے۔

قرآن شریف کو نور سے پڑھنے اور اس زمانہ کی حالت پر فکر کرنے کے بعد جبکہ وہ نازل ہوا میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ جس قدر امراض روحانی طور پر ہو سکتے ہیں اور میرا تو یقین ہے کہ جسمانی بھی وہ سب کے سب اس نسخہ کے استعمال سے پیدا ہی نہیں ہوتے اور اگر ہو چکے ہوں تو دور ہو جاتے ہیں لیکن اس کے لئے ضرورت ہے صدق کی ضرورت ہے استقلال اور صبر کی ضرورت ہے حسن ظن کی۔ یہ ایک عام اصول ہے کہ ہر مریض کو ضروری ہے کہ وہ کسی تجربہ کار طبیب کے حضور حاضر ہو اور اس طبیب کو ضروری ہے کہ تجربہ شدہ نسخہ اس کے علاج کے لئے استعمال کرے۔ دنیا میں جس قدر امراض اس وقت ہیں یا تاریخ شہادت دیتی ہے کہ ہو چکی ہیں وہ سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھیں۔ سب سے بڑھ کر قابل عزت و عظمت اللہ تعالیٰ کی کتاب ہو سکتی ہے اور ہے لیکن اس زمانہ میں اللہ کی کتاب ایسی چھوٹ گئی تھی کہ کتاب اللہ کا کہیں پتہ ہی نہیں ملتا تھا۔ چنانچہ طبقات الارض کے محققوں کو بھی باوجودیکہ انہوں نے زمین کو کھود ڈالا اس کا پتہ نہ ملا بلکہ صرف ترجمہ در ترجمہ در ترجمہ رہ گئے۔ جس سے ایک آدمی جو سمجھدار ہو اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ لوگ جو اہل کتاب کہلاتے تھے کن مشکلات اور مصائب میں مبتلا تھے۔ وہ قوم جو اپنی عقلوں اور علوم پر آج ناز کرتی ہے۔ اپنی صفتوں اور طمع سازیوں پر اترا تری اور خدائی کے دعوے کرتی ہے۔ اس کا یہ حال کہ بغل میں جو کچھ لئے پھرتی ہے اس کے اصل کا ہی پتہ نہیں۔ مذہب کا معاملہ ایمان کا معاملہ ابدی رنج و راحت کا سوال مگر افسوس اس کے حل کرنے کی کلید روحانی امراض کا شفا بخش نسخہ خدا کی کتاب پاس نہیں اور

جو پاس ہے وہ ترجمہ در ترجمہ ہے اور اس کو لے کر خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں خدا کی کتاب ہے!!! افسوس اس قوم پر جو اپنی توجہات سے باریک در باریک راہیں نکالتی ہے کلام اللہ سے اس طرح محروم ہے اور تعجب اور عبرت کی جگہ ہے کہ اس کا فخر ایسا ملیا میٹ ہوا کہ سچی کتاب کا پتہ نہیں کہ کہاں گئی۔^۱

یہ دنیا کی معزز قومیں جیسی اس وقت اپنی کتاب کا پتہ نہ دے سکتی تھیں اور اس طرح پر گواہی دے رہی تھیں کہ ہادی کامل کے آنے کے وقت دنیا کی کیا حالت ہوتی ہے۔ آج بھی باوجود تیرہ سو سال کی ترقیوں کے اسی طرح اپنی کتاب کی اصلیت پیش کرنے سے قاصر اور بے دست و پا ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک طرف یہ قوم اس قدر بلند پروازیاں کر رہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی قدرتوں پر احاطہ کرنے کے دعوے کرتی اور رموز قدرت میں سے بہت سے امور کو اپنے قبضہ میں کر لینے کی مدعی ہوتی ہے اور دوسری طرف یہ حال کہ اصل کتاب کا پتہ نہیں دے سکتی! یہ صدی لا انتہا نہیں تو کثیر التعداد ترقیوں کی صدی کہلاتی ہے لیکن مذہب کے معاملہ میں کتاب اللہ کی تفتیش اور تحقیق کے متعلق ایسی گرمی ہوئی صدی ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ اس معاملہ کو تاریکی میں گرا دیا ہے۔

آزاد خیال (فری تھنکرز) لوگوں نے کوشش کی ہے کہ یورپ کو مذہب ہی کی قید سے آزاد کریں۔ یہ ایک اور ثبوت ہے کہ اس وقت ایک ہادی کی ضرورت ہے۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت یہ تو پچھلوں کا حال تھا جن کی کتاب کو نازل ہوئے پورے چھ سو سال بھی نہ ہوئے تھے تو ان سے پہلوں کا کیا حال؟ توریت شریف کے محافظ جو انبیاء اللہ اور احبار کہلاتے تھے ان کا یہ حال ہے کہ وہی توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں اسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا بھی ذکر کیا ہے۔ حالانکہ یہ ناممکن بات ہے۔ کیونکہ وفات کا واقعہ حضرت موسیٰ کے بعد کا ہی ہو سکتا ہے اور پھر قبر کا پتا نہیں یہ بھی اس میں لکھا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایسے واقعات کا اندراج بعد میں ہوا ہے اور اس سے صاف کھل جاتا ہے کہ اصل توریت کی کیا حالت تھی اور وہ کہاں تک علماء یہود کی دست برد کے نیچے تھی۔ اس میں کمی بیشی کرنے کے لئے وہ کیسے بے باک اور دلیر تھے؟

اپنے مذہبی شعائر سے ایسے ناواقف اور بے خبر کہ بیت اللہ کی تعیین میں ہی ان کو شبہ پڑا ہوا تھا

جیسا کہ انجیل کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے۔

غرض یہ تو ان دو قوموں کا حال ہے۔ جو اپنے آپ کو صاحب کتاب سمجھتے ہیں اور قرآن شریف کھلے طور پر جن کا مصدق بھی ہے۔ پھر ان دو سے پہلے جو قومیں گزری ہیں۔ ان کے بقیۃ السلف جو اس وقت موجود ہوں گے ان کی حالت کا اس پر قیاس کر لو۔ ہمارے اس ملک میں ایک قوم اٹھی ہے جس کو زمانہ کے تازیانہ نے یا ترقی کی ہوانے بیدار کیا ہے۔ وہ بھی ایک کتاب لے کر میدان میں نکلی ہے اور اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے کہ اس کتاب کو دوسری کتابوں کے بالمقابل کوئی جگہ دے مگر مجھے حیرت آتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ان کی کتاب کا پتہ جرمن سے ورے نہیں ملتا اور اگر اب پائی بھی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے سمجھنے والا ہی کوئی نہیں پہلوں نے جو ترجمے کئے بھاش لکھے یگا کئے وہ بالکل غیر مفید غیر متعلق اور خانہ ساز تھے اصل عبارات سے ان کا کچھ تعلق نہیں ہے۔ میں جب ایسی آوازیں سنتا ہوں تو میری حیرت اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ کتاب کی اصل غرض عمل ہوتی ہے اور عمل کے لئے مطلوب ہے اس کا علم اور واقفیت اور وہ یہاں مفقود ہے پھر اس کتاب کا فائدہ کیا؟

غرض جس قدر اس سوال پر میں نے سوچا ہے اور میں سچ کہتا ہوں کہ میں نے مدتوں سوچا ہے اور بالکل خالی الذہن ہو کر محض سچائی اور راستی کے لینے کے لئے سوچا ہے اسی قدر میرا تعجب اور افسوس بڑھا ہے ان قوموں پر ان کتابوں پر۔ اور شرح صدر ہوا ہے قرآن کریم کی تعلیمات کی سچائی پر اور اس کے لانے والے کی صداقت پر اور بے اختیار ہو کر میرے دل سے نکلا ہے۔

اللہم صلّ علی محمد وعلیٰ ال محمد وبارک وسلم

دنیا کے مختلف مذاہب اور ان کی مذہبی کتابوں اور ان کے ماننے والوں کی عملی حالت نے مجھے ضرورت قرآن کی طرف بڑی بھاری رہنمائی کی ہے اور میں یقیناً جانتا ہوں اور اسی لئے دعویٰ سے کہتا ہوں کہ جو شخص اپنے گوشہ تنہائی میں دل کو صاف کر کے اس تفرقہ مذاہب اور حالت مذاہب پر نظر کرے گا اگر اس کے دل میں کچھ بھی سلامتی اور فطرت میں سعادت، سر میں دماغ اور عقل میں قوت فیصلہ ہے تو وہ اس نتیجہ پر بہت جلد پہنچ جاوے گا کہ اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو انسان کے روحانی تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور قرآن شریف ہی ایک کامل کتاب ہے جو انسان کی زندگی کو مفید اور ان

اغراض کے ماتحت کرنے کے لئے اکیلی ہادی ہے جن کے لئے وہ پیدا ہوا ہے۔ پھر عرب کی حالت اور بھی قابل غور ہے۔ اس کے ارد گرد یہ تینوں قومیں آباد تھیں۔ ہندوستان میں وید کے ماننے والے ایران میں زرتشتی مذہب کے پیرو اور شام میں اور عرب کے حصص میں عیسائی اور یہود لیکن کس قدر تعجب خیز بات ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا قوی التاثر مذہب نہ ہوا کہ عربوں پر اپنا اثر ڈال سکتا۔

تاریخ دنیا کا مصنف (جو ہمارے سید و مولا امام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایک دعا کا نشانہ اور اسلام کی صداقت پر ایک نشان ہے) جس نے بڑے فخر سے اپنے آپ کو براہین احمدیہ کی تکذیب لکھ کر مکذب کہا ہے۔ عرب کو آریوں کا راستہ بتاتا ہے کہ وہ مصر کو اسی راستہ سے جاتے تھے مگر مجھے ہمیشہ ہی تعجب رہا کہ وہ صداقتیں جو وید میں تھیں یا تو ان آریوں کو بھی معلوم نہ تھیں جو مصر کو عرب کے راستہ جاتے تھے اور یا ایسی کمزور اور بودی تھیں کہ عرب جیسے مشرکوں پر کوئی اثر ہی نہ ڈال سکتی تھیں۔ اسی طرح پر عیسائیوں اور یہودیوں اور زرتشتیوں کے فیضان سے عرب محروم کا محروم ہی رہا۔ مگر یہ کیا معجزہ ہے کہ عرب میں جب فاران کی چوٹیوں اور حرا کے غاروں سے ایک نور نکلا تو اس نے ہند پر اپنا اثر ڈالا۔ ایران پر اپنا اثر ڈالا۔ ایران پر اپنا اثر اور عیسائیوں اور یہودیوں پر اپنا اثر۔ وہ عرب جن پر کسی کا اثر نہ پڑا تھا ان کے اثر سے سب کے سب متاثر ہو گئے اور اس کے نور سے سب نے حصہ لیا۔

میں تو اس سے یہی نتیجہ نکالتا ہوں کہ یہ لوگ جو کچھ اپنے پاس لئے بیٹھے تھے وہ دراصل ایک کمزور اور بے حقیقت شیء تھی۔ جس میں دوسرے پر اثر اندازی اور جذب کی کوئی قوت ہی نہ تھی ورنہ یہ بات بالکل ناممکن ہے کہ وہ اثر کرنے سے رہتی اور حقیقت میں یہ بالکل سچ ہے جبکہ ابھی میں نے دکھایا ہے کہ ان لوگوں کی مذہبی کتابوں کی یہ حالت تھی۔

جب ایسی حالت اور صورت تھی تو دانشمند بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ دنیا اس وقت کس قدر جہالت کا سامان اکٹھا کر چکی تھی۔

عرب میں تفرقہ اس قدر تھا کہ وحدت کا نام و نشان بھی پایا نہ جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے تحدیث بالعمت کے طور پر اس امر کا ذکر کیا ہے کہ

كُنْتُمْ اَعْدَاءً قَالَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبِرْتُمْ بِنِعْمَةِ اٰخْوَانًا (ال عمران: ۱۰۴)

تم آپس میں دشمن تھے۔ ہم نے تمہارے دلوں میں ایسی محبت ڈال دی کہ اگر رات کو تم دشمن سوئے تھے تو صبح کو بھائی بھائی بن کر اٹھے۔ غرض ان میں وحدت نظر نہ آتی تھی۔ نہ وہ فاتح تھے اور نہ مفتوح جیسے وہ حکمرانی کے قواعد و ضوابط سے نا آشنا محض ویسے ہی رعایا بن کر رہنے کے اصول سے ناواقف۔ نہ مصنف تھے نہ موجد تھے۔ غرض کچھ بھی نہ تھے۔ ایسی حالت میں ان کی عام حالت پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ مردے از غیب برون آید و کارے بکند دنیا کی عام حالت کا وہ نظارہ خاص عرب کی یہ حالت۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ضرورت ہو سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی۔ جب ایسی حالت دنیا کی ہو رہی تھی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ اس وقت کی موجودہ حالت ہی صاف طور پر بتا رہی تھی کہ ایک منگھی کی ضرورت ہے اور پھر آپ نے جو اصلاح کی اس نے مہر کر دی کہ لاریب آپ حقیقی مصلح تھے۔ عربوں کی اس حالت کو ایسا تبدیل کیا کہ ایسی حیرت انگیز تبدیلی کی نظیر دنیا کی تاریخ میں پائی نہیں جاتی۔

قرآن شریف کی روشنی کے آتے ہی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں جو تاریکی اور تیرگی چھائی ہوئی تھی یکدم اڑ گئی۔ دنیا میں نابود قوم بود ہو گئی۔ وہ دنیا کی فاتح، امام، مقتدر فخر ٹھہری۔ وہ قوم جو ہزار در ہزار مرض میں مبتلا تھی اس نے جس نسخہ کے ذریعہ شفا حاصل کی وہ نسخہ قرآن کریم ہی کا نسخہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا نام نور، رحمت، شفا اور فضل ہے۔ اس نسخہ کو اپنا معمول بنا کر صحابہ کے سامنے کوئی سمندر یا پہاڑ روک نہ ہوا لیکن جوں جوں قرآن شریف ہی کی اتباع کی برکت سے کامیابی اور فتوحات کے دروازے کھلتے گئے۔ اسی قدر تعیش کے آجانے کی وجہ سے قرآن شریف سے اعراض ہوتا گیا اور دنیوی امور اور آسائشوں کی طرف توجہ بڑھتی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن شریف چھوٹ گیا اور اس کے ساتھ ہی وہ خیر و برکت اٹھنے لگی۔ اختلاف بڑھنے لگا۔ یہاں تک کہ انجام کار نہ دنیا رہی نہ دین۔ مگر قرآن شریف اس وقت بھی ایسی کامل اور حکیم کتاب موجود تھی اور ہے کہ اگر اس کی طرف رجوع کیا جاتا اور سارے اختلافات کے مٹانے کا اس کو یہی ذریعہ قرار دیا جاتا تو کوئی مشکل مشکل نہ رہتی۔ مگر حکومت اور فتوحات کے ساتھ ساتھ خود رانی اور خود غرضی پیدا ہوتی گئی اور قرآن شریف دستور العمل نہ رہا۔ جس نے وہ دن دکھایا جس کا کبھی خیال بھی مسلمانوں کو نہ آتا ہوگا لیکن اصل یہ ہے کہ وہ دن بھی مقدر تھا ضرور تھا کہ اسلام پر ضعف کی حالت آتی جیسا کہ اللہ

تعالیٰ نے پہلے سے اس کی اطلاع دی تھی۔

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ

إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (البقرة: ۲۹)

اس وقت پھر وہی موت کی حالت طاری ہے۔ اسلام فی نفسہ زندہ اسلام ہے۔ قرآن شریف زندہ کتاب ہے لیکن مسلمانوں کی اپنی کم ہمتی، کم توجہی اور قرآن شریف سے اعراض نے ان کو مردہ بنا دیا ہے۔ بالاتفاق مسلمانوں نے ایک زبان ہو کر مان لیا ہے کہ ان کی قوم مرچکی ہے یہاں تک کہ بعض نے جنازہ بھی پڑھ دیا ہے۔ اس قسم کی صدائیں سن کر اس میں شک نہیں کہ مجھے بعض اوقات سخت گھبراہٹ اور اضطراب ہوا ہے لیکن مجھے خوشی بھی ہوئی ہے۔ اس لئے کہ میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق اس موت کے بعد ایک احیا بھی ہے اور میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ اس احیا کا یہی وقت ہے اور وہ احیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے امام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ کرنا چاہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اور صرف اس کے آنے ہی سے بلکہ اس کے ہی منہ سے زندہ رسول، زندہ مذہب، زندہ کتاب اور زندہ خدا وغیرہ الفاظ سننے میں آئے ہیں۔ یہ اس لئے کہ اس میں زندگی بخش قوت ہے۔ اس امام کے حکم سے میں اس وقت آپ لوگوں کو کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے شروع میں کہا ہے کہ مریض کو اپنے علاج کے لئے جہاں تجربہ کار اور حاذق طبیب کی طرف رجوع کرنا چاہئے وہاں صبر اور استقلال کے ساتھ اس کے بتائے ہوئے علاج اور پرہیز سے فائدہ اٹھانا چاہئے اور ایک مجرب نسخہ استعمال کرنا چاہئے۔

اب اس وقت جو امراض دنیا میں روحانی طور پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اس قسم کے امراض اس وقت بھی تھے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور فرمایا تھا اور ان بیماریوں کا علاج قرآن شریف کے ذریعہ کیا گیا تھا۔ اس وقت بھی جب تک اس مجرب نسخہ کو استعمال نہ کیا جائے کچھ فائدہ نہ ہوگا اور اس نسخہ کا استعمال اس وقت تک ممکن نہیں جب تک حاذق طبیب کی طرف رجوع نہ ہو اور وہ حاذق طبیب کون ہے؟

اس زمانہ کا امام (علیہ السلام) اس کی صحبت میں رہ کر علاج کے اصول کے موافق فائدہ اٹھاؤ۔ اور اسی لیے میں نے تمہیں یہ آیت سنائی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (التوبة: ۱۱۹)

ایمان والو! متقی بن جاؤ۔ متقی بننے کی تدبیر یہ ہے کہ صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
 یہی ایک گُر ہے معزز بننے کا، قوم بننے کا یعنی متقی بن جانا اور متقی بننے کے لیے صادق کا ساتھ
 دینا اس کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔

تقویٰ کیا چیز ہے؟ مختصر الفاظ میں تقویٰ سے یہ مراد ہے اول سچے عقائد کو حاصل کرنا اور ان پر
 ایمان لانا پھر اس کے موافق زبان کو کرنا اور اپنے اعمال سے اس کا ثبوت دینا۔ وہ اعمال اس کے جسم
 کے متعلق ہوں یا مال کے۔ غرض ہر طرح سے ان عقائد کے موافق سچی وفاداری اور اخلاص کے
 ساتھ اپنے اعمال کر کے دکھا دے۔ سچے عقائد کے اصول میں سے پہلی اصل یہ ہے کہ حق سبحانہ
 تعالیٰ پر ایمان لاوے۔ حق سبحانہ تعالیٰ کا اعتقاد عظیم الشان نیکیوں اور خوبیوں اور مدارج پر پہنچنے کے
 لئے ضروری اور لابدی اصل ہے، میرا ایمان اور مذہب یہ ہے کہ کوئی شخص نیک چلن اور راست باز ہو
 ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایمان نہ لاوے۔ میں اس بات کا قائل نہیں کہ کوئی
 دہریہ بھی نیک چلن ہو سکتا ہے۔ حق سبحانہ تعالیٰ کے ماننے میں ایک عظیم الشان بات اور اصل یہ بھی
 ہے کہ اس کی صفات کو پورے طور پر مانا جاوے۔ صفات الہی کا مسئلہ ہی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے
 نہ ماننے سے دنیا کا بہت بڑا حصہ ہلاک ہوا ہے۔ میں نے اس معاملہ پر بہت غور کی ہے اور مختلف
 مذاہب کے اعتقادات اور مسائل کو خوب ٹٹولا ہے اور بڑی سوچ اور فکر کے ساتھ میں اس نتیجے پر پہنچا
 ہوں کہ جس قدر مذاہب باطلہ موجود ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت کے انکار
 سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا گُر اور اصل سمجھا دیا ہے کہ میں
 مذاہب باطلہ کو قرآن شریف کے ایک لفظ کے ساتھ رد کر سکتا ہوں اور قرآن شریف کے کمالات اور
 فضائل میں سے یہ بھی ایک مہتمم بالشان امر ہے کہ اس نے صفات الہی کے مسئلہ کو خوب کھول کھول کر
 بیان کیا ہے کیونکہ اسی راز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے دنیا نے ٹھوکر کھائی ہے اور وہ گمراہ ہوئی ہے اور اس کے
 علاوہ صفات الہی کے مسئلہ سے ہی یہ راز بھی خدا کے فضل سے مجھ پر کھلا ہے کہ انسان جس قدر
 بدیوں اور گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اگر صفات الہی کے مسئلہ کو سمجھ لے اور ان پر پورا ایمان رکھے اور
 ہر بدی کے ارتکاب کے وقت یہ خیال کر لے کہ اللہ تعالیٰ نگران ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ
 اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے بچالے۔

یہ امور اور یہ اصول سمجھ میں آتے ہیں۔ جب انسان قرآن شریف میں تدبر کرے اور فکر کرے۔ قرآن شریف پر تدبر اور فکر کی قوت پیدا ہوتی ہے تقویٰ سے جیسا کہ خدا تعالیٰ نے خود فرمادیا ہے۔ **وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُ كُفْرُ اللَّهِ** (البقرة: ۲۸۳) اور یہ میں نے ابھی بتایا ہے اور اس کی تفصیل بیان کروں گا کہ تقویٰ کی حقیقت منکشف نہیں ہوتی سچا متقی انسان بن نہیں سکتا جب تک صادقوں اور راست بازوں کی صحبت میں رہنے کا اس کو موقع نہ ملے اور ان کی معیت اختیار نہ کرے کیونکہ تقویٰ اللہ کی حقیقت منحصر ہے اولاً اللہ تعالیٰ کی ہستی پر کامل یقین پر اور یہ یقین بجز خدا تعالیٰ کے راست بازوں کی صحبت میں رہنے کے پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اس صحبت میں رہ کر وہ اللہ تعالیٰ کے عجائبات قدرت کو مشاہدہ کرتا ہے اور خارق عادت امور کو دیکھتا ہے جو انسانی طاقتوں اور ارادوں سے بالاتر ہوتے ہیں۔ ان امور اور عجائبات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان پیدا ہونے لگتا ہے اور پھر اس کی صفات پر یقین آتا ہے جس سے تقویٰ اللہ کی حقیقت اس پر کھلنے لگتی ہے اور وہ متقی بننے لگتا ہے۔

پس سچے عقائد کے اصول میں سے پہلی اصل اللہ تعالیٰ کا ماننا اور اس کی صفات پر ایمان لانا ہے اور یہ میں نے بتایا ہے کہ یہ ایمان پیدا نہیں ہوتا جب تک صادق کی صحبت میں نہ رہے۔

اب دوسرا امر عقائد کے متعلق یہ ہے کہ وہ ملائکہ پر ایمان لاوے^۳ وجود ملائکہ کے ثبوت کے لئے مجھے کسی فلسفیانہ بحث کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ملائکہ کے وجود کے انکار سے بڑھ کر کوئی حماقت نہیں ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس قدر فیوض اور برکات خواہ جسمانی ہوں یا روحانی انسان اللہ تعالیٰ سے پاتا ہے اس کے لئے کچھ نہ کچھ وسائل ضرور ہیں ان وسائل ہی کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے۔ اور انہیں سے ملائکہ بھی ایک نام ہے۔ اس صداقت سے انکار ایسا ہی ہے جیسا وجود آفتاب کا انکار۔

ایمان بالملائکہ کی حقیقت اور غرض جو مجھے سمجھ آئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے یہ راز معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں جب نیکی کی تحریک ہو معاً اس نیکی کے کرنے کے لئے مستعد اور ہوشیار ہو جاوے اور اگر اس میں ذرا بھی سستی اور کابلی سے کام لے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ وہ توفیق اس سے چھین لے گا اور اس کے دل پر ایک حجاب سا چھا جاتا ہے اسی طرح پر ایمان بالکتاب ہے اور پھر رسولوں پر ایمان ہے۔

ایمان بالرسول کے متعلق میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان صرف زبانی اقرار کا نام نہیں بلکہ اس کی حقیقت تب پیدا ہوتی ہے جب کہ اس ایمان کے موافق عمل ہو ورنہ وہ ایمان مردہ ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھو اونٹ کتنا بڑا جانور ہے۔ لیکن اگر ایک ہزار اونٹ کی بھی ایک لمبی قطار ہو اور ان سب کی مہار ایک بچے کے ہاتھ میں دے دی جاوے تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ ان سب کو لئے چلا جاوے گا لیکن اگر سو آدمی بھی مل کر ایک اونٹ کو کنویں میں گرانا چاہیں تو وہ گرنا پسند نہیں کرے گا اور جہاں تک اس سے ممکن ہوگا وہ اس سے بچے گا کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ کنواں اس کے لئے ہلاکت کا گھر ہے۔ یہ ایمان کا ایک چھوٹا سا عمل ہے جو حیوان سے ہوتا ہے۔ پھر کسی قدر شرم کی بات ہے کہ ہم انسان کہلا کر ان باتوں پر عمل نہ کریں جن کو ہم ایمانیات کی ذیل میں مانتے ہیں۔ ایمان بالرسول بھی ایک عظیم الشان شعبہ ایمان کا ہے آج کل دنیا میں برہموازم بہت پھیلا ہوا ہے ہر ایک شخص اپنی ہی مرضی اور رائے کو پسند کرتا اور اسی پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میں سچ کہتا ہوں یہ بات اصلی ترقی کے خلاف اور صریح متضاد ہے۔ جو فیوض اور برکات قوم پر بحیثیت قوم نازل ہوتے ہیں وہ انفرادی حالت میں نہیں آسکتے لیکن قوم کے لئے قوم بننے کے واسطے شخصی راؤں کو چھوڑ کر ایک ہی امام کی اتباع ضروری ہوتی ہے۔ پس انبیاء و رسول کی ایک بڑی غرض بعثت کی یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ اپنی راؤں کو چھوڑ دیں اور اس مقتدا اور مطاع کی باتوں کو مانیں اور ان پر عمل کریں اس ایک امر سے انسان کے قلب پر بڑے بڑے فیض حاصل ہوتے ہیں اور اخلاق فاضلہ اور بہت سی نیکیوں سے اسے حصہ ملتا ہے۔ خود پسندی، خود غرضی، تکبر اور انانیت جیسے رذائل سے نجات ملتی ہے۔ جو اس کو صداقت کے قبول کرنے سے روکنے والے ہوتے ہیں۔

انبیاء و رسول اور دوسرے ریفارمر اور لیڈروں میں ایک عظیم الشان فرق ہوتا ہے جس کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ انبیاء و رسول جس امر کی تعلیم دیتے ہیں وہ خود اپنے نمونہ سے دکھا دیتے ہیں اور اس کے نتائج اور ثمرات کا بھی مشاہدہ کرا دیتے ہیں۔ خیالی ریفارمر اور اصلاح کے مدعیوں میں یہ بات قطعاً نہیں ہوتی۔ غرض ایمان بالرسول بہت بڑی ایمانی جزو ہے۔ اعمال صالحہ اعمال صالحہ ہوتے ہی نہیں کیونکہ جو فعل خواہ وہ کیسا ہی نیک کیوں نہ ہو نیک نہیں کہلاتا جب تک

انبیاء و رسل کے افعال کے نمونہ پر نہ ہو۔ دنیا اس وقت حضرت امام کے دعویٰ کو سن کر حیران ہو رہی ہے اور آپ کی مسیح ابن مریم کے ساتھ مماثلت کو حیرت کے ساتھ دیکھ رہی ہے لیکن مجھے تعجب ہے کہ یہ لوگ مسلمان کہلا کر ایمان بالرسول رکھ کر کیوں تسلیم نہیں کرتے کیونکہ اگر انبیاء کی بعثت سے ایک آدمی بھی ان کے رنگ میں رنگین نہیں ہوتا اور وہی خوب اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا تو اس صورت میں ماننا پڑے گا کہ معاذ اللہ وہ محض ناکام رہا اور یہ صحیح نہیں ہے۔ غرض ایمان بالرسول بھی عقائد صحیحہ میں سے ایک امر اہم ہے۔

پھر عقائد میں سے ایک عظیم الشان مسئلہ جزا و سزا پر یقین کرنا ہے اس مسئلہ کے ماننے کے بغیر انسان نیکیوں کی طرف قدم نہیں اٹھا سکتا۔ یہ مسئلہ حقیقت میں بہت بڑی ترقیوں کا بنیادی پتھر ہے کیونکہ جب انسان مسئلہ جزا و سزا پر یقین رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرے فلاں فعل کی جزا یہ ہوگی اگر وہ بد ہے تو اس سے اجتناب کرے گا اور اگر وہ فعل نیک ہے تو اس کے کرنے کے لئے چست اور چالاک ہوگا یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس مسئلہ کو عقائد میں داخل کیا ہے اور میں اپنے تجربہ سے کہتا ہوں کہ اگر اس اصل کو محکم طور پر دل میں جگہ دی جاوے اور اس کی حقیقت کو سمجھ لیا جاوے تو انسان کو بہت سی نیکیوں کی توفیق مل جاتی ہے اور اس ایک اصل کو چھوڑنے اور غافل ہونے سے بہت لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔

پھر دوسرا جزا و ایمان کا جس سے تکمیل ہوتی ہے شفقت علی خلق اللہ کہلاتا ہے۔ مخلوق کی ہمدردی اور نوع انسان کی بھلائی کے لئے اپنے مال سے کچھ خرچ کرے۔ رنج میں، راحت میں، عسر میں، یسر میں، مصیبت میں، خوشی میں ہر حال میں قدم آگے بڑھائے کسی حال میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو اور یہ ساری باتیں اس سے پیدا ہوتی ہیں کہ صادقوں کا ساتھ دے۔ صادقوں کے ساتھ کے بغیر تقویٰ کی حقیقت کھلتی ہی نہیں، دقائق تقویٰ کا پتہ ہی نہیں لگتا جب تک انسان صادقوں کی صحبت میں نہ رہے۔ یہ ایک نہایت غلط خیال ہے جو انسان اپنے دل میں سمجھ لیتا ہے کہ میں نیکی کرتا ہوں مخلوق الہی پر شفقت بھی کرتا ہوں۔ محب ملک اور قوم ہوں تہجد گزار ہوں اور یقین کے اعلیٰ مقام پر کھڑا ہوں مجھے کسی صادق کی صحبت میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس قسم کا خیال نفس کا دھوکا ہے جو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے یہ ایک قسم کا برہموازم ہے۔

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ (البقرة: ۸۶)

کیا تم قرآن کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ یہ انکار کتاب اللہ نہیں تو کیا ہے؟ جب کہ **كُونُوا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ** (التوبة: ۱۱۹) کی ہدایت کی گئی ہے۔ پھر اس حکم کی ضرورت نہ سمجھنا اور عملی طور پر اس کو بیکار ٹھہرانا اس سے بڑھ کر کس قدر ظلم اور حماقت ہوگی؟ **اتَّقُوا اللّٰهَ** جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ قرآن شریف کے بعض حصص کا انکار کرتے ہیں خواہ علمی طور پر خواہ عملی وہ یاد رکھیں ان کی پاداش اور سزا بہت خطرناک ہے۔ **خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا** (البقرة: ۸۶) اسی دنیا میں وہ ذلیل ہو جائیں گے اور اب دنیا کی تاریخ کو پڑھ لو اور انبیاء علیہم السلام کے معاملات پر غور کرو کہ جن لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ انکار کیا ان کا انجام کیا ہوا؟ کیا وہ اسی دنیا میں ذلیل اور خوار ہوئے ہیں یا نہیں؟ جہاں تک تاریخ پتا دے سکتی ہے یا آثار الصنادید سے پتا مل سکتا ہے وہاں تک صاف نظر آئے گا کہ خدا تعالیٰ کا یہ ارشاد صاف اور ثابت شدہ امر ہے۔

میں اس معیت صادق کو حصول نیکی اور حصول تقویٰ کے لئے ایک ضروری چیز سمجھتا ہوں بغیر اس کے حقیقی نیکی کو انسان سمجھ سکتا ہی نہیں اور رضاء الہی کے طریق اس کو معلوم ہی نہیں ہو سکتے۔ ایک انسان اپنے جیسے انسان کی خواہ اس کی صحبت میں بھی رہے رضامندی کے طریق کو بدون اس کی اطلاع اور تفہیم کے جب معلوم نہیں کر سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کا علم اس کو کس طرح ہو سکتا ہے۔ جب تک خود الہام الہی نہ ہو اور ہر شخص چونکہ ایسی استعداد اور قابلیت نہیں رکھتا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے یہ قانون مقرر کیا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کو بھیجتا ہے۔ جو براہ راست مکالمہ الہی کا شرف حاصل کرتے ہیں اور پھر وہ نوع انسان کو ان امور سے اطلاع دیتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہوتے ہیں اور پھر ان آثار اور نتائج کو جو رضاء الہی کا ثمرہ کہلاتے ہیں وہ اپنے وجود میں دکھاتے ہیں جس سے واقعی طور پر پتہ لگتا اور یقین بڑھتا ہے کہ ہاں یہی بات ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور یہی حقیقی نیکی ہے اسی لئے میں نے بتایا ہے کہ نیکی کا مل نیکی اس وقت ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے فرمودہ کے موافق ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔

صادق کی صحبت اور راست باز کے ساتھ ہونے کی ضرورت کا مضمون بڑا وسیع مضمون ہے اور اس کے بہت سے پہلوؤں پر بحث کی جاسکتی ہے لیکن میں مختصر طور پر اس کے متعلق کہوں گا۔

قانون قدرت میں اس کے نظائر موجود ہیں خود انسانی جسم کی ساخت اور بناوٹ میں اس کے نمونے نظر آتے ہیں۔

قوموں کی عظمت و جبروت پر نظر کرو اور ان اسباب کی تحقیق کرو جو اس کی عظمت کا اصل باعث ہوتے ہیں۔ انجام کار تم کو اس نتیجہ پر پہنچنا پڑے گا کہ وہ کسی راستباز کی معیت اور صحبت کا نتیجہ ہیں یہ امر الگ ہے کہ بعد میں اور اسباب بھی اس کے ساتھ مل گئے ہوں۔

میں ایک موٹی تمثیل کے ساتھ اس مضمون کو ذہن نشین کرتا ہوں پہاڑوں کی طرف نگاہ کرو۔ پہاڑ کا لفظ ہی انسان کے اندر ایک عظمت اور شوکت اس کے نام کی پیدا کرتا ہے۔ مگر اصل کیا ہے ذرات کا مجموعہ ہے۔ اب اگر یہ ذرات پراگندہ اور منتشر حالت میں ہوتے تو کیا ہم ان کا نام پہاڑ رکھ سکتے؟ ہرگز نہیں۔ یہی ذرات منتشر حالت میں بے شمار تعداد میں تھلوں میں موجود ہوتے ہیں کیا کوئی کہتا ہے کہ یہ پہاڑ ہیں؟ کبھی نہیں۔ پس اگر یہ ذرات حالت منتشر میں ہوتے تو تھلوں سے زیادہ ان کی شوکت اور وقعت نہ ہوتی اور وہ مفاد اور منافع جو اس ہیئت مجموعی میں جو پہاڑ کی ہے دنیا کو پہنچتے ہیں نہ پہنچ سکتے۔ حالت اجتماعی میں پہاڑوں سے چشمے نکلتے ہیں دریا بہتے ہیں ندیوں نالوں کا سلسلہ جاری ہو سکتا ہے۔ عجیب عجیب قسم کے میوے قسم قسم کی لکڑیاں اور دوائیوں کے سامان پہاڑوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض بعض مقامات پر بڑی بڑی گرانقدر کانیں بھی نکلتی ہیں۔ غرض ہر قسم کی راحت اور آسائش اور تمومل کا سامان ایک طرح پر پہاڑوں سے حاصل ہوتا ہے اور بالمقابل انفرادی حالت تھلوں کی دیکھ لو کہ ریت اڑتی ہے نہ پیداوار ہو سکتی ہے نہ کوئی درخت ہی پیدا ہوتا ہے نہ کچھ اور غرض ہر طرح سے بربادی بخش اور مہیب نظارہ ہے اس زمانہ میں (جو علوم کا زمانہ کہلاتا ہے اور ہر قسم کی ایجادیں اور ترقیاں ہو رہی ہیں) ان علوم مردوجہ سے معلوم ہوا ہے کہ اجزا کے تفرق سے علیحدگی، کمزوری اور توافق سے تقویت پیدا ہوتی ہے۔ یہ تو جمادات کا نظارہ ہے جو میں نے دکھایا ہے۔

اب نباتات کو لو۔ اس درخت کو لو جو اس مسجد میں سامنے کھڑا ہے اس کی شاخیں جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں یہ کیسی سرسبز اور خوش نما ہیں۔ ان کی ہر حالت اور ہر صورت خوبصورت معلوم ہوتی ہے

اس وقت جو غذا ان کو اس درخت کی جڑ کے ذریعہ اور پھر اس کے بڑے تنے کے ذریعہ جن کے ساتھ ان کا پیوند ہے پہنچتی ہے وہ بہر حال حصہ رسدی سے پہنچتی ہے لیکن باوجود اس کے بھی وہ شاداب اور سرسبز ہیں۔ اب ان میں سے ایک شاخ کو کاٹ لو اور اس کو عین بہار کے موسم میں کاٹ لو جبکہ خشک درخت بھی کوئی نہ کوئی پتا نکال لیتے ہیں اور ایک بڑے تالاب میں اس شاخ کو رکھ دو اور نتیجہ کا انتظار کرو کیا ہوگا؟ وہ شاخ مرجھا جائے گی۔ خشک ہو جائے گی آخر سڑ جائے گی اور تھوڑی دیر پہلے درخت کے ساتھ رہ کر انسانی زندگی کے لئے ایک نفع رساں اور راحت بخش ہوا کا ذریعہ تھی۔ وہی شاخ اس سے الگ ہو کر مضر صحت مواد اور اسباب پیدا کرنے کا ذریعہ ہوگئی۔ باوجودیکہ اسے پہلے سے زیادہ پانی میں رکھا گیا مگر وہ اس کے لئے آب حیات کی بجائے زہر کا کام دے رہا ہے۔ اب اس کے ہرے بھرے رہنے اور مضر ثمرات اور نفع رساں ہونے کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں لیکن وہی شاخ جب درخت کے ساتھ اس کا پیوند ہوتا ہے کیسے ثمرات لاتی اور پھل پھول لاکر انسان کے لئے حیوانات کے لئے مفید اور نافع ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بزرگ اور عظیم تنا کے ساتھ کا پیوند ہی اس کے لئے مفید اور مضر ثمرات ہونے کا باعث تھا اور وہ الگ ہو کر کبھی کوئی مفید شے نہیں ہو سکتی۔ ۵

ضرورت امام: امام کی ضرورت ایک ایسی ضرورت ہے کہ اس سے کوئی سلیم الفطرت تو انکار نہیں کر سکتا ہاں جو انکار کرتا ہے وہ اپنے آپ کو کیسا ہی دانش مند تجربہ کار نیک سمجھتا ہو لیکن میں اس کو سب سے بڑھ کر بے وقوف ناواقف اور خطا کار قرار دوں گا کیونکہ وہ بدبہی باتوں سے انکار کرتا ہے۔ درخت کی مثال سے میں بتا چکا ہوں کہ کس طرح پرٹھنیوں کو سرسبز و شاداب رہنے اور بارور ہونے کے لئے درخت کے ساتھ حقیقی پیوند ضروری ہے۔ اپنی نظر کو ذرا اور وسیع کرو اور ریل گاڑی کی طرف دیکھو۔ ایک ٹرین جس میں سٹیم انجن نہ لگا ہوا ہو اور اس میں خواہ کیسی ہی مصفا اور شاندار گاڑیاں لگی ہوئی ہوں لیکن سٹیم انجن کے نہ ہونے کے سبب ان میں کوئی حس و حرکت پیدا نہیں ہوگی اور وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچیں گی۔

حیوانات پر غور کرو۔ مرغی کے بچے اگر متفرق کر دیئے جاویں تو خواہ ان کو کیسی ہی غذا دو لیکن

اگر وہ مرغی کے پروں کے نیچے آ کر اس کی حرارت سے حصہ نہیں لیتے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ ان کو چیلیں اور دوسرے جانور ہی کھا جائیں گے۔

غرض یہ تو سچ ہے کہ مادہ نشوونما پاتا ہے لیکن تعلق کے ساتھ۔ اسی طرح پر جب دنیا دار تو میں جب کوئی انجمن یا سوسائٹی بناتی ہیں اور مل کر کوئی کام کرتے ہیں اس وقت باوجود یکہ کثرت رائے پر فیصلہ ہوتا ہے لیکن اس پر بھی ان کو اپنا ایک میر مجلس یا پریزیڈنٹ منتخب کرنا پڑتا ہے اور اس کا فیصلہ قطعی اور آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ جمہوری سلطنتوں کو بھی پریزیڈنٹ کی ماتحتی ضروری ہوتی ہے باوجود یکہ وہ بڑے آزاد رائے اور آزادی پسند ہوتے ہیں پھر جب عام نظارہ قدرت اور موجودات میں وحدت ارادی کے پیدا کرنے کی ضرورت ایک عام ضرورت سمجھی جاتی ہے اور انسان کی مادی ترقیات کی جڑ میں بھی وحدت ارادی کی روح کام کر رہی ہے پھر کیسا نادان اور بے وقوف ہے وہ انسان جو علوی اور روحانی امور میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا۔

نظارہ وحدت کا معراج: میں نے اس مسئلہ پر گھنٹوں اور منٹوں سے لے کر دنوں اور ہفتوں بلکہ مہینوں اور سالوں تک غور کی ہے اور میں سچ کہتا

ہوں کہ جس قدر میں اس مضمون پر سوچتا گیا ہوں خالص ذوق اور سرور کے ساتھ اس کی باریک باتیں مجھ پر کھلتی گئی ہیں۔ یہاں تک کہ اس وحدت کے نظارہ میں میں اوپر چڑھتا گیا اور میں نے دیکھا کہ واحد لاشریک خدا کے لئے وحدت کا نظارہ ضروری ہے۔ خدا جو اسماء حسنیٰ کا مرکز ہے اگر اس کی صفات پر اگندہ ہوتیں تو خدائی ہی نہ چلتی۔ اسی طرح پر وہ جامع جمیع صفات کاملہ ہستی چاہتی ہے کہ اجزاء متفرقہ کا جو مجموعی طور پر ہیں اتحاد ہو۔

کشش: یہی وجہ ہے کہ کشش اتصال کا وجود اس نے رکھا ہے جو ذرات متفرقہ کو باہم ملاتی ہے۔ انفرادی حالت میں فیوض و برکات کا نزول نہیں ہوتا بلکہ اس میں بھی توسط کی حاجت ہوتی ہے۔ یہ کشش قابل جوہروں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور ان کو ان منافع اور برکات کا وارث ٹھہرا رہی ہے جو اتحاد سے پیدا ہوتی ہیں۔ جس طرح پر امور مادی میں میں نے یہ ضرورت دکھائی ہے۔ آسمانی اور روحانی معاملات میں بھی ایک صاحب کشش امام کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ

اپنی کشش سے پاک فطرت اور سعیدوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور پھر اس تعلق سے جوان میں پیدا ہوتا ہے اس قوت اور طاقت کو نشوونما ہوتا ہے۔

فیوض الہی کا نزول: جو فیوض الہی کے جذب کرنے کا ذریعہ ٹھہرتی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے فیوض و برکات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ وہ

سلسلہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ان الفاظ میں فرمایا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ (حم السجدة: ۳۱)

قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ کی کیفیت کیسے پیدا ہو: قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ کی حالت اور کیفیت

مجرد زبان سے کہہ دینے سے پیدا نہیں ہو سکتی بلکہ یہ ایک کیفیت ہے کہ اس کا ظہور اور بروز نہیں ہوتا جب تک خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندہ کی صحبت میں رہنے کا موقع حاصل نہ ہو اور اس کے ساتھ ہی سچا پیوند اور رشتہ قائم نہ ہو۔ یہ مسئلہ چونکہ ایک باریک مسئلہ ہے۔ اس لئے میں نے پہلے عام نظارہ قدرت کی مثالوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وحدت ارادی فیوض کا وارث بناتی ہے لیکن یہ بیان کرنا کہ وہ برکات اور فیوض جو خدا تعالیٰ کے ماموروں اور صادقوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنے سے ملتے ہیں وہ کس طرح پرنازل ہوتے ہیں یہ ایک کیفیت ہے جس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ اسی لئے میں نے بتایا ہے کہ جس طرح مرغی اپنے انڈوں کو پروں کے نیچے لے کر بیٹھتی ہے اور اپنی گرمی پہنچاتی ہے اور اس گرمی سے اس مادہ میں جو انڈوں کے اندر نشوونما پانے کی قابلیت رکھتا ہے ایک خاص قسم کی حرارت جو زندگی کی روح رکھتی ہے پیدا ہونے لگتی ہے اور معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ روح کدھر سے آئی اور کس وقت۔ اسی طرح جب انسان ایک مامور کے ساتھ سچا تعلق پیدا کرتا ہے تو اندر ہی اندر اس کی پاک تاثیریں عقد ہمت دعائیں اس تعلق پیدا کرنے والے انسان میں ایک نیا نفع روح کرتی جاتی ہیں اور اس میں نئی زندگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی صحبت میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایک نیا ایمان پیدا ہونے لگتا ہے جو اس ایمان پر اسے اپنا جان و مال تک نثار کر دینے کی قوت بخش دیتا ہے۔ وہ ایمان اس کو استقامت کی قوت دیتا ہے اور وہ اس آیت کا مصداق بنتا ہے اور اس طرح پر خدا تعالیٰ کے برکات

اور فیوض کا چشمہ اس کی طرف جاری ہوتا ہے اور ملائکہ کا نزول اس پر ہونے لگ جاتا ہے۔
 غرض میں اس کیفیت کی گواہی تجربہ دے سکتا ہوں جو انسان کو خدا تعالیٰ کے ماموروں کے
 ساتھ تعلق پیدا کر کے ہاں سچا تعلق پیدا کر کے حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت امام علیہ الصلوٰۃ والسلام
 نے اس کیفیت کا ایک مرتبہ اس طرح پر اظہار کیا تھا کہ جیسے پانی کی ایک بڑی نالی ہوتی ہے۔
 مامور من اللہ اس نالی کی مانند ہوتا ہے اور سچے ارادتمندوں کا اس نالی کے ساتھ اس طرح پر تعلق ہوتا
 ہے جیسے چھوٹی چھوٹی نالیاں ایک بڑے لوہے کے نل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں اور جب پانی کے
 چشمہ سے اس بڑے نل میں پانی آتا ہے تو ان چھوٹی نالیوں میں بھی ان کی طرف کے موافق اور
 استعداد کے مطابق وہ پانی گرتا جاتا ہے۔ پس چونکہ امام خدا تعالیٰ کے فیوض و برکات کو براہ راست
 حاصل کرتا ہے اس لئے اس سے سچے تعلق رکھنے والے ان برکات کو اس میں ہو کر حاصل کرتے
 ہیں۔ میں اس سلسلہ میں دور چلا گیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسماء حسنیٰ کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات
 ہے اور وہ تقاضا کرتی ہے کہ اجزا متفرقہ کو مجتمع کرے اس لئے اجتماع لازمی ہے۔

ساری گاڑیاں اگر چہ اپنے پہیوں سے چلتی ہیں مگر سٹیم انجن کے بدون وہ پیسے بیکار محض اور
 نکلے ہیں اسی طرح پر ہمارے اندر بھی جو قرب کی فطری قوتیں اور طاقتیں ہیں وہ سب کی سب
 بیکار اور نکمی ہیں اگر کسی سٹیم انجن کے ساتھ ہمارا تعلق نہ ہو کوئی شاخ مشرثمرات نہیں ہو سکتی جب
 تک اصل درخت کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو، کوئی بچہ نشوونما نہیں پاسکتا جب تک ماں کی گود میں
 نہ ہو۔ اسی اصل اور بنا پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (التوبة: ۱۱۹)

یعنی ایمان باللہ والو! تقویٰ اختیار کرو اور تقویٰ اختیار کرنے کی راہ یہ ہے کہ صادقوں کی صحبت
 میں رہو۔ مجھے اپنے طالب علمی کے زمانہ کا ایک واقعہ یاد ہے۔ جب میں ہندوستان میں تعلیم پاتا تھا
 تو میرے ایک مہربان تھے جو بڑے ہی پرہیزگار اور صالح آدمی تھے۔ ان کا نام شاہ عبدالرزاق تھا۔
 رام پور روہیلکھنڈ میں رہتے تھے اور یہ سید احمد بریلوی کے معتقد تھے۔ میں عموماً ان کی ملاقات کے
 واسطے جایا کرتا تھا اور ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ کئی دن تک مجھے ان کی
 خدمت میں حاضر ہونے کا موقع نہ ملا۔ اس غیر حاضری کے بعد جب میں ان کی خدمت میں حاضر

ہوا تو آپ نے پوچھا کہ تم اتنے دنوں تک کیوں نہیں آئے۔ میں نے عرض کی کہ یونہی آنا نہیں ہو سکا۔ اس پر مجھے فرمایا کہ کیا تم کبھی قصاب کی دکان پر بھی نہیں گئے ہو؟ دو تین مرتبہ اس فقرہ کو دہرایا مگر میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ اس سے آپ کا کیا مطلب ہے اور میری غیر حاضری اور حاضری کو اس سے کیا تعلق؟ پھر آپ نے ہاتھ کے اشارہ کے ساتھ سمجھایا کہ دیکھو قصاب تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنی دونوں چھریوں کو کس طرح باہم رگڑ لیتا ہے حالانکہ بظاہر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس سے عارف کو سبق لینا چاہئے کہ دنیا کے دھندوں اور تعلقات میں انسان کے قلب پر ایک قسم کا زنگ چڑھ جاتا ہے اور معرفت کی تیزی جلد کند ہونے لگتی ہے جس کے واسطے ضروری ہے کہ انسان وقتاً فوقتاً صادقوں کی صحبت میں رہ کر اس زنگ کو دور کرتا رہے اور ان کی نیک صحبت سے اس تیزی اور جلا کو قائم رکھے۔ قرآن کریم میں اسی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (النوبة: ۱۱۹)

میں سچ کہتا ہوں اور اپنے تجربہ کی بنا پر کہتا ہوں بیشمار کتابوں کے پڑھنے نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جس قدر خدا تعالیٰ کے صادق بندوں کی صحبت نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے اور اب میں سا لہا سال سے تجربہ کر رہا ہوں کہ قادیان میں بیٹھ کر جس قدر فائدہ میں نے اٹھایا ہے اپنی ساری عمر میں نہیں اٹھایا جو قادیان سے باہر بسر کی ہے اور چونکہ انسان کی فطرت میں یہ امر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے کہ وہ نفع رساں اشیاء کو لینا چاہتا ہے اور مضرا اور نقصان رساں سے بھاگتا ہے۔ اسی لئے میں قادیان سے باہر ایک دم گزارنا بھی موت کے برابر سمجھتا ہوں۔

یہی وجہ ہے کہ میں قادیان سے باہر ہزاروں روپیہ پیش کرنے کی صورت میں بھی جانا نہیں چاہتا۔ ہاں اگر کبھی نکلتا ہوں تو محض اس لئے کہ اس پاک وجود کا حکم ہوتا ہے جس کے حضور حاضر رہ کر یہ عظیم الشان فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں بلکہ دنیا کے سارے مال و متاع سے مجھے مستثنیٰ کر دیا ہے۔

میں نے یہ باتیں اس لئے نہیں کی ہیں کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ امام کے ساتھ میرا کیسا تعلق ہے؟ اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (بخاری کتاب بدء الوحی باب کیف کان بدء الوحی)۔ میری غرض فقط یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو خصوصاً ان دوستوں کو جو مجھ پر حسن ظن رکھتے ہیں ان فوائد سے

اطلاع دوں جو مجھے یہاں رہ کر حاصل ہوئے ہیں اور جنہوں نے دنیا کی ساری دولت کو میرے سامنے پھینچ کر دیا ہے تاکہ وہ بھی یہاں رہ کر وہ بات حاصل کریں جو حضرت امام کے آنے کی اصل غرض ہے۔ اس امر کے اظہار سے میری یہ بھی ایک غرض ہے کہ ان لوگوں کو ابتلا سے بچاؤں جو کبھی کبھی بدظنی کر بیٹھتے ہیں کہ میں دوسروں کو حقیر سمجھ کر بلانے پر قادیان سے باہر نہیں جاتا۔

تم جو یہاں موجود ہو یاد رکھو خدا تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہاں اپنے ہی فضل سے مجھے اس راہ کی ہدایت فرمائی ہے کہ الہی فیوض و برکات کے حصول کا اصل ذریعہ ایمان باللہ اور تقویٰ ہے۔ مگر ایمان باللہ اور تقویٰ اللہ کی حقیقت اور کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ صادق کی صحبت میں نہ رہے اور مجھے اپنی ذات پر تجربہ کرنے سے اس کی قدر معلوم ہوئی ہے۔ اس لئے میں کھول کر کہتا ہوں کہ اگر چاہتے ہو کہ وہ انوار سماوی اور روحانی برکات حاصل کرو جو روح کے تقاضوں کی انتہا ہیں تو سنو! یہاں آؤ اور صادق کی صحبت میں رہو اور اس سے وہ فیض لو جو وہ لے کر آیا ہے۔ غرض مامور من اللہ اور صادق کی صحبت اور معیت ضروری ہے۔

یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ کوئی انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ہی ذات پر بھروسہ کرے اور اپنی تجویزوں اور تدبیروں سے اعلیٰ کامیابیوں تک پہنچے اور اس امر کی پروا نہ کرے کہ مامور من اللہ اور صادق کی صحبت میں رہنے سے اسے کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ بیوقوف ہے اپنا دشمن ہے۔ دیکھو اس خیر القرون میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرن تھا۔ خدا تعالیٰ کی برکات اور فیوض کی بارش کا وقت تھا لیکن کل عرب و عجم نہیں ساری دنیا میں سے مکہ کو جو ام القریٰ ہے منتخب فرمایا اور سارے مکہ میں سے قریش کو اور قریش میں سے بنی ہاشم کو اور پھر عبد اللہ اور آمنہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا کو انوار و برکات سے بہرہ ور کرے پھر خیر القرون میں صحابہ نے اور تابعین اور تبع تابعین نے کیسی ترقی کی؟ انہوں نے اپنے سلوک کے منازل کو طے کرنے کے واسطے کیا راہ اختیار کی؟ کیا یہ کہ آپ کا اقرار کر لیا آپ کو صادق تسلیم کر لیا اور پھر آپ کے پاس آ کر نہ بیٹھے۔ اپنے گھروں میں جا کر اپنے کاروبار میں مصروف ہو کر روپیہ کمانے کی فکر میں ہو گئے اور پاس نہ رہنے کے لئے دنیا اور اس کے مخصوص کا عذر کر دیا؟ سوچو!

اور پھر سوچ کر بتاؤ۔ میں خود ہی اس سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ صحابہ نے جس قدر ترقیاں کیں جو جو مدارج عالیہ انہوں نے حاصل کئے ان سب کا اصل سبب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صحبت اور معیت ہی تھی جس نے ان کے اندر خدا تعالیٰ کی محبت اور عظمت اس درجہ تک کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی کہ جس کے مقابلہ میں انہوں نے وطن، آبرو، عزت، راحت، دولت، آسائش، عزیز واقرباء غرض دنیا کی کسی چیز اور کسی تعلق کی پروا نہیں کی۔ اور تو اور انہوں نے اپنی جانوں تک کی پروا نہیں کی اپنے خون پانی کی طرح بہا دیئے وہ بات جس نے ان میں یہ قوت یہ شجاعت واستقامت اور ایثار نفس پیدا کر دیا تھا یہی تھی کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے اور آپ کے ساتھ تعلق کو اتنا شدید کیا اور ایسے وابستہ ہوئے کہ وہ سکینت اور اطمینان جو خدا کی طرف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی جس نے آپ کا شرح صدر فرمایا۔ اس تعلق اور محبت کی نالی کے ذریعہ صحابہ کے دل پر بھی اترتی تھی اور ان کے شرح صدر کر کے نور یقین سے بھرتے جاتے تھے۔

وہ محبت اور اخلاص جو صحابہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ اس کے مقابلہ میں انہوں نے نہ وطن کی پروا کی اور نہ عزت و آبرو و راحت و آرام کو مد نظر رکھا۔ بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فانی الرسول کے مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں پورے کامیاب ہوئے۔

عرب جیسے اکھڑ اور آزاد، خود رائے قوم تھی لیکن جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت سے مستفیض ہوئے تو ان کی یہ حالت تھی کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مجلس میں ان کو دیکھتا تو اسے صرف بت نظر آتے ہر ایک اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹھا ہے اور اتنا حوصلہ جرات نہیں کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر پیش دستی کرے اور بولنے لگے۔ کیوں؟ اس لئے

آداب الرسول: کہ انہیں حکم ہو چکا تھا لَا تَقْدَمُوا بَيْنَ يَدَيْهِ اللَّهُ وَرَسُولِهِ (الحجرات: ۳) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے

کوئی بات بڑھ کر نہ کرو۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں اتنی بڑی جماعت کو یہ حکم ہوتا ہے کہ تم کچھ نہیں بول سکتے ہمارے بھیجے ہوئے رسول کی اتباع کرو۔

لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ (الحجرات: ۳)

یعنی یاد رکھو تم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو بلکہ تم اس کے ماتحت رہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر مجلس اور محفل کے کچھ آداب ہوتے ہیں اگر ان آداب اور مجلس سے قطع نظر کی جاوے اور پرواہ نہ ہو تو انسان بجائے اس کے کہ اس مجلس سے فائدہ اٹھاوے اور اس میں کوئی عزت حاصل کرے وہ اس سے نکالا جاتا ہے اور یا ان فوائد اور منافع سے محروم رہ جاتا ہے جو اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو ہوتے ہیں۔ دنیا کے حاکموں اور عہدہ داروں کے درباروں میں جاؤ تو تمہیں آگاہ کیا جاوے گا کہ وہاں کس طرح پر بیٹھنا ہے اور کس طرح ہونا ہے۔ مکارم اخلاق کی کتابوں میں آداب مجلس اور آداب گفتگو وغیرہ وغیرہ جدا جدا باب مقرر کئے ہیں۔

اس لئے کہ اخلاق فاضلہ کے حصول کے واسطے آداب و قواعد کی پابندی ضروری ہے۔ پر صاحب خلق عظیم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی پاک مجلس سے سعادت اندوزی کے لئے کیا پابندی آداب کی ضرورت نہیں ہے؟ ہے اور ضرور ہے۔ صحابہ کی کامیابیوں اور روحانی مدارج کی ترقیوں اور منازل سلوک کے طے کرنے کا اصل راز یہی تھا کہ انہوں نے فنا فی الرسول ہونے کی حقیقت کو سمجھ لیا تھا اور وہ ایک دم کے واسطے بھی آپ کی اطاعت سے قدم باہر نکالنا نہیں چاہتے تھے اور انہوں نے قدم باہر نہیں رکھا۔

اخلاص اور صواب: اعمال صالحہ کی حقیقت اسی لئے یہ بتائی گئی ہے کہ کوئی عمل صالح نہیں کہلاتا جب تک کہ اس میں دو شرطیں نہ پائی جائیں۔

اول: یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور فرمان کے موافق اور ماتحت ہو۔

دوم: وہ اس طریق پر ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے۔ پہلی شرط کا نام اخلاص ہے اور دوسری کو صواب کہتے ہیں۔

صحابہ نے اس راز کا پتہ لگا لیا تھا اس واسطے وہ وہی کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور اتباع کا رنگ رکھتا ہو کیونکہ انہوں نے یہ آداب الرسول کی آیتیں سنی ہوئی تھیں وہاں انہوں نے کلام الہی کو اس طرح پر بھی سنا تھا۔

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ (ال عمران: ۳۲)

یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ محبوب الہی بن جاؤ تو میری اطاعت کرو اللہ تعالیٰ تم کو دوست رکھے گا۔

پس چونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کی ایک ہی راہ ہے اور ایک ہی کلید اور وہ ہے اتباع بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔

صحابہ کرام کو جو یہ حکم دیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو اور محبوب الہی بننے کا جو یہ گران کو بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ علیحدہ علیحدہ ترقی نہیں کر سکتے اور نہ ترقی کرنے کا یہ اصول ہے کہ انفرادی طور پر ترقی کریں بلکہ انبیاء و رسل کے ماتحت ترقی کرنے کا اصل الاصول یہی ہے کہ سب کے سب اکٹھے ہو کر اس کی اطاعت اور نقش قدم پر چلنے میں ایسے فنا ہوں کہ اسی کا عکس اور نمونہ بننا چاہیں اور اس کے سایہ میں اس طرح پر جمع ہو جائیں جیسے مرغی کے پروں کے نیچے بچے جمع ہو جاتے ہیں۔

انبیاء سے فیض کس طرح ملتا ہے: جو لوگ انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی سیرت اور پاک لائف کو پڑھتے ہیں جو قرآن کریم

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی پر نظر کرنے سے ملتی ہے۔ کیونکہ آپ مجموعی طور پر کل نبیوں کی صفات اور کمالات کو لے کر آئے تھے اور جہاں ایک طرف آپ نوع انسان کے اکمل افراد میں سب سے اعلیٰ تھے اور سب کی خوبیوں اور کمالات کے جامع تھے وہاں کل دنیا کی اصلاح اور ہمیشہ تک کے لئے مصلح اور ریفارمر ہو کر آئے تھے۔ اس واسطے جس قدر نبی دنیا میں گزرے ہیں یا جس قدر خوبیاں اور کمالات انسان میں انتہائی درجہ تک ہو سکتے ہیں وہ سب آپ میں موجود تھیں۔ اس لئے آپ ہی کی لائف پر غور کرنا، کل نبیوں کی سیرت کو پڑھ لینا ہے مگر مجھے اس مقام پر پہنچ کر دل پر ایک ٹھوکری لگی ہے اور سخت درد محسوس ہوا ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور لائف پڑھنے والے اور اس کو اسوہ بنانے والے بہت ہی کم ہیں۔

مسلمانوں کا فرض تھا کہ آپ کی سیرت کو تدبر سے پڑھتے مگر انہوں نے نہیں پڑھا۔

حضرت عائشہ صدیقہؓ نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن کریم ہے اور قرآن کی طرف جو کچھ توجہ مسلمانوں کو ہے اس کے لئے یہ آیت بالکل صحیح ہے۔

رَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (الفرقان: ۳۱)

قرآن شریف ہی آپ کی پاک سیرت ہے اور اسی کی طرف مسلمانوں کو توجہ نہیں باوجودیکہ وہ بہت ہی ذلیل حالت تک پہنچ گئے ہیں لیکن ابھی تک بھی وہ بیدار نہیں ہوئے اور اصل باعث جو ان کی تباہی اور ذلت کا ہے ان کو نظر انداز کر کے یورپ کی اتباع سے اور مغربی فلسفہ کو اسوہ بنا کر مسلمان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکتے؟ ترقی کی ایک ہی راہ ہے اور وہ وہی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین نے اختیار کی تھی اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنانا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو اسوہ حسنہ ٹھہرایا ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (الاحزاب: ۲۲) بات کچھ اور تھی اور میں اس سلسلہ میں ادھر چلا گیا۔ میں نے ایسا عمدہ اور ارادہ نہیں کیا یہ میرے دل میں ایک درد تھا اور ہے کہ مسلمان بلندی سے گرے ہیں اور پھر ابھرنے اور گڑھے سے نکلنے کے لئے گھاس پھوس کو ہاتھ مارتے ہیں اور اس مضبوطی کو جس کی بابت کہا گیا تھا۔ **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا** (ال عمران: ۱۰۴) چھوڑ بیٹھے ہیں اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔

غرض انبیاء علیہم السلام سے فیض ملنے کی ایک ہی راہ ہوتی ہے اور وہ وہی راہ ہے جس کو قرآن شریف میں **كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ** (التوبة: ۱۱۹) کے الفاظ میں ادا کیا گیا ہے۔ جب خدا تعالیٰ کا کوئی مامور دنیا میں آتا ہے تو وہ ایک مشین یا گل کی طرح ہوتا ہے۔ جس قدر لوگ اس کے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہیں وہ انفرادی طور پر ترقی نہیں کرتے بلکہ ان کا فرض ہونا چاہئے کہ اس سے ملے رہیں اگر وہ اس سے ملے نہیں رہتے تو وہ ترقی نہیں کر سکتے اور اس فیض کو جو اس سے ملتا ہے نہیں پاسکتے۔ جس قدر لوگ محبوب الہی بننا چاہتے ہیں ان کو چاہئے کہ اس کا ساتھ دیں اور اس کی سچی اتباع کریں۔

بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پوچھتے ہیں کہ مامور کے ساتھ تعلق پیدا کرنے **ازالہ وہم:** کی ہم کو کیا ضرورت ہے؟ ہم عقائد حقہ سے واقف ہیں اور اعمال صالحہ کی حقیقت

سے آگاہ ہیں اور ان کے پابند ہیں۔ مگر یہ ان کا دعویٰ ہی دعویٰ ہوتا ہے اگر وہ اس سے واقف اور

آگاہ ہوتے تو انکار ہی نہ کرتے اعمال صالحہ کی حقیقت میں رسول کی سچی اتباع ضروری جزو ہے پھر اعمال صالحہ سے واقف اور اس کے پابند کیسے ہو سکتے ہیں۔

اور ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض امور اصولی طور پر معلوم ہوتے ہیں لیکن ان پر عمل کرنا یا سچا اور حقیقی ایمان پیدا ہونا اور گناہ سے نفرت کرنا اور بچنا یہ باتیں صرف ایک رسمی یا خیالی علم سے نہیں ہو سکتیں مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب کفار کو مخاطب کر کے فرمایا **خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولَنَّ اللَّهُ (لَقَمْن: ۲۶)** یعنی جب ان سے پوچھا جاوے کہ **خَالِقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** کون ہے؟ تو صاف کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہی ہے اور اپنی اپنی حاجت پرستی کے متعلق بھی وہ یہی سمجھتے اور کہتے تھے **يُقَرَّبُونَ إِلَى اللَّهِ بِالْحَقِّ** یعنی خدا تعالیٰ کے قرب میں پہنچاتے ہیں پھر قرآن شریف کا ایک سطر میں تو حیدی وعظ کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ تو ہم پہلے ہی سے جانتے ہیں۔ پھر ایسا کون سا مذہب ہے جو سچ بولنے کو اچھا نہ سمجھتا ہے یا عام اخلاق کی ضرورت محسوس نہ کرتا ہو اور تو اور بدکار سے بدکار آدمی بھی بدکاری کو بُرا سمجھتا ہے لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اس سے باز بھی رہے اور بدی کو چھوڑ کر نیکی اختیار کرے۔ پس انبیاء علیہم السلام نرا علم دینے کے لئے نہیں آتے ہیں بلکہ وہ اپنے اندر ایک کشش اور جذب کی قوت رکھتے ہیں جس سے دنیا کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور پھر اپنی قوت قدسی کا اثر ان پر ڈالتے ہیں اور وہ لوگ جو ان کی پاک صحبت میں رہتے ہیں ان کے پاک اور کامل نمونہ سے فائدہ اٹھا کر اپنے اندر بدیوں کو دور کرنے اور ذائل سے بچنے اور فضائل کے حاصل کرنے کی قوت پاتے ہیں۔

مگر یہ قوت اور طاقت اور توفیق کب ملتی ہے۔ اس وقت جبکہ وہ اس کے فیض صحبت سے بہرہ ور ہوں اور ان کی مجلس کے آداب کی نگہداشت کریں اور ان میں ایسی وحدت ارادی ہو کہ سارے کے سارے ایک گل کے نیچے کام کرتے ہوں اور سب کے سب جبل اللہ کو مضبوط پکڑے رہیں اور ان کی آوازیں نبی کی آواز پر بلند نہ ہوں یہ ہے وہ اصل جس سے انسان روحانی کمالات کو مامور کی صحبت میں حاصل کرتا ہے اور صحابہ نے اسی اصل کو مضبوط پکڑ کر سب منازل سلوک طے کیں۔

یاد رکھو قوم قوم نہیں بنتی اور انعام نازل نہیں ہو سکتے جب تک وہ ایک شیرازہ میں جمع نہ ہوں

جب تک وہ متفرق اور منفرد حالت میں رہے گی اس کی طاقت کمزور ہوگی اور وہ ان فیوض سے بہرہ ور نہیں ہو سکتی۔ کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ ایک ہی سرگروہ ایک ہی مرکز اور ایک ہی چشمہ ہو۔ میں نے ایک چھوٹی سی کتاب میں ایک کہانی پڑھی تھی کہ ایک بار انسانی جسم کے اعضا نے باہم مشورہ کیا۔ پاؤں نے کہا کہ مجھے روزی کمانے کے لئے سفر کی کیا ضرورت ہے۔ کھاتو پیٹ لیتا ہے۔ ایسا ہی ہاتھوں نے کہا کہ مجھے کمانے کی کیا حاجت۔ آنکھوں نے دیکھنے سے، کانوں نے سننے سے غرض ہر ایک عضو نے اپنے اپنے فرض منصبی سے انکار کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ پیٹ میں جب کچھ نہ گیا تو آخر کل طاقتیں اور قوتیں سب سلب ہونے لگیں اور جب ہر ایک پر اس کا اثر ہوا تو پھر سب پکار اٹھے۔ یہ ہماری غلطی ہے۔ پیٹ ہی کے لئے مفید نہ تھا بلکہ ہم سب کی زندگی کا اصل راز بھی یہی اتفاق تھا۔

اس کہانی سے سبق یہ ملتا ہے کہ جب تک وحدت ارادی پیدا نہ ہو زندگی پیدا نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس راز کو سمجھ لیا تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دین و دنیا میں مظفر و منصور ہو گئے۔ صحابہ کرام نے یہ بات کیسے حاصل کی اور کس طرح سلوک پورا کیا۔ اس کا ایک نمونہ ان کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے۔ اثنائے بیان میں آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ ابن مسعود ایک گلی میں آرہے تھے۔ وہاں ہی یہ آواز ان کے کان میں آئی اور معاً وہیں بیٹھ گئے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی تھی کہ بیٹھ جاؤ۔ چونکہ اس حکم کی تعمیل ضروری تھی اور یہ معلوم نہیں کہ مسجد تک جانے میں مجھے یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اس واسطے میں یہیں بیٹھ گیا کہ تعمیل ارشاد ہو جاوے۔

یہ ہے نمونہ صحابہ کی اطاعت اور تعمیل حکم کا اور جب تک یہی روح اور رنگ مسلمانوں میں پیدا نہ ہو یقیناً سمجھ لو کہ کوئی ترقی اور کامیابی نہیں ہو سکتی اور ہرگز نہیں ہو سکتی۔ خواہ یورپ کے فلسفہ اور ایجاد کو اپنا قبلہ بھی بنا لیں۔

اس طرح پر تم سمجھ سکتے ہو کہ وحدت کی کیسی ضرورت ہے انسان انسانی کمالات میں ترقی کرنی چاہتا ہے۔ جمادات اور نباتات بھی اپنے رنگ میں ایک ترقی کرتے ہیں لیکن ان ترقیوں کی تہ میں

بھی یہ رازِ وحدت کام کر رہا ہے۔ اگر وہ اعضا کسی مرکز کے متبع نہ ہوں تو مردہ اور بیکار ہو جاتے ہیں اگر یہ اعضا انسانی دورانِ دمِ قلب میں شریک نہیں ہوتے تو پھر تھوڑی دیر میں ان کا نتیجہ عام طور پر نظر آسکتا ہے کہ وہ قوی بیکار ہو جاویں۔ پس وحدت کی ضرورت ہے وحدت پیدا کرو اور اس کے لئے ایک ہی راہ ہے کہ اسوہ حسنہ کا کامل اتباع ہو۔

یہ خیال کرنا اور سمجھ لینا ضروری بات ہے کہ جو مامور آوے وہ کوئی نہ کوئی نئی بات ہی سناوے۔ یہ حماقتِ عظیم ہے۔ انبیاء علیہم السلام تو اس صداقت کی نشوونما کے لئے آتے ہیں جو فطرت، قانونِ قدرت اور جستہ جستہ فقرات کتاب میں موجود ہوتی ہے اور ان کی غرض اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان پیدا کرنا اور گناہ کی موت سے بچانے کی تدابیر کا بتانا اور ایک وحدت پیدا کرنا ہوتی ہے۔ اس مسئلہ کو حضرات صحابہؓ باریک نظر سے دیکھتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ کوئی امر بدون کسی جمعیت کے ہرگز حاصل نہیں ہوگا۔ نادان قوم نے صحابہ کی باریک عقل کو نہیں پہچانا اور بعض ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے ان پر اعتراض کر دیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد معاً کچھ لوگوں کو خلافت کی فکر پڑی وہ اعتراض کرنے کو تو اعتراض کرتے ہیں مگر نہیں جانتے۔ مَنْ لَّمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهِ فَقَدْ مَاتَ مِيتَةَ الْجَاهِلِيَّةِ صحابہ اس اصل کو مانتے اور اس پر ایمان لاتے تھے۔ اس لئے انہوں نے پہلے امام کا اقرار ضروری سمجھا کیونکہ اگر امام نہیں تو یہ کس طرح معلوم ہوتا کہ کہاں دفن کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ مختلف الرائے اور مختلف الخیال کے آدمی موجود تھے۔ کوئی کچھ کہتا اور کوئی کچھ لیکن جب ایک امام ہو گیا اور اس کو قوم نے تسلیم کر لیا پھر کوئی امر متنازعہ باقی نہیں رہ سکتا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

اس سے تو صحابہ کی اولوالعزمی اور ان کی فراست صحیحہ اور وحدت و یک جہتی کی خواہش صادقہ کا پتہ ملتا ہے اور یہ فعل ان کا قابل تعریف ثابت ہوتا ہے مگر نادان معترض اس کو بھی اعتراض سے خالی نہیں چھوڑتا۔ سچ ہے عیبِ نمایند هنرش در نظر کا معاملہ ہے۔

پھر قرآن شریف چونکہ حکیم خدا کی کتاب ہے اور وہ انسانی قومی اور انسانی ضرورتوں کے علم پر حاوی ہے اس لئے وہ ایک اصل کو تو قائم رکھتا ہے۔ ضمنی امور کو اس حد تک جہاں تک انسان کی جائز ضروریات کا تعلق ہے چھوڑ دیتا ہے۔ یا یہ کہو کہ وہ کوئی حکم ایسا پیش نہیں کرتا جو انسانی طاقتوں سے بالاتر ہو اور وہ اس کی تعمیل ہی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ صاف فرمایا۔

لَا يَكْفُرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة: ۲۸۷)

مجھے اس موقع پر قرآن کریم کی عظمت اور کمال کے سامنے روح میں ایک وجد محسوس ہوتا ہے اور اس کے منجانب اللہ ہونے پر یہی زبردست دلیل نظر آتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ دنیا کی ایک بڑی قوم جو آج اپنی دانش اور سمجھ پر اتراتی ہے اپنی ایجادوں اور صنعتوں پر ناز کرتی ہے۔ اپنے ہدایت نامہ کو بکلی چھوڑ بیٹھے ہیں محض اس لئے کہ اس کی تعلیم ناممکن العمل ہے اور وہ ایسی تعلیم ہے جس کے معلم کی نسبت تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ انسانی قومی کی حقیقت سے بالکل ناواقف اور نا آشنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کے کسی حصہ اور شعبہ کے لئے انجیل کی ہدایت نہیں مل سکتی۔

ایک شوہر، ایک باپ، ایک کمانڈر انچیف، ایک قاضی اور جج، ایک سلطان جلیل القدر، ایک متبتل الی اللہ درویش، ایک مقتن، ایک جوہاد انسان بناؤ انجیل سے کیا ہدایتیں لے سکتا ہے۔

ہماری گورنمنٹ مذہباً عیسائی ہے لیکن اگر وہ انجیل کے موافق عملدرآمد کرنا چاہے تو آج پولیس اور فوج کو الگ کرے اور کوئی ہندوستان مانگے تو یہ دوسرے حصے سلطنت کے دینے کو تیار ہو جاوے۔ ایک گال پر طمانچہ کھا کر دوسری پھیر دینے پر عمل شروع ہو تو آج انگلستان کا صفایا ہو جاوے۔ ملک کا امن چین خطرناک حالت میں پڑ جاوے۔ مگر خدا کا شکر ہے کہ اس پر عمل نہیں اور عملی طور پر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ انجیل ہدایت نامہ نہیں ہے اور وہ انسانی زندگی کی ضروریات سے ناواقف شخص کے خیالات ہیں۔ غرض یہ ذکر تو ذوق بیان کی وجہ سے درمیان آ گیا۔ میں یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ قرآن شریف چونکہ اللہ علیم و حکیم کی کتاب ہے۔ اس لئے وہ انسانی ضرورتوں اور ان کی مجبوریوں کا پورا علم اور فلسفہ اپنے اندر رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک

صحبت میں رہنے کا حکم دیا ہے اور انسان چونکہ متمدن ہے بعض اوقات اس کو مشکلات پیش آجاتے ہیں اور وہ ہر دم اس سرکار میں حاضر رہنے سے معذور ہو سکتا ہے۔ اس لئے معمولی دوری کو انقطاع کلی کا موجب نہیں ہونے دینا چاہئے۔ جس قدر دور ہوتا جاتا ہے۔ اسی قدر سستی اور کاہلی پیدا ہو سکتی ہے اگر خدا تعالیٰ کا فضل اور کثرت استغفار نہ ہو۔ اس لئے انقطاع کلی سے بچانے کے لئے حکم دیا ہے۔

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ (التوبة: ۱۲۰)

یعنی اہل مدینہ اور اس کے اردگرد رہنے والوں کا یہ کبھی حال نہ ہو کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص کام میں توجہ کریں تو یہ اپنی جگہ سمجھیں یا نہ سمجھیں اس کی خلاف ورزی کریں۔

انسان ہمہ دان نہیں: انبیاء و مرسلین کے کام اللہ تعالیٰ کے اشارے اور ایما کے ماتحت ہوتے ہیں اور ان میں باریک درباریک اسرار اور غوامض ہوتے

ہیں۔ موٹی عقل سے دیکھنے والوں کی نظر میں ممکن ہے کہ ایک فعل مفید معلوم نہ ہو لیکن دراصل اس میں مآل کار قوم اور ملک کے لئے ہزاروں ہزار مفاد اور بہتریاں ہوتی ہیں تو یہ اس کی حماقت ہوگی اگر اس پر اعتراض کر دے۔

نادان انسان ہر فعل کی علت غائی اور ضرورت کو نہیں سمجھتا اور نہ اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ ہر ایک فعل کی علت غائی ہی سوچتا رہے۔ ایک کیکر کے درخت کو جو اس قدر کانٹے لگائے اور شیشم یا آم کے درخت کو ایک بھی کانٹا نہ لگایا۔ اب اگر ایک احمق اعتراض کرے کہ یہ کیا کیا کیکر کے درخت کو کانٹے کیوں لگائے اور دوسرے کو کیوں نہ لگائے یہ اس کی نادانی ہوگی یا نہیں؟ اس کی مصلحت اور ضرورت کو تو وہی خدا سمجھتا ہے جس نے کیکر اور آم کو بنایا ہے۔ دوسرا کیونکر اسے سمجھے۔ اسی طرح پر انبیاء کے افعال و حرکات جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے اللہ تعالیٰ کے خفی و جلی احکام اور اشارات کے ماتحت ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ان کے افعال عام نظر میں ایسے دکھائی دیتے جاتے ہیں جو دوسروں کو اعتراض کا موقع ملتا ہے۔ مگر درحقیقت درست اور صحیح وہی ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی دیکھتا ہے کہ بدر کے جنگ میں تین آدمی مخالفوں کی طرف سے نکلے ہیں اور تین ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

طرف سے نکلے ہیں کوئی کہے کہ تین کے مقابلہ میں ڈیڑھ کافی تھا۔ آپ نے تین کیوں بھیجے جو چھ کے لئے کافی تھے؟ مگر وہ بڑا ہی احمق اور نادان ہوگا جو کہے کہ یہ کارروائی غلط تھی۔

یاد رکھو خدا تعالیٰ کی مرسل مخلوق کو اپنی فراست پر قیاس نہیں کر لینا چاہئے۔ اسی لئے فرمایا کہ خیر القرون کی مخلوق کو تخلف جائز نہیں ہے۔ خواہ اس میں مصائب اور مشکلات ہی پیدا ہوں اور ہوتے ہیں مگر جب وہ اپنا کام اس پر مقدم نہ کریں گے تو کیا یہ تکالیف اور مصائب اکارت جائیں گے؟ کبھی نہیں۔ سنو!

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمًا وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَءُونَ مَوْطِنًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا اِلَّا كَتَبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (التوبة: ۱۲۰)۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سفر میں پیاس لگتی ہے موقع پر پانی نہیں ملتا۔ بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ تکان یا تکالیف ہوتی ہے۔ ایسا ہی سفر میں ممکن ہے کہ روٹی نہ ملے یا ملے تو وقت پر نہ ملے اس قسم کی صدمات کی تکالیف ہوتی ہے۔ اس قسم کی تکالیف اور مشکلات اگر اللہ تعالیٰ کے لئے ہوں اور یادِ ثمن سے کوئی فائدہ حاصل کر لے۔ غرض حضور الہی میں ان کا ثمرہ ضرور ہوتا ہے اور ان کے ذمہ اعمال میں نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ خدا چونکہ شکور خدا ہے وہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔

محسنین کے معنی: مولا کریم چونکہ شکور ہے اور علیم وخبیر ہے اس لئے وہ فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں

فرماتا۔ محسن کسے کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کی تعریف جبرئیلؑ نے صحابہ کی تعلیم کے لئے پوچھی ہے آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے یا کم از کم یہ کہ یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو دیکھتا ہے۔

یہ ایک ایسا مرتبہ عظیم الشان ہے جس کے کسی نہ کسی پہلو کے حاصل ہو جانے پر انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے اور بڑے بڑے مراتب اور مدارج اللہ تعالیٰ کے حضور پالیتا ہے۔ ساری نیکیوں کا سرچشمہ اور تمام ترقیوں اور بلند پروازیوں کی جان اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ انسان اعلیٰ درجہ کے اخلاق فاضلہ کو حاصل ہی نہیں کر سکتا جب تک خدا تعالیٰ پر یقین نہ ہو کہ وہ ہے۔ میں اس بات کے ماننے کے واسطے کبھی تیار نہیں ہو سکتا کہ ایک دہریہ بھی کبھی اعلیٰ مراتب کے اخلاق فاضلہ والا ہو سکتا

ہے کوئی چیز اس کو گناہوں کے ارتکاب سے نہیں روک سکتی۔ نیکی کا کوئی سچا مفہوم اس کی سمجھ میں آ نہیں سکتا پھر وہ نیکی کیسے کرے اور گناہوں سے کیونکر بچے۔ اس کی ساری عمر ناما امیدوں اور مایوسیوں کا شکار رہتی ہے۔ وہ اسباب اور علت و معلول کے سلسلہ کے پیچ در پیچ تعلقات میں ہی منہمک رہ کر آخر حسرت اور یاس سے اس دنیا کو چھوڑ جاتا ہے۔

میں نے دہریہ اور ایمان والے دونوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اور دونوں **دہریہ اور مومن:** کی موت میں زمین و آسمان کا فرق پایا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں اور اپنے

ذاتی تجربہ سے کہتا ہوں اور پھر جو چاہے آزما کر دیکھ لے کہ سچی راحت اور حقیقی خوشی صرف ایمان باللہ سے ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور صلحاء کی لائف میں جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے کوئی واقعہ خود کشی کا نہیں پایا جاتا۔ مومن کی امید اپنے اللہ پر بہت وسیع ہوتی ہے وہ کبھی اس سے مایوس نہیں ہوتا ان کی زندگی کے واقعات کو پڑھو تو معلوم ہوگا کہ ایک ایک وقت ان پر ایسا آیا ہے کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی ہے لیکن اس شدت ابتلا میں بھی وہ ویسے ہی خوش و خرم ہیں جیسے اس ابتلا کے دور ہونے پر۔ وہ کیا بات ہے جو ان کو اس موت کی سی حالت میں بھی خوش و خرم اور زندہ رکھتی ہے۔ فقط اللہ پر ایمان۔

غرض محسنین کے زمرہ میں داخل ہونا بہت ہی مشکل **محسنین کا پہلا اور پچھلا درجہ:** اور پھر مشکل کشا ہے۔ پہلا درجہ جو محسن کا اعلیٰ مقام

ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ بعد میں حاصل ہوتا ہے۔ اس کا ابتدائی درجہ یہی ہے کہ وہ یہ ایمان لائے کہ میرے ہر قول و ہر فعل کو مولیٰ کریم دیکھتا اور سنتا ہے۔ جب یہ مقام اسے حاصل ہوگا تو ہر ایک بدی کے وقت اس کا نور قلب اس ایمان کی بدولت اس سے روکے گا اور لغزش سے بچالے گا اور رفتہ رفتہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آخر وہ اس مقام پر پہنچ جائے گا کہ خدا تعالیٰ کو دیکھ لے گا اور یہ وہ مقام ہے جو صوفیوں کی اصطلاح میں لقا کا مقام کہلاتا ہے۔

پس جب انسان محسن ہو کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو پھر تھوڑا ہوا بہت اللہ تعالیٰ اس کے بہتر بدلے دیتا ہے۔ یہ صرف اعتقادی اور علمی بات ہی نہیں۔ کہانی اور داستان ہی نہیں بلکہ واقعات نفس الامری ہیں۔

مہاجرین میں خلافت کا راز: میں دنیا کی تاریخ میں جس سے مراد میں انبیاء علیہم السلام کی پاک تاریخ لیتا ہوں بہت سے واقعات اس کی

تصدیق میں پیش کر سکتا ہوں اور علمی طریق پر بھی خدا کے فضل سے اس کی سچائی ثابت کرنے کو تیار ہوں۔ مگر ان سب باتوں کو چھوڑ کر میں ایک عظیم الشان واقعہ صحابہ کی لائف کا دکھانا چاہتا ہوں۔ میں ایک عرصہ تک اس سوال پر غور کرتا رہا کہ کیا وجہ تھی جو انصار کو خلافت نہ ملی بلکہ خلافت کے اول وارث مہاجر ہوئے اور مہاجرین میں سے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ انصار میں سب نے بڑی ہمت کی اور ان کی اس وقت کی امداد ہی نے ان کو انصار کا پاک خطاب دیا لیکن اس کا کیا ستر ہے کہ بادشاہی اور حکومت کا ان کو حصہ نہ ملا اور پہلا خلیفہ قریشی ہوا۔ پھر دوسرا تیسرا چوتھا بھی یہاں تک کہ عباسیوں تک قریشیوں ہی کا سلسلہ چلا جاتا ہے۔ بنو ثقیفہ میں کوشش کی گئی کہ ایک خلیفہ انصار میں سے ہو اور ایک مہاجرین میں سے مگر یہ تجویز پاس نہیں ہوئی اور کسی نے نہ مانا۔ آخر مجھ پر اس کا ستر یہ کھلا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت إِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اپنا کام کر رہی تھی۔

انصار نے کیا چھوڑا تھا جو ان کو ملتا۔ مہاجرین نے ملک چھوڑا، وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑا، مال و اسباب۔ غرض جو کچھ تھا وہ سب چھوڑا اور سب سے بڑھ کر ابو بکرؓ نے، اس لئے جنہوں نے جو کچھ چھوڑا تھا اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر پایا۔ زیادہ سے زیادہ ان کی زمین چند بیگہ ہوگی جو انہوں نے خدا کے لئے چھوڑ دی مگر اس کے بدلہ میں یہاں خدا نے کتنے بیگہ دی؟ اس کا حساب ہی کچھ نہیں۔

پس یہ سچی بات ہے کہ جس قدر قربانی خدا کے لئے کرتا ہے اسی قدر فیض انسان اللہ تعالیٰ کے حضور سے پاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کتنی بڑی تھی۔ پھر اس کا پھل دیکھو کس قدر ملا۔ اپنی عمر کے آخری ایام میں ایک خواب کی بنا پر جس کی تاویل ہو سکتی تھی حضرت ابراہیم نے اپنے خلوص کے اظہار کے لئے جو ان بیٹے کو ذبح کرنے کا عزم بالجزم کر لیا۔ پھر خدا نے اس کی نسل کو کس قدر بڑھایا کہ وہ شمار میں بھی نہیں آسکتی۔ اسی نسل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم الشان رسول خاتم النبیین رسول کر کے بھیجا جو کل انبیاء علیہم السلام سے افضل ٹھہرا۔ جس کی امت میں ہزاروں ہزار اولیاء اللہ ہوئے جو بنی اسرائیل کے انبیاء کے مثیل تھے اور لاکھوں لاکھ بادشاہ ہوئے۔ یہاں تک کہ مسیح موعود جو خاتم الخلفاء ٹھہرایا گیا ہے وہ بھی اسی امت میں پیدا ہوا اور خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے

اسے پایا اور اس کی شناخت کا موقع ہم کو دیا گیا۔ والحمد لله على ذلك۔
یہ بدلہ یہ جزا کس بات کی تھی؟ اسی عظیم الشان قربانی کی جو اس نے خدا تعالیٰ کے حضور دکھائی۔
واقعی یہ بات قابل غور ہے کہ ابراہیم کی عمر جب کہ سو برس کے قریب پہنچی۔ اس وقت قوی بشری
رکھنے والا کیا امید اولاد کی رکھ سکتا ہے پھر تیرہ برس کی عمر کا نوجوان لڑکا جو چوراسی برس کے بعد کا ملا ہوا
ہو اس کے ذبح کرنے کا اپنے ہاتھ سے ارادہ کر لینا معمولی سی بات نہیں ہے جس کے لئے ہر شخص تیار
ہو سکے غور کرو۔ اس ذبح کے بعد عمر کے آخری ایام ہیں اور قبر قریب ہے۔ پھر کیا باقی رہ سکتا ہے۔ نہ
مکان رہا نہ عزت و جبروت۔ مگر اے ابراہیم تجھ پر خدا کا سلام! تو نے خدا تعالیٰ کے ایک اشارہ اور
ایما پر سارے ارادوں اور ساری خوشیوں، خواہشوں کو قربان کر دیا اور اس کے بدلے میں تو نے وہ پایا
جو کسی نے نہیں پایا۔ خاتم النبیین اسی اسماعیل کی نسل میں ہوا اور خاتم الخلفاء اسی خاتم النبیین کی امت
میں۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ
اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

پھر ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا وہ صدق اور اخلاص کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اَسْلِمَ
قَالَ اَسْلَمْتُ (البقرة: ۱۳۲) اے ابراہیم تو فرمانبردار ہو جا عرض کیا حضور میں تو فرمانبردار ہو چکا۔
اَسْلِمَ نہیں کہا اَسْلَمْتُ کہا یعنی اپنا ارادہ رکھا ہی نہیں معاً حکم الہی کے ساتھ ہی تعمیل ہو گئی۔ پھر اس
اخلاص سے کیا بدلہ پایا یہی کہ ابوالممت ٹھہرا۔ جو کچھ چھوڑا اس سے بڑھ کر ملا۔

اسی طرح پر سید الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حالات پر غور کرو۔ اہل مکہ نے کہا کہ اگر آپ کو
بادشاہ بننے کی آرزو ہے تو ہم تجھ کو بادشاہ بنانے کے واسطے تیار ہیں۔ اگر تجھے دولت مند بننے کی خواہش
ہے تو دولت جمع کر دیتے ہیں۔ اگر حسین عورت چاہتا ہے تو تامل و مضائقہ نہیں۔ یہ کیا چیزیں تھیں مگر دنیا
پرست کی نظر ان سے پرے نہیں جاسکتی تھی۔ اس لئے اسی کو پیش کیا۔ آپ نے اس کا کیا جواب دیا؟ یہی
کہ اگر سورج اور چاند کو میرے دائیں بائیں رکھ دو تو بھی میں اس اشاعت اور تبلیغ سے رک نہیں سکتا۔
اللہ! اللہ! کس قدر اخلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کتنا بڑا ایمان ہے۔ قوم کی مخالفت ان دکھوں اور تکلیفوں کے
سمندر میں اپنے آپ کو ڈال دینے کے واسطے روح میں کس قدر جوش اور گرمی ہے جو اس انکار سے آنے
والی تھیں۔ ان تمام مفاد اور منافع پر تھوک دینے کے لئے کتنی بڑی جرأت ہے جو وہ ایک دنیا دار کی

حیثیت سے پیش کرتے تھے مگر خدا تعالیٰ کو راضی رکھ کر اس کو مان کر اس کے احکام کی عزت و عظمت کو مدنظر رکھ کر اس قربانی کا بدلہ آپ نے کیا پایا؟ وہ پایا جو دنیا میں کسی ہادی کو نہیں ملا اور نہ ملے گا۔

إِنَّا أَنْعَمْنَا عَلَىٰ الْكَافِرِ (الکوثر: ۲) کی صدا آئی؟ اور کس نے ہر چیز میں آپ کو وہ کوثر عطا کی جس کی نظیر دنیا میں نہیں مل سکتی؟ سوچو! اور غور کرو!!

میں نے مختلف مذاہب کی کتابوں ان کے ہادیوں اور یانیوں کے حالات کو پڑھا ہے اس لئے دعویٰ سے کہتا ہوں کہ کوئی قوم اپنے ہادی کے لئے ہر وقت دعائیں نہیں مانگتی ہے مگر مسلمان ہیں کہ دنیا کے ہر حصہ میں ہر وقت ہر آن اللہم صلّ علی محمد وعلیٰ ال محمد وبارک و سلم کی دعا آپ کے لئے کر رہے ہیں۔ جس سے آپ کے اور مراتب ہر آن بڑھ رہے ہیں۔ یہ خیالی اور خوش کن بات نہیں واقعی اسی طرح پر ہے۔ دنیا کے ہر آباد حصہ میں مسلمان آباد ہیں اور ہر وقت ان کی کسی نہ کسی نماز کا وقت ضرور ہوتا ہے۔ جس میں لازمی طور پر اللہم صلّ علی محمد پڑھا جاتا ہے۔ مقرر نمازوں کے علاوہ نوافل پڑھنے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور درود شریف بطور بڑی محبت کے پڑھنے والے بھی کثرت سے۔ اس طرح پر آپ کے مراتب مدارج کا اندازہ اور خیال بھی ناممکن ہے۔ یہ مرتبہ یہ فخر کسی اور ہادی کو دنیا میں حاصل نہیں ہوا ہے۔^۹

حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام نے محض خدا تعالیٰ کے خوف سے ایک عورت کے ساتھ بدکاری کرنے سے پرہیز کیا۔ ورنہ ایک عام آدمی بھی جس کی نگاہ بہت ہی چھوٹی اور پست ہو کہہ سکتا ہے کہ اس تعلق سے وہ اس عزت سے جو اس وقت ان کی تھی زیادہ معزز اور آسودہ حال ہوتے۔ اگرچہ یہ خیال ایک دنی الطبع آدمی کا ہو سکتا ہے۔ مومن کبھی وہم بھی نہیں کر سکتا کہ کسی بدی اور بدکاری میں کوئی آرام آسودگی کی عزت مل سکتی ہے سچی عزت اور راحت مل سکتی ہے کیونکہ ارشاد الہی اس طرح پر ہے کہ ساری عزتیں اللہ ہی کے لئے ہیں اور پھر معزز ہونا رسول اور مومنین کے لئے لازمی ہے۔

بہر حال جو کچھ بھی ہو۔ کمینہ فطرت کم حوصلہ انسان عاقبت اندیشی سے حصہ نہ رکھنے والا کہہ سکتا ہے کہ ان کو آرام ملتا ہے۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس عزت اس آرام اور دولت کو لات ماری اور خدا تعالیٰ کے احکام کی عزت کی۔ قید قبول کی مگر حکم الہی کو نہ توڑا۔ نتیجہ کیا ہوا وہی یوسف اسی مصر میں اسی شخص کے سامنے اس عورت کے اقرار کے موافق معزز اور راست باز ثابت ہوا۔ وہ امین

ٹھہرایا گیا اور جس مرتبہ پر پہنچا تم میں سے کوئی اس سے ناواقف نہیں۔ یوسف علیہ السلام کا یہ سارا تذکرہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ** (یوسف: ۲۳) یعنی عادت اللہ اور سنت اللہ اسی طرح پر واقع ہوئی ہے کہ کوئی محسن ہو۔ کبھی ہو اس کو اس طرح پر جزا ملتی ہے جیسے یوسف علیہ السلام کو ملی۔

غرض انسان محسن بنے پھر خدا اس کے ساتھ ہے اور اسے مراتب اعلیٰ ملتے ہیں۔ خدا کی راہ میں تھوڑا ہو یا بہت جو کچھ خرچ کرتا ہے اور خدا کے لئے اگر کوئی وطن اور مال اور دولت یا عزت کو چھوڑتا ہے وہ بے وطن نہیں ہوتا اس کو بہترین وطن دیا جاتا ہے۔ وہ بے قوم و بے یار و مددگار نہیں رہتا۔ اس کو بہترین قوم بہترین احباب و دوست دیئے جاتے ہیں جو چھوڑتا ہے اس سے بہتر پاتا ہے لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ ہر خرچ کے لئے جو اللہ کی راہ میں ہو، اوقات ہوتے ہیں۔

مامور من اللہ جب آتا ہے اس کے ابتدائی زمانہ میں اس کی اعانت و نصرت کی عند اللہ بہت قدر اور عزت ہوتی ہے۔ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک مٹھی بھر جو بھی خدا کی راہ میں خرچ کرنا بہت قیمت اور قدر رکھتے ہیں مگر ایک زمانہ اس مامور کی کامیابیوں کا آجاتا ہے اس وقت سونے کے پہاڑ خرچ کرنے کے بھی اس قدر قیمت نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانہ میں جبکہ ہر طرف سے مخالفت کی صدائیں بلند تھیں اور مسلمان ہونے والوں کو وہ اذیتیں اور تکلیفیں دی جاتی تھیں جو آج خدا کے محض فضل سے اس گورنمنٹ کے زیر سایہ ہمارے مخالف ہم کو نہیں پہنچا سکتے۔

اس وقت آپ نے فرمایا کہ ایک مٹھی جو کی آج جو قدر ہے وہ ایک وقت آنے والا ہے اُحد پہاڑ کے برابر سونا دینے والے کی وہ قدر نہ ہوگی۔ حقیقت میں یہ کیسی سچی بات ہے۔ جب مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ بہت وسیع ہو گیا اگر عبا سیوں کے زمانہ میں ہارون رشید یا مامون رشید اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک مٹھی جو کی دیتے تو ان کے لئے شرم اور عار کا باعث ہوتا۔ مگر یہ خوب یاد رکھو جس چیز کے بدلے انہوں نے سلطنت پائی اور قیصر و کسریٰ کے خزانے ان کے پاؤں میں ڈالے گئے وہ ایک مٹھی جو ہی تھی جو صحابہ نے دی۔ اس سے بھی صاف نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اور پھر مامور کی ابتدائی بعثت کے ایام میں خرچ کرنا بہت ہی بڑا قدر و قیمت رکھتا ہے یہ تو ہے انفاق فی سبیل اللہ کی ضرورت۔

اب ایک اور امر ہے جو قرآن شریف سے ثابت ہے اور جس کی **اتقا اور صحبت صادق:** طرف بڑی توجہ دلائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ متقی بننا اور صادقوں کا ساتھ

دینا ہے۔ حقیقت میں تقویٰ کی اصل روح انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتی جب تک کہ صادقوں کی صحبت میں نہ رہے۔ صادق کی پاک صحبت اندر ہی اندر ایک خاص اثر انسان کی روح پر کرتی ہے اور اس کے امراض روحانی کا مداوا اس کی پاک توجہ، عقد ہمت، دعا اور موثر وعظ و نصائح جو وقتاً فوقتاً درد دل سے کرتا ہے اور وہ نشانات و خوارق جو وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ اس کی تائید اور نصرت کے لئے نازل فرماتا ہے ایمان کو قوی کرتے ہیں اور جب ایمان کامل ہونے لگتا ہے تو گناہوں کی زندگی پر موت آ کر ایک نئی زندگی اسے عطا ہوتی ہے جس میں تقویٰ کے خواص اور آثار پائے جاتے ہیں۔ لیکن انسان کی ضرورتیں اس کی کم نظریاں، انعامات الہیہ کی وسعت سے بے خبری، اس کی ذاتی کمزوریاں اور بشری تقاضے بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ ہر وقت وہ ماموروں کی صحبت میں نہیں رہ سکتا اور وہ فیض اور فضل جو ان کی پاک صحبت میں ملتا ہے وہ اسے ان شرائط اور لوازمات کے ساتھ جو خاص صحبت ہی سے مختص ہیں نہیں پاسکتا اس لئے ایک اور ضرورت پیش آئی وہ ضرورت ہے تفقہ فی الدین کی۔

تفقہ فی الدین: تفقہ فی الدین کے لئے پھر یہ حکم صادر ہوا۔ مَا كَانِ الْمُؤْمِنُونَ

لِيَنْفِرُوا كَأَفْئَةٍ فَلَوْلَا نَفَرْنَا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا

فِي الدِّينِ وَيَلْتَمِذُوا مَا كَانُوا إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (التوبة: ۱۲۲)۔

یعنی چونکہ یہ تو ممکن نہیں ہے اور نہ مناسب ہی ہے کہ سب کے سب مسلمان ایک دفعہ ہی نکل جاویں۔ اس لئے کیوں ہر گروہ سے ایک جماعت اس مقصد اور غرض کے لئے نہ نکلے کہ تفقہ فی الدین کرے اور جب وہ اپنی قوم کے پاس لوٹ کر واپس آئیں تو اپنی قوم کو ڈرائیں تاکہ وہ قوم بری باتوں سے بچے۔

اس آیت سے پہلی آیت میں انفاق کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اس واسطے کہ اس آیت میں جو ابھی میں نے پڑھی ہے۔ انفاق کی ایک ضرورت بھی پیش ہوئی ہے۔ اس سے پہلی آیت یہ ہے۔

وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لِيَجْزِيَئَهُمُ اللَّهُ

أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (التوبة: ۱۲۱)۔

یعنی اور نہ وہ اللہ کی راہ میں کوئی ہوا یا تھوڑا یا بہت مال خرچ کریں گے اور نہ کوئی میدان طے کریں گے مگر یہ کہ ان کے واسطے اس خرچ اور سفر کی جزا لکھی جاوے گی تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اس اچھے کام کا بدلہ دے جو وہ کرتے تھے۔

اس آیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مامورین کے وقت سفروں کی ضرورت بھی پیش آتی ہے اور خدا کے لئے کوئی نہ کوئی سفر قوم کے بعض یا کل افراد کو کرنا پڑتا ہے۔ پس وہ سفر بجائے خود اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین جزا کا موجب اور باعث ہوتا ہے۔ غرض اس میں انفاق کی فضیلت بیان کر کے اس دوسری آیت میں جو تفقہ فی الدین کے لئے ایک جماعت کے نکلنے کی ہدایت کرتی ہے۔ انفاق کی ضرورت بیان کی گئی۔

تفقہ فی الدین کے لئے خاص جماعت ہو: عام طور پر کل انسان ایک امام کے حضور جمع نہیں ہو سکتے

کل دنیا نہ تو متفق ہی ہو سکتی ہے نہ وہ ایک جگہ جمع ہو سکتی ہے۔ ملک کی طبعی تقسیم اور پھر کل دنیا کی طبعی تقسیم اس امر کی شاہد ہے۔ اس عام نظارہ قدرت کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ سب کے سب امام کے حضور جمع رہو اور ہر وقت حاضر ہو قریباً تکلیف مالا یطاق ہو جاتی جو اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی۔ یہ فخر عیسائیوں کو بے شک ہے کہ وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کو ایسی شریعت ملی ہے جس کو کوئی انسان بجا لا سکتا ہی نہیں۔ اگرچہ تعجب ہے کہ پھر وہ شریعت کا نزول ہی کیوں مانتے ہیں سرے سے کہہ دیتے شریعت آئی ہی نہیں اور نہ اس کی کوئی ضرورت تھی کیونکہ انسان اس کی بجا آوری اور تعمیل سے قاصر ہے لیکن اسلام ہاں! پاک و بے عیب اسلام ایسی شرمناک اور قابل مضحکہ بات کو روا نہیں رکھتا وہ **لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا** (البقرة: ۲۸۷) کی پاک ہدایت دیتا ہے۔ پھر میں کیوں ایک طرفۃ العین کے لئے بھی یہ روا رکھوں کہ اسلام میں کوئی حکم ایسا بھی ہے جس کی تعمیل ناممکن ہے۔ یہ خوبی اور عظمت اسلام کی ہی ہے کہ اس کے جمیع احکام اس قسم کے ہیں کہ ہر ایک انسان ان سے اپنی استطاعت و طاقت کے موافق اپنی حالت اور حیثیت کے لحاظ سے یکساں فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مثلاً ایک شخص ہے وہ بیمار ہے اٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کر حتیٰ کہ اشاروں سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کا ثواب ایک مستعد تندرست آدمی کی نماز سے کم نہیں ہوگا نہ اس نماز میں کوئی سقم واقع ہو سکتا

ہے۔ ایک شخص استطاعت حج کی نہیں رکھتا۔ حج نہ کرنے سے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اسی طرح پر تفقہ فی الدین کی بھی مختلف صورتیں ہیں ہر شخص اتنا وقت اور فراغت نہیں رکھتا کہ وہ اس کام میں لگا رہے۔ دنیا میں تقسیم محنت کا اصول صاف طور پر ہدایت دیتا ہے کہ مختلف اشخاص مختلف کام کریں۔ انسان کی تمدنی زندگی کی ضروریات کا تکفل ہوگا۔ اسی طرح اسی اصول کی بنا پر حکم ہوا کہ

مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (التوبة: ۱۲۲)۔

یعنی یہ امر تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کل مومن علوم حقہ کی تعلیم اور اشاعت میں نکل کھڑے ہوں۔ اس لئے ایسا ہونا چاہئے کہ ہر طبقہ اور گروہ میں سے ایک ایک آدمی ایسا ہو جو علوم دین حاصل کرے اور پھر اپنی قوم میں واپس جا کر ان کو حقائق دین سے آگاہ کرے تاکہ ان میں خوف و خشیت پیدا ہو۔ میں افسوس اور درد دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ عملی رنگ میں اس آیت کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ حقیقت میں ایسا ہی ہوا ہے۔

علم کی غرض و غایت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت پیدا ہو جس خوف سے خدا تعالیٰ کی معرفت بڑھتی ہے اور انسان گناہوں اور بدیوں سے بچتا ہے۔ یہ بات خیالی نہیں یقینی اور نیچرل ہے۔ دیکھو تم کیوں خون کرنے سے ڈرتے ہو؟ صرف اس لئے کہ تعزیرات ہند ڈراتی ہے اور اس کی سزا تمہارے دل پر ایک خاص اثر ڈال کر ایسی حرکات سے بچاتی ہے۔ یہ طریقے دراصل بدیوں سے بچنے کے عارضی اور ظلی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ قانون مجریہ وقت کے ہوتے ہوئے بھی باوجودیکہ مجرموں کو سزا ملتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں۔ من کل الوجوه جرائم کا دروازہ بند نہیں ہوتا اور اس کی وجہ یہی ہے کہ حقیقی طور پر یہ دروازہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت سے بند ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ علماء ربانی اور ماموروں کی زندگی میں یہ نمونہ بدیوں کا نہ ملے گا بلکہ ان کی زندگی پاک اور بے لوث ہوگی وہ اس لئے بدیوں سے نہیں بچتے کہ وہ تعزیرات ملک سے ڈرتے ہیں بلکہ وہ تعزیرات خدا سے ڈرتے ہیں اور وہ خوف ان کے نفسانی قومی پر غلبہ پا کر اس مادہ کو بھسم کر دیتا ہے جو بے اعتدالی کا جوش نفس سے پیدا ہو سکتا ہے۔ پس حقیقی طور سے گناہ سے بچنے کا طریق خوف خدا کا دل پر مستولی ہونا ہے۔ ایک اور بھی راہ ہے جس سے انسان گناہ سے بچ سکتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے حسن پر اطلاع

ہے۔ جب پوری معرفت اور بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جمال کو دیکھتا ہے تو اس حسن کے بالمقابل تمام لذات اسے پیچ اور فانی نظر آتی ہیں اور ساری خوشیوں اور راحتوں کو اسی صاحب الحسن کی اطاعت میں پاتا ہے۔ یہ مقام اعلیٰ درجہ کے انسانوں کا ہوتا ہے مگر ایک طبقہ انسانوں کا ایسا بھی ہے جو خوف الہی بھی ان کو گناہوں سے بچالیتا ہے اور یہ خوف علوم حقہ میں تفقہ کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی لئے علماء ربانی کی شان میں کہا گیا ہے۔ **إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ** (فاطر: ۲۹)

مگر آج اس زمانہ میں عالم کے یہ معنی سمجھے گئے ہیں کہ کج بحثیاں کرنے میں طاق ہو۔ کبھی کسی بات کے ماننے کے لئے تیار نہ ہو جو منہ سے نکل جاوے خواہ وہ کیسا ہی بیہودہ اور لغو ہو اس کی تائید میں قرآن شریف میں تحریف کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا کرنے سے بھی نہ ڈرے۔ خدا تعالیٰ مجھ کو اور میرے بھائیوں کو ایسے علم سے بچائے۔ آمین

حضرت امام نے ایک الہامی قصیدہ لکھا ہے۔ اس کا یہ شعر کیسا سچا ہے۔

علم آں بود کہ نور فراست رفیق اوست
 این علم تیرہ را بہ پیشیزے نئے خرم

تم علم پڑھو لیکن اگر اس علم سے خدا کا خوف اور خشیت پیدا نہیں ہوتی تو استغفار اور لاجول پڑھو کہ وہ علم حجاب اکبر ہو کر ہلاکت کا موجب نہ ہو جاوے۔ میں نے بڑے بڑے مولوی اور عالم کہلانے والے دیکھے ہیں۔ اس وقت موجود ہیں اور تم میں سے اکثر اس سے ناواقف نہیں کہ وہ چیز جو ان کی راہ میں امام وقت کی اطاعت میں ٹھوکر کا پتھر ہوئی وہ وہی ان کا علمی ناز اور گھمنڈ تھا۔ اگر وہ حقیقی علوم کے وارث ہوتے تو ان میں خشیت اور خوف پیدا ہوتا ان کے دل یہ سن کر ڈرتے کہ سنانے والا کہتا ہے۔ میں خدا کا مامور ہوں۔ یہ چھوٹی سی بات نہ تھی خدا کے بھیجے ہوئے سے مقابلہ!!! میں سچ کہتا ہوں کہ یہ خدا کا فضل ہے جس کو میں بیان کرتا ہوں کہ میرا دل اس تصور سے بھی کانپ جاتا ہے کہ انکار کے لئے کیوں جرأت کرتے ہیں؟ مگر مشکل یہ ہے کہ وہ علم نور فراست ساتھ ہی نہ رکھتا اس سے بہتر تھا کہ وہ جاہل رہتے ایک اور بات قابل عذر ہے کہ عالم ربانی بننے کے لئے شرط ہے۔ تقویٰ اللہ کی بدون اس کے علوم حقہ کی کلید مل سکتی ہی نہیں کیونکہ خود خدا تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُ كُفْرُ اللَّهِ (البقرة: ۲۸۳) اصل معلمِ حقہ کا تو خدا تعالیٰ ہی ہے اور اس کی راہ ہے تقویٰ اللہ۔ جب اس طریق پر انسان تقویٰ اختیار کرے تو علومِ حقہ کے دروازے اس پر کھلیں گے اور وہ اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (فاطر: ۲۹) میں داخل ہوگا۔

غرض عالم ربانی کے لئے ضرورت ہے کہ تقویٰ سے کام لے اور تقویٰ کی حقیقت اس وقت تک کھل نہیں سکتی جب تک خدا تعالیٰ کے صادق اور مامور بندوں کی صحبت میں نہ رہے۔ جیسا فرمایا ہے۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (التوبة: ۱۱۹) اس سے معیتِ صادق کی بہت بڑی ضرورت معلوم ہوتی ہے اور فی الحقیقت ضرورت ہے لیکن چونکہ ساری قوم ایک ہی وقت اپنے امام کے گرد نہیں رہ سکتی اور اگر ہر فرد قوم کا حاضر بھی ہو تو ہر ایک فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ طبیعتیں جدا جدا ہیں اور مذاق الگ الگ اور تقسیمِ محنت کا اصول الگ اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے یہ قانون مقرر فرمایا کہ ایک گروہ حصولِ تعلیم دین کے لئے حاضر ہو اور وہ واپس جا کر قوم کو سکھائے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اس آیت اور اس کے اصل مفہوم پر غور کرو۔ اس کے الفاظ کو سوچو کہ ان کے اندر اصولِ تعلیم کے لئے کیسا کھلا اور واضح قانون رکھا ہے۔ اصل غرض تفقہ فی الدین ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ طوطا کی طرح چند کتاہیں رٹ لے اور دستارِ فضیلت باندھ کر یا ایک کاغذ سند کے طور پر ہاتھ میں لے کر قوم پر ایک بوجھ بن کر مالیہ وصول کرتا پھرے۔ نہیں بلکہ اس کی روحانی اور اخلاقی حالت اس کی نکتہ رسی اور معرفت ایسی ہو، اس کے کلام میں وہ تاثیر اور برکت ہو کہ لوگوں پر خوفِ الہی مستولی ہو کر ان کو گناہوں سے بچانے کا باعث ہو۔ وہ ایک نمونہ ہو جس سے قوم پر اثر پڑ سکے۔ مگر بتاؤ اور وسیع نظر کر کے دیکھ لو کہ کتنے ہیں جو اس کے صحیح مصداق ہیں۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم نے مرزا صاحب کو امام مانا صادق سمجھا بہت اچھا کیا لیکن کیا اس غرض و غایت کو سمجھا کہ امام کیوں آیا ہے؟ وہ دنیا میں کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس کی غرض یا اس کا مقصد میری تقریروں سے یا مولوی عبدالکریم کے خطبوں سے یا کسی اور کی مضمون نویسیوں سے معلوم نہیں ہو سکتی اور نہ ہم اس غرض اور مقصد کو پورے طور پر بیان کرنے کی قدرت رکھتے ہیں اور نہ ہمارے بیان میں وہ زور اور اثر ہو سکتا ہے جو خود اس رسالت کے لانے والے کے بیان میں ہے پھر اس کے معلوم

کرنے کو تو خود اس کے منہ سے کچھ سننا چاہئے اور یہ اس کی صحبت سے معلوم ہوگا۔
 تم نے مولویوں کو ناراض کیا۔ سجادہ نشینوں کو چھوڑا اور اکثروں کو یہ مشکلات بھی پیش آئیں کہ
 ان کو اپنے بعض رشتہ داروں یا عزیزوں سے قطع تعلق کرنا پڑا۔ یہ سب کچھ سہی لیکن اگر اس غرض کو
 معلوم نہ کیا جس کے لئے یہ چھوڑا ہے تو کیا فائدہ! اپنے آپ کو مشکلات میں تو ڈال لیا مگر غور تو کرو کہ
 کس قدر ہیں جو یہاں رہ کر قرآن شریف سیکھیں، علمی اور عملی تفسیر کا یہاں کے سوا کہیں موقع نہیں
 کیونکہ خدا تعالیٰ کا مامور یہاں موجود ہے۔ میں سچ کہتا ہوں میرے دل میں یہ تڑپ اور جوش ہے اور
 رہتا ہے کہ میرے بھائی سجدہ دار اور ذہین یہاں رہیں اور قرآن شریف کے علوم حقه کو سیکھیں اسی
 طرح پر جس طرح پر صحابہؓ مدینہ میں رہ رہ کر سیکھتے اور پھر واپس جا کر اپنی قوم کو تبلیغ کرتے اور ان کی
 اشاعت میں مصروف رہتے۔^{۱۱}

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں رہنے کی کس قدر ضرورت ہے۔ کیونکہ جب تک یہاں نہ
 رہے تو انوار شریعت اور مغز قرآن جو یہاں پیش کیا جاتا ہے اس سے اطلاع کیونکر ہو؟ یہاں نہ رہنے
 ہی کی وجہ سے آداب النبی کے خلاف بعض اوقات ہمارے بھائی حضرت اقدس سے دعا کے لئے
 لکھتے ہیں۔

نانوے فیصدی ایسے خطوط دعا کے لئے آتے ہیں جن کو دعا کرانے کی حقیقت سے خبر نہیں ہے
 اور اگر ان کو اس راز پر اطلاع ہو تو ان کا قلم کانپ جاوے اور کبھی ایسی درخواستیں کرنے کی جرأت نہ
 کریں۔ کیا دنیا دار کے رنگ میں کوئی شخص بطور خود یہ تجویز ملکہ معظمہ کو کر سکتا کہ مجھے فلاں جگہ کا گورنر
 یا عہدہ دار بنا دے؟ ایسے آدمی کو نادان نہ کہا جائے گا؟

دعا ایک عجیب برکت اپنے ساتھ لاتی ہے اور اس سے بڑے بڑے عقدے حل ہوتے ہیں مگر
 دعا دعا ہو۔ جب تک اس میں وہ زینت اور خوبصورتی پیدا نہ ہو جو اس کے لوازمات ہیں اس کا کوئی
 اثر نہیں۔ سچا اضطراب ہو۔ کامل تبدیلی کی جاوے۔ رعایت آداب الدعاء ہو۔ خشوع و خضوع کے
 ساتھ اعلائے کلمۃ الاسلام کے لئے دعا کی جاوے۔ پھر باب اجابت اس کے لئے جلد کھولا جاتا ہے
 اور دنیوی برکات بھی اس کے ساتھ ہی آتی ہیں۔

میں نے صحابہ کی سیرت کو خوب غور سے پڑھا ہے اور مجھے یاد نہیں

صحابہ کی خصوصیت: کسی اولوالعزم صحابی کی پاک زندگی میں یہ پایا جاتا ہو کہ اس نے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور دنیوی اغراض کے لئے یہ عرض کی ہو کہ حضور دعا کریں مجھے فلاں سلطنت مل جاوے یا میرے بیٹا ہو جاوے جو میری جائیداد کا وارث ہو۔ اس سے صحابہ کی عظمت اور ان کی پاک باطنی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ مگر دیکھو انہوں نے گودنیا کے لئے کوئی دعا نہیں کرائی لیکن کیا وہ دنیا سے محروم رہے؟ دنیا خود ان کے پاس آگئی۔ وہ بادشاہ بنا دیئے گئے اور قیصر و کسریٰ کے خزانے ان کے پاؤں میں ڈالے گئے۔

اب کوئی مقابلہ کرے دوسرے بادشاہوں کا جو دنیا میں ہوئے ہیں لیکن کیا وہ صحابہ جیسے بادشاہ ہوئے۔ پس تم بھی دنیا کے لئے دعائیں نہ کرو اور نہ منگواؤ بلکہ دین کی عظمت اور اس کے اعلاء کے لئے خود بھی کرو اور امام سے بھی کراؤ۔ یہ خدا تعالیٰ کے لئے ہوں گی ان کی اجابت یقینی ہے۔ پھر اس کے ثمرات بھی لازم طور پر آئیں گے۔

دعاؤں سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے ان کے نتائج عرصہ دراز کے بعد بھی ظہور پذیر ہوتے ہیں لیکن مومن کبھی تھکتا نہیں۔ قرآن شریف میں دعاؤں کے نمونے موجود ہیں ان میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وہ اپنی اولاد کے لیے کیا خواہش کرتے ہیں۔

رَبَّنَا وَابْحَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ (البقرة: ۱۳۰)

اس دعا پر غور کرو۔ حضرت ابراہیم کی دعا روحانی خواہشوں اور خدا تعالیٰ کے ساتھ آپ کے تعلقات بنی نوع کی بھلائی کے جذبات کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے۔ وہ دعا مانگ سکتے تھے کہ میری اولاد کو بادشاہ بنا دے مگر وہ کیا کہتے ہیں۔ اے ہمارے رب میری اولاد میں انہیں میں کا ایک رسول مبعوث فرما۔ اس کا کام کیا ہو وہ ان پر تیری آیات تلاوت کرے اور اس قدر قوت قدسی رکھتا ہو کہ وہ ان کو پاک و مطہر کرے اور ان کو کتاب اللہ کے حقائق و حکم سے آگاہ کرے اسرار شریعت ان پر کھولے۔

یہ ایسی عظیم الشان دعا ہے کہ کوئی دعا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور ابتدائے آفرینش سے جن لوگوں کے حالات زندگی ہمیں مل سکتے ہیں کسی کی زندگی میں یہ دعا پائی نہیں جاتی۔ حضرت ابراہیم کی عالی ہمتی کا اس سے خوب پتہ ملتا ہے۔ پھر اس دعا کا نتیجہ کیا ہوا اور کب ہوا۔ عرصہ دراز کے بعد

اس دعا کے نتیجے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان پیدا ہوا اور وہ دنیا کے لئے ہادی اور مصلح ٹھہرا۔ قیامت تک رسول ہوا اور پھر وہ کتاب لایا جس کا نام قرآن ہے اور جس سے بڑھ کر کوئی رشد، نور اور شفا نہیں ہے۔ یہ دعاؤں کے برکات اور ثمرات ہیں۔ پھر اس دعا سے کس قدر ثمرات حضرت ابراہیم کی اولاد کو ملے تم خود سوچ سکتے ہو۔

بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا خالص بندہ بن جاتا ہے اور اس کی ساری نفسانی خواہشوں پر موت آجاتی ہے اور ساری غرض و غایت اللہ کے لئے ہو جاتی ہے اور اس کے دین کا جلال ظاہر کرنا اس کا مقصد ہو جاتا ہے تو پھر ساری مشکلات اس کی حل ہو جاتی ہیں۔ دنیا اور اس کے اسباب خود اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں مگر اس کی راہ اختیار کرنے کے واسطے ضرورت ہے قرآن شریف پر عمل کرنے کی۔ اور عمل کے لئے پہلے ضروری ہے قرآن شریف کا فہم اور فہم قرآن بجز تقویٰ کے حاصل نہیں ہوتا اور اس کے واسطے مجاہدہ شرط ہے اور یہ باتیں حاصل ہوتی ہیں مامور کی صحبت سے اور صادق کے پاس رہنے سے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (التوبة: ۱۱۹)

اور پھر یہ نصیحت فرماتا ہے کہ تفقه فی الدین کے لئے اپنی اپنی جگہ سے کچھ آدمی بھیجو جو مامور کی صحبت میں رہ کر وہ فیض حاصل کریں اور پھر واپس اپنی قوم میں جا کر تبلیغ کریں تاکہ تم میں خشیت الہی پیدا ہو۔ بارہا یہ بات میرے دل میں پیدا ہوتی ہے اور جوش اٹھتا ہے کہ لوگ اس ارشاد الہی پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ تمہیں فخر ہے کہ قرآن فہم میں ہے مگر یہ فخر جائز اس وقت ہوگا کہ تم ایک بار اس قرآن کو دستور العمل بنانے کے واسطے سارا پڑھ لو۔ لوگ مجھ سے پوچھا کرتے ہیں کہ قرآن شریف کیونکر آسکتا ہے۔ میں نے بارہا اس کے متعلق بتایا ہے کہ اول تقویٰ اختیار کرو۔ پھر مجاہدہ کرو اور پھر ایک بار خود قرآن شریف کو دستور العمل بنانے کے واسطے پڑھ جاؤ۔ جو مشکلات آئیں ان کو نوٹ کر لو۔ پھر دوسری مرتبہ اپنے گھر والوں کو سناؤ۔ اس دفعہ مشکلات باقی رہ جائیں ان کو نوٹ کرو۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اپنے دوستوں کو سناؤ۔ چوتھی مرتبہ غیروں کے ساتھ پڑھو۔ میں یقین کرتا

ہوں اور اپنے تجربہ سے کہتا ہوں کہ پھر کوئی مشکل مقام نہ رہ جائے گا۔ خدا تعالیٰ خود مدد کرے گا لیکن غرض ہوا اپنی اصلاح اور خدا تعالیٰ کے دین کی تائید۔ کوئی اور غرض درمیان نہ ہو۔

بڑی ضرورت عملدار آمد کی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے وہ کیا بات تھی جس نے آپ کو بوڑھا کر دیا وہ یہ حکم تھا۔

فَاسْتَقِمَّ كَمَا أَمَرْتَ (ہود: ۱۱۳)

یعنی جب تک تو اور تیرے ساتھ والے تقویٰ میں قائم نہ ہوں وہ کامیابیاں نہیں دیکھ سکتے۔ اس لئے تو سیدھا ہو جا جیسا کہ تجھ کو حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح پر یاد رکھو کہ ہماری اور ہمارے امام کی کامیابی ایک تبدیلی چاہتی ہے کہ قرآن شریف کو اپنا دستور العمل بناؤ۔ نرے دعوے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس دعوے کا امتحان ضروری ہے جب تک امتحان نہ ہو لے کوئی سرٹیفکیٹ کا میابی کامل نہیں سکتا۔ خیر القرون کے لوگوں کو بھی یہی آواز آئی۔ أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (العنکبوت: ۳) کیا لوگ گمان کر بیٹھے ہیں کہ وہ صرف اتنا ہی کہنے پر چھوڑ دیئے جاویں گے کہ وہ ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جاویں۔

ابتلاؤں اور آزمائشوں کا آنا ضروری ہے۔ بڑے بڑے زلزلے اور مصائب کے بادل آتے ہیں مگر یاد رکھو ان کی غرض تباہ کرنا نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا منشا اس سے استقامت اور سکینت کا عطا کرنا ہوتا ہے اور بڑے بڑے فضل اور انعام ہوتے ہیں۔ ہاں یہ سچ ہے اور بالکل سچ ہے کہ جو لوگ کچے، غیر مستقل مزاج، کم قیمت اور منافق طبع ہوتے ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں صرف مخلص، وفادار، بلند خیال اور سچے مومن رہ جاتے ہیں جو ان ابتلاؤں کے جنگلوں میں بھی امتحان اور بلا کی خاردار جھاڑیوں پر دوڑتے چلے جاتے ہیں۔ وہ تکالیف اور مصائب ان کے ارادوں اور ہمتوں پر کوئی بُرا اثر نہیں ڈالتیں۔ ان کو پست نہیں کرتیں بلکہ اور بھی تیز کر دیتی ہیں۔ وہ پہلے سے زیادہ تیز چلتے اور اس راہ میں شوق سے دوڑتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ بلائیں، وہ تکالیف، وہ مصائب، وہ شدید خدا تعالیٰ کے عظیم الشان فضل اور کرم اور رحمت کی صورت میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور وہ کامیابی کے اعلیٰ معراج پر پہنچ جاتے ہیں۔ اگر ابتلاؤں کا نتیجہ مشق نہ ہو تو پھر کسی کامیابی کی کیا امید ہو۔ دنیا میں بھی دیکھ لو ایک

ڈگری حاصل کرنے کے واسطے اے۔ بی۔ سی شروع کرنے کے زمانہ سے لے کر ایم اے کے امتحان تک کس قدر امتحانوں کے نیچے آنا پڑتا ہے۔ کس قدر روپیہ اس کے واسطے خرچ کرتا ہے اور کیا کیا مشکلات اور مشقتیں برداشت کرتا ہے۔ باوجود اس کے بھی یہ یقینی امر نہیں ہے کہ ایم اے پاس کر لینے کے بعد کوئی کامیاب زندگی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ اس لمبے سلسلہ تعلیم میں طالب علم کی صحت خطرناک حالت میں پہنچ جاتی ہے اور ڈپلومہ اور پیام موت ایک ہی وقت آ پہنچا ہے۔ اس محنت اور مشقت اور ان امتحانوں کی تیاری، روپیہ کے صرف سے اس نے کیا فائدہ اٹھایا یا والدین نے کیا؟ مگر اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ کے لئے ابتلاؤں اور امتحانوں میں پڑنے والا کبھی نہیں ہوا کہ وہ ناکامیاب اتر اہو اور نامراد رہا ہو۔ ان لوگوں کی لائف پر نظر کرو اور ان کے حالات پڑھو جن پر خدا تعالیٰ کے مخلص بندے ہونے کی وجہ سے کوئی ابتلا آیا اور انہوں نے ثبات قدم، استقلال اور صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا اور پھر با مراد نہ ہوئے ہوں ایسی ایک بھی نظیر نہ ملے گی۔^{۱۲}

دنیاوی علوم و فنون کی تحصیل کے لئے غور کرو کہ ابجد شروع کر کے ایم۔ اے کی ڈگری تک پھر امتحان مقابلہ والا دینے اور دوسرے اخراجات ضرور یہ خرید کتب وغیرہ میں کس قدر محنت، وقت اور روپیہ صرف ہوتا ہے اور ہم کرتے ہیں مگر اس کے بالمقابل قرآن کریم کو اپنا دستور العمل بنانے کے واسطے ہم اس کے پڑھنے اور سمجھنے کے واسطے کس قدر محنت اور کوشش اور روپیہ ہم نے خرچ کیا ہے؟ اس کا جواب یہی ہوگا کہ کچھ بھی نہیں۔ اگر اس کے واسطے ہم عشر عشر بھی خرچ کرتے تو خدا تعالیٰ کے فضل و رحمت کے دروازے ہم پر کھل جاتے۔ مسلمانوں کے افلاس ان کی تنگدستی اور قلاشی کے اسبابوں پر آئے دن انجمنوں اور کانفرنسوں میں بحث ہوتی اور بڑے بڑے لیکچرار اپنی طلاق لسانی سے اس افلاس کے اسباب بیان کرتے ہیں۔ میں نے بھی ان لیکچروں کو پڑھا ہے اور مسلمانوں کے افلاس کے اسباب پر بھی غور کی ہے۔

ان تمام ریفاہی امور اور لیکچراروں کا اسی پر اتفاق
مسلمانوں کے افلاس پر نظر : ہوتا ہے کہ چونکہ مسلمانوں میں ہائی ایجوکیشن نہیں رہی

اس لئے یہ اعلیٰ عہدوں کے حاصل کرنے سے قاصر رہے ہیں اور یہی اصلی باعث ہے۔ پھر اس ہائی ایجوکیشن کے نعروں سے لیکچر ہال گونجا دئے جاتے ہیں۔ لیکن میں جب ان لیکچروں کو پڑھتا ہوں تو

میری حیرت اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ مسلمانوں کو اور بھی مفلس بنا دینے کی ایک تدبیر ہے۔ میں ہائی ایجوکیشن کا مخالف نہیں ہوں مگر مجھے افسوس اس بات سے آتا ہے کہ مسلمانوں کو اٹلی راہ پر ڈالا جاتا ہے خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کے افلاس کی یہ وجہ نہیں بتائی۔ قرآن شریف نے صاف فیصلہ کیا ہے۔ ☆

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (طہ: ۱۲۵)

اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا۔ پس تحقیق اس کے لئے گزران تنگ ہوگی اور ہم قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے۔ اصل وجہ افلاس کی تو یہ ہے مگر افسوس ہے کہ اس سے غافل ہیں اور اور بھی دور ہٹتے جاتے ہیں اور بایں ہمہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو تسنزل سے نکالیں جب قرآن کریم اور ذکر اللہ سے دوری بڑھے گی تو اس کا نتیجہ خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق ضنک معیشت ہوگا۔ پس میں ان لیکچراروں اور ریفارمروں کے ساتھ اسباب افلاس میں متفق نہیں۔ ہائی ایجوکیشن کا نہ ہونا وجہ افلاس ہوگا۔ لیکن اصل باعث اعراض عن ذکر اللہ ہی ہے۔ میں پھر پوچھتا ہوں کہ جس قدر کوشش اور وقت اور روپیہ ہم دنیاوی علوم کے حاصل کرنے کے لئے صرف کرتے ہیں ہم نے اور تم نے اپنے لئے اور اپنی اولاد کے واسطے قرآن کریم کو دستور العمل بنانے کی خاطر پڑھنے کے واسطے کس قدر نقدی، وقت اور دعاؤں کو خرچ کیا ہے؟ میں نے جب بعض لوگوں کو کہا ہے کہ قرآن شریف پڑھا کرو تو انھوں نے نہایت متانت اور شوق سے یہ جواب دیا ہے کہ کوئی عمدہ خوبصورت خوشخط چھپی ہوئی حمائل دے دو۔ جس سے میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ قرآن شریف کے لئے یہ لوگ گویا ایک اٹھنی یا روپیہ بھی خرچ کرنا نہیں چاہتے اور دوسری طرف مخرب اخلاق ناولوں اور افسانوں کے خریدنے میں صد ہا روپیہ بھی خرچ کر دیں تو مضائقہ نہیں آہ! یَلَيْتَ قَوْحِي يَعْلَمُونَ (یس: ۲۷) غرض انسان کو واجب ہے اور ہم کو بہت ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کی طرف بہت توجہ کریں بجز اس تعلیم کے اور یہ تعلیم بھی دستور العمل کے لئے ہو تو مفید ہے۔ بجز اس کے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اور اس کے لئے یہ موقع اور وقت بہت ہی عجیب ہے ایک قوم

☆ فٹ نوٹ: خوش قسمتی سے ایک مرتبہ ہم کو حضرت حکیم الامت کا کتب خانہ سرسری طور پر دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ان کتابوں میں مسلمانوں کے اسباب تنزل پر ایک ریفارمر کا لیکچر موجود تھا۔ اس پر حکیم الامت نے ٹائٹل بیج پر یہ لکھا ہوا تھا۔ رَبِّ اِنَّ قَوْحِي اتَّخَذَ وَاهِدًا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (الفرقان: ۳۱) اس کا مفہوم یہ تھا کہ مسلمانوں کے تنزل کا اصل باعث ہجر قرآن کریم ہے۔ (ایڈیٹر)

اس وقت غافل اور بے خبر ہے اور ہم چشم دید واقعات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک قوم نے قرآن کو عملی طور پر قصہ کہانی سمجھ رکھا ہے اور ایک ہماری قوم ہے جو قرآن کو زندہ کتاب سمجھتی ہے اور اس کی آیات کو اب بھی اسی طرح پاتی ہے۔ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت خیر القرون کے لوگ پاتے تھے۔ پس ہم زیادہ ذمہ دار اور جواب دہ ہیں ہم پر حجت پوری ہو چکی ہے۔ ہم میں خدا کا امام موجود ہے۔ بہت بڑی ضرورت اس امر کی کہ ہم قرآن کی تعلیم کی طرف توجہ کریں اور اس کے لئے یہ ایک راہ ہے کہ یہاں آکر ایک جماعت رہے اور وہ تعلیم حاصل کر کے واپس اپنی قوم میں جا کر تبلیغ کرے اور وہ مندر رہیں۔

میں دیکھتا ہوں کہ ہم نے ایک چھوٹا سا مدرسہ بطور امتحان بنایا ہے اس کی طرف بھی لوگوں کو بہت ہی کم توجہ ہے۔ حالانکہ یہ مدرسہ حضرت امام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خاص توجہ سے کھلا ہے۔ غرض ایک مرحلہ اور موقع یہ ہوتا ہے کہ مومن راستباز اور مامور کے حضور رہ کر اپنی اصلاح کرتا ہے اور اس کے پاک نمونہ اور پاک صحبت سے فیض حاصل کرتا ہے اور عملی طور پر قرآن کے حقائق اور معارف سے آگاہی پاتا ہے اور اس کے پاس رہ کر بھوک پیاس اور جواہلا اس پر آئیں ان کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو اسے حکم ہوتا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ** (التوبة: ۱۲۳)۔ اب اس کا یہ فرض ہو جاتا ہے کہ جوں جوں اسے کافر ملتے جاویں۔ ان کا مقابلہ کرے۔ پہلا کافر اس کا نفس ہے۔ نفس بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے خلاف اس کو ہدایتیں کرتا ہے اور ان راہوں کی طرف اسے لے جانا چاہتا ہے جو خدا سے دور پھینک دینے والی راہیں ہیں جن پر شیطان کا تسلط ہے۔ اس لئے پہلی کوشش اور پہلا مقابلہ خود اپنے نفس سرکش سے ہو اور اس کے جذبات سے بچتا رہے۔ خدا تعالیٰ کی رضا کو مقدم کرے۔ پھر وہ لوگ ہیں جو اس کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کا تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ خدا تعالیٰ سے کوئی تعلق یا رشتہ محبت کا نہیں رکھتے۔ مثلاً برادری یا قوم کے تعلقات ہیں۔ وہ برادری یا قومی رسم و رواج کے ماتحت اس سے وہ کرانا چاہتے ہیں جو اس کا خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت فرض نہیں بلکہ اس کے مخالف ہے۔ ایسے موقع پر اس کو چاہئے کہ وہ اس کا مقابلہ کرے اور قومی تعلقات یا سوسائٹی کا کوئی اثر اس کو خدا سے دور پھینک دینے کا موجب نہ ہو۔ پھر غیر قومی وہ بھی

اپنے کسی نہ کسی اثر کے ذریعہ اس کو خدا سے دور کرنا چاہیں تو یہ اپنی ایمانی قوت سے ان کا ایسا مقابلہ کرے کہ **أَشِدَّاءَ عَلَى الْكُفَّارِ** (الفتح: ۳۰) ہو جاوے کسی منکر کا اثر کوئی اس پر نہ پڑے۔ جیسے مضبوط چیز پر جو تک کام نہیں کر سکتی اسی طرح پر اللہ تعالیٰ کے ایمان اور محبت میں نتھارا وہ دل ہو کہ کافر کی عظمت و جبروت کسی قسم کا اثر اس پر نہ ڈال سکے اور خدا کی رضا کے خلاف کوئی کام نہ کر سکے۔ غلیظ کو دوسری جگہ شدید بھی فرمایا ہے اس کے معنی یہی ہیں کہ مومن کفار کے مقابلہ میں ایسا قوی ہو کہ اس کی کسی بات کا اثر اس پر نہ ہو۔ پھر انسان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ اپنے قوی، علم و دولت، جمعیت پر ناز کرتا ہے اور کبھی کبھی نیکی کی شکل میں بھی شیطان دھوکا دے دیتا ہے خوابوں اور الہاموں پر بھی گھمنڈ کر بیٹھتا ہے حالانکہ ان کی حقیقت سے بے خبر ہوتا ہے مگر یاد رکھو کہ یہ بھروسے، یہ ناز، یہ فخر کام نہیں دے سکتے۔ اصل بات جو انسان کو ہر حالت میں بچاتی اور اس کا ساتھ دیتی ہے وہ ایک ہی ہے جس کو تقویٰ کہتے ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ **أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ** اللہ تعالیٰ کی معیت بڑی نعمت اور دولت ہے اور مبارک ہے وہ جس کو یہ نعمت ملی لیکن اس کے حاصل کرنے کی ایک ہی راہ ہے کہ انسان متقی بن جاوے۔ ہمارے ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تشریف لے گئے اور کفار آپ کی تلاش میں وہاں تک آپہنچے تو جناب صدیق نے عرض کیا آپ نے کیا فرمایا۔ **إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا** (التوبة: ۴۰) اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب فرعون کے لشکر اور دریا کے نظارہ کو دیکھ کر گھبرائی اور **إِنَّا لَمُدْرِكُونَ** (الشعراء: ۶۲) کی آواز آتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ **كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ** (الشعراء: ۶۳) ہرگز نہیں۔ میرا رب میرے ساتھ ہے وہ با مراد کرے گا۔ غرض خدا کی معیت تقویٰ سے ملتی ہے جس کے ذریعہ انسان دشمنوں پر فتح مند ہوتا ہے۔ متقی کا خدا خود معلم ہوتا ہے اس کے لئے **مَنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ** (الطلاق: ۴) رزق دیا جاتا ہے۔ متقی خدا کا محبوب اور ولی ہوتا ہے متقی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پس ضرورت ہے اس امر کی تم متقی ہو۔ اپنے ایمان کا تجربہ کرو اور کوئی ذرا سا گند اور میل اس میں پاؤ تو اس کو نکالنے کی کوشش کرو۔ کیونکہ تم جانتے ہو اگر بہت سارے دودھ میں ایک قطرہ بھی پیشاب کا ڈال دیا جاوے وہ سارا نجس ہو جاتا ہے۔ اس لئے اگر کوئی ذرا سی کمزوری اور غلطی بھی محسوس کرو تو اس کے چھوڑنے کی فکر کرو۔ ہر روز اپنی کمزوریوں کا مقابلہ کرو۔ راست باز کا ساتھ دو۔ کوئی شاخ جو درخت

سے الگ ہو جاتی ہے وہ پھلدار نہیں ہو سکتی جب تک درخت کے ساتھ پیوند نہ ہو گیا وہ اسی کا ایک حصہ یا جزو ہے۔ جب خدا کا مامور کسی کام کے لئے حکم دے تو پھر بھوک، پیاس اور خرچ کا خیال مت کرو۔ تمہارے کام اس خدا کے لئے ہوں جو شکور، قدیر اور علیم خدا ہے۔ وہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ قرآن پڑھو مگر دستور العمل کے واسطے پڑھو اور قرآن چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کے تقاضا سے آیا ہے اس لئے وہاں آتا ہے جہاں کوئی عبد الرحمن ہو۔ اس کے پاس رہو تاکہ اس کے اپنے اطوار نشست و برخواست سے تم خدا تعالیٰ کے کلام کو سیکھ سکو۔ وہ اپنے طرز عمل سے اس قدر سکھا دیتا ہے جو برسوں میں بھی حاصل نہ ہو۔ پھر اپنی قوم کے لئے منذر بنواس کو جا کر تبلیغ کرو۔ نذیر و بشیر ہو کر جاؤ اور ان سب باتوں کے لئے آخر ایک ہی طریق ہے کہ خدا تعالیٰ سے توفیق چاہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تم سب کو جو یہاں موجود ہیں اور ان کو جو ان باتوں کو کسی اور ذریعہ سے سنیں۔ اعمال صالحہ کی توفیق دے۔ آمین ^{۱۳}



- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| ۱۔ الحکم ۱۷ اگست ۱۹۰۳ء صفحہ ۴ | ۲۔ الحکم ۲۴ اگست ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۵، ۱۶ |
| ۳۔ الحکم ۳۱ اگست ۱۹۰۳ء صفحہ ۹، ۱۰ | ۴۔ الحکم ۳۰ ستمبر ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۳ |
| ۵۔ الحکم ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۰، ۱۱ | ۶۔ الحکم ۱۰ جنوری ۱۹۰۴ء صفحہ ۵، ۶ |
| ۷۔ الحکم ۱۷ جنوری ۱۹۰۴ء صفحہ ۱۵، ۱۶ | ۸۔ الحکم ۲۴ جنوری ۱۹۰۴ء صفحہ ۷ |
| ۹۔ الحکم ۱۰ فروری ۱۹۰۴ء صفحہ ۴ | ۱۰۔ الحکم ۱۷ فروری ۱۹۰۴ء صفحہ ۷، ۸ |
| ۱۱۔ الحکم ۲۴ فروری ۱۹۰۴ء صفحہ ۴، ۵ | ۱۲۔ الحکم ۱۰ مارچ ۱۹۰۴ء صفحہ ۴ |
| ۱۳۔ الحکم ۱۷ مارچ ۱۹۰۴ء صفحہ ۴ | |

قرآن کریم، اس کے حقائق و معارف اور اعلیٰ تعلیم

﴿تقریر فرمودہ ۱۲ نومبر ۱۸۹۹ء بعد نماز ظہر بتقریب جلسۃ الوداع﴾

الحکم کی گزشتہ اشاعتوں میں حضرت حکیم الامت کا وعظ جلسۃ الوداع کی تقریب پر ہم درج کر چکے ہیں۔ ۱۲ نومبر ۱۸۹۹ء بعد نماز ظہر حکیم الامت نے دوسرا وعظ کیا جس کو ہم آج سے شروع کرتے ہیں۔ (ایڈیٹر الحکم)

سورة البقرہ کا پہلا رکوع۔

یہ ابتدا ہے اس پاک کتاب کی جس کا نام نور رکھا ہے اور فضل، شفاء، رحمت اور ہدایت کہا ہے۔ وہ پاک کتاب جو اختلاف مٹانے کے واسطے حَکَمٌ ہو کر آئی ہے۔ وہ کتاب جس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ کل صدائقوں کا مجموعہ ہے خواہ وہ اس سے پہلے دنیا کی کسی کتاب میں موجود تھیں یا اس کے بعد تصنیف ہونے والی کتابوں میں ہوں۔ غرض راستی کا کوئی ٹکڑا اور حصہ کہیں اور کسی کے پاس ہے تو قرآن شریف میں بالضرور موجود ہے اور پھر قرآن شریف ان تمام صدائقوں کا جامع ہی نہیں بلکہ ان کا محافظ مفسر اور ان کو مدلل بیان کرنے والا ہے۔

یہ خیالی اور خوش کن بات نہیں کہ قرآن شریف کل صدائقوں کا مجموعہ ہے بلکہ قرآن شریف نے بڑے دعوے اور ناز کے ساتھ اس کو پیش کیا ہے۔ چنانچہ مولا کریم فرماتا ہے۔ **فِيهَا كُتِبَ قِيَمَةٌ** (البینۃ: ۴) جس قدر سیدھا کرنے والی مضبوط اور مستحکم کتابیں ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں۔ اس لئے میں قرآن شریف پر عرصہ دراز تک تدبیر کرنے اور خشیت اللہ کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے کے بعد تحدی کرنے کے لئے تیار ہوں کہ کوئی سچائی اور پاک تعلیم دنیا کی کسی کتاب اور کسی زبان میں پیش کرو۔ قرآن شریف میں وہ ضرور موجود ہوگی۔ یہ تو اس کتاب کی شان ہے۔ پھر اس کتاب کے لانے والے کی شان کو سوچو تو اور بھی عظمت اس پاک کتاب کی پیدا ہوتی ہے۔ جناب الہی نے ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا۔ **نَوَاقِلُكُمْ وَمَا يَنْطُرُونَ** (القلم: ۲) یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس قدر دوایتیں اور قلمیں مل سکتی ہیں اور پھر جو کچھ ان سے لکھا جاوے۔ وہ سب کی سب تحریریں

اس امر پر شاہد ہوں گی۔ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (القلم: ۳) تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجنون نہیں ہے۔ پھر یہ زرادعویٰ ہی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ایک دلیل بھی دی ہے کہ مجنون کے افعال و اعمال اس کی حرکات و سکنات کا کوئی نتیجہ واقعی نہیں ملتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل و حرکت ہر بات کا ثمرہ ملتا ہے اور اس سے پاک نتیجہ ملتا ہے۔ ساری رات پاگل چلا تا رہے لیکن اس کا نتیجہ کیا؟ کچھ بھی نہیں برخلاف اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فرمایا۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (القلم: ۴) اور یہ بھی زرادعویٰ ہی نہیں کہ کہہ دیا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ آپ کی پاک سیرت اور واقعات زندگی پر نظر کرو کہ کس قدر اجر ملا۔ کیا یہ چھوٹی سی بات ہے کہ وہ مکہ جہاں سے بداندیشوں کی ریشہ دوانیوں اور آئے دن کی ایذا رسانیوں سے آپ کو ہجرت کرنی پڑی۔ آخر آپ اس پر ایک فاتح سلطان کی طرح قابض ہوئے اور دس ہزار قدوسیوں کی جماعت کے ساتھ داخل ہوئے۔ کسی نبی کی زندگی میں یہ بے نظیر کامیابی اور جلال نظر نہیں آتا۔ مسیح کہتا ہے کہ کوئی نبی بے عزت نہیں ہوتا مگر اپنے وطن میں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے واقعات بتاتے ہیں کہ آخر آپ نے مکہ معظمہ میں کس قدر عزت و عظمت حاصل کی۔ پھر آپ کے لئے یہ جزا کیا کم ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک بھی آپ کا دشمن باقی نہ رہا۔ یا تو وہ ذلت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور یا آپ کے خدام میں داخل ہو گئے۔ اس کامیابی کی بھی کوئی نظیر تلاش کرنے پر کبھی نہیں ملے گی۔

پھر کیا آپ کے افعال کا یہ مُزد کم ہے کہ جس غرض اور مقصد کے لئے مبعوث ہوئے تھے۔ اس میں پورے طور پر کامیاب ہو گئے۔ مکہ معظمہ میں جہاں گھر گھر ایک بت خانہ بنا ہوا تھا۔ ایک خدا کی عبادت کا سکہ بٹھا دینا چھوٹی سی بات نہیں۔ یہ ایسی عظیم الشان بات ہے کہ میں نے مختلف ہادیان مذہب کی زندگیوں اور بڑے بڑے ریفارمر کے حالات میں غور کی ہے مگر میں سچ کہتا ہوں کہ ایسا نمونہ کامیابی کا مجھے نہیں ملا۔ ایک ذرا سی رسم یا رواج کا اٹھا دینا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں صدیوں کے بیٹھے ہوئے غلط اعتقادات کو ملیا میٹ کیا ہے اور عرب کی حالت کو بالکل پلٹا دیا ہے۔ جو جو لوگ عرب کی اس حالت سے واقف ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پیشتر تھی اور پھر جنہوں نے اس انقلاب پر نظر کی ہے جو آپ کی بعثت سے ہوا وہ حیران رہ گئے ہیں کہ اس قدر تغیر عظیم انسانی

طاقت سے باہر ہے۔ بہر حال کیا یہ جزا یہ نتیجہ حسنہ یہ ثمر شیریں آپ کے افعال کا کچھ کم ہے؟ پھر کیا یہ جزا کچھ کم ہے کہ آج روئے زمین پر ایک ارب کے قریب مسلمان موجود ہیں جو آپ کی امت کہلانے پر فخر کرتے ہیں؟ پھر آپ کے افعال کا یہ ثمرہ کیا کم ہے کہ ہر وقت اور ہر گھڑی دنیا کے ہر قطعہ اور ہر حصہ پر اللہم صلّ علی محمد وعلی ال محمد وبارک و سلم پڑھا جاتا ہے اور اس طرح پر آپ کے مدارج آپ کے کمالات ترقی کر رہے ہیں۔

پھر آپ کے لئے یہ کیا بدلہ کم ہے؟ کہ اپنی ہی زندگی میں **الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ** **وَآتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي** (المائدة: ۴) کی صدا آپ کو آئی۔ پھر یہ آواز کس کی زندگی میں آئی کہ **وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا** (النصر: ۳)۔ یہ ہیں آپ کے افعال و حرکات و سکنات کے مختصر نتائج اور اگر میں اس مضمون کی تفصیل کروں تو بہت وقت چاہئے۔ اس لئے اسی قدر پر کفایت کرتا ہوں۔

اب دوسرا مقابل غور یہ ہے کہ پاگل کے اخلاق فاضلہ نہیں ہوتے۔ اس میں کوئی حُلق ہوتا ہی نہیں۔ وہ ایک وقت دوستوں کو گالیاں دیتا ہے اور دشمنوں سے پیار کرنے لگتا ہے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا۔ **وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ** (القلم: ۵) اے رسول! تو اعلیٰ درجہ کے اخلاق پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کی تفسیر اور تشریح بھی کوئی چھوٹا سا کام نہیں۔ آپ کے اخلاق قیامت تک کے لئے اسوہ حسنہ قرار پائے ہیں اور کُل دنیا کے لئے ہر طبقہ ہر عمر اور ہر حالت کے لئے ان میں نمونہ کامل موجود ہے پھر یہ کیونکر ممکن ہے کہ آپ کے اخلاق فاضلہ کا بیان میں چند گھنٹوں میں ختم کر سکوں۔

غرض یہ اسی کتاب کا ابتدا ہے۔ جس کا لانے والا اتنا بڑا عظیم الشان اور جلیل القدر کامل انسان ہے۔ میں نے دنیا کی بہت سی کتابیں پڑھی ہیں اور بہت ہی پڑھی ہیں۔ مگر ایسی کتاب دنیا کی دلربا راحت بخش لذت دینے والی جس کا نتیجہ دکھ نہ ہونہیں دیکھی۔ جس کو بار بار پڑھتے ہوئے، مطالعہ کرتے ہوئے اور اس پر فکر کرنے سے جی نہ اکتائے طبیعت نہ بھر جائے اور یا بد خود لاکتا جائے اور اسے چھوڑ نہ دینا پڑا ہو۔ میں پھر تم کو یقین دلاتا ہوں کہ میری عمر میری مطالعہ پسند طبیعت کتابوں کا شوق اس امر کو ایک بصیرت اور کافی تجربہ کی بنا پر کہنے کے لئے جرأت دلاتے ہیں کہ ہرگز ہرگز کوئی

کتاب ایسی موجود نہیں ہے۔ اگر ہے تو وہ ایک ہی کتاب ہے وہ کوئی کتاب!

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ (البقرة: ۳)۔ کیا پیرانا نام ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ قرآن شریف کے سوا کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ اس کو جتنی مرتبہ پڑھو۔ جس قدر پڑھو اور جتنا اس پر غور کرو اسی قدر لطف اور راحت بڑھتی جاوے گی۔ طبیعت اکتانے کی بجائے چاہے گی کہ اور وقت اسی پر صرف کرو۔ عمل کرنے کے لئے کم از کم جوش پیدا ہوتا ہے اور دل میں ایمان، یقین اور عرفان کی لہریں اٹھتی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ دنیا میں ایسے افراد بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم سے ان کو لذت نہیں آئی۔ مگر وہ یہ کیوں کہتے ہیں؟ شامت اعمال کی وجہ سے، بدکاریوں اور اعتدا کی سبب سے۔ قرآن شریف میں اسے ہی لذت نہیں آسکتی جو ایک گندی زیت رکھتا ہے۔ چونکہ وہ بیمار دل ہوتا ہے اس لئے جیسے ایک مریض بعض اوقات اپنا ذائقہ تلخ ہونے کی وجہ سے مصری کو بھی تلخ بتاتا ہے۔ وہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے اس سے لذت نہیں آتی! اس کے کہنے پر کیا انحصار ہے۔ خدا تعالیٰ نے خود فیصلہ کر دیا ہے۔

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ لَّعَلَّهُمْ اللَّهُ مَرَضًا (البقرة: ۱۱) اور پھر صاف صاف ارشاد کر دیا لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْأُمَّاطُهُ رُونَ (الواقعة: ۸۰) جس جس قدر انسان پاکیزگی، تقویٰ اور طہارت میں ترقی کرے گا۔ اسی قدر قرآن شریف کے ساتھ محبت اس کے مطالعہ اور تلاوت کا جوش اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور قوت اسے ملے گی۔ لیکن اگر خدا تعالیٰ کے احکام اور حدود کی خلاف ورزی میں دلیری کرتا ہے اور گندی صحبتوں اور ناپاک مجلسوں اور ہنسی ٹھٹھے کے مشغلوں سے الگ نہیں ہوتا وہ اگر چاہے کہ اس کو قرآن شریف پر غور و فکر کرنے کی عادت ہو، تدبیر کے ساتھ اس کے مضامین عالیہ سے حظ حاصل کرے۔ ایں خیال است و محال است و جنون

ایسے لوگوں کو قرآن کریم سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال تمہیں چشم دید بتاتا ہوں۔ ایک شخص قرآن شریف کا حافظ تھا۔ اسے قرآن شریف سے بڑی محبت اور عشق تھا۔ وہ اتفاقاً ایک لڑکے پر عاشق ہو گیا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن شریف سے جو لذت اس کو آتی تھی وہ جاتی رہی۔ تھا سعید الفطرت اس نے اس کمی کو محسوس کیا اور دعائیں کرنے لگا۔ عرصہ دراز تک وہ دعاؤں میں لگا رہا۔ آخر سالہا سال کے بعد اس کی دعاؤں نے اپنا نتیجہ پیدا کیا اور خدا تعالیٰ نے اس کو تنبیہ کی اور

بتایا کہ یہ لذت قرآن اسی غلطی کی وجہ سے جاتی رہی ہے جو تو نے ایک لڑکے کو پسند کرنے میں کی ہے۔ اسی سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن شریف سے لذت اٹھانے کے واسطے کس قدر طہارت اور پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ **وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ كُمْ اللَّهُ (البقرة: ۲۸۳)** تقویٰ اختیار کرو۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ تمہارا معلم ہو اور قرآن شریف تمہیں پڑھاوے۔

غرض یہ بالکل سچی بات ہے کہ دنیا میں یہی ایک کتاب ہے جس کی تلاوت جس کا تکرار گھنٹوں، دنوں، ہفتوں، مہینوں اور سالوں کا تدبیر انسان کو گھبراتا نہیں بلکہ زیادہ خوش اور زیادہ جوش اور عشق اس مجاہدہ کتاب اللہ کے لئے عطا کرتا جاتا ہے۔ ہزاروں ہزار اولیاء اور صلحاء اور اکابر امت گزرے ہیں جنہوں نے اس نتیجہ کو اپنے حالات زندگی سے صحیح پایا ہے۔ تاہم میں اپنے تجربہ کی بنا پر کہتا ہوں کہ قرآن شریف سے بڑھ کر راحت بخش کوئی کتاب اور اس کا مطالعہ نہیں ہے۔ مگر آہ! درد دل سے کہتا ہوں اسی راحت بخش کتاب کو آج چھوڑ دیا گیا ہے۔ **رَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (الفرقان: ۳۱)**۔ اے میرے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ مجھے قرآن اس قدر محبوب ہے کہ میں بار بار اس کا تذکرہ کرنا اس کا پیارا نام لینا اپنی غذا سمجھتا ہوں اور اسی دھن اور کو میں ابھی تک میں نے اس مضمون پر جو میں نے شروع کیا تھا کچھ بھی نہیں کہہ سکا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض آدمی میرے اس قسم کے طرز بیان کو پسند نہ کرتے ہوں مگر میں کیا کروں میں مجبور ہوں اپنے عشق کی وجہ سے بار بار اپنے محبوب کے تذکرہ سے ایک لذت ملتی ہے کہے جاتا ہوں۔

حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کا علم کتنا بڑا وسیع ہے اور آپ کی نظر کیسی باریک اور عمیق ہے۔ کسی نے صحابہ میں سے آپ سے لائف آف محمدؐ پوچھی ہے کیونکہ بیرونی حالت تو لوگ دیکھتے تھے۔ آپ کے معاملات کا بھی علم تھا جو وہ صحابہ اور دوسرے لوگوں سے کرتے تھے غرض گھر کے باہر کی لائف صحابہ کے پیش نظر تھی مگر اندرونی لائف، اندرونی معاملات کا علم کسی کو نہیں تھا۔ اس لئے نہایت سے نہایت بے تکلف رشتہ میاں اور بی بی کا ہوتا ہے۔ صحابہ نے بیرونی معاملات اور حالات کے لئے اپنی اور اپنے احباب کی آنکھیں کافی سمجھ کر حضرت صدیقہ سے پوچھا ہے کیونکہ صدیقہ سے بڑھ کر

آپ کی پاک لائف کا کوئی گواہ نہ تھا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس سوال کا کیا لطیف جواب دیا۔ كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ (مسلم کتاب الصلوٰۃ باب جامع صلوة اللیل) یعنی قرآن شریف ایک علم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عامل ہیں۔ گویا یہی آپ کی لائف ہے۔ اسی طرح پر میری رائے نے فیصلہ کر لیا ہے کہ قرآن شریف سے بڑھ کر کوئی کتاب قابل مطالعہ نہیں۔ کیونکہ ساری دنیا اور مخلوق پر اس نسخہ کا تجربہ ہو چکا ہے اور اس کے طبیب (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خوبیاں اور کمالات ظاہر ہو چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد اور کیا باقی رہ سکتا ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ (یونس: ۳۳) حق کے بعد بجز ہلاکت اور گمراہی کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ ہم اسی پاک کتاب کو اپنا محبوب بنائیں اور دنیا کی ساری کتابوں کو اس پر شاکر کر دیں۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قرآن شریف کے ساتھ عشق و محبت کے اتنے ہی معنی نہیں ہیں کہ ایک عمدہ قرآن شریف لے کر اس کی سونے کی جدول بنوا کر اور عمدہ جلد کرا کے ایک ریشمی غلاف میں بند کر کے ایک کھوٹی کے ساتھ لٹکا دیا اور کبھی اسے کھول کر بھی نہ دیکھا کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ یا اگر کھول کر دیکھا بھی تو اس کی غرض صرف اس قدر سمجھ لی کہ اس کی معمولی تلاوت کافی ہے۔ اگر کوئی شخص اسی قدر سمجھتا ہے تو وہ سخت غلطی کھاتا ہے اور وہ قرآن شریف کی عزت و عظمت کا حق ادا نہیں کرتا اور نہ اس کی تلاوت کے اصل مقصد کو پاتا ہے یا درکھو کہ تلاوت کا اصل مقصد قرآن شریف پر عمل کرنا ہے۔

اگر کوئی عمل نہیں کرتا اور عمل درآمد کے واسطے اسے نہیں پڑھتا تو اسے کچھ بھی فائدہ اس تعظیم سے نہیں ہوگا۔ دیکھو کوئی انسان جس کے پاس حاکم وقت کا کوئی پروانہ آئے تو کیا اگر وہ اسے زرا افشاں کا غدوں پر لکھ کر رکھ چھوڑے اور اس کی تعمیل نہ کرے تو وہ حاکم محض اس وجہ سے کہ اس کا غذ کی اتنی عزت کی وہ اس سے باز پرس نہ کرے گا؟ ضرور کرے گا اور اس تعظیم کے ساتھ قانونی سلوک کیا جاوے گا اور اس کے اس عذر پر کہ میں نے تو اس کو زرا افشاں کا غذ پر لکھ کر رکھا ہوا ہے۔ اسے پاگل خانے میں بھیج دینے کے قابل سمجھا جاوے گا۔ پھر اس سے اتر کر اپنے احباب متعلقین اور رفقاء کے خطوط پر نظر کرو۔

ایک دوست کا خط آتا ہے تو کس بے صبری اور غور کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کی جاتی

ہے۔ اگر خود نہیں پڑھ سکتا تو اس شخص کی خوشامد اور منت کی جاتی ہے جو اس کو پڑھ دے۔ پھر صرف ایک مرتبہ ہی پڑھ لینے پر صبر نہیں آتا بلکہ حتی الوسع دو دو تین تین مرتبہ اس کو پڑھا اور سنایا جاتا ہے اور اس کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کی تعمیل کی جاوے نہ یہ کہ اس کو عمدہ طور پر سنبھال کر رکھ لیا جاوے اور اس امر کی کچھ پروا نہ کی جاوے کہ اس کی تعمیل بھی کرنی ہے۔

یہ ایک فطرتی امر ہے جو ہر انسان میں پایا جاتا ہے اور تم میں سے ہر ایک اس کا تجربہ کار ہوگا۔ ایسے موقع پر کبھی یہ بھی دیکھا نہیں جاتا کہ کوئی مجبوری یا مشکل درپیش ہے بلکہ جس قدر جلد ممکن ہو سکتا ہے اس کے تعمیل کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب ولایتی ڈاک کے آنے کا دن ہوتا ہے تو انگریز ڈاکخانوں میں بڑی تیزی اور سرعت اور بیقراری کے ساتھ دوڑے جاتے ہیں اس لئے کہ وہ اس ڈاک میں اپنے عزیز رشتہ دار یا کسی اور دوست کے خط کے متوقع ہوتے ہیں اور پھر اسی ڈاک میں ان کو جواب دینا ہوتا ہے جو ولایت کو جانے والی ہوتی ہے یہ تیزی یہ اضطراب ان میں کیوں ہوتا ہے؟ اس لئے کہ ان کی فطرت میں یہ ایک طبعی جوش ہوتا ہے جو ان پر اتمام حجت کرتا ہے۔ پھر تعجب اور حیرت کی بات ہے کہ ایک معمولی دوست اور رشتہ دار کے خط کی تعمیل کے لئے اس میں اس قدر جوش ہو مگر خدا تعالیٰ کی کتاب احکم الحاکمین کی پاک کتاب کی تعمیل کے لئے وہ جوش اور اخلاص نہ ہو؟!

پھر اس بات پر بھی غور کرنا چاہئے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اس پاک کتاب کے پہنچانے میں کیا کیا مصائب اور مشکلات برداشت کیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک لائف پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس پاک کلام کو لوگوں تک پہنچانے میں اپنی جان تک کی پروا نہیں کی۔ کئی زندگی جن مشکلات کا مجموعہ ہے وہ سب کی سب اسی ایک فرض کے ادا کرنے کی وجہ سے آپ کو برداشت کرنی پڑی ہیں۔ لکھا ہے کہ جب مکہ کے شریروں اور کفار نے آپ کے پیغام کو نہ سنا تو آپ طائف تشریف لے گئے اس خیال سے کہ ان کو سنائیں اور شاید ان میں کوئی رشید اور سعید ایسا ہو جو اس کو سن لے اور اس پر عملدرآمد کرنے کو تیار ہو جائے۔ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام طائف پہنچے تو آپ نے وہاں کے عمائد سے فرمایا کہ تم میری ایک بات سنو۔ لیکن ان شریروں قسی القلب لوگوں نے آپ کا پیچھا کیا اور نہایت سختی کے ساتھ آپ کو رو کر دیا۔ اینٹیں اور

پھر مارتے جاتے تھے اور آپ آگے آگے دوڑتے جا رہے تھے۔ یہاں تک کہ آپ بارہ کوس تک بھاگے چلے آئے اور پتھروں سے آپ زخمی ہو گئے۔ ان تکالیف اور مصائب کو آپ نے کیوں برداشت کیا؟ آپ خاموش ہو کر اپنی زندگی آرام سے گزار سکتے تھے پھر وہ بات کیا تھی جس نے آپ کو اس امر پر آمادہ کر دیا کہ خواہ مصیبتوں کے کتنے ہی پہاڑ کیوں نہ ٹوٹ پڑیں لیکن امر الہی کے پہنچانے میں آپ تساہل نہ فرمائیں گے۔ قرآن شریف سے ہی اس کا پتہ چلتا ہے آپ کو حکم ہوا تھا **بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ (المائدہ: ۶۸)** جو کچھ تیری طرف نازل کیا گیا ہے اسے مخلوق الہی کو پہنچا دے اور **فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ (الحجر: ۹۵)** جو تجھے حکم دیا جاتا ہے اس کو کھول کھول کر سنا دے۔ اس پاک حکم کی تعمیل آپ کا مقصود خاطر تھا اور اس کے لئے آپ ہر ایک آفت اور مصیبت کو بہرہ راجان برداشت کرنے کو آمادہ تھے۔ پھر قرآن شریف کے تو تمہیں سپارے ہیں اور ان میں ہزاروں ہزار مضامین ہیں جن کو پہنچانا آپ کا ہی کام تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی تائید شامل حال نہ ہو اور اس کی نصرت ساتھ نہ ہو تو پشت شکن امور پیش آجاتے ہیں۔ اس زمانہ میں ہی دیکھ لو کہ ایک توفیقی کے امر کو پیش کرنے میں کس قدر فتنیں اندرونی اور بیرونی لوگوں کی طرف سے پیش آرہی ہیں اور کیا کیا منصوبے اور تجویزیں مخالفوں کی طرف سے آئے دن ہوتی رہتی ہیں۔ اور وہ شخص جو مسیح موعود کے نام سے آیا ہے اور اس پیغام کو پہنچانا چاہتا ہے وہ بھی بالمقابل ان کی تکلیفوں اور اذیتوں کی کچھ پروا نہیں کرتا وہ تھکتا اور ماندہ نہیں ہوتا۔ اس کا قدم آگے ہی آگے پڑتا ہے اور اس مضمون کے پہنچانے میں کوئی سستی نہیں کرتا۔ کوئی ذکر ہو اندر ہو باہر ہو آخر اس کے کلام میں یہ بحث ضرور آجاتی ہے اور پھر مخالفوں کی کوششیں ادھر اس کی مساعی جیلہ اس پر دعائیں کرتا ہے۔ کتاہیں لکھتا ہے تقریریں کرتا ہے غرض کیا ہے؟ **إِنِّي مُؤَقِّلُكَ (ال عمران: ۵۶)** کے حقیقی معنی لوگوں کے ذہن نشین ہو جائیں کیوں؟ اس موت سے خدا تعالیٰ کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اسلام کی زندگی اور قرآن کریم کی زندگی ثابت ہوتی ہے اور یہ قرآن شریف کی اعلیٰ درجہ کی خدمت ہے۔

غرض قرآن شریف وہ پاک اور مجید کتاب ہے جس کی اشاعت اور تبلیغ کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کو وہ محنت کرنی پڑی اور آج اس زمانہ کے امام اور خاتم الخلفاء کو وہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ پھر اس سے اصل غرض یہی ہے کہ قرآن شریف کا حقیقی علم پیدا ہو اور اس پر عمل کیا جائے۔

قرآن شریف کے حقائق قرآن شریف کی صداقتیں اس کی اعلیٰ تعلیم اور معرفت کی باتیں کوئی گورکھ دھندا نہیں ہیں جو کسی کو معلوم نہ ہوں۔ نہیں بلکہ ہر شخص اپنے ظرف اپنے عزم و استقلال اور محنت و مساعی کے موافق اس سے فائدہ اٹھاتا ہے خود اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنكبوت: ۷۰) جو لوگ ہم میں ہو کر مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان پر اپنی راہیں یقیناً یقیناً کھول دیتے ہیں۔ یہ بالکل سچی بات ہے مولیٰ کریم تو اس وقت ہر متنفس کو یہ حقائق اور صداقتیں دکھا دیتا ہے جب وہ خدا تعالیٰ میں ہو کر کسی صداقت کے پانے کے لئے اضطراب ظاہر کرتا اور اس کے لئے سچی تلاش کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو مجاہدہ تو کرتے ہیں لیکن وہ مجاہدہ خدا میں ہو کر نہیں کرتے بلکہ اپنی تجویز اور عقل سے کوئی بات تراش لیتے ہیں اور جب اس میں ناکام رہتے ہیں تو پھر کہہ دیتے ہیں کہ ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ اس کی اپنی غلطی اور کمزوری ہے اور وہ الزام خدا تعالیٰ اور اس کی پاک کتاب پر رکھتے ہیں۔

میں نے دیکھا ہے کہ قرآن شریف کا علم صرف و نحو کی کتابوں کے رٹنے پر موقوف نہیں ہے۔ بدیع و معانی قرآنی علوم و حقائق کے لئے لازمی طور پر پڑھنے ضرور نہیں ہیں یا دوسرے علوم کے بغیر قرآن شریف کا سمجھ میں آنا ناممکن نہیں ہے۔ یہ خیالی باتیں ہیں اس قدر تو میں بے شک مانتا ہوں کہ جس قدر علوم اللہ سے انسان واقف ہوگا اور ان علوم میں جو قرآن کریم کے خادم ہیں دسترس رکھتا ہوگا وہ اس کے فہم قرآن میں ایک مدد و معاون ہوں گے لیکن اسی صورت میں کہ اس کا مجاہدہ مجاہدہ صحیح ہوگا۔ مجاہدہ صحیح کی تشریح بہت بڑی ہو سکتی ہے مگر مختصر طور پر یاد رکھو کہ قرآن شریف پڑھو اس لئے کہ اس پر عمل ہو۔ ایسی صورت میں اگر تم قرآن لکھو کر اس کا عام ترجمہ پڑھتے جاؤ اور شروع سے اخیر تک دیکھتے جاؤ کہ تم کس گروہ میں ہو کیا مُنْعَمٌ عَلَيْهِمْ ہو یا مَغْضُوبٌ هُوَ أَمْ يَأْتِيَنَا جَاءٌ يَكْفِيهِمْ۔ منعم علیہم بننے کے لئے سچی خواہش اپنے اندر پیدا کرو پھر اس کے لئے دعائیں کرو۔ جو طریق اللہ تعالیٰ نے انعام الہی کے حصول کے رکھے ہیں ان پر چلو اور محض خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے واسطے چلو۔ اس طریق پر اگر صرف سورۃ فاتحہ ہی کو پڑھ لو تو میں یقیناً کہتا ہوں کہ قرآن شریف کے نزول کی حقیقت کو تم نے سمجھ لیا اور پھر قرآن شریف کے مطالب و معانی پر تمہیں اطلاع دینا اور اس کے حقائق و معارف سے بہرہ ور کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور ایک صورت ہے

مجاہدہ صحیحہ کی۔

پھر میں نے انسانی فطرت اور اس کی بناوٹ پر نظر کی ہے میں نے دیکھا ہے کہ انسان کے اندر خوبیاں بھی ہیں اور کمزوریاں بھی ہیں۔ کمزوریاں اس میں کیوں ہیں؟ اس لئے کہ مغفرت کی شان دکھاوے اور اس کو تکبر سے بچاوے۔ ہر ایک شخص جس جس قدر اپنی کمزوریوں سے بچے گا اسی اسی قدر سکھ اور راحت اسے ملتا جاوے گا۔

مثلاً ایک شخص عام قوانین صحت کی پابندی کرتا ہے اس لئے اس کے نتیجہ میں اسے اتنا سکھ ضرور ملے گا کہ اس کی حالت صحت اچھی ہو۔ اگرچہ ممکن ہے کہ وہ ان اسباب اور ذرائع سے ناواقف ہو کہ کیوں اس کی صحت عمدہ ہے لیکن قانون الہی یہی ہے کہ وہ اس سے متمتع ہوگا اور فائدہ اٹھائے گا لیکن اس کے بالمقابل ایک شخص ہے خواہ وہ کیسا ہی عالم و فاضل ہو لیکن وہ قوانین حفظ صحت کو توڑتا ہے اس کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ اس کی حالت صحت بگڑ جائے۔

اس سے بڑھ کر ایک شخص خیانت، بدنظری، چوری، ڈاکہ زنی، قتل اور ان بدیوں سے جن کا تعلق عام لوگوں سے ہے اور اس کا اثر دوسری مخلوق پر پڑتا ہے بچتا ہے تو اس کو ایسے انداز کے موافق سکھ ملے گا اور اس کا دائرہ راحت وسیع ہو جائے گا لیکن ایک سستی کرتا ہے، اپنے کاروبار میں غفلت کر کے بنی نوع انسان کے حقوق تلف کرتا ہے۔ قتل و غارت، چوری خیانت سے کام لیتا ہے اسی قدر اس کے دکھ کا میدان وسیع ہو جائے گا۔ اپنے گھر میں حسن معاشرت سے کام لیتا ہے اس کو گھر کا سکھ حاصل ہوگا برخلاف عمل کرنے سے دکھ ملے گا۔ غرض جس جس پہلو اور جس جس جگہ تک انسان قوانین فطرتیہ کی پابندی کرتا ہے اسی حد تک وہ سکھ پاتا ہے۔ قرآن شریف انسان کو قوانین فطرتیہ پر عامل کرانا چاہتا ہے اور اس جوئے کے نیچے اس کو رکھنا چاہتا ہے جو بظاہر تکالیف اور پابندی کا جو نظر آتا ہے لیکن اس کے ماتحت ہو کر سچی خوشحالی اور حقیقی آزادی نظر آتی ہے۔ کوئی اس جوئے کو اپنی گردن پر رکھ لے اور پھر آزما کر دیکھ لے یہ کہنے کی بات نہیں۔ ہزاروں ہزار اور لاکھوں لاکھ اس کے نمونے دنیا میں گزر چکے ہیں اور گزرتے رہتے ہیں اور اب بھی ایک کامل نمونہ ہم میں موجود ہے۔ خوشی چاہتے ہو اور ضرور چاہتے ہو تو اس کی ایک ہی سبیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا کی باتوں کو معلوم کرو۔ وہ تمہیں قرآن شریف میں

ملیں گی۔ قرآن شریف کا فہم چاہتے ہو تو تقویٰ اختیار کرو۔ صادقوں کی صحبت میں رہو اور پھر مجاہدہ کرو وہ مجاہدہ جو اللہ تعالیٰ میں ہو کر ہو۔

تم جہاں ہو اس اصل کو کبھی مت بھولو کہ ہر روز اپنی غلطیوں اور کمزوریوں کا اندازہ اور امتحان کرو کہ کس قدر تم نے حقیقی نیکی کے کام کئے اور کس قدر بدیاں تم سے سرزد ہوئیں۔ پھر ان بدیوں کے اسباب پر نگاہ کرو اور ان کے ترک کی فکر کرو۔ نیکی کے متعلق بھی ایک عام دھوکا اور نفس کا مغالطہ بعض وقت پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک شخص ایک کام کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ نیکی کا کام ہے لیکن فی الحقیقت وہ کام اس کے لئے موجب عذاب ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی کہ وہ خدا تعالیٰ کی مرضی اور حکم کے ماتحت نہیں ہوتا۔ پس یاد رکھو کہ کوئی نیکی کبھی نیکی ہوتی ہی نہیں۔ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت اور امر کے ماتحت نہ ہو اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے موافق نہ ہو۔ ان دونوں باتوں کو اخلاص اور صواب کہتے ہیں اور یہ دونوں جب تک کسی فعل میں موجود نہ ہوں وہ فعل نیکی کا فعل نہیں کہلا سکتا۔ بہت سے لوگ ہیں جو خاص قسم کی نمازیں اور وظیفے پڑھتے ہیں اور ان کے ادا کرنے میں بعض اوقات وہ جماعت کی پابندی اور بروقت نماز پڑھنے سے بھی قاصر رہ جاتے ہیں۔ اب نماز یا ذکر ایک عمدہ فعل تھا لیکن چونکہ وہ اپنی ذاتی تجویز کے موافق اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت نہیں تو اسے کوئی نیکی کا فعل نہیں کہہ سکتے یا مثلاً صدقہ دینا اور زکوٰۃ نکالنا ایک عمدہ اور نیکی کا فعل ہے لیکن ایک اٹھتا ہے اور وہ اپنے مال سے پیران پیر کی گیارھویں نکالتا ہے۔ اس لئے وہ فعل اس کا نیکی کا فعل نہ ہوگا۔ اسی طرح پر بہت سی باتیں ہیں اور میں درد دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج کل مسلمانوں میں ایسی بدعتیں اور خرابیاں بہت سی پیدا ہو گئی ہیں اور قرآن شریف کی شریعت کے مقابلہ میں ایک نئی شریعت اور نیادین تجویز کر لیا گیا ہے اور باوجودیکہ ایسی خرابیوں اور غلطیوں میں مبتلا ہیں اور خود نئی شریعت کے مجوز اور عامل ہیں لیکن جو کہتا ہے کہ قرآن شریف پر عمل کرو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرو۔ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ نیادین پیش کرتا ہے العجب ثم العجب! بہت سے لوگ اپنے دنیوی کاموں میں ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں اور جس طرح بھی ممکن ہو ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں لیکن جب ضرورت دین کا موقع ہو اور اللہ تعالیٰ کے لئے ایک کام میں خرچ کرنا پڑے پھر انہیں ہزاروں ہزار عذر ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی بہانہ سے یہاں سے بچ جاویں

یا جو لوگ ناجائز مال حاصل کرتے ہیں اور رشوت وغیرہ سے کماتے ہیں پھر اپنی اس خطا کاری کے چھپانے کے واسطے اپنے نفس سے اس کے جواز کے حیلے اور عذر تراشتے ہیں اور اس کو حلال بنانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ہر قسم کی بدی کو کسی نہ کسی رنگ میں اپنے لئے جائز بنانے کی فکر کرتے ہیں۔ مجھے تعجب ہو جاتا ہے کہ جس قدر سعی اور فکر ان لوگوں کو ایک بدی کے جائز کرنے کے لئے کرنی پڑتی ہے اور وہ اس کوشش اور تدبیر سے جائز ہو بھی نہیں سکتی۔ اگر یہ اس سے بھی آدھی کوشش اس بدی کے چھوڑنے کے لئے کریں تو یہی نہیں کہ وہ بدی ان سے چھوٹ جاوے بلکہ اس کے بدلے میں وہ ایسی نیکی کی توفیق پالیں جو ان کو اس سے زیادہ سکھ اور اطمینان دے سکے جو اس بدی سے ان کو ہرگز ہرگز نہیں مل سکتا۔

انسان کے نیک یا بد ہونے کا امتحان اسی وقت ہوتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ کے واسطے اس کو کوئی کام کرنا پڑے۔ اپنی جگہ وہ اخلاق کا پتلا بنا ہوا ہوتا ہے اور راست بازی کے لئے مشہور ہوتا ہے لیکن کوئی مقدمہ ہو تو پھر جان و مال کو اس میں لگا دیتا ہے اور دشمن کو ذلیل کرنے کے لئے ہر ایک قسم کی جائز و ناجائز حرکتوں کو روا رکھتا ہے۔ غرض جس قدر انسانی فطرت اور اس کی کمزوریوں پر نظر کرو گے تو ایک بات فطرتی طور پر انسان کا اصل منشا اور مقصد معلوم ہوگی وہ ہے حصول سکھ، اس کے لئے وہ ہر قسم کی کوششیں کرتا اور ٹکریں مارتا ہے لیکن میں تمہیں اس فطرتی خواہش کے پورا کرنے کا ایک آسان اور مجرب نسخہ بتاتا ہوں کوئی ہو جو چاہے اس کو آزما کر دیکھ لے۔ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اس میں ہرگز ہرگز کوئی خطا اور کمزوری نہ ہوگی اور میں یہ بھی دعویٰ سے کہتا ہوں کہ جس قدر کوششیں تم ناجائز طور پر سکھ کے حاصل کرنے کے لئے کرتے ہو اس سے آدھی ہی اس کے لئے کرو تو کامل طور پر سکھ مل سکتا ہے وہ نسخہ راحت یہ کتاب مجید ہے اور میں اسی لئے اس کو بہت عزیز رکھتا ہوں اور اس وجہ سے کہ کامل مومن اس وقت تک انسان نہیں ہوتا جب تک اپنے بھائی کے لئے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لئے کرتا ہے۔ میں اس کتاب کا سنا بہت پسند کرتا ہوں۔ اس کتاب مجید کی یہ پہلی سورۃ ہے اور اس میں الحمد شریف کی گویا تفسیر ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ الحمد شریف کی تفسیر میں سے پہلی سورۃ ہے الحمد شریف کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء ظاہری اللہ، رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنِ، الرَّحِيمِ، مُلِکِ یَوْمِ الدِّینِ سے شروع فرمایا تھا اور اس سورۃ شریفہ کو اسماء باطنی سے شروع فرمایا یعنی اَللّٰہُ جَس

کے معنی ہیں اِنَّا اللّٰهُ اَعْلَمُ پھر الحمد شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایک کامل دعا تعلیم فرمائی تھی۔
 اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (الفاتحہ: ۶، ۷) یعنی ہم کو اقرب
 راہ کی جو تیرے حضور پہنچنے کی ہے راہ نمائی فرما۔ وہ راہ جو ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تیرا انعام ہوا یعنی
 نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحوں کی راہ۔

سورۃ فاتحہ میں یہ دعا تعلیم ہوتی ہے لیکن اس سورۃ بقرہ میں اس دعا کی قبولیت کو دکھایا ہے اور
 اس کا ذکر فرمایا جبکہ ارشاد الہی یوں ہوا۔ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ (البقرہ: ۳)
 یہ وہ ہدایت نامہ ہے یعنی متقی اور بامراد گروہ کا ہدایت نامہ ہاں اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ گروہ کی راہ یہی
 ہے۔ پھر منعم علیہ گروہ کے اعمال و افعال کا ذکر کیا اور ان کے ثمرات میں اُوْلٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ
 رَبِّهِمْ وَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (البقرہ: ۶) فرمایا ان کے افعال و اعمال میں بتایا کہ وہ الْغَيْبِ
 پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے میں سے خرچ کرتے
 ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحی اور کلام اور سلسلہ رسالت پر ایمان لاتے ہیں۔ جزا و سزا پر ایمان لاتے
 ہیں۔ یہ منعم علیہ گروہ کی راہ ہے۔

اب ہر ایک شخص کا جو قرآن شریف پڑھتا ہے یا سنتا ہے یہ فرض ہے کہ وہ اس رکوع سے آگے نہ چلے
 جب تک اپنے دل میں یہ فیصلہ نہ کر لے کہ کیا مجھ میں یہ صفات یہ کمالات ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو وہ مبارک
 ہے اور اگر نہیں تو اسے فکر کرنی چاہئے اور اللہ تعالیٰ سے رورو کر دعائیں مانگنی چاہئیں کہ وہ ایمان صحیح عطا فرماوے
 يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ (البقرہ: ۴) دراصل عقائد صحیحہ کو مشتمل ہے اور بِمَا اُنزِلَ اِلَيْكَ (البقرہ: ۵)
 مسئلہ رسالت اور الہام و وحی کے متعلق ہے اور بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ (البقرہ: ۵) جزا و سزا کے
 متعلق ہے۔ پھر ان اعمال و افعال کے ثمرات میں اُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (البقرہ: ۶) بتایا ہے۔

اگر انسان حقیقی کامیابی حاصل کرتا ہے اور بامراد ہو رہا ہے تو اسے خوش ہونا چاہئے کہ وہ
 اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے منعم علیہ گروہ کے زمرہ میں شامل ہے لیکن اگر نہیں تو پھر فکر کا مقام اور
 خوف کی جا ہے۔

پس قرآن کریم کی تلاوت کی اصل غرض یہی ہے کہ انسان اس پر عمل کرے۔ منعم علیہ گروہ کے
 ذکر کے بعد پھر بتایا کہ مَعْضُوْبٍ عَلَيْهِمْ کون لوگ ہیں ان کے کیا نشانات ہیں؟ اور ان کا انجام کیا

ہوتا ہے؟ ان کے عام نشانات میں سے بتایا کہ یہ وہ گروہ ہے جو تیرے انذار اور عدم انذار کو برابر سمجھتا ہے اور چونکہ وہ وجود و عدم وجود کو برابر سمجھتے ہیں اس لئے باوجود دیکھنے کے وہ نہیں دیکھتے اور باوجود سننے کے نہیں سن سکتے۔ دل رکھتے ہیں پر نہیں سمجھ سکتے۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔

عَذَابٌ أَلِيمٌ (البقرة: ۱۱) بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جو شخص آنکھ رکھتا ہے کیوں نہیں دیکھتا، کان رکھتا ہے کیوں نہیں سنتا؟ انہیں یاد رکھنا چاہئے کہ یہ نتیجہ ہے ایسے لوگوں کے ایک فعل کا۔ وہ فعل کیا ہے؟ انذار اور عدم انذار کو مساوی سمجھنا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص انگریزی زبان کو پڑھنے یا نہ پڑھنے کو برابر سمجھے تو وہ اس کو کب سیکھ سکتا ہے۔ اس صورت میں وہ اس زبان کی اگر کسی کتاب کو دیکھے تو بتاؤ اس دیکھنے سے اسے کیا فائدہ؟ اگر کسی دوسرے کو پڑھتے ہوئے سنے تو اس سننے سے کیا حاصل؟ دیکھو وہ دیکھتا ہے اور پھر نہیں دیکھتا ہے۔ سنتا ہے اور پھر نہیں سنتا۔ اسی طرح پر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مامور و مرسل کے انذار اور عدم انذار کو برابر سمجھتے ہیں تو وہ اس سے فائدہ کیونکر اٹھا سکتے ہیں کبھی نہیں۔ جب ایک چیز کی انسان ضرورت سمجھتا ہے تو اس کے لئے سعی اور مجاہدہ کرتا ہے اور پھر اس مجاہدہ پر ثمرات مترتب ہوتے ہیں لیکن اگر وہ ضرورت ہی نہیں سمجھتا تو اس کے قومی میں مجاہدہ کے لئے تحریک ہی پیدا نہیں ہوگی۔ یہ بہت ہی خطرناک مرض ہے۔ جو انسان رسولوں اور اللہ تعالیٰ کے ماموروں اور اس کی کتابوں کے وجود اور عدم وجود کو برابر سمجھ لے۔ اس مرض کا انجام اچھا نہیں بلکہ یہ آخر کار تکذیب اور کفر تک پہنچا کر عذاب الیم کا موجب بنا دیتا ہے۔ پس تلاوت کرنے والے کو پھر اس مقام پر سوچنا چاہئے کہ کیا میں خدا کے رسول و مامور کے انذار اور عدم انذار کو مساوی تو نہیں سمجھتا؟ کیا میں اس کی باتوں پر توجہ تام کرتا ہوں اور کان لگا کر سنتا ہوں اور سوچتا ہوں؟ انذار و عدم انذار کے مساوات کی یہی صورت نہیں ہوتی جو آدمی زبان سے کہہ دے بلکہ اگر رسول کے فرمودہ کے موافق عمل نہ کرے تو یہی ایک قسم کا انذار اور عدم انذار کی مساوات ہے۔

پھر النَّصَّالِ کی تفسیر بیان فرمائی کہ یہ لوگ کون ہوتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ میں جو دعا تعلیم کی تھی اس میں ضالین کی راہ سے بچنے کی دعا تھی اور یہاں ان لوگوں کے حالات بتائے کہ وہ کون ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی لئے فرمایا أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ فَمَا رِيحَتْ تَبَارَهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (البقرة: ۱۷) یعنی یہی

وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو مول لے لیا ہے۔ پس ان کی تجارت ان کے لئے سود مند تو نہ ہوگی اور وہ کب بامراد ہو سکتے تھے۔

ان لوگوں کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ زبان سے تو ایمان باللہ اور یوم الآخر کی لاف و گزاف مارتے ہیں مگر خدا تعالیٰ کا فیصلہ ان کے حق میں یہ ہے مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (البقرة: ۹) اس سے ایک حقیقت کا پتہ لگتا ہے کہ انسان اپنے منہ سے اپنے لئے خواہ کوئی نام تجویز کر لے اس نام کی کوئی حقیقت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک آسمان پر کوئی مبارک نام نہ ہو اور یہ امر اس وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ انسان اپنے ایمان کے موافق اعمال بنانے کی کوشش کرے۔ ایمان جب تک اعمال کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا کوئی سود مند نہیں ٹھہر سکتا اور اگر نرا ایمان رکھ کر انسان اعمال اس کے موافق بنانے کی کوشش نہ کرے تو اس سے مرض نفاق پیدا ہوتا ہے۔ جس کا اثر آخر یہاں تک ہو جاتا ہے کہ نہ قوت فیصلہ باقی رہتی ہے اور نہ تاب مقابلہ۔ ان لوگوں کے دوسرے آثار اور علامات میں سے بیان کیا کہ وہ مفسد علی الارض ہوتے ہیں اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ کرو تو وہ اپنے آپ کو مصلح بتاتے ہیں حالانکہ وہ بڑے بھاری مفسد ہوتے ہیں۔

اس طرح پر الضَّالِّ کی ایک تفسیر ختم کر دینے کے بعد پھر اس سورہ میں فرمانبرداری کی راہوں کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ فرمانبرداری اختیار کرنا انسان کی اصل غرض اور مقصد ہے اور یہ بتایا ہے کہ حقیقی راحت اور سکھ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں ہے اور فرمانبرداری کے راہوں کے بیان کرنے میں قرآن کریم کا ذکر فرمایا۔ جس سے یہ مراد اور منشا ہے کہ قرآن کریم کو اپنا دستور العمل بناؤ اور اس کی ہدایتوں پر عمل کرو۔ پھر اس بات کی دلیل پیش کی ہے کہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور ایک زبردست تحدیٰ کی ہے کہ اگر کسی کو اس کے مَنْزَل مِنَ اللّٰهِ ہونے میں شک ہو تو وہ اس کی نظیر لاوے۔ پھر منع علیہم قوم میں سے آدم علیہ السلام ابوالبشر کا ذکر کیا اور بتایا کہ راست بازوں کے ساتھ شریروں اور فساد کرنے والوں کی ہمیشہ سے جنگ ہوتی چلی آئی ہے اور آخر خدا کے برگزیدے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر مغضوب اور الضَّالِّ کا ذکر کیا ہے۔ بالآخر ابوالمہلمۃ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذکر فرمایا اور اس کی فرمانبرداری کو بطور نمونہ پیش کیا کہ اس کی راہ اختیار کر کے انسان برگزیدہ ہو سکتا ہے اور خدا تعالیٰ کے فیوض و برکات کو حاصل کر لیتا ہے۔ پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی

تاکید اور اسی سورہ شریف میں عبادت کے طریق سکھائے ہیں۔ پھر آخر میں یہ دعا سکھائی ہے۔
فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (البقرة: ۲۸۷) یہ نہایت مختصر سا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ کا جو سورہ بقرہ
 میں موجود ہے۔ اس کی تفصیل اور تفسیر کے لئے تو بہت وقت چاہئے مگر میں نہایت مختصر طریق پر
 صرف پہلے ہی رکوع پر کچھ سناؤں گا۔ چنانچہ ابتدا میں مولیٰ کریم فرماتا ہے۔ **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي**
لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (البقرة: ۲، ۳) میں اللہ بہت جاننے والا ہوں اس کی جانب سے یہ
 ہدایت نامہ ملتا ہے۔ جس پر چل کر انسان روحانی آرام اور سچے عقائد اور جسمانی راحتیں حاصل کر سکتا
 ہے۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ قرآن شریف کا نام اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے اور اس کے ماننے والوں
 کا نام متقی رکھا ہے اور پھر فرمایا ہے۔ **وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ** (المنفقون: ۹) یعنی جو
 لوگ ماننے والے ہوتے ہیں وہ معزز ہوتے ہیں۔ ماننے والے سے مراد یہ ہے جو اس پر عمل درآمد
 کرتے ہیں۔ یہ خیالی اور فرضی بات نہیں ہے۔ تاریخ اور واقعات صحیحہ اس امر کی شہادت دیتے ہیں
 کہ جس قوم نے قرآن کو اپنا دستور العمل بنایا وہ دنیا میں معزز و مقتدر بنائی گئی۔

کون ہے جو اس بات سے ناواقف ہے کہ عربوں کی قوم تاریخ دنیا میں اپنا کوئی مقام و مرتبہ
 رکھتی تھی وہ بالکل دنیا سے الگ تھلگ قوم تھی لیکن جب وہ قرآن کی حکومت کے نیچے آئی وہ کل دنیا کی
 فاتح کہلائی۔ علوم کے دروازے ان پر کھولے گئے۔ پھر ایسی زبردست شہادت کے ہوتے ہوئے
 اس صداقت سے انکار کرنا سراسر غلطی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ آج کل مسلمانوں کے تنزّل و ادبار
 کے اسباب پر بڑی بحثیں ہوتی ہیں اور وہ لوگ جو قوم کے ریفارمر یا لیڈر کہلاتے ہیں۔ اس مضمون پر
 بڑی طبع آزمائیاں کرتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، آرٹیکل لکھتے ہیں مگر مجھے افسوس ہے کہ وہ اس نکتہ سے
 دور ہیں۔ ان کے نزدیک مسلمانوں کے ادبار کا باعث یورپ کے علوم کا حاصل نہ کرنا ہے اور ترقی کا
 ذریعہ انہیں علوم کا حاصل کرنا ہو سکتا ہے۔ حالانکہ قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ قرآن پر ایمان لانے
 والے اور عمل درآمد کرنے والے معزز ہو سکتے ہیں۔ بلکہ میرا تو یہ ایمان ہے کہ جب انسان کامل طور پر
 قرآن کی حکومت کے نیچے آ جاتا ہے تو وہ حکومت اس کو خود حکمران بنا دیتی ہے اور دوسروں پر حکومت
 کرنے کی قابلیت عطا کرتی ہے۔ جیسا کہ **أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ** (البقرة: ۶) سے پایا جاتا ہے۔

غرض اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ جو بہت جاننے والا ہوں۔ یہ ہدایت نامہ دیتا ہوں جس میں کوئی ہلاکت کی راہ نہیں اور نکتہ گیری کا کوئی موقع نہیں ہے ہاں یہ ضروری ہے کہ قرآن سے فائدہ اٹھانے والا انسان تقویٰ شعار ہو، متقی ہو۔

ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو ان لوگوں کے لئے ہدایت نامہ قرار دیا ہے جو متقی ہیں۔ دوسرے مقام پر علوم قرآن کی تحصیل کی راہ بھی تقویٰ ہی قرار دیا ہے۔ جیسے فرمایا **وَ اتَّقُوا اللَّهَ** **وَيَعْلَمُ كُرَّهُ** (البقرة: ۲۸۳) یعنی تقویٰ اختیار کرو اللہ تعالیٰ تمہارا معلم ہو جائے گا۔

تقویٰ کے پاک نتائج بڑے عظیم الشان ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو وہ ہے جو میں نے ابھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کا معلم ہو جاتا ہے اور قرآنی علوم اس پر کھلنے لگتے ہیں۔ پھر تقویٰ ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے فرمایا **إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ** (النحل: ۱۲۹) بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ضرور ہوتا ہے جو متقی ہوتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو محسنین ہوتے ہیں۔ احسان کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ وہ خدا کو دیکھتا ہو اگر یہ نہ ہو تو کم از کم یہ کہ وہ اس پر ایمان رکھتا ہو کہ اللہ اس کو دیکھتا ہے پھر یہ بھی تقویٰ ہی کے نتائج اور ثمرات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے متقی کو نجات دیتا ہے اور اس کو **مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ** (الطلاق: ۴) رزق دیتا ہے۔ متقی اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ **يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ** (آل عمران: ۷۷) غرض تقویٰ پر ساری بنا ہے۔ پھر فرمایا کہ متقی کون ہوتے ہیں۔ آپ کی پہلی نشانی یہ ہے **يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ** (البقرة: ۴) وہ الغیب پر ایمان لاتے ہیں خلوت اور جلوت میں برابر مومن رہتے ہیں۔ ایک شخص کا مسجد میں اپنے ہم عصروں اور ملنے والوں کے سامنے ایماندار ہونا سہل ہے لیکن خلوت میں جہاں اسے کوئی نہیں دیکھتا بجز اللہ تعالیٰ کے اس کا مومن رہنا ایک امر اہم ہے لیکن متقی خلوت اور جلوت میں برابر مومن رہتے ہیں۔ اسی بنا پر کسی نے کہا ہے۔

مشکلے دارم ز دانشمند مجلس باز پرس

توبہ فرمایاں چرا خود توبہ کمتر میکند

واعظان کیں جلوہ بر محراب و منبر میکنند
چوں مخلوت میروند آل کار دیگر میکنند

پھر ایمان بالغیب میں بہت سی باتیں ہیں جن کو ماننا چاہئے۔ اصل میں ثواب کے حاصل کرنے کے لئے ایمان بالغیب ضروری شے ہے اگر کوئی شخص مثلاً آفتاب و ماہتاب پر ایمان لاوے تو تم ہی بتاؤ کہ یہ ایمان اس کو کس ثواب کا مستحق اور وارث بنائے گا؟ کسی کا بھی نہیں لیکن جن چیزوں کو اس نے دیکھا نہیں ہے۔ صرف قرآنِ توہیہ کی بنا پر ان کو مان لینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں آئی ہیں ایمان بالغیب ہے جو سود مند اور مفید ہے۔

پھر فرمایا کہ جب انسان ایمان لاتا ہے تو اس کا اثر اس کے جوارج پر بھی پڑنا چاہئے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کے لئے تعظیمِ الامر اللہ کا لحاظ ہو اس لئے فرمایا وَيَقِيْمُونَ الصَّلٰوةَ (البقرة: ۴) یہ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں۔ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ کیونکہ نماز اللہ کے حضور حاضر ہونے کا موقع ہے۔ مومن کو چاہئے کہ نماز کو اسی طرح پر یقین کرے۔ ابتداء نماز سے جب اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے اور کانوں پر ہاتھ رکھتا ہے تو گویا دنیا اور اس کی مشیختوں سے الگ ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ سے ہی سروکار رکھتا ہے پھر اپنے مطالب و مقاصد بیان کرے۔ نماز میں قیام، رکوع، سجدہ اور سجدہ سے اٹھ کر پھر دوسرے سجدہ میں اپنے مطالب بیان کر سکتا ہے۔ پھر التَّحِيَّاتِ میں صلوة اور درود کے بعد دعا مانگ سکتا ہے۔ گویا یہ سات موقعے دعا کے نماز میں رکھے ہیں۔

بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں قسم قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور حضور قلب حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے لئے کیا کیا جاوے؟ اس کا علاج بھی نماز ہی ہے۔ کثرت کے ساتھ بے ذوقی اور بے حضوری سے بھی جب دعائیں ہوتی رہیں گی تو اسی بے حضوری سے حضور اور بے ذوقی سے ایک ذوق پیدا ہو جائے گا لیکن اصل بات یہ ہے کہ گھبرانا نہیں چاہئے اور تھک کر اس کو چھوڑنا نہیں چاہئے۔ جو مطالب پیش کرتے ہو اور جو کچھ پڑھتے ہو اگر سمجھ کر پڑھو پھر حضور پیدا ہونے لگے گا۔

نماز کے عجائبات میں سے اجتماع بھی ہے۔ اس لئے حتی الوسع نماز کو باجماعت ادا کرو۔ ہماری جماعت کے لئے ایک قسم کا ابتلا کا زمانہ ہے بعض کم فہم اور مساجد کے اغراض سے ناواقف لوگ

ہماری مخالفت میں یہاں تک بڑھ گئے ہیں کہ اپنی مسجدوں میں آنے سے روکتے ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کچھ عیسائی آئے تھے اور آپ نے اپنی مسجد میں ان کو اپنے طریق پر گرجا کر لینے سے منع نہیں فرمایا اور یہ زمانہ ہے کہ ذرا سے اختلاف کی وجہ سے مسجدوں سے نکال دیتے ہیں اور اس اخراج میں اس قدر غلو ہے کہ بعض دفعہ ان لوگوں نے مسجدوں کے فرش اکھڑا دیئے ہیں اور ان کو دھلوایا ہے۔ مسلمانوں کی اس قسم کی حالت ہی بتلاتی ہے کہ اس وقت ایک امام کی ضرورت ہے مگر یہ بیمار قوم اپنے درد مند طبیب اور شفیق نغمسار کو دشمن سمجھتی ہے اور اس طرح پر اس کے فیوض و برکات سے بے نصیب ہو رہی ہے۔ آہ! يَحْسِرَةٌ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنَ رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (یس: ۳۱)۔

غرض نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے لئے مسجدوں کا انتظام ہونا چاہئے۔ میرے دوست میری اس عرض کو غور سے سنیں اور بدگمانی کی نظر سے نہ سنیں۔ میں سچ کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ درد دل سے کہتا ہوں۔ خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے پر ایمان رکھتا ہوں۔ بعض لوگوں کو جب کہا گیا ہے کہ تم اپنے شہر میں مسجد بنا لو تو وہ کہتے ہیں چندہ کرا دو تا کہ مسجد بنالیں۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ مسجد کی بہت بڑی ضرورت ہے لیکن فی الحال یہ ضروری بات نہیں ہے کہ کوئی عظیم الشان عمارت ہو تم سیدھی سادھی کوئی عمارت اگر ممکن ہو بنا لو۔ ورنہ چبوتہ ہی سہی اس پر چھپر ڈال لو۔ دیکھو ہمارے ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام مدینہ طیبہ میں بھی مسجد کی بنائھی مگر اس کے لئے کوئی بڑا اہتمام اس وقت نہیں کیا گیا۔ معمولی کھجور کے پتوں کی چھت ڈال لی گئی۔ یہاں تک کہ بارش میں وہ مسجد اس قدر ٹپکتی کہ صحابہ کے کپڑے لت پت ہو جاتے۔ وہی مسجد گو آج عظیم الشان مسجد ہے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنا تو ضروری سمجھی مگر اس کی عالی شان عمارت کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ اسی طرح پروادی غیر ذی زرع میں ایک عظیم الشان مسجد بنائی گئی جو اللہ تعالیٰ کا گھر کہلایا۔ بیت الحرام اس کا نام رکھا گیا جو اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ (ال عمران: ۹۷) کا مصداق ہوا۔ ہاں جو خدا تعالیٰ کی ہستی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قرآن کریم کی سچائی کا زبردست نشان ہے وہ مسجد جہاں روئے زمین کے مسلمان کھنچے چلے جاتے ہیں۔ وہ مسجد کعبۃ اللہ کی مسجد ہے۔ اب غور کرو کیا ان دونوں مسجدوں کے لئے بنانے والوں نے اس وقت چندوں کی

فہرستیں کھولی تھیں؟ نہیں کعبہ کی بنا کے لئے خدا تعالیٰ کے دو برگزیدہ بندے باپ اور بیٹا خود ہی مستری معمار اور مزدور تھے۔ وہ سماں کیسا عجیب ہوگا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت اسماعیل اس مسجد کو بنا رہے تھے۔ جس اخلاص اور غرض کے لئے انہوں نے بنیادی پتھر رکھا ہوگا۔ اس کا ثبوت اس قبولیت اور رجوع سے ملتا ہے جو اس مسجد کو حاصل ہوئی۔ ایسی جگہ وہ عظیم الشان انسان پیدا ہوا جو کل دنیا کے لئے رحمۃ للعالمین ہو کر آیا۔ جس کی رسالت کا دامن قیامت تک دراز اور جو خدا تعالیٰ کی کامل شریعت کا لانے والا ٹھہرا اور وہ وادی غیر ذی زرع آخر امّ القریٰ کہلائی اور دنیا کی ناف اس کو کہا گیا ہے۔ اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ جب تک انسان تاریکی کے اندر ہوتا ہے اور پیٹ میں ہوتا ہے ساری غذا اس کو ناف ہی کے ذریعہ سے پہنچتی ہے اور اس کی پرورش ہوتی ہے اور پھر آخر وہ ایک جدید راستہ سے پیدا ہوتا ہے اور ایک عظیم الشان قضاء کے نیچے آتا ہے۔ اسی طرح پر جب دنیا ایک خطرناک ظلمت میں مبتلا تھی۔ اس وقت توحید کا دودھ کمہ کی ہی ناف سے نکلا ہے اور جب تک انسان اس دودھ سے یہ پرورش نہیں پاتا وہ جنم لینے کے قابل نہیں ہو سکتا۔

غرض وہ عظیم الشان مسجد تھی اس کا بنانا کوئی مشکل کام اس وقت نہیں سمجھا گیا۔ باپ بیٹے نے مل کر اس کو بنالیا اور وہ دوسری مسجد جو اس کے لئے فخر بنی یعنی مسجد نبوی وہ بھی ایک معنوں سے باپ اور بیٹوں نے بنالی کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو امہات المؤمنین قرار دیتا ہے۔ اس حیثیت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باپ بنے اور صحابہ آپ کے فرزند تھے۔ اس مسجد کو صحابہ کے ساتھ مل کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بنالیا اور ساری دنیا اس کی متوالی ہو گئی۔

اس زمانہ میں بھی میں اس قسم کی مسجد کا ایک نمونہ دکھاتا ہوں۔ ہمارے امام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی مسجد بنائی ہے۔ زمین نہیں ملی تو اوپر چھت کے ہی بنالی ہے۔ بات کیا ہے جو چیز اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے ہوتی ہے وہ بابرکت ہوتی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہ ہو تو کچھ نہیں بنتا۔ تم خیال کر سکتے ہو کہ لاہور امرت سر میں کئی بڑی بڑی مسجدیں ہیں۔ لاہور میں شاہی مسجد اور وزیرخان کی مسجد موجود ہے کیا وہ مسجدیں ایسا متوالا اور پروانہ بنا سکتی ہیں جو مکہ اور مدینہ کی مسجد بنا سکتی ہے یا ہماری چھوٹی سی مسجد۔

غرض جس جس جگہ ہمارے بھائی رہتے ہیں تو سب سے مقدم اور ضروری کام کم از کم ایک چھوٹی سی مسجد جیسی ممکن ہو بنا لو۔ اگر سستی کرو گے تو نتیجہ اچھا نہ ہوگا۔ غرض پہلی بات نماز ہے نماز پانچ وقت احباب کو جمع کرتی ہے۔ یہ تو اس کی ظاہری خوبی اور حسن ہے۔ نماز ہی کی خوبی ہے کہ سارے گاؤں کے لوگ ایک دن جمع ہوتے ہیں اور نماز ہی کی خوبی ہے کہ کل روئے زمین کے مسلمان مکہ میں جمع ہوتے ہیں۔ نماز ہی کی خوبی سمجھو کہ تم آئے۔ یہاں آنے کی یہ غرض نہیں ہونی چاہئے کہ آئیں گے تو ایسا جلسہ ہوگا تقریریں ہوں گی۔ یہ تو ایک قسم کے میلے کی بھی صورت ہے۔ نہیں بلکہ یہاں آنے کی غرض وہی ہو جو حق سبحانہ تعالیٰ کا منشاء ہے۔ وحدت ہو، اخوت ترقی پکڑے اور اصلاح نفس ہو۔ ایک مرتبہ مجھے خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ انعام فرمایا **فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا** (ال عمران: ۱۰۴)۔ یہ نہیں فرمایا احبابا۔ اس میں کیا سر ہے۔ وہ ستر مجھے یوں سمجھ میں آیا کہ محبوب میں رنج نہیں ہوتا۔ بھائیوں میں رنج بھی ہو جاتے ہیں۔ کبھی کسی قصور فہم سے کوئی بات سمجھ میں نہ آئی اور ناراض ہو گیا۔ اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ فضل الہی سے ہی اخوان بن سکتے ہیں۔ اپنی کوشش اور محنت سے کچھ نہیں ہوتا۔ پس اگر کسی سے کوئی غلطی یا کمزوری ہو جاوے تو اخوت ہی کے رنگ تک رکھو۔ یہاں آنے کی ایک بڑی غرض یہ بھی رکھو کہ تمہارے تعلقات باہم مضبوط اور اعلیٰ ہوں اور خدا تعالیٰ کی رضا مقصود ہو۔ جناب ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعاؤں پر غور کرو کہ ان میں کیا چاہا گیا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مربع مل جاوے۔ نہیں بلکہ ان کی ساری دعائیں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی ہیں۔

غرض یاد رکھو کہ اجتماع پر اللہ تعالیٰ کا فیضان نازل ہوتا ہے۔ اس وقت ایک تعارف پیدا ہوتا ہے۔ ایک خدمت کا شریک ہوتا ہے۔ اپنا خرچ کیا۔ گھر چھوڑا۔ آرام چھوڑا۔ مجملہ اغراض کے یہ غرض بھی ہو سکتی ہے کہ اگر گھر چھوڑتے ہیں۔ احباب سے جدا ہوتے ہیں، اور اپنے اغراض اور اموال کو خرچ کرتے ہیں۔ مشکلات بھی پیش آتی ہیں تو اس میں تو کوئی شبہ اور کلام نہیں ہو سکتا کہ جب ہم یہ سب کچھ محض خدا تعالیٰ کی رضا کے لئے برداشت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے مامور اور شکور

خدا کی طرف سے قدر بڑھتی ہے اور یہ ایک مزدوری ہوتی ہے جس کا عظیم الشان اجر ملنے والا ہوتا ہے اور ان دعاؤں سے حصہ ملتا ہے جو خدا تعالیٰ کا مامور خصوصیت کے ساتھ ایسے موقع پر مانگتا ہے کیونکہ وہ سب جو اس وقت موجود ہوتے ہیں۔ ان دعاؤں میں شریک ہوتے ہیں۔ پس ایسے موقعوں پر آنا چاہئے لیکن پاک اغراض اور رضاء الہی کے مقصد کو ملحوظ رکھ کر نہ کسی اور غرض اور خواہش سے۔^۵

پھر نماز میں ایک خاص قسم کا فیضان اور انوار نازل ہوتے ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ان میں ہوتا ہے اور ہر ایک شخص اپنے ظرف اور استعداد کے موافق ان سے حصہ لیتا ہے۔ پھر امام کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے اور بیعت کے ذریعہ دوسرے بھائیوں کے ساتھ تعلقات کا سلسلہ وسیع ہوتا ہے۔ ہزاروں کمزوریاں دور ہوتی ہیں جن کو غیر معمولی طور پر دور ہوتے ہوئے محسوس کر لیتا ہے اور پھر ان کمزوریوں کی بجائے خوبیاں آتی ہیں جو آہستہ آہستہ نشوونما پا کر اخلاق فاضلہ کا ایک خوبصورت باغ بن جاتے ہیں۔

یہ مت خیال کرو کہ ہم یہاں آتے ہیں اور کچھ نہیں لے جاتے ہیں بہت کچھ ساتھ لے جاتے ہیں مگر یہ لینا اپنی استعداد کے موافق ہوتا ہے۔ جس جس قدر انسان اپنا دل صاف کرتا اور نیکی کے قبول کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اسی اسی قدر وہ ان فیضانوں سے حصہ لیتا ہے۔ جس طرح پر بچہ پرورش پاتا اور نشوونما پاتا ہے۔ اسی طرح پرنیکیوں اور بدیوں کا بھی نشوونما ہوتا ہے۔ جو شخص مامور کی صحبت میں رہ کر ایک دم میں چاہتا ہے کہ تبدیلی ہو جاوے وہ خدا سے ہنسی کرتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے لیکن ہم اس کا قانون قدرت اسی طرح پر پاتے ہیں کہ تدریجی ترقی ہوتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام سے بڑھ کر کون صاف دل اور پاک فطرت ہوتا ہے لیکن ان کے کمالات اور ترقیوں کے سلسلے پر اگر نظر کی جاوے تو وہ بھی تدریجی ہوتے ہیں۔ اگر کمالات تدریجی نہ ہوتے تو چاہئے تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یک دفعہ ہی سارا قرآن شریف نازل ہو جاتا۔ تیس برس میں کیوں نازل ہوا؟ دیکھو کسان جو دانہ زمین میں ڈالتا ہے کیا وہ دوسرے ہی دن اس کے کاٹنے کے لئے آمادہ ہو جاتا ہے۔ نہیں ایک اچھے خاصے عرصے تک اسے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ پھر خدا کے اس صریح اور بین قانون کو توڑ کر جو چاہتا ہے کہ پھونک مارنے سے ولی ہو جاوے تو وہ میری رائے میں

اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہنسی کرتا اور اسے آزماتا ہے۔

اس لئے ضروری یہ بات ہے کہ انسان عرصہ دراز تک خدا تعالیٰ کے مامور کی صحبت میں حسن ظن اور ارادت کے ساتھ بیٹھے اور وفاداری اور اخلاص کے ساتھ اس کے نمونہ کو اختیار کرے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر فضل کرے اور اس کو نیکیوں اور اخلاقِ فاضلہ کا وارث بناوے۔ میں کسی اور کی بابت کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ اپنی نسبت کہتا ہوں اور اپنی کمزوریوں پر نظر کر کے خیال کرتا ہوں کہ میں اس گاؤں سے ایک گھنٹہ کے لئے بھی باہر جانا اپنی موت سمجھتا ہوں۔ بجز ایسی حالت اور صورت کے کہ مجھے حضرت امام نے حکم دیا ہو۔

مجھے ان لوگوں پر تعجب آتا ہے جو سلسلہ بیعت میں داخل ہیں مگر یہاں نہیں آتے اور اگر آتے ہیں تو اس قدر جلدی کرتے ہیں کہ ایک دن رہنا بھی ان کے لئے ہزاروں موتوں کا سامنا ہو جاتا ہے۔ ان کے جتنے کام بگڑتے ہیں وہ یہاں ہی رہ کر بگڑتے ہیں جتنے مریض ہوتے ہیں وہ یہاں ہی رہ کر ہوتے ہیں۔ ہزاروں ہزار عذر کرتے ہیں۔ یہ بات مجھے بہت ہی ناپسند ہے۔ مجھے ایسے عذر سن کر ڈر لگتا ہے کہ ایسے لوگ **إِنَّ بَيُّوتَنَا عَوْرَةٌ** (الاحزاب: ۱۴) کے الزام کے نیچے نہ آجائیں۔ پس جب یہاں آؤ تو امام کی صحبت میں رہ کر ایک اچھے وقت تک فائدہ اٹھاؤ۔ کسل اور بعد اچھا نہیں ہے۔ خدا کرے ہمارے احباب میں وہ مزہ دار طبیعت پیدا ہو جو وہ اس ذوق اور لطف کو محسوس کر سکیں جو ہم کر رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ستر ہے اور جب تک کسی کی بدیاں انتہا تک نہ پہنچ جاویں اور **أَحَاطَتْ بِهِ حَظِيئَتُهُ** (البقرة: ۸۲) نہ ہو جاوے اور حد سے تجاوز نہ کر جاوے خدا تعالیٰ کی ستاری کام کرتی ہے بعد اس کے پھر سزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس سے پہلے کہ تمہاری بدیاں اور کمزوریاں اپنا اثر کر چکیں اور یہ ہر تمہیں ہلاک کر دے۔ اس کی تریاق توبہ کا فکر کرو۔

اسلام ایسا پاک مذہب ہے کہ اس نے کونفیشن (confession) جیسی گندی تعلیم نہیں دی کہ پوپ کے سامنے انسان اپنی تمام بدیوں اور بدکاریوں کا اقرار کرتا ہے۔ اسلام نے اس کے بالمقابل توبہ کا پاک مسئلہ رکھا ہے۔ جس میں انسان اپنے مولیٰ کریم کے حضور اپنے درد دل کا اظہار کرتا ہے اور خاص اسی کے حضور کہتا ہے جو کچھ کہتا ہے۔ ملائکہ تک کو اس میں شرکت کا موقع نہیں دیتا۔

انسان میں کمزوریاں ضرور ہیں اور ان کے دور کرنے کے لئے اجتماع ایک عمدہ چیز ہے۔ جس بات کے لئے تم بلائے گئے ہو وہ کیا چیز ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا نمونہ دیکھنے کے واسطے تیرہ سو برس سے جس کے دیکھنے کو آنکھیں ترستی تھیں۔ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ وقت دیا اور پھر اس عالی شان انسان کی شناخت کی توفیق دی جو اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہے۔

یہ وہ وقت ہے کہ اس میں پھر پتہ لگے گا کہ انسان کس طرح ترقی کرتا ہے تدریجی کمال حاصل کرتا ہے کس طرح پر اس کے دشمنوں کو ناکامی اور نامرادی حاصل ہوتی ہے اور وہ اور اس کی جماعت بامراد اور فائز المرام ہوتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جس طرح پر صحابہ کی روحانی تربیت ہوئی اور ان کی تکمیل ہوئی اسی طرح پر اب پھر خدا نے چاہا ہے کہ ایک جماعت تیار کرے جو اسی طرح پر کمالات روحانی حاصل کرے۔ خدا تعالیٰ کا کلام اب پھر نازل ہو رہا ہے جس سے قرآن کریم کی صداقتوں کی تازہ بتاؤں کی تازہ تائید ہوتی ہے اور اس کے ثمرات و برکات کا تازہ بتاؤں کا نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کس طرح پر تحدّیاں ہوتی تھیں اور کس طرح پر مخالف تو میں باوجود سرتوڑ کوششوں اور مخالفتوں کے بھی ان تحدّیوں کے جواب سے عاجز اور لا جواب ہوتی تھیں۔ ہماری سنی سنائی باتیں تھیں مگر آج دکھایا جاتا ہے کہ وہ تحدّیاں اس طرح پر ہوتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کا راست باز مامور اور مسیح اللہ تعالیٰ کے منشا اور تائید سے قرآن کریم کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لئے آج تحدّیاں کر رہا ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح پر مخالف شرمندہ ہو رہے ہیں اور وہ ان تحدّیوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساری قوم کو بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم جس کو چاہو اپنے ساتھ ملا لو اور اس کا مقابلہ کرو مگر میں حیران ہوتا ہوں کہ اگر یہ شخص کا ذب ہے (معاذ اللہ) جیسا کہ یہ لوگ مشہور کرتے ہیں کہ یہ عربی کا ایک صیغہ بھی نہیں جانتا اور اس نے کوئی باقاعدہ تعلیم نہیں پائی مگر وہ خدا تعالیٰ کی تائید سے بول رہا ہے۔ اس کے قلم میں اللہ تعالیٰ کی طاقت کام کرتی ہے اور یہ انسانی طاقت میں ہرگز ہرگز نہیں کہ خدا تعالیٰ کا مقابلہ کر سکے اگر انسانی طاقت بھی ایسا کر سکتی تو پھر خدا خدا ہی نہ رہتا۔ ان لوگوں کے مقابلہ کے لئے نہ نکلنے ہی نے ثابت کر دیا ہے کہ

یہ راستباز ہے اور خدا تعالیٰ اس کی تائید کر رہا ہے اور وہ کاذبوں کی تائید نہیں کیا کرتا۔
 غرض یہ وہ زمانہ ہے کہ ہم پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تازہ کمالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے
 ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ بات بالکل سچی ہے کہ اگر یہ شخص نہ آتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے کمالات اور معجزات ایک افسانہ سے بڑھ کر نہ ہوتے جو اب واقعات اور مشاہدہ کے رنگ میں نظر
 آرہے ہیں اور یہ سب کچھ اسی کے طفیل سے ہے جس کے بلانے سے تم آج یہاں جمع ہو۔

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے وقت میں صحابہ محض اللہ تعالیٰ کے جلال و جبروت کے
 اظہار کے لئے دور دراز کے سفر کرتے تھے اور خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرتے تھے۔ وہی رنگ
 یہاں دکھایا جاتا ہے کہ ایک جماعت کو اس نے تیار کیا ہے جو جنگلوں کو طے کرتی ہوئی اور سمندروں کو
 چیرتی ہوئی دور دراز بلاد میں جائے گی اور اس کی غرض کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے جلال کا اظہار، اس کی
 گم شدہ توحید کو پھر دنیا پر ظاہر کرنا۔ کیسی پاک اور مبارک غرض ہے۔ آج سفروں کے لئے ہر قسم کی
 آسائش اور سہولت کے بہم پہنچنے کی وجہ سے لوگ دور دراز ولایتوں کے سفر کرتے ہیں اور آئے دن
 ایسے مسافر روانہ ہوتے ہیں۔ مگر میں پوچھتا ہوں ان کی غرض کیا ہوتی ہے؟ دنیا اور صرف دنیا۔

کوئی ولایت کو جاتا ہے ماں باپ اور احباب اور وطن سے جدا ہوتا ہے اس لئے کہ وہاں جائے
 پیرسٹری کا یا کوئی اور امتحان پاس کرے اور دنیا کمائے۔ پھر وہاں سے وہ کیا لاتا ہے۔ علمی یا عملی طور پر
 خدا کے نہ ہونے کا اقرار یہ تو روحانی ترقی ہوتی ہے اور مارل اینڈ سوشل اصلاح جو وہ کر کے آتا ہے وہ
 تم میں سے اکثروں کو ایسے لوگوں کے دیکھنے سے معلوم ہوئی ہوگی لیکن آج یہ پہلا موقع ہے کہ ایک
 جماعت سفر کرتی ہے لیکن اس سفر کی غرض خدا اور صرف خدا ہے۔ ان لوگوں کی حالت پر جب میں
 نظر کرتا ہوں تو میرے دل میں ان کی عظمت بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ پاک اغراض اور مقاصد لے
 کر جاتے ہیں۔ یہ اپنے احباب اور عزیزوں سے جدا ہوں گے۔ جنگل اور بیابان کاٹتے ہوئے جاویں
 گے اور ایسے ایسے مقامات پر یہ پہنچیں گے جہاں سے ہمیں ان کی کچھ بھی خبر نہ ہوگی کہ ان کے ساتھ کیا
 گزر رہی ہے اگر وہ کسی مصیبت اور مشکلات میں مبتلا ہو جاویں جو سفروں میں ممکن ہے (اور ہماری
 دعا ہے کہ وہ ان مصائب اور مشکلات سے محفوظ رہیں آمین) تو تم میں سے کون ہوگا جو ان کی اس
 وقت مدد کر سکے گا۔ کوئی بھی نہیں کیونکہ وہ تم سے اتنے دور ہوں گے کہ اول تو اطلاع آنی مشکل اور

آئے بھی تو بہت دیر کے بعد اور پھر وہاں تک پہنچنا بہت مشکل اور وقت چاہے گا۔ مگر یہ لوگ ان تمام مصائب اور مشکلات کو برداشت کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ نہیں انہوں نے اپنے اعزہ اور احباب کی محبت، وطن کی الفت اور آرام کی پروا نہیں کی اور اس سفر کو مقدم رکھ کر لے۔ اس وقت اس دور دراز ملک کے سفر کی جو تیاری کی گئی ہے تو اس کی کیا غرض ہے؟ اس کی غرض بھی وہی ہے جو صحابہ کے سفر کی تھی یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ اور اسلام کی عزت، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو ظاہر کرنا۔ اس وقت ایک قوم موجود ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی صفات ایک عاجز انسان کو دے رکھی ہیں اور اسے خدا بنا کر دنیا کو منوانا چاہا ہے۔ یہ قوم عیسائیوں کی قوم ہے۔ وہ مسیح کو خالق مانتے ہیں، شانی مانتے ہیں، مجی مانتے ہیں اور عالم الغیب مانتے ہیں اور سب سے افسوس ناک بات یہ ہے کہ مسلمان جو ایک ہی حقیقی خدا کے پرستار تھے وہ اعتقاد کے طور پر ان کے ساتھ ہی ہیں یعنی اسی قسم کی صفات مسیح میں یقین کرتے ہیں۔ یہ جدا امر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسیح کو خدا نہیں مانتے مگر اس میں کوئی کلام نہیں کہ وہ خدائی کی صفات ان میں یقین کرتے ہیں۔ حضرت امام علیہ الصلوٰۃ والسلام اس کی ایک مثال بارہا دیا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی ایسی حالت ہے جیسے کوئی شخص کسی مردہ کو کہے کہ یہ مر گیا ہے لیکن دوسرا شخص کہے کہ ہاں اس کی نبض بھی نہیں چلتی۔ بدن بھی سرد ہے کسی قسم کی حس و حرکت باقی نہیں ہے لیکن ہے زندہ۔ عیسائی تو صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ وہ خدا ہے مگر مسلمان اپنی غلط فہمی سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں خدا تو نہیں ہے۔ یہ غلط ہے۔ البتہ وہ شانی ہے اسی طرح جس طرح اللہ شافی ہے۔ غیب دان ہے۔ مردوں کو زندہ کرنے والا مجی ہے۔ حی و قیوم ہے۔ پھر بتاؤ اس کے خدا ہونے میں کیا شک باقی رہا۔ مسلمانوں نے ایک اور بات بھی مسیح کے متعلق مان رکھی ہے جو دوسرے انبیاء میں وہ نہیں مانتے کہ صرف مسیح ہی مسّ شیطان سے پاک ہے۔ میں جب ان باتوں کو سنتا ہوں تو سخت حیرت اور افسوس ہوتا ہے کہ وہ جو موحد کہلاتے ہیں ان کا اعتقاد اس قسم کا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی توحید کو زندہ کرنے کے واسطے اور اس عقیدہ کو دور کرنے کے لئے حضرت امام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پسند فرمایا ہے کہ ہمارے بعض احباب سفر کریں اور جو کچھ باتیں معلوم ہوئی ہیں ان کی تصدیق کر لائیں۔ مسیحی مذہب کی شکست کے لئے اس سے بڑھ کر کارگر حریہ نہیں ہو سکتا

کہ یہ ثابت ہو جاوے کہ مسیح اپنی طبعی موت سے مرا ہے اور صلیب پر نہیں مرا۔ اس حربہ کی حقیقت سے وہ لوگ خوب مزہ اٹھا سکتے ہیں جو عیسائی مذہب کے اصولوں سے واقف ہیں اور ان کو ان کے ساتھ کبھی کلام کرنے کا موقع ہوا ہے۔

غرض اس بات کے لئے یہ اہتمام کیا گیا ہے یہ تو میرے نزدیک ایک چھوٹی سی بات ہے جو حضرت امام کے اس جوش کا نمونہ ہے جو توحید کے قائم کرنے کے لئے اس کے دل میں ہے وَاللّٰہُ وہ دکھ اور لکچھی جو اس کے دل و دماغ میں پہنچی ہے تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ نہ وہ دل ہے اور نہ وہ مزہ اور لذت ہے۔ اسی توحید کے پھیلانے کے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اتباع کو کیا کیا تکالیف برداشت کرنی پڑی تھیں۔ پھر آج یہ کام آسان کیونکر ہو سکتا ہے اس وقت تو مشکلات اور بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ اس لئے بہت بڑی توجہ کی ضرورت ہے اور ہر شخص اس قدر توجہ نہیں کر سکتا جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کی تائید نہ ہو۔ تم جانتے ہو کہ جس شخص نے سارے جہاں میں قرآن شریف کی عظمت کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اس کو کس قدر مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

الغرض چونکہ قرآن شریف کی عظمت ہی اسے مقصود ہے۔ اس لئے اس کے واسطے یہ ہر قسم کی تکالیف اور مشکلات اٹھانے کو ہر وقت تیار رہتا ہے اور یہی اس کی کامیابی کی دلیل ہے کہ کوئی مشکل اور تکلیف اس کے حوصلہ کو پست نہیں کر سکتی۔

پھر دوسری بات جو سکھائی گئی ہے منعم علیہ بننے کے واسطے وہ شفقت علی خلق اللہ ہے یعنی مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے میں سے کچھ خرچ کرتے رہو۔ یہاں کوئی چیز مخصوص نہیں فرمائی۔ بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو۔ زبان دی ہے خدا کی عظمت اور جبروت کے اظہار کے لئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے اظہار کے واسطے، پس اس سے یہ کام لو۔ حق گوئی کے لئے اسے کھولو۔ جب کوئی آپ کے مقابلہ میں گندہ دہنی کر رہا ہو تو جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (النحل: ۱۲۶) پر عمل کر کے نہایت پاکیزہ اور معقول اور مدلل طریق سے اس کی زبان بند کرنے کی کوشش کرو اور اس کے گند کے بالمقابل ایک اعلیٰ درجہ کا محکمہ حفظ صحت قائم کرو جبکہ مخالف قسم قسم کے رُدی اور مضر صحت (روحانی) مواد پھیلا نا چاہتا ہے۔ تو شائستہ باتوں

سے ان کو دور کرو۔ اسی طرح اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو خدا کے لئے مخلوق کی ہمدردی اور بھلائی میں خرچ کرو اور ایسا ہی اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے کپڑا دیا ہے غرض جو کچھ دیا ہے اسے مخلوق کی ہمدردی اور نفع رسانی کے لئے خرچ کرو۔ میں دیکھتا ہوں کہ اکثر لوگ نئے کپڑے بناتے ہیں لیکن وہ پرانے کپڑے کسی غریب کو نہیں دیتے بلکہ اسے معمولی طور پر گھر کے استعمال کے لئے رکھ لیتے ہیں مگر میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کو خدا کے فضل سے نیا ملتا ہے اور خدا تعالیٰ نے اسے اس قابل بنایا ہے کہ وہ نیا کپڑا خرید کر بنا لے تو وہ کیوں پرانا اپنے کسی غریب اور نادار بھائی کو نہیں دیتا؟ اگر نیا جو تاملتا ہے تو کیوں پرانا کسی اور کو نہیں دے دیتے ہو۔ اگر اتنی بھی ہمت اور حوصلہ نہیں پڑتا تو پھر نیا دینا تو اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ خدا تعالیٰ نے تکمیل ایمان کے لئے دو ہی باتیں رکھی ہیں۔ تعظیم لامر اللہ اور شفقت علی خلق اللہ جو شخص ان دونوں کی برابر رعایت نہیں رکھتا وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ کیا تم میں سے اگر ایک ہاتھ ایک ٹانگ کسی کی کاٹ دی جاوے تو وہ نقصان نہ اٹھاوے گا۔ اسی طرح پر ایمان کا بہت بڑا جزو ہے شفقت علی خلق اللہ مگر میں دیکھتا ہوں کہ اس پر زیادہ توجہ ہی نہیں رہی اور یہی وجہ ہے کہ ایمان کا پہلا جزو تعظیم لامر اللہ بھی نہیں رہی ہے۔ پس اس میں ہرگز سستی اور غفلت نہ کرو۔ خدا تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی شکرگزاری یہی ہے کہ اس کی مخلوق کو نفع پہنچایا جاوے۔ خدا کی مخلوق کو نفع پہنچانا درازی عمر کا باعث ہے۔ کون ہے جو نہیں چاہتا کہ دنیا میں لمبی عمر یاوے۔ ہر شخص کے دل میں کم و بیش یہ آرزو موجود ہے مگر لمبی عمر کے حاصل کرنے کا اصلی اور سچا طریق یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی مخلوق کو نفع پہنچایا جاوے۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر دیا۔ **وَأَمَّا مَا يَبْتَغِ النَّاسُ فَيَكُونُ فِي الْأَرْضِ** (البّعد: ۱۸) درازی عمر کا ایک اور نسخہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ وہ استغفار ہے۔ پس جو چاہتا ہے کہ عمر سے تفتح اٹھاوے وہ اس نسخہ پر عمل کرے۔

اس لئے جہاں تک تم سے بن پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اور پھر جو کچھ اس نے دیا ہے اس کی مخلوق کی نفع رسانی کے واسطے اسے خرچ کرو۔ دل دیا ہے تو پوری توجہ کے ساتھ دعائیں ہی مانگتے رہو اپنے لئے اور اپنے اور دوسرے لوگوں کے واسطے۔ میں بار بار تاکید کرتا ہوں کہ منشاء الہی یہی ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ نیک سلوک ہو اس اصل کو کبھی مت بھولو کیونکہ منعم علیہ بننے کے واسطے اس پر عمل کرنا بڑا ہی ضروری ہے۔

جس قدر صدائیں موجود ہیں اور جو احکام اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں۔ ان سب پر عمل کر کے دکھاؤ تا کہ نتیجہ میں سکھ پاؤ۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین کا نتیجہ یہی تو ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل کرے اور اس کی نواہی سے بچے۔ جب انسان اس قسم کا بن جاتا ہے کہ الغیب پر ایمان لاتا ہے اور خدا کی عبادت کرتا ہے اور اس کی مخلوق پر شفقت کرتا ہے پھر خدا تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ ہم اس کا بدلہ کیا دیں گے؟ **أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ** (البقرة: ۶)۔ یہ لوگ مظفر و منصور ہو جائیں گے۔ دنیا میں بامراد اور کامیاب ہونے کا یہ زبردست ذریعہ ہے اور اس کا ثبوت موجود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی لائف پر نظر کرو۔ ان کامیابیوں اور فتح مند یوں کی اصل جڑ کیا تھی؟ یہی ایمان اور اعمال صالحہ تو تھے ورنہ اس سے پہلے وہی لوگ موجود تھے وہی اسباب تھے وہی قوم تھی لیکن جب ان کا ایمان اللہ تعالیٰ پر بڑھا اور ان کے اعمال میں صلاحیت اور تقویٰ اللہ پیدا ہوا تو خدا تعالیٰ کے وعدوں کے موافق وہ دنیا میں بھی مظفر و منصور ہو گئے تا کہ ان کی اس دنیا کی کامیابیاں آخرت کی کامیابیوں کے لئے ایک دلیل اور نشان ہوں۔ یہ نسخہ صرف کتابی نسخہ نہیں ہے بلکہ ایک تجربہ شدہ اور بارہا کا آزمودہ نسخہ ہے۔ جو اسے استعمال کرتا ہے وہ یقیناً کامیاب ہوگا اور منعم علیہ گروہ میں داخل ہو جاوے گا۔ پس اگر تم چاہتے ہو کہ بامراد ہو جاؤ، تم چاہتے ہو کہ منعم علیہ بنو، تو دیکھو اس نسخہ کو استعمال کرو گے

بامراد اور کامیاب ہونے کی اصل تو بیان ہو چکی اب محرومی کی اصل جڑ بتائی۔ **إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ** (البقرة: ۷)۔ جن لوگوں نے خلاف ورزی کی اور تیرے انذار اور عدم انذار کو برابر سمجھ لیا وہ مومن نہیں ہوں گے۔ یہ کیسی سچی بات ہے کہ جب انسان کسی شے کے وجود اور عدم وجود کو برابر سمجھ لیتا ہے وہ اس کے حصول کے لئے کوئی سعی نہیں کر سکتا آخر محروم رہ جاتا ہے۔

یہی حال ان لوگوں کا ہوا۔ جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور اس انکار کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے آپ کے انذار اور عدم انذار کو مساوی سمجھا نتیجہ اس کا ایمان سے محرومی ہوئی اور انجام کار وہ ان تمام کامیابیوں اور فتوحات سے جو اہل ایمان لوگوں کے حصہ میں آئیں بالکل بے نصیب اور محروم رہے۔

یہ کتاب مجید جو ہمیں دی گئی ہے۔ ساری خوبیوں اور کمالات سے بھری ہوئی ہے لیکن جو شخص اس کتاب کے وجود اور عدم وجود ہی کو برابر سمجھے وہ ان انعامات اور برکات سے جو اس کتاب کے پڑھنے اور پھر عمل کرنے سے ملتے ہیں کیونکر بہرہ ور ہو سکتا ہے؟ وہ یقیناً یقیناً محروم رہے گا اور اسے ایمان نصیب نہیں ہوگا لیکن اگر سلیم الفطرت انسان اپنے قوی سے کام لے اور اس کو یوں ہی نہ چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں چھوڑے گا۔ اس کا نام شکور ہے وہ اس کی ضرورت کرے گا اور اس پر اپنی نعمت کے دروازے بے شک کھول دے گا۔ اسے فہم قرآن عطا کرے گا اور ایک ذوق کے ساتھ توفیق عمل نصیب ہوگی۔

اس بات کو میں بار بار بیان کروں گا اور تم بھی خوب یاد رکھو کہ بامراد اور کامیاب ہونے کی کلید یہی ہے کہ اس کتاب کو اپنا دستور العمل بنا لو۔ اگر اس کتاب کو کوئی چھوڑتا ہے اور اس کے عدم اور وجود کو برابر سمجھتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے اسباب محرومی تیار کرتا ہے۔ اس فعل پر خدا تعالیٰ سے اسے اولاً یہ سزا ملتی ہے کہ غور کرنے والا دل چھین لیا جاتا ہے وہ حقائق اور معارف کو سوچ نہیں سکتا اور اسی طرح پردیکھنے اور سننے کے قوی بھی بیکار ہو جاتے ہیں وہ حق کا شنوا اور حق کا یار نہیں رہتا۔

پس متقی بننے کی راہ تو یہ ہے کہ مومن بالغیب ہو۔ اعمال صالحہ پر چست اور چالاک ہو۔ تمام صداقتوں پر کاربند ہو۔ جزا و سزا پر ایمان لانے والا ہو کسی صداقت کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے اور دل سے کام لے تاکہ عذاب سے محفوظ رہے۔

بہت سے دل اس قسم کے بھی ہوتے ہیں کہ اپنے فوری جوش یا بعض خارجی اثرات کی وجہ سے اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے ہیں لیکن جناب الہی کے حضور سے فتویٰ ملتا ہے کہ مومن نہیں ہیں اگر غور کیا جاوے تو اس اصل سے بھی بہت سے جھگڑے طے ہو جاتے ہیں۔ میں اپنا نام نور الدین کہلاتا ہوں کوئی ننٹس الدین، جمال الدین، کمال الدین کہلاتا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا آسمان پر بھی یہی نام ہے؟ اگر آسمان پر نہیں تو کچھ فائدہ اور حاصل نہیں۔ اسی طرح پر مومن وہی ہے جو آسمان پر مومن ہو اور کافر وہی ہے جس کا نام آسمان پر کافر ہو۔ دنیا کی نظر میں مومن یا کافر ہونا کوئی اثر اصل بات پر نہیں ڈال سکتا۔

غرض بعض لوگوں کا خدا تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ وہ بتاتے ہیں ہم مومن ہیں لیکن خدا تعالیٰ کا فتویٰ ان کے متعلق یہی ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اگر ہمارے مخالف اس بات کو سمجھتے کہ ہمارے تجویز کردہ نام کوئی حقیقت اپنے اندر نہیں رکھتے بلکہ حقیقت ان اسماء کے اندر ہے جو خدا تعالیٰ کا مقبول اور پسندیدہ ہے۔ تو انہیں حضرت امام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دعویٰ کے سمجھنے میں کیا دقت اور مشکل پیش آتی تھی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا ادب ان کے دل میں ہوتا تو وہ ایک شخص کے منہ سے یہ سن کر کہ خدا نے میرا نام ابن مریم رکھا ہے اس قدر جوش غصہ سے نہ بھر جاتے۔ وہ سمجھ لیتے کہ جب ہم اپنے بچوں کے نام یوسف، موسیٰ، محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) رکھ لیتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کا نام ابن مریم رکھ لے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ان باتوں سے محض بے خبر ہیں اور انہوں نے قرآن شریف میں کبھی غور نہیں کی۔ پس ایسے لوگ جن کی نسبت خدا تعالیٰ کا فتویٰ ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ خدا کو چھوڑ دیا ہے اور اس جماعت کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومنین کی جماعت ہے۔ ان لوگوں میں نہ تاب مقابلہ ہے نہ قوت فیصلہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا فیصلہ اور مقابلہ ابھی نہیں کر سکتے۔ جبکہ ابتدا ہے جب اور ترقی ہوگی تو کب کر سکیں گے ان کا یہ مرض تو بڑھتا ہی نظر آتا ہے۔ اس جھوٹ کا بدلہ عذاب الیم ہے۔

اب یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ ایک شخص بظاہر اچھے لباس میں لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ نمازی بھی نظر آتا ہے لیکن کیا اسے اتنی سی بات پر مطمئن ہو جانا چاہئے ہرگز نہیں؟ اگر اسی پر انسان کفایت کرتا ہے اور اپنی ساری ترقی کا مدار اسی پر ٹھہراتا ہے تو وہ غلطی کرتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ سڑیکٹیٹ نمل جاوے کہ وہ مومن ہے وہ مطمئن نہ ہو، سعی کرتا رہے اور نمازوں اور دعاؤں میں لگا رہے تاکہ کوئی ایسی ٹھوکرا سے نہ لگ جاوے جو ہلاک کر دے۔ عام طور پر تو یہ فتویٰ اسی وقت ملے گا جبکہ سعادت مند جنت میں داخل ہوں گے اور شقی دوزخ میں۔ لیکن خدا تعالیٰ یہاں بھی التباس نہیں رکھتا اسی دنیا میں بھی یہ امر فیصل ہو جاتا ہے اور مومن اور کافر میں ایک بین امتیاز رکھ دیتا ہے جس سے صاف صاف شناخت ہو سکتی ہے۔ ہر ایک شخص ان آثار اور ثمرات کو جو ایمان اور

اعمال صالحہ کے ہیں۔ اسی دنیا میں بھی پاسکتا ہے اگر سچا مومن ہو بلکہ اگر کوئی شخص اس دنیا میں کوئی اثر اور نتیجہ نہیں پاتا ہے تو اسے استغفار کرنی چاہئے۔ اندیشہ ہے کہ وہ آخرت میں اندھانہ اٹھایا جائے۔

مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ (سنی اسرائیل: ۷۳) حضرت امام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بارہا اس سوال کو چھیڑا ہے اور اپنی تقریروں میں بیان کیا ہے کہ بہشتی زندگی اور اس کے آثار اور ثمرات اسی عالم سے شروع ہو جاتے ہیں۔ جو شخص اس جگہ سے وہ قوی نہیں لے جاتا وہ آخرت میں کیا پائے گا اور یہ ایک امتیازی نشان ہے جو آپ نے دوسرے مذاہب باطلہ کے رد کے لئے پیش کیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نجات یافتہ ہے تو وہ آئے میرے ساتھ ثمرات و نتائج میں مقابلہ کرے اور کوئی نہیں آتا۔

پس یہ تو بالکل سچا فیصلہ ہے کہ مومن اور کافر کی عام شناخت کا تو وہی وقت ہے جبکہ ایک فریق جنت میں جاوے گا اور دوسرا دوزخ میں لیکن چونکہ بہشتی اور جہنمی زندگی اسی دنیا سے شروع ہو جاتی ہے اس لئے یہ کہنا بھی بالکل درست ہے کہ اسی عالم میں اللہ تعالیٰ کے اس فتوے کا پتا لگ جاتا ہے۔ اس لئے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم زمینی اور خیالی باتوں پر صبر کرنے والے نہ بنو۔ اپنے تجویز کردہ ناموں پر خوش۔ بلکہ اس فکر میں لگے رہو کہ آسمان سے تمہیں سرٹیکلیٹ مل جائے۔ میں اس پر بھی یقین رکھتا ہوں کہ حقیقی مومن خدا تعالیٰ سے براہ راست بھی مومن ہونے کا فتویٰ سن لیتا ہے۔ جس کا زندہ نمونہ ہمارا امام علیہ الصلوٰۃ والسلام موجود ہے جس کو کھلے الفاظ میں حکم ہو گیا ہے۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (تذکرہ صفحہ ۱۵۸) یہی وجہ ہے کہ ان فتویٰ اور کاغذات کی جو اس کے خلاف شائع کئے جاتے ہیں وہ ایک پرکاش کے برابر بھی وقعت نہیں سمجھتا۔ اسے پروا نہیں کہ اسے کن ناموں سے یاد کیا جاتا ہے بلکہ وہ اس کے جواب میں کیا کہتا ہے؟

کافر و ملحد و دجال ہمیں کہتے ہیں

نام کیا کیا غم ملت میں رکھایا ہم نے (درئین صفحہ ۱۷)

اسے کیوں ان مخلوق پرستوں کے فتووں کی پروا نہیں صرف اس لئے کہ خدا تعالیٰ سے اس نے سن لیا ہے کہ وہ اول المؤمنین ہے اور مؤمنین کے ثمرات و برکات اس پر نازل ہو رہے ہیں۔ آج کل بہت سے

متصوفین اور کمزور دل کی مخلوق ایسی ہے کہ جن کا اس پر عمل ہے۔ باسلمان اللہ اللہ بابرہمن رام رام۔ یہ لوگ جیسا کہ موقع دیکھتے ہیں ویسا ہی اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا وہ اخلاص اور حقیقت چاہتا ہے۔ جب تک یہ بات پیدا نہ ہوگی کچھ نہیں۔ بہت سے لوگ اس وقت ایسے بھی ہیں جو ہم سے ملتے ہیں تو ہماری باتوں کو سنتے اور پسند کرتے ہیں لیکن جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم کیوں ہمارے ساتھ نہیں مل جاتے تو کہتے ہیں کہ ہم شامل تو ہو جائیں مگر حکام کی نظروں میں کھٹکنے لگتے ہیں اور مالی مشکلات کے لئے بلایا جاتا ہے اور یوں تو ہم آپ کے ہی ساتھ ہیں ظاہر کرنے کی کوئی حاجت نہیں۔ لیکن جب اپنے مدبروں سے ملتے ہیں تو پھر مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو آپ ہی کی رائے کے تابع ہیں اور آپ کے ہی ساتھ ہیں ایسے لوگ منافق ہوتے ہیں۔ اس لئے تم جو حضرت اقدس کے ساتھ ہو اپنے دل کو ٹٹولو اور اپنے اعمال اور افعال پر نظر کرو کہ کیا تم میں وہ بات پیدا ہوگئی ہے کہ تم اس کے لئے اپنی قوم برادری کو چھوڑنے کے لئے تیار رہو۔ کیا تم ان مشکلات کو خوشی سے برداشت کر سکتے ہو جو اس کی خاطر تمہیں پیش آئیں؟ اگر تمہارا دل اس کے لئے قوت پاتا ہے اور وہ بڑی خوشی کے ساتھ آمادہ ہے تو سمجھو کہ خدا تمہارے ساتھ ہے لیکن اگر مشکلات کی برداشت نہیں تو م اور برادری کا ڈر تمہیں دھمکاتا ہے تو پھر دعا کرو کہ خدا تعالیٰ تمہیں استقلال اور قوت عطا کرے کیونکہ اس کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اور اس کے فضل حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ تم دعائیں لگے رہو۔ اپنے اعمال میں ایک تبدیلی کرو۔

بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عجیب در عجیب تقریروں یا تحریروں سے کامیاب ہو سکتے ہیں اور اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عارضی طور پر بظاہر بعض لوگوں کو کامیابی نظر بھی آتی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہوتی بلکہ ناکامی اور نامرادی ہی ہوتی ہے کیونکہ اس کا انجام خطرناک طور پر بر اثبات ہوتا ہے۔ کامیابی کا اصلی راز اور رُتقوی اللہ ہی ہے کیونکہ اس کے ساتھ روح القدس کی تائید ہوتی ہے جس سے وہ کلام الہی کے اسرار اور نکات کو سمجھ سکتا ہے اور اس کی تقریر اور تحریر میں اللہ تعالیٰ ایک نور اور برکت رکھ دیتا ہے۔ اس میں ایک اثر ہوتا ہے جو سننے اور پڑھنے والوں کے

دلوں پر پڑتا ہے اور ان کو اس کی طرف کھینچ لاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی کامیابی کی اصل جڑ یہی ہے۔ اس لئے تم جو کامیابی چاہتے ہو اس اصل کو مضبوط پکڑے رکھو اور ہر ایک کام کو محض اللہ تعالیٰ ہی کی رضا جوئی کے لئے کرو۔ اس میں اپنے اغراض اور مقاصد کو قربان کر دو۔ ورنہ ذاتی اغراض اس میں شریک ہو کر اس کی برکت اور خوبی کو کھودیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں اپنے مخالفوں سے بہت کچھ سننا پڑتا ہے اور ایسے مواقع بھی آجاتے ہیں کہ تمہیں ان سے گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ ایسے وقت کے لئے یاد رکھو کہ دشمن کے لئے تیار رہو مگر تائید الہی پر بھروسہ کر کے دعا مانگتے رہو۔ کبھی مناظرات اور مباحثات کی خود خواہش نہ کرو لیکن اگر مقابلہ پیش آ جاوے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر کشود کار کی خواہش کرو۔ اختلافی مسائل کے حل کے لئے آسان طریق یہی ہے کہ ان کو لکھ رکھو تا کہ ہر وقت نظر پڑتی رہے اور خدا تعالیٰ سے اس کے لئے بھی دعا مانگتے رہو کیونکہ ہر ایک مسئلہ میں ہدایت کی راہ بتا دینا خدا ہی کا کام ہے۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى (الیل: ۱۳) جب انسان سچا دل لے کر جناب الہی میں تضرع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا کریم تو جانتا ہے میں تیری رضا کے لئے سعی اور مجاہدہ کرتا ہوں اس راہ میں تو ہی مجھے مدد دینے والا ہے اور تیرے ہی فضل سے منزل مقصود پر پہنچ سکتا ہوں تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان اختلافی مسائل اور مشکلات کو پتوں کے ہلنے اور ہواؤں کے جھونکوں میں حل کر دیتا ہے ہاں اخلاص ہو۔

اللہ تعالیٰ مستغنی کو کبھی پسند نہیں کرتا کیونکہ غنا مخلوق کو نہیں دیا گیا ہے میں بار بار تم لوگوں کی توجہ دعا کی طرف منعطف کرتا ہوں کیونکہ ام الکتب دعا ہی سے شروع ہوتی ہے۔ بد بخت ہیں وہ لوگ جو دعا سے محروم ہوئے اور تکبر اور خود پسندی کے خطرناک مرض میں مبتلا ہو گئے۔

منافقوں کے خصائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ پس تم کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو۔ چھوٹے سے چھوٹے بھائی کو بھی حقیر مت جانو ورنہ مقابلہ میں خدا ہنسی میں اڑا دیتا ہے۔ تم نے وہ اشتہار شاید سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا جو ہمارے رحیم و کریم امام نے دیا تھا کہ اپنی آوازوں کو قابو میں رکھو دوسرے پر حملہ کرتے ہوئے شرم و حیا سے کام لو۔ تم اپنی آوازوں کو نکالتے

وقت اس ارشاد کو مد نظر رکھو تا کہ ایسا نہ ہو کہ تم خلاف ورزی کرنے والوں میں ٹھہرو۔ قرآن شریف کو پڑھو عمل کرنے کے لئے کیونکہ اس کی تلاوت کا اصل مقصد یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ ہو اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے۔ آمین^۹



- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| ۱۔ الحکم ۱۰ اپریل ۱۹۰۴ء صفحہ ۱۵ تا ۱۸ | ۲۔ الحکم ۲۴ اپریل ۱۹۰۴ء صفحہ ۱۲ |
| ۳۔ الحکم ۳۰ اپریل ۱۹۰۴ء صفحہ ۱۳ | ۴۔ الحکم ۱۷ مئی ۱۹۰۴ء صفحہ ۸ |
| ۵۔ الحکم ۲۴ مئی ۱۹۰۴ء صفحہ ۶ | ۶۔ الحکم ۳۱ مئی ۱۹۰۴ء صفحہ ۸ |
| ۷۔ الحکم ۱۰ جون ۱۹۰۴ء صفحہ ۸ | ۸۔ الحکم ۲۴ جون ۱۹۰۴ء صفحہ ۱۳ |
| ۹۔ الحکم ۱۰ جولائی ۱۹۰۴ء صفحہ ۸ | |

مشکلات و مصائب سے رہائی پانے کا گر

﴿تقریر فرمودہ ۲۷ دسمبر ۱۹۰۰ء﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ (ال عمران: ۱۰۳)

اس سے پیشتر کہ میں اس آیت شریف کے معنی بیان کروں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر انسان دورانہدیشی اور فکر سے کام لے تو ہر ایک جگہ اس کو واعظ مل سکتا ہے۔ اپنے گرد و پیش کے نظارے اس کو بتلا سکتے ہیں کہ مولیٰ کریم کی رضا جوئی اور فرمانبرداری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کیا رنگ لاتی ہے۔ ہر نوآباد گھر کے پاس ضروری ہوتا ہے کہ ایک اجڑا ہوا گھر بھی ہوتا کہ اس نوآباد کو سبق ملتا رہے کہ حد اعتدال سے گزر جانا اور قوانین شریعت کی پابندی نہ کرنا یوں اجڑا دیا کرتی ہے۔ یہ نشان ہر جگہ برابر ملے گا۔ غرض ہر شہر میں آباد کرنے کا رنگ بھی موجود ہے اور اجڑا دینے کا نمونہ بھی۔

یہی مسجد جس میں ہم بیٹھے ہیں (حضرت اقدس کی مسجد اقصیٰ) اس کی بابت ایک بات سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کے والد صاحب نے جب اس مسجد بنانے کا ارادہ کیا تو فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایک کنال زمین میں بناؤں۔ اس مسجد کے ارد گرد جس قدر مکان آپ لوگ دیکھتے ہیں۔ دراصل یہ مسجد ہی کی زمین میں ہیں۔ لوگوں نے جب آپ کی یہ تجویز اور رائے سنی تو کہا کہ اگر سارے قادیان کے لوگ بھی عید کے لئے اس میں جمع ہوں تب بھی محسوس نہ ہوں گے مگر انہوں نے کہا کیا کروں میرے دل میں کچھ ایسا ہی آتا ہے کہ اس کو ایک کنال زمین میں بناؤں۔ خیر وہ وقت تو گزر گیا لیکن اب میں کہتا ہوں کہ میری آنکھوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ مسجد ایک کنال زمین میں بھی ہمارے اجتماع کے وقت کافی نہیں۔ غرض اللہ تعالیٰ کی عادت اور سنت اسی طرح پر ہے کہ وہ آباد بھی کرتا ہے اور جب اس کی تعلیمات کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو اجڑا بھی دیتا ہے اور اس ویرانی اور آبادی کے نظارے ہر جگہ دانش مند انسان کو سبق دینے کے لئے

موجود ہیں۔ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (یونس: ۱۵) سے صاف پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلند صدا سے بتلا دیا ہے کہ تم نے بہت سی قوموں کے اونچا پن اور نیچا پن کو دیکھا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ تمہارا عمل در آمد کیا ہے؟ یہ ایک ضروری بات ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قرآن کریم میں جس قدر قصص مذکور ہوئے ہیں۔ ان نبیوں کے ہیں جہاں جہاں نبی کریمؐ نے اور آپ کے صحابہ کرامؓ نے پہنچنا تھا اور یہ بات ایسی خصوصیات کے لئے ہے۔ ورنہ قرآن کریم تو صاف فرماتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (فاطر: ۲۵) یعنی کوئی امت ایسی نہیں جس میں خدا کی طرف سے ایک ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ ایک طرف تو یہ حال ہے کہ کوئی قوم اور کوئی بستی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا مامور نہ آیا ہو۔ دوسری طرف بہت سے ایسے رسول بھی ہو گزرے ہیں۔ جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں فرمایا تو ایک غور طلب بات ہے کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم انبیاء علیہم السلام کے ذکر کو بیس اور تیس کے اندر محدود کرتا ہے۔ مجھے یہ بات بتلائی گئی ہے کہ انہی نبیوں کا ذکر قرآن نے فرمایا ہے جن کے بلاد میں نافرمانوں اور فرمانبرداروں کے نشانات صحابہ کرام کے لئے موجود ہیں اور جہاں پیغمبر خدا نے کامیابی حاصل کرنی تھی اور صحابہ کرام نے دیکھ لینا تھا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيِيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ (الانفال: ۴۳) صحابہ وہاں پر پہنچے ان کا نمونہ یہ تھا کہ نبی کی مخالفت اور متابعت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اب جبکہ ہر جگہ واعظ موجود ہے تو

مجلس وعظ رفقت خط است مرگ ہمسایہ واعظ تو بس است

یہاں قادیان میں جہاں میں نے اب گھر بنایا ہے وہاں حکام کی ڈیوڑھی تھی اور جہاں اپنے شہر میں گھر بنایا تھا وہ ایک باغ تھا جس کے پھل میں خود بھی کھا چکا ہوں اور مجھے یہ نصیحت برابر ملتی رہتی ہے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ (ابراہیم: ۴۶) یعنی ہم نے تم کو ایسے لوگوں کے مکانات میں آباد کیا ہے جن کے کھنڈرات ہر وقت یہ آواز دیتے رہتے ہیں کہ خدا کی نافرمانی کیا کیا کر سکتی ہے۔ پس میں پھر یہی کہتا ہوں کہ بہت وعظ سننا اس کا منشا وہی ہے جو کھنڈرات اور ویران شدہ جگہوں کے دیکھنے سے پورا ہوتا ہے۔ تاریخ دان اگر دنیا کی تاریخ کی ورق گردانی کرے تو اس کو معلوم

ہو جاوے گا کہ دنیا میں کس طرح کے لوگ آئے اور کوچ کر گئے۔ اس لئے میں اس سے پیشتر کہ ترجمہ کرتا یہ بتلانا چاہتا تھا کہ ہر شخص کے لئے نصیحت اور عبرت موجود ہے مگر ہاں دیکھنے والی آنکھ اور سننے والے کان اور غور کرنے والا دل ہو۔ بھلوں اور بروں کے نشانات سے جو سبق ملتا ہے۔ اس کو عبرت کی نظر سے دیکھو۔

سنو! جب کہ یہ بات ہے پھر قرآن شریف جو رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ (التوبة: ۷۲) کے درجہ پر پہنچانا چاہتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ ایک چوکیدار اگر راضی ہے تو گھر والا کتنے گھمنڈ اور ناز میں رہتا ہے اور اگر ایک ڈپٹی انسپکٹر پولیس اس کا حامی ہو تو پھر اپنے آپ کو کیا کچھ سمجھتا ہے۔ تم نے بھی بہت سے لفظ سنے ہوں گے۔ اچھے اچھے متین کہہ اٹھتے ہیں فلاں شخص ہمارا دوست ہے اس کو کہہ کر فلاں کو گرفتار کرادیں گے۔ نوکری کے لئے سفارش کر دیں گے۔ چہ جائیکہ صوبہ کے حاکم یا بادشاہ کے ساتھ تعلق ہو۔ پس وہ احکم الحاکمین مولا کریم تو ذرہ ذرہ پر حاکم ہے جہاں واہمہ کی واہمہ بھی برداشت نہیں کرتی کہ اگر وہ راضی ہو جاوے تو کس قدر خوش حالی پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی بنا پر وہ دعویٰ ہے جو آج بہت سے بھائیوں نے سنا ہوگا کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ میں دنیا کا فاتح ہوں۔ میرا مقابلہ کون کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ کیا یہ کوئی انسان باوجود اپنی ہمہ ضعف و ناتوانی کے کہہ سکتا ہے۔ جو ذرا ذرا سی باتوں کا محتاج ہے۔ عجز کا تو یہ حال ہے اور طاقت کا وہ نمونہ!! یہ طاقت کہاں سے آتی ہے غور تو کرو اس کا منبع وہی ہے رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ (التوبة: ۷۲) سارے دنیا پرست، دنیا کے کتے، سارے دنیا کے حکمراں سب اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے محتاج رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر حامی و مددگار ہو تو کسی کی دشمنی اثر نہیں کر سکتی۔ میں نے وہ آدمی بھی دیکھے ہیں جو دستخط کراتے ہوئے اور کسی کی بھلائی یا برائی کا فیصلہ کراتے ہوئے قلم آگے پیش کیا ہے اور جان نکل گئی ہے۔ خدا کی بڑی بڑی عظیم الشان طاقتیں ہیں جو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی ہیں۔ ایک آن میں لاکھوں لاکھ پیدا کر سکتا ہے اور فنا کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ میں بھی ناعاقبت اندیش تعلیٰ کرنے والے متکبروں نے چندہ جمع کیا اور منصوبہ کیا کہ ہم اس کو نیست و نابود کریں گے اور خاک میں ملا دیں گے۔ اس ناتوانی کی حالت میں نبی کریم کو اللہ تعالیٰ کی

طرف سے یہ صدا پہنچی فَسَيَذِقُوهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُعْلَبُونَ (الانفال: ۳۷)۔ تیرے مقابلہ میں یہ ضنا دید مکہ بڑے بڑے مدبر اور منصوبہ باز مال خرچ کریں گے۔ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً پھر یہ سارا مال ان کے لئے حسرت و افسوس کا موجب ہوگا۔ افسوس تو اس لئے ہوگا کہ مال بھی خرچ کیا اور ناکامی کا داغ بھی لگا۔ مگر یہاں تک ہی انتہا نہیں ابھی ایک اور ذلت ان کے لئے باقی ہے۔ ثُمَّ يُعْلَبُونَ۔ پھر مغلوب ہو کر ذلت کی موت میں گے۔

اب دیکھو حالت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں پوری آزادی کے ساتھ کھل کر نکل نہیں سکتے اور نکلے ہیں تو شہر سے باہر ایک ایسے غار میں جو خطرناک جگہ ہے چھپے ہیں۔ اس پر یہ دعویٰ ہے ثُمَّ يُعْلَبُونَ کیا معنی۔ تیرے یہ دشمن ذلت اور ناکامی اور حسرت کی موت میں گے۔ اس سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ کی وہ ذات پاک ہے کہ جس پر وہ راضی ہو جاوے اس کی بات عظیم الشان بات دکھلاتی ہے لیکن اگر وہ راضی نہ ہو تو اس کی کوئی محنت اور کوشش کام نہیں دیتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مخالف اپنی اولاد، مال، سب رسم و رواج۔ سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے بیٹھے۔ پھر دیکھو کس زور سے اذان میں کہا جاتا ہے اللہ اکبر یعنی اللہ تعالیٰ ہر گھنڈی کا گھنڈ توڑ سکتا ہے۔ ہر شیخی باز اور ہر منصوبہ ساز کے بدارادہ کو اظہار سے پہلے ہی تباہ کر سکتا ہے۔ اس بھید کی کلید یہ آیت ہے۔ جو میں نے پڑھی ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ (ال عمران: ۱۰۳) یعنی مومنو! اللہ تعالیٰ کو اپنا سپر بناؤ۔ دکھوں سے بچنے کے لئے اور مشکلات اور مصائب سے رہائی پانے کے لئے یہی ایک گُر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا سپر بنا لو۔ وہ اگر حامی اور مددگار ہو تو پھر کوئی دشمن باقی رہ نہیں سکتا۔ وہ سب کو ناکام اور نامراد کر دے گا لیکن اب یہ غور طلب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سپر کس طرح بنایا جاوے۔ ایک آدمی منہ سے تو کہتا ہے کہ اے اللہ تو مجھ کو بچا۔ پھر دل میں بُرے بُرے منصوبے باندھتا ہے اور ایک اور شخص ہے جو دل سے منصوبے نہیں باندھتا لیکن زبان سے بھی کچھ نہیں کہتا۔ یہ کوئی طریق سپر بنانے کا نہیں ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ حَقَّ تَقَاتِهِ جو سپر بنانے کا حق ہے۔ اس طرح پر سپر بناؤ۔ سپر بنانے کا حق یوں ہوتا ہے کہ خدا کی رضا کو حاصل کرے۔ لیکن اب یہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ رضا حاصل کیونکر ہو؟ انسان جبکہ دوسرے

انسان کی رضامندی کی راہوں کو باوجودیکہ وہ کھانے پینے میں اس سے ایک قرب اور مشابہت رکھتا ہے اور جینت کے لحاظ سے بھی ایک مشابہت اور علاقہ رکھتا ہے معلوم نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ جو وراء الوراہستی ہے اس کی رضامندی کی راہوں کو کیونکر معلوم کرے؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی راہ جیسا کہ نادان برہمو کہتا ہے۔ بودی اور کمزور عقل اور محدود اور ناکافی تجربہ سے ہرگز معلوم نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر دنیا میں رنج اور غم کیوں موجود ہوتا؟ پس معلوم ہوا کہ اللہ کی رضامندی کی راہ اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتی، جب تک کہ وہ خود نہ بتلاوے مگر پھر معاً یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو عنسی عن العالمین ہے۔ وہ کوئی محتاج نہیں ہے۔ پھر کیا تدبیر اور سبیل کی جاوے کہ ان رضا کی باتوں کا پتہ لگ جاوے جن پر عملدرآمد کرنے سے سچا تقویٰ پیدا ہوتا ہے اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سپر ہو جاتا ہے اور ہر قسم کی کامیابیاں عطا فرماتا ہے اور یہ بات بھی ساتھ ہی ہے کہ کیا وہ ہر ایک کو بتلاتا ہے کہ میں یوں راضی ہو جاؤں گا۔ جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو یہ بھی اس کی عادت نہیں ہے۔ پس معلوم ہوا کہ خدا کو راضی کرنے کی راہ بدون اس کے بتلائے معلوم نہیں ہو سکتی۔ جس کے لئے خاص فرشتے خاص بندے مقرر کئے ہیں۔ جن کے ذریعہ وہ آگاہ کرتا ہے۔ وہ مرسل اور رسول ہوتے ہیں۔ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ بلکہ خدا کی بات کہتے ہیں۔^۱

لیکن یہ مشکل پیش آئے گی کہ دنیا میں دھوکے بھی ہوتے ہیں جھوٹے مدعی اور خیالی مصلح بھی ہوتے ہیں اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ وحی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اندر ہی کی آواز ہوتی ہے جو دل سے ہی نکلتی اور دل پر ہی پڑتی ہے اور پھر ایسے بھی ہیں۔ جو ایسے مدعیوں کو مجنون اور دکاندار کہتے ہیں اور دنیا میں دکاندار بھی ہوتے ہیں۔ پھر یہ قاعدہ کیسا عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مجھ کو سپر بناؤ اور پھر سپر بھی اس طرح جو سپر بنانے کا حق ہے۔ رضاء الہی کی اطلاع بدون بتلائے نہیں مل سکتی اور سب کو نہیں ملتی۔ صرف چند خواص کو ملتی ہے اور ادھر یہ دُبد ہا پڑی ہوئی ہے کہ ہزاروں انسان دغا اور فریب کرتے ہیں اگر کوئی اس معاملہ میں بھی جھوٹ کہہ دے تو کیونکر پتہ لگے گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا ہے **لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ** (ال عمران ۱۰۳) تم فرمانبردار ہو کر ہی مرو، فرمانبرداری جب ہو کہ جب فرمان ہو اور فرمان میں میں نے ابھی کہا ہے کہ اس دُبد ہا

اور شک کی گنجائش ہے کہ کسی نے دھوکا ہی نہ دیا ہو۔ اس مشکل کی راہ صاف کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے چند ضروری امور کو بیان فرمایا ہے جن سے آدمی حق و باطل میں فی الفور امتیاز کر لیتا ہے۔ میں اس کو ایک عام فہم طریق پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سنو! ہر ایک چیز خواہ وہ دکھ دینے والی ہو یا سکھ دینے والی دونوں کو ہم خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا پاتے ہیں۔ اگر تریاق کو پاتے ہیں تو سانپ بھی تو ہیں اگر عمدہ عمدہ دوائیں اور تجربہ کار ڈاکٹر اور حاذق طبیب موجود ہیں تو مہلک بیماریاں اور ناتجربہ کار احق مدعی حکمت بھی پائے جاتے ہیں اور عمدہ عمدہ غلہ اور ترکاریاں پائی جاتی ہیں تو اپنے گھروں میں سنڈ اس اور پیشاب بھی ہے اور کب اختیار میں ہے کہ دونوں چیزوں کو یکساں طور پر استعمال کر کے سکھ اٹھا سکیں۔ آپ دیکھیں گے کہ دکھ یا سکھ دینے والی چیزوں میں باہم فرق کر کے ان کو الگ کر دیا گیا ہے۔ ایک کا ناکھ دیتا ہے لیکن ایک عمدہ اور مضبوط جوتا اس کو مسل دیتا ہے۔ پس کانٹوں سے سکھ دینے کے لئے ہم سمجھتے ہیں کہ جوتا عمدہ چیز ہے اور سردی کی تکلیف میں سنجاب اور سمورا اور پشینہ اور روئی کے لحاف کیسی آرام دہ چیزیں ہیں جو سردی کا مقابلہ کر سکتی ہیں اور ہم خوب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں سردی سے محفوظ رکھ سکتی ہیں نہ کہ برف اور اس پر سرد ہوا۔ اسی طریق پر اللہ تعالیٰ نے روحانی سکھوں اور ابدی راحتوں کا ذریعہ جب کہ اپنا فرمان اور رضا کا حصول رکھا ہے اور وہ بدوں ان لوگوں کے جو اس کی طرف سے آتے ہیں ظاہر نہیں ہوتی اس کی شناخت کے اسباب بھی ضرور ہی رکھ دیئے ہوں گے تاکہ سچ اور جھوٹ میں صاف تمیز ہو سکے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اور اس لئے آتے ہیں کہ ہم کو اس راہ کا پتہ دیں جس پر چلنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے ان میں اور اس مخلوق میں جو بچھوؤں سانپوں کی طرح دکھ دینے کو تیار رہتی ہے امتیاز اور تفریق کے ذریعے رکھ دیئے ہیں جن سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ راستباز کون ہے اور جھوٹا کون ہے؟ مگر ہاں سلیم دل اور حق کی تلاش کی پیاس ہو۔ موٹی عقل والا بھی جس طرح کانٹے کی تکلیف محسوس کر کے جوتا پہن لیتا ہے اور سردی کے لئے گرم کپڑا پہن کر آرام پاتا ہے۔ اندرونی دکھوں کو محسوس کرنے والا اور روح اور اخلاق کے علاج کو چاہنے والا ذرا اسی لطیف عقل سے کام لے تو راست باز کو پہچان سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تو محض اپنے فضل سے اس کو واضح کر دیا ہے۔ پھر وہ کیا بات بتلائی

جس سے اس راہِ حق پر ہم پہنچ سکیں۔ دیکھو یہ تو ایک مانی ہوئی بات ہے کہ دکھ دینے والی چیزوں میں سے خانہ جنگیاں اور تفرقے بھی ہیں کوئی گھر اور بستی جب کہ اس میں اختلاف اور پھوٹ ہو کبھی آباد نہیں رہ سکتی۔ بڑے سے بڑا دکھ جو انسان کو مشکلات اور مصائب میں ڈالتا ہے پریشانی اور پراگندگی ہے اور یہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جس کے مریض کو سخت درد اور دکھ کا سامنا ہوتا ہے۔ اب اس مرض کا علاج جو بتلائے اور وہ کارگر اور مفید اور مجرب ثابت ہو اس کی صداقت اور حذاقت میں کیا کلام ہو سکتا ہے اور یہ ایک مسلم بات ہے کہ نبی کریم صلعم کے آنے سے پیشتر عرب کی حالت وحدت اور امن کے لحاظ سے کیسی خطرناک تھی ان میں بہت بڑی عداوت پھیلی ہوئی تھی ذرا ذرا سی بات پر خاندانوں کے خاندان کٹ مرتے تھے اور اس کو سب محسوس کرتے تھے کہ یہ بہت خطرناک شئی ہے۔ صحابہ اس کو محسوس کرتے تھے یا نہیں؟ ضرور کرتے تھے پس ان کو بتلایا کہ **إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً قَالَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا** (ال عمران: ۱۰۴) تم تو آپس میں جانی دشمن تھے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ایک بدیہی نتیجہ تو یہ ہوا کہ تمہارے دلوں میں ایسی محبت والفت ڈالی گئی کہ تم بھائی بھائی ہو گئے۔ رات کو دشمن سوئے تھے تو صبح کو بھائی بن کر اٹھے۔ کس قدر حیرت انگیز تبدیلی اور تعجب میں ڈال دینے والی بات ہے ان سا لہا سال بلکہ صدیوں کی خانہ جنگیوں کو دور کر دینے والی صرف ایک ہی بات تھی یا کچھ اور۔ اور وہ یہ تھی کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آ کے توبہ کرتے۔ وہ توبہ کچھ ایسی تھی اور اس ہاتھ میں کچھ ایسی شفا رکھی گئی تھی کہ جو آتا اس کی تمام اندرونی بیماریاں صاف ہو جاتی تھیں اور بجائے اُس کے پاکیزہ خیالات اور سکھ دینے والی باتیں آ بستی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس **قدسی قوت** نے بڑے بڑے سوچنے والے لوگوں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ غرض یہ ایک بڑی بھاری شناخت **صادق** کی ہے کہ وہ ایک وحدت کی روح اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔

اس وقت بھی ہزاروں ہزار مولوی، سجادہ نشین، صوفی، مشائخ موجود ہیں اور بیٹھا رکتا ہیں بھری پڑی ہیں مگر دیکھو کہ کیا ان سب میں باہم اتحاد اور یگانگت ہے۔ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے دیئے جا رہے ہیں اگر ایک شہر کے علما کو بھی دیکھو تو معلوم ہوگا کہ ان میں باہم اتحاد نہیں ہے پھر دین کو دنیا

پر مقدم کرنے کی ہدایت کو وہ کیونکر پھیلا سکتے ہیں حقیقت میں وہ اس بات سے نا آشنا محض ہیں کہ باہم محبت کس طرح بڑھتی ہے۔ غرض جب انسان کسی صادق کی تلاش کرتا اور اپنی اندرونی بیماریوں کو محسوس کر لیتا ہے تو اس کو خود بخود پتا لگ جاتا ہے کہ جس کو میں نے صادق سمجھا ہے اس کے ساتھ تعلق پیدا کرنے سے مجھے ان بیماریوں کے متعلق کیا سکھ پہنچا ہے۔ جیسے ایک سردی سے ٹھٹھا ہوا انسان جب روئی سنباب یا سمور کے کپڑے پہن لیتا ہے تو اس کو واضح طور پر معلوم ہونے لگتا ہے کہ اس کو آرام پہنچتا ہے۔ اسی طرح پر روحانی بیماریوں کا مریض جب اپنے مسخ کے پاس جاتا ہے اور اس سے تعلق پیدا کرتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ مجھ سے فلاں گلی سڑی چیز اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں نکل رہی ہے اور یہ فائدہ پہنچ رہا ہے۔ پس پہلی بات جو صادق کی شناخت کے لئے اور اس بر خورداری کے لئے ضروری ہے وہ ایک قسم کی وحدت اور یکتائی ہے تا کہ خدا کا فضل جو وحدت پر نازل ہوتا ہے اس سے متمتع ہو جاؤ۔

اس وقت بھی ایک صادق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اور تم نے اسے پہچانا ہے مگر تم اپنے اندر مشاہدہ کرو کہ اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں کیا سکھ پارہے ہو اور کون سی بیماریاں تمہاری دور ہو رہی ہیں۔ باہم موڈت پیدا کرو کیونکہ فضل الہی کے جذب اور کشش کے لئے پہلا اصول وحدت ہے اور سوچو کہ پہلے کن لوگوں کے ساتھ تعلق اور صحبت تھی اس کے ہاتھ پر توبہ کرنے کے بعد کیا تبدیلی ہوئی۔ ایک معاہدہ ہم سے لیا جاتا ہے اور جس وقت وہ معاہدہ لیا جاتا ہے میری طبیعت گھبرا جاتی ہے ایک انسان جس کو میں پورے شعور اور کامل بصیرت کے ساتھ یقین کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ وعدہ لیتا ہے کہ میں رنج میں، راحت میں، عسر میں، یسر میں قدم آگے بڑھاؤں گا اور دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔ میں گھبرا اٹھتا ہوں اور معاً میں سمجھتا ہوں کہ یہ فقرہ انسانی فطرت اور طبع کا نتیجہ نہیں ہے انسان یہ بات ایجاد کر سکتا ہی نہیں انسان کی ایجاد تو یہ ہے کہ خالق سے خلقت رکھنی مشکل ہے پیچھے توبہ کر لیں گے۔ میاں ایہہ جگ مٹھاتے اگلا کس ڈٹھا۔

میں نے گاؤں کے زمینداروں کو دیکھا ہے کہ ایک دوسرے کے بدلے جھوٹی گواہی دے آتا ہے صرف اس لئے کہ ہم اس سے فلاں مقدمہ میں گواہی دلائیں گے یا فلاں مقدمہ میں اس نے

گواہی دی تھی۔ ایک گاؤں میں میں نے ایک قاتل کو دیکھا اور معلوم ہوا کہ اس کے بدلے اور ناکردہ گناہ دائم العبس ہو گئے ہیں۔ وارثان مقتول سے جب پوچھا گیا کہ یہ کیا بات ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ قاتل ہے مگر ہم اس کو پکڑوا کر کیا کرتے یہ تو غریب آدمی ہے ہم نے تو ان کو ہی پکڑوانا تھا جن سے ہم کو خاص رنج تھا اور عداوت تھی۔ دیکھو وہ وارثان مقتول جانتے تھے کہ اصل قاتل کون ہے مگر انہوں نے ایک بری الذمہ اور ناکردہ گناہ ہی کو پھنسانے کی سعی کی کیونکہ انہوں نے دنیا کو دین پر مقدم کیا ہوا تھا۔ کچھریوں اور عدالتوں میں رہنے والے اگر دنیا کو مقدم نہ کریں تو وہ ظہر کی نماز ترک کیوں کر دیں۔ اسی طرح اور صدہا امور اور معاملات میں دیکھو جہاں انسانی منصوبہ اور غرض کو دخل ہے وہاں جب مقدم ہوگی تو دنیا ہی مقدم ہوگی۔ اس سے صاف طور پر معلوم ہو سکتا ہے کہ انسانی ایجاد اور انسانی قرارداد کا نتیجہ تو دنیا اور اس کے لوازمات ہیں لیکن وہ جو خدا کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہے وہ جب مقدم کرے گا یا کسی سے کراوے گا وہ دین ہی کو مقدم کرے گا۔ پس یہ ایک دوسرا ذریعہ ہے جو صادق کی شناخت کا ہے کہ آیا وہ دین کو مقدم کرتا ہے یا دنیا کو۔

ہمارے بھائیوں میں سے جنہوں نے دین کو دنیا پر مقدم کر کے تجربہ کیا ہے انہوں نے ضرور دیکھ لیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا یہ ذریعہ ضرور سچا ہے اور جس کے ذریعہ یہ راہ معلوم ہوئی ہے وہ بیشک خدا ہی کے بلانے سے بولا ہے اور یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو سپر بنانا اور اس طرح پر سپر بنانا جو سپر بنانے کا حق ہی یہی ہے۔

پھر اسی وعدہ میں اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَّرَسُوْلُهٗ بھی ہے۔ دنیا میں جھوٹے قصے، جھوٹے منصوبے، خیالی تعلیمیں اور فرضی ہدایتیں شائع کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور ان کے بد نتائج صاف بتلا دیتے ہیں کہ ان سب کی بنا جھوٹ اور زور پر ہے مگر اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ کو ماننے والے اور اس پر پورا عمل کرنے والے بتلا سکتے ہیں کہ یہ انسانی تعلیم نہیں ہو سکتی یہ آسمانی تعلیم ہے میں جب اذان میں کسی سے محمد رسول اللہ سنتا ہوں!!! مجھے کس قدر خوشی ہوتی ہے کیونکہ میرے دل میں سرور کے ساتھ یہ بات داخل ہوتی ہے کہ

محمد کے سوا تو کوئی رسول ہو ہی نہیں سکتا جو محمد ہو وہی رسول ہوگا۔ محمد کے معنی ہیں سرہا گیا اگر کوئی رسول بن سکتا ہے تو محمد لفظ کے معنی سے اس کو حصہ لینا ضروری ہے۔ ابراہیم، یوسف، موسیٰ میں یہ شان کسی حد تک جلوہ گر نہ ہوتی تو وہ رسول کیونکر بن سکتے تھے۔ ہاں جو شان محمد کی ہے اس کا کہنا تو آسان نہیں ہے۔ میرا ایمان تو یہی ہے کہ وہ محمد ہی کی شان لے کر رسول ہوئے اور جس کا نام دوست دشمن نے محمد رکھا ہے وہی رسول ہو سکتا ہے اور پھر محمد رسول ہو سکتا ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ کو سپر بنانے کی یہ ایک راہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بتا دے کہ تم اللہ تعالیٰ کو اس طرح سپر بنا سکتے ہو۔ چنانچہ اس آیت شریفہ کے آخر ارشاد فرمایا ہے۔ تم ایسی زندگی بسر کرو کہ تم پر موت آوے تو تم اس وقت اللہ کریم کے فرمانبردار ہو جیسے فرمایا **لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ** (ال عمران: ۱۰۳) اس تعلیم کو دیکھو اس میں مسلمانوں کو کس قدر مستعد اور تیار رہنے کی تاکید ہے۔ برادران! موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اس لئے ہر وقت مسلمان بنے رہو تا کہ جب موت آوے تم کو کوئی حسرت اور افسوس نہ ہو۔ گناہوں سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی ہدایت اس آیت میں کس خوبی کے ساتھ بیان کی ہے۔ پس غفلت چھوڑ دو کہ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ چلتے، پھرتے، اٹھتے، بیٹھتے، سوتے، جاگتے غرض ہر حالت میں مسلمان بنے رہو۔ پس جو ایسی تعلیم لے کر آتا ہے وہی منجانب اللہ ہے لا کس۔ اس کی یہ پہچان بھی ہے کہ جب وہ اس جہان میں آتا ہے اس وقت دنیا میں اس کا کوئی ہمدرد، ہم خیال نہیں ہوتا۔ بالکل بے کسی اور ناتوانی کی حالت ہوتی ہے۔ ہر طرف سے اس پر حملے کئے جاتے ہیں اور دنیا دار ساری قوتوں اور طاقتوں کے ساتھ چاہتے ہیں کہ اس کو نیست و نابود کر دیں مگر **إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا** (المؤمن: ۵۲) کیا معنی ہم دنیا ہی کی زندگی میں اپنے رسولوں اور مومنوں کی مدد کرتے ہیں اور بتلا دیتے ہیں کہ اس کی متابعت اور اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کو سپر بنانے کی صحیح اور یقینی راہ ہے۔ دنیا دار اندر اور باہر سے اس کی مخالفت پر اٹھتے ہیں اور متحد اور منفرد صورتوں میں چاہتے ہیں کہ اس کو ہلاک کریں۔ ہر روز ہر آن میدان میں ہر پہلو سے ناکامیابی دیکھنا چاہتے ہیں مگر وہ تدبیر اور منصوبہ جو اس کی بدی میں سوچتے ہیں ان پر ہی الٹ کر پڑتا ہے اور وہ ان کی تمام زدوں سے صاف بچ کر نکل جاتا ہے اور اس طرح پر اس کا وجود اس امر کی دلیل ہو جاتا ہے کہ اس کی سپر اللہ تعالیٰ ہے۔

ہر قسم کے مصائب آتے ہیں مگر وہ ایسی سپر کی اوٹ میں ہوتا ہے کہ اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو مکہ کے تمام بڑے بڑے عمائد اور منصوبہ سازوں نے مل کر سعی کی کہ تلوار کے نیچے آپ کو ذبح کر دیں۔ ہر طرح سے چاہا کہ مخلوق کو روکیں کوئی اس کے پاس نہ جاوے مگر

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَأَوْعَدُهُ إِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ وَكَأَوْعَدُهُ هَارُونَ إِذْ قَالَ لَهُ أَخِي اسْكُنْ مَعِيَ وَلَا تُصَلِّ فِي الْمَدِينَةِ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن مِمَّنْ يَلْمِزُكَ الْفَاسِقِينَ إِذْ جَاءَهُ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (النصر: ۳۲-۳۴)

پر غور کرو کیسا وعدہ پورا ہی ہو کر رہا ہر قسم کے فتوحات اور کامیابیاں آپ کو عطا ہوئیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسی سپر آپ کو معلوم تھی جو کوئی مشکل اور مصیبت اس پر اثر نہ کر سکتی تھی۔ وہ تو ایک عظیم الشان انسان تھا جس کی طرز، جوڑ، مثل کا کوئی دوسرا انسان نہیں ہو سکتا اور پھر یہ تیرہ سو برس کی بات ہے جو تم نے دیکھی نہیں۔ صرف تاریخوں میں پڑھی ہے مگر کیسی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت تمہاری آنکھوں کے سامنے اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم اور غلام احمد قادیانی (خدا کی برکت اور نصرت اس کے ساتھ ہو) تم میں موجود ہے۔ یہ مرزا کا مکان ہے۔ اس کے چاروں طرف دشمن ہیں۔ ادھر دشمن ادھر دشمن، بازار میں دشمن، شہر سے باہر دشمن، غرض ہر طرف سے دشمنوں کے نرغہ میں ہے۔ اسی پر بس نہیں ہے عالم علمی تلوار سے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ سجادہ نشینوں نے اپنی ضربوں اور حزبوں کا پورا زور لگایا۔ ناعاقبت اندیشوں نے اقدام قتل کے مقدمے بنا کر پھنسانا چاہا۔ ملانوں نے قتل کے فتوے دے کر جہلا اور عوام کو بھڑکا کر جان لینی چاہی۔ ٹیکس کا مقدمہ بنوا کر مالی نقصان پہنچانے کی فکر کی۔ غرض کوئی دقیقہ اپنی کوششوں کا باقی نہیں رکھا مگر یہ خدا کو سپر بنانے والا ہر میدان میں باوجود اس کے کہ ظاہری اسباب مخالف ہی تھے کیسے بچ کر نکلتا رہا ہے۔ یہ تو مسلمانوں کا حال ہے۔ پھر آریہ، برہمو، سناتن، سکھ، پادری اپنی اپنی جگہ پر کبھی گورنمنٹ کو بدظن کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی کسی اور پیرایہ میں اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ اس کو پھنسانیں مگر اللہ اللہ اس کے پاس کوئی ایسی سپر موجود ہے کہ مخالفوں کا وار اس پر چل ہی نہیں سکتا۔ میں تو مرزا کو دیکھ دیکھ کر اس قدر ایمان میں ترقی کرتا ہوں کہ اس کا اظہار بھی نہیں ہو سکتا۔ تم خود اس کو دیکھو نت نئی جوانی کی بہار دکھاتا ہے۔ ہر نیا دن اس کو جوان بناتا جاتا ہے۔ اب اس کی حالت کو دیکھو کہ مخالفوں کی اس قدر

کثرت اور اس کے دم میں تیزی پیدا ہوتی جاتی ہے اور کوئی مخالفت اور عداوت اس پر اثر نہیں کرتی تو یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ خدا کو سپر بنانے کا ڈھب اس کو ضرور یاد ہے۔

میں نے صحابہ کرام کی حالت پر غور کیا ہے۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں جس قدر فتوحات کا زور ہے۔ وہ کسی دوسرے زمانہ میں نظر نہیں آتا۔ انتظام مملکت کے متعلق کیسی کیسی دورانہدیشیاں کی جاتی ہیں۔ عمرو ابن عاص مصر کے خزانے کے متعلق لکھتا ہے تو اس سویر کینال (نہرسوز) کا بھی ذکر کرتا ہے اور اس کے اخراجات کا تخمینہ بھی بتاتا ہے۔ ایک فرانسیسی مورخ نے نہایت تعجب کے ساتھ لکھا ہے کہ اب بھی وہی کینال پر قریباً خرچ آیا ہے مگر اس وقت حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ سردست مصلحت نہیں یہ اور وقت کے لئے ہے اگر راستہ کھول دیا جاوے تو یورپ کی اقوام مدینہ کے قریب آسکتی ہیں۔ کتنا بڑا دورانہدیش اور مال ہیں انسان ہے مگر نماز میں خنجر چلا تو اپنے آپ کو نہ بچا سکا۔ وَاللّٰهُ يَعْصِيكَ مِنَ النَّاسِ (المائدہ: ۶۸) کی آوازن کو تو نہ آئی تھی۔ جس کو یہ صدا آچکی تھی وہ تو تنہائی اور بے کسی کے زمانہ میں مخالفت کی تاریکی میں بھی صحیح و سلامت نکلتا ہے۔ لیکن حضرت عمرؓ پوری شوکت اور جلال کے دنوں میں عین نماز میں شہید ہوئے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مامور من اللہ کا وجود علی وجہ الاتم اللہ تعالیٰ کو سپر بنانے کا کامل نمونہ ہوتا ہے۔ کوئی مخالفت اور عداوت اور سازش ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ سنو! یہ ایسے لوگ تھے کہ ان کی قوم کے ممبرذہات کہلاتے تھے۔

پھر حضرت عثمان کو قتل کر ہی دیا۔ پھر جناب مولیٰ مرتضیٰ کی بہادری کے قصے تو سب نے سنے ہیں مگر ابن ملجم شقی نے سب کچھ بھلا دیا۔ میری غرض اس بیان سے یہی ہے کہ پورا نمونہ حَقُّ تَقَاتِهِ کا خود مامور من اللہ ہوتا ہے۔

لکھا ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے پڑے تھے اور تنہا تھے۔ ایک شخص نے آکر آپ کی تلوار اٹھالی اور چاہتا تھا کہ آپ پر وار کرے۔ آپ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کہا کہ اب آپ کو کون بچا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ۔ آپ کے اس ارشاد میں کچھ ایسی ہیبت اور ایسا رعب تھا کہ اس کے بدن پر لرزہ پڑ گیا اور تلوار گر پڑی۔ ان لوگوں کا وجود خدا نما آئینہ ہوتا

ہے جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ کوئی عجیب سپران کے پاس ہے۔ جس کی اوٹ میں یہ مامون اور مصنون ہیں۔ پس اب یہ بخوبی سمجھ میں آسکتا ہے کہ حَقُّ نَفْتِهِ کیا ہے؟ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (النجم: ۴) یعنی وہ اللہ ہی کے بلائے سے بولتا ہے یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے۔ اب میں تمہارے سامنے پھر وہی پاک نمونہ پیش کرتا ہوں۔ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے اور جو اس وقت تم میں موجود بیٹھا ہے۔ یعنی حضرت امام علیہ السلام کا پاک وجود۔ دیکھو ایک مولوی اور ملا اپنی اپنی جگہ شور مچاتا ہے کہ میں نے جیت لیا ہے اور کہتے ہیں۔

یہ کون ہے مرزا جو کرے چوں مرے آگے

مگر میں ایمان سے کہتا ہوں اور دنیا دیکھتی ہے۔ خود ان کے دل ان کو شرمندہ کرتے ہیں کہ یہ نرمی شیخیاں اور دعویٰ ہی دعویٰ ہیں۔ وہ ایک بال کے برابر بھی اس کو ضرر نہیں پہنچا سکے۔ بلکہ ان کی مخالفت اس کی کامیابی کو زور کے ساتھ ثابت کر رہی ہے۔ پس میں نے بتایا ہے کہ اول اخلاق فاضلہ میں ترقی کرے۔ پھر تعلیم کی طرف نگاہ کرے اور پھر مامور کے اپنے وجود کو دیکھے کہ اس میں ایک زبردست ثبوت اس کی سچائی کا ہوتا ہے کہ مخالفوں کی مخالفت اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ میری رائے میں اگر کوئی شخص الہام کا دعویٰ کرے اور اس کی مخالفت زور و شور سے نہ ہو وہ بھی من جانب اللہ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی سپر کارنگ موجود نہیں ہوتا۔

یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہر دکھ کا موجب ہوتی ہے اور فرمانبرداری ہر سکھ کا موجب ہوتی ہے۔ پس اگر ہم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی راہ اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور سپر ہوگا۔ پھر میں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سپر ہو جانے کا ثبوت اس نصرت سے ہوتا ہے جس کا وعدہ اس آیت میں ہے۔ اِنَّا لَنَنْصُرَنَّ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا اَمَامَ مَرْسَلُوں كى مخالفت ہوتی ہے اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ کی نصرت کا پتا لگتا ہے۔ اگر مشکلات اور مصائب نہ آئیں اور مخالفت نہ ہو تو پھر نصرت الہی کا ثبوت ہو تو کیونکر ہو۔ پس یہ ضروری بات ہے کہ ماموروں اور خدا کے بھیجے ہوئے پاک بندوں کی مخالفت کی جاتی ہے اور بڑے بڑے مشکلات آتے ہیں مگر اس کا ہر میدان اور مقابلہ میں کامیاب ہونا بتا دیتا ہے کہ اس نے اللہ کو سپر بنایا ہوا ہے اور پھر میں ابھی تم کو دکھا چکا ہوں کہ حضرت اقدس امام الزمان علیہ الصلوٰۃ والسلام

کی بہت بڑی مخالفت کی گئی اور کی جاتی ہے مگر کوئی اس کا کچھ بھی تو نہیں بگاڑ سکتا۔ میں تو اس کی ایک ایک ادا اور نکتہ پر قربان ہو جاتا ہوں۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ ایک دوست..... کو ترغیب دی کہ شادی کرو اور یہ بھی کہا کہ کنواری سے کرو کیونکہ اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس لئے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ معاً میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کہ کس قدر عظیم الشان انسان ہے کہ کس قدر بیوہ عورتوں سے شادی کر کے دکھا دیا اور پھر بڑھاپے میں۔

الغرض میرے نزدیک تو یہ سب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سپر بنایا جاوے تو کوئی مشکل مشکل رہتی ہی نہیں۔ مرزا کے پاس بیٹھنے والے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی ہر بات سے ایک امیدوار اپنے لئے ایک بات نکال لیتا ہے۔ اب ایک ضروری بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر صرف **إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا** ہی ہوتا تو امید ٹوٹ جاتی مگر نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ **وَالَّذِينَ آمَنُوا** بھی کہا ہے ہر مومن کا معین اور ناصر بھی اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے اور پھر یہ بھی ساتھ ہی فرما دیا ہے **فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا**۔

پس کس قدر خوشی اور امید کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید اسی دنیا میں بھی ملتی ہے اور اس دنیا میں نصرت اور تائید الہی کا ملنا آخرت کی نصرت پر ایک قوی دلیل ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ یہ نصرت اور تائید ہر مومن مخلص کو ملتی ہے اگر صرف انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہی مخصوص ہوتی تو البتہ عام مومنوں کے لئے کس قدر دل شکن بات ہو سکتی تھی مگر خدا کا کس قدر احسان ہے کہ فرما دیا ہے **إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا** (المؤمن: ۵۲) اللہ تعالیٰ کے مامور اور مرسل اور مومن اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی تائیدات سے حصہ لیتے ہیں اور یہ نصرت عجیب عجیب طور پر اپنا ظہور کرتی ہے کیونکہ اس نصرت سے اللہ کی ہستی کا ثبوت مامور من اللہ کی صداقت اور اللہ کے دوسرے وعدوں کی تصدیق کی ایک دلیل ہوتی ہے اور ایک عظیم الشان حجت ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے قائم کی جاتی ہے کیا خوب فرمایا ہے۔

خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے
جب آتی ہے تو پھر عالم کو ایک عالم دکھاتی ہے
وہ بنتی ہے ہوا اور ہر خس راہ کو اڑاتی ہے
وہ ہو جاتی ہے آگ اور ہر مخالف کو جلاتی ہے

کبھی وہ خاک ہو کر دشمنوں کے سر پہ پڑتی ہے
 کبھی ہو کر وہ پانی ان پہ اک طوفان لاتی ہے
 غرض رکتے نہیں ہرگز خدا کے کام بندوں سے
 بھلا خالق کے آگے خلق کی کچھ پیش جاتی ہے (درشین صفحہ ۳)

پس میں تمہیں کہتا ہوں کہ اگر تم اللہ کی نصرت چاہتے ہو۔ اسے سپر بنانا چاہتے ہو تو جس نے
 سپر بنانے کا نمونہ اپنی عملی زندگی سے دکھایا ہے اس کے نیچے آؤ اور اس کے رنگ میں رنگین ہو جاؤ۔
 پھر فرمایا **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا** (ال عمران: ۱۰۴) سب کے سب مل کر حبل اللہ کو پکڑ لو۔ مجھے
 نہایت رنج اور قلق سے کہنا پڑتا ہے کہ اس حکم پر عملدرآمد نہیں کیا جاتا۔ حبل اللہ یعنی قرآن کریم کو
 مضبوط پکڑنا چاہئے تھا مگر اس کی پروا نہیں کی جاتی۔ تمہاری کوئی حرکت اور سکون کوئی رسم اور پابندی
 اس رسن سے الگ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو سپر بنانے کے واسطے اس کی رضا مندی کی راہوں کو معلوم کرنا
 از بس ضروری تھا اور وہ بیان ہوئی ہیں قرآن کریم میں اس لئے اس کو مضبوط پکڑنے کا ارشاد ہوا
 مگر بد قسمتی سے ہزاروں بد قسمت تو ایسے ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک بار پڑھ لیا ہے اور بہت سے
 بد نصیب ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف کا عطر فلاں مثنوی یا کتاب میں ہے پڑھ لیا کرتے
 ہیں اور اکثر ایسے بھی ہیں جو صرف الفاظ تک محدود ہیں ان کے نزدیک قرآن کریم کے مطالب عالیہ
 پر اطلاع ضروری شئی نہیں چہ جائیکہ اس پر عمل۔

میں ایک شخص کو قرآن پڑھاتا تھا اس نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ میں نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ تو
 یہی جواب دیا کہ عمل تو ہوتا نہیں ہے پڑھ کر ملزم کیوں ہوں۔ وہ قرآن جس کے لئے دنیا میں ہزاروں
 آدمیوں کے خون بہائے گئے جس کی تعلیم کی اشاعت اور تبلیغ میں ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کو
 خطرناک مصائب اور مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑا۔ وطن، احباب اور عزیزوں سے الگ ہونا پڑا۔ اس
 قرآن کی طرف اب توجہ نہیں رہی۔ ہاں پھر وہ قرآن جس نے دنیا میں ایک متروک اور الگ پڑی
 ہوئی قوم کو دنیا کا فاتح اور حکمران بنا دیا اب اس کو غیر ضروری شئی سمجھا جاتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں
 کہ اگر تمام دکھوں اور مصیبتوں کو جو قرآن کے پہنچانے میں نبی کریم اور آپ کے جاں نثار صحابہ کو

برداشت کرنی پڑی تھیں بیان کیا جاوے تو دل بل جائیں بدن پر لرزہ پڑ جاوے۔ مگر اپنے دلوں میں ٹٹول کر دیکھو کہ تم نے اس کی کیا قدر کی؟ کس قدر محنت اور اس کے پڑھنے پھر سمجھنے اور دستور العمل بنانے کے واسطے کی۔ جس قدر روپیہ انگریزی تعلیم کے حاصل کرنے کے واسطے خرچ کرتے ہو اس کا سوواں حصہ بھی تو قرآن پر خرچ نہیں کیا۔ یاد رکھو جب تک قرآن پر عمل نہ ہوگا یہ ادبار اور تنزل جو مسلمانوں کے شامل حال ہے ہرگز دور نہ ہوگا مگر قرآن پر عمل کرنے کے واسطے قرآن کا فہم ضروری ہے اور فہم بدوں تقویٰ کے آ نہیں سکتا اور تقویٰ ہو نہیں سکتا جب تک مجاہدہ نہ ہو۔ مجاہدہ ممکن نہیں جب تک اخلاق فاضلہ نہ ہوں اور اخلاق فاضلہ کے حاصل کرنے کے واسطے امام کے حضور رہنا ضروری ہے۔ پس یہاں آؤ اور امام کے حضور رہ کر اس بات کے حاصل کرنے کی فکر کرو جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو مبعوث فرمایا ہے۔

میں نے سارا قرآن شریف ماں کی گود میں پڑھا ہے۔ ایک سبق کی بابت تو مجھے یاد ہے کہ والد صاحب نے مسجد کی چھت پر دیا تھا اس کے بعد کسی اور سبق کی خبر نہیں ہے۔ اس وقت کا پڑھا ہوا اب دن میں کئی بار اور کئی رنگوں میں پڑھتا ہوں۔ قرآن ہی میری غذا اور میری روح کی فرحت کا ذریعہ ہے باوجود اس کے کہ دن میں کئی بار پڑھتا ہوں لیکن میری روح کبھی سیر نہیں ہوتی۔

غرض قرآن کریم کو اپنا دستور العمل بناؤ کہ یہ شفا ہے، رحمت ہے، نور ہے، ہدایت ہے۔ اور پھر خدا فرماتا ہے **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا** (ال عمران: ۱۰۴) میری رضا کا طریق مجھے سپر بنانے کا ذریعہ یہی ہے کہ قرآن کریم کو اپنا دستور العمل بناؤ اور اس کا نمونہ اس وجود میں دیکھو جو میری سپر کے نیچے ہے۔ اُس کے خلاف چال نہ چلو اور قرآن کریم کی خلاف ورزی نہ کرو اور اس کی ایک ہی راہ ہے کہ قرآن کریم کا علم پیدا کرو اور علم سعی اور مجاہدہ پر منحصر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا** (العنکبوت: ۷۰) جو لوگ ہم میں ہو کر مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہوں کی طرف ہدایت کر دیتے ہیں۔

ایک بار وزیر آباد کے ریلوے سٹیشن پر ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ قرآن کیونکر پڑھیں صرف نحو تو آتی نہیں۔ میں نے کہا صرف ونحو کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن شریف میں قال پہلے

سے موجود ہے بنانا نہیں پڑتا۔ پھر صرف کی کیا ضرورت ہے۔ رہی نحو قرآن شریف میں زیریں زبریں پہلے سے موجود ہیں۔ پھر اس نے گھبرا کر کہا کہ اچھا معانی بدیع کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ وہ امر زائد ہے۔ جب وہ اس سے بھی رکا تو کہنے لگا کم از کم لغت کی تو ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ اگر تم اپنی ہی بولی پر ذرا غور کر کے قرآن شریف پڑھو تو لغت کی بھی بڑی ضرورت نہیں ہے۔ تم کوئی آیت قرآن شریف کی پڑھو میں تمہیں ترجمہ کر کے دکھا دیتا ہوں۔ خدا کی قدرت ہے اس نے یہ آیت پڑھی قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (الاحزاب: ۷۱) میں نے کہا کیسی صاف بات ہے گلاؤ گل سدھی۔ خیر یہ تو اس وقت کی بات تھی پھر میں نے غور کیا ہے کہ قرآن شریف کے الفاظ دو اور تین ہزار کے درمیان ہیں۔ اگر ہم مسلمانی زبان مثلاً ان شاء اللہ۔ لاحول ولا قوة الا باللہ وغیرہ اور ان کا ترجمہ سیکھ لیں تو قرآن شریف کے دستور العمل بنانے کا سارا حصہ حل ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے دیکھا ہے کہ دعا مانگ کر تقوی اللہ کے لئے قرآن شریف کھولے اور نیک صحبت اختیار کر لے اور پھر ایک دور قرآن شریف کا ختم کرے۔ جو مشکلات رہ جائیں ان کو نوٹ کر لے۔ پھر دوسری مرتبہ بیوی کو سنائے۔ اس مرتبہ میں وہ مقامات جو حل طلب باقی تھے ان میں سے کئی ایک حل ہو جائیں گے پھر تیسری مرتبہ اور عزیزوں کو بھی شریک کر لے چوتھی مرتبہ کا ذمہ وار خدا ہے۔ اس مرتبہ قرآن شریف بالکل آ جاوے گا۔ یہ میرا تجربہ کردہ نسخہ ہے۔

پھر اسی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَ اذْكُرْ وَاِنْعَمْتَ اللّٰهُ عَلَیْكَ** (ال عمران: ۱۰۴) اس انعام الہی کو یاد کرو جو تم پر ہوا ہے تم باہم دشمن تھے تمہارے دلوں میں ایسی الفت ڈالی کہ تم باہم بھائی بھائی ہو گئے۔ رات کو دشمن سوئے تھے صبح کو اخوان بن کر اٹھے کیسا فضل ہے۔ یاد رکھو جب کوئی مامور من اللہ آتا ہے اس وقت ایک نئی برادری پیدا ہوتی ہے نئی اولاد پیدا ہوتی ہے اور نئے تعلقات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس برادری کا نام اخوان رکھتا ہے سارے عرب میں قریش ایک معزز اور سربرآوردہ قوم تھی اور قریش میں بنو ہاشم کا خاندان اور بنو ہاشم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانا ممتاز اور معزز تھا۔ پھر دنیا میں حقارت سے دیکھی ہوئی قوم غلاموں کی ہے۔ مگر دیکھو کہ اسلامی اخوت نے کیا کرشمہ دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن زینب کا نکاح زید بن حارث

سے کر دیا گیا تاکہ دنیا کو بتایا جاوے کہ اخوت اس کا نام ہے جو اسلام نے قائم کی ہے۔ بلال کا رشتہ قریش میں کرا دیا گیا۔ حسان کا رشتہ ماریہ کی بہن سے کرا دیا۔ غرض یہ ایک نمونہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا جو اللہ تعالیٰ کے انعام میں سے تھا۔ یہ سچی بات ہے کہ جب تک اخوت کا رنگ پیدا نہ ہو سپر بنانے کے ایک حصہ سے محروم رہتا ہے۔ پس یاد رکھو کہ جماعت پر اللہ تعالیٰ کا فضل اسی وقت ہوتا ہے جب اخوت کا مرتبہ پیدا کریں وہ اپنے چھوٹوں کی جو غربا ہیں خبر گیری کریں اور کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ اب اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ نمونہ اللہ کو سپر بنانے کا حضرت مرزا صاحب کے وجود میں دکھایا ہے اب وہ وقت پھر آیا ہے کہ تم تقویٰ اختیار کرو اور اس کے لئے ضروری ہے کہ حبل اللہ یعنی قرآن شریف کو مضبوط پکڑو۔ تمہارا ہر فعل ہر حرکت و سکون قرآن شریف کے احکام کے نیچے ہو۔ تم باہم ایک برادری پیدا کرو وہ جو دولت مند اور متمول ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم کا شکر یوں کریں کہ اپنے محتاج اور غریب بھائیوں کو حقیر نہ سمجھیں ان کی مدد کریں کوئی قومی تفاخر تم میں ایسا نہ ہو جو دوسروں کو ذلیل سمجھنے کا محرک ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حضور مکرم و معظم متقی ہی ہیں۔ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ (الحجرات: ۱۴) حضرت مرزا صاحب کی شرائط بیعت میں یہ بات موجود ہے کہ تمام مخلوقات سے عموماً اور اپنے سب بھائیوں سے خصوصاً پیار کرنا چاہئے۔ اب ہم سب مرزا صاحب میں ہو کر معزز و مکرم ہیں اور ہوں گے۔ ان شاء اللہ۔

پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس احسان اور انعام کا ذکر یوں فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ (ال عمران: ۱۰۴) تم ایک آگ کے گڑھے پر پہنچ چکے تھے ہم نے تم کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کو اس لئے بیان فرماتا ہے کہ تم بھی اس راہ کو اختیار کرو۔ جب قرآن دنیا میں نازل ہوا اس وقت عظیم الشان اختلاف موجود تھا۔ قرآن نے آ کر وحدت کی روح پھونکی۔ اب اس وقت بھی بہت بڑا اختلاف پھیل رہا ہے۔ یہ اختلاف بھی قرآن ہی سے دور ہوگا۔ پس اس اختلاف کو مٹانے کے لئے علوم القرآن کی ضرورت ہے جو احمد کے غلام پر نازل ہو رہے ہیں اور اس کا خدا کی طرف سے ہونا تم دیکھ چکے ہو کہ وہ کیونکر مخالفوں کے حملہ سے محفوظ رہتا ہے جس سے ثابت ہو گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سپر میں ہے۔ پس خلاصہ کلام یہ ہے کہ تم قرآن کو اپنا دستور العمل بناؤ اور اس کا نمونہ احمد

کے غلام کے وجود میں دیکھو جو خدا کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہے اس کے عملدرآمد اور قرآن شریف کی ساری تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کو دو نکتوں پر حل کر دیا ہے۔ تعظیم لامر اللہ اور شفقت علی خلق اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرو گے تو تم بھی معظّم ہو جاؤ گے۔ مخلوق الہی پر شفقت کرو گے تم پر بھی رحم کیا جائے گا۔ پس ہر کاروبار میں وہی راہ اختیار کرو جس کا وجود سپر ہو کر دکھائی دے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور تم کو توفیق دے۔ قرآن شریف ہمارا دستور العمل ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کو سپر بنائیں۔ ہم سچی اخوت اور برادری کو قائم کریں اور ہر قسم کی امداد اپنے غریب بھائیوں کی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنا فضل کرے اور ہم کو توفیق دے کہ اس کی رضامندی حاصل کریں۔ آمین ۴



۲ الحکم ۱۷ جنوری ۱۹۰۱ء صفحہ ۶۵

۱ الحکم ۱۰ جنوری ۱۹۰۱ء صفحہ ۱۴، ۱۵

۴ الحکم ۳۱ جنوری ۱۹۰۱ء صفحہ ۷، ۷

۳ الحکم ۲۴ جنوری ۱۹۰۱ء صفحہ ۷، ۷

خرید الہی

دنیا میں بیوپار لین دین ایک ایسی چیز بنائی گئی ہے جس کے مبادلہ سے بڑے بڑے فائدے پہنچتے ہیں۔ دنیا کا تمدن اسی پر موقوف ہے۔ پولیٹیکل اکانومی کے پڑھنے والے تقسیم محنت کے مسئلہ سے خوب واقف ہیں اور ایجادات اور اختراعات کی تاریخ پر غور کرنے والے خوب جانتے ہیں کہ تبادلہ اشیاء کی صورت کس طرح پر تھی اور کیوں کر انسان اپنی ضرورت کی اشیاء باہم مبادلہ سے حاصل کرتا تھا اور پھر سکھ کا رواج کیونکر ہوا۔ مجھے نہ پولیٹیکل اکانومی کے مسئلہ تقسیم محنت کو بیان کرنا ہے اور نہ ایجادات کے ذیل میں ایجاد سکھ کی تاریخ کو بتانا مقصود ہے بلکہ مجھے اس بیان سے سننے والوں کو ایک اور طرف لے جانا مطلوب ہے۔

ہاں تو یہ ظاہر بات ہے کہ دنیا کا تمدن اسی بیوپار اور خرید و فروخت پر موقوف ہے۔ زمیندار اناج بوتا ہے اور اپنی ضروریات کو اناج بیچ کر پورا کرتا ہے۔ اسی طرح ہر حرفہ اور پیشہ کا انسان جو کچھ اپنے طریق پر کماتا ہے اس سے اپنے آرام کی اور چیزیں خرید کر لیتا ہے اور یہ ایک ایسا لمبا سلسلہ جاری ہے لیکن انسان اس بیوپار میں کبھی کبھی غلطیاں بھی کر لیتا ہے اور دھوکا کھا جاتا ہے۔ تاجر بنتا ہے مگر بعض اوقات اسامیاں تباہ ہو جاتی ہیں اور ایسے ایسے اسباب پیش آ جاتے ہیں جن سے دیوالیہ ہو جاتا ہے اور بہت سے طریق اختیار کرتا ہے کیوں؟ منشاء صرف یہ ہے کہ آرام اور آسائش سے زندگی بسر کرے۔ انسان فطرۃً خوشحالی چاہتا ہے۔ بچپن سے جوانی، جوانی سے ادھیڑ اور پھر بڑھاپے تک ہر حالت میں اس کے مد نظر آرام ہے۔ جب ہم انسان کی اس فطرت اور اس بناوٹ پر غور کرتے ہیں تو ان احمقوں پر بہت ہی افسوس اور معاً رحم بھی آتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ انسان کو ابدی راحت، دائمی سکھ یا مکتی نہیں مل سکتی۔ میں تو حیران رہ رہ جاتا ہوں جب ایک طرف انسان کی اس فطرتی خواہش سکھ پر غور کرتا ہوں اور دوسری طرف ان وید کے پرستاروں کے اس اصول پر نظر کرتا ہوں۔ غرض انسان ہزاروں ہزار فکر کرتا اور لاکھوں لاکھ وسائل تلاش کرتا مگر منشاء صرف آرام ہوتا

ہے۔ نوکری کرتا اور عجز و نیاز سے افسروں کی فرمانبرداری کرتا صرف اس لئے کہ سکھ ملے۔

جب کہ یہ حال ہے تو انسان مرکب ہے دو چیزوں سے۔ جسم اور روح سے۔ جسمانی سکھ چاہتا ہے تو یہ کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ روح آرام کی خواہشمند نہ ہو۔ ہے اور ضرور ہے اور جیسے تبادلہ اشیاء کا سلسلہ ہم دیکھتے ہیں اور بیوپار اور لین دین دنیا کے تمدن کے لئے ایک ضروری شے ہے اسی اصول کو مدنظر رکھ کر کیونکہ یہ تو ہر ایک انسان کے مشاہدہ، نہ صرف مشاہدہ بلکہ تجربہ میں آئی ہوئی بات ہے۔

میں ایک اور بات تمہیں سناتا ہوں۔ **إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ (التوبة: ۱۱۱)** بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لئے ہیں (کس چیز کے بدلہ میں) ان کے جانوں اور مالوں کے معاوضہ میں ان کو جنت دی ہے۔ یہ خرید الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تجارت اللہ تعالیٰ کا بیوپار مومنوں کے ساتھ ہے۔ یہ اس کا کس قدر فضل اور کرم ہے کہ جس چیز کو وہ بدوں کسی قسم کا تبادلہ یا معاوضہ دینے کے بھی مالک اور مختار تھا کہ جس طرح چاہے اس سے کام لے پھر بھی اس چیز کا معاوضہ دیا ہے۔ اللہ اللہ ایسا کریم و رحیم محسن آقا!!!

پس یاد رکھو کہ مومن بننے کے ساتھ ہی مومن کہلاتے ہی اپنی جان و مال جو عارضی طور پر اپنی کہلاتی ہے بیچ دی جاتی ہے۔ اس لئے کہ انسان اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب سکھ کو چاہتا ہے اور وہ جنت میں حاصل ہوتے ہیں جس کا ظل اور پر تو اسی دنیا سے شروع ہوتا ہے۔ انفسہم کے کہنے سے نہ اپنے دل پر نہ آنکھ پر نہ زبان پر غرض اپنے جسم کے کسی حصہ اور اعضاء پر اپنا اب کوئی اختیار باقی نہیں رہتا اور نہ رہنا چاہیے کیونکہ جب ہم روزمرہ اپنے تجربہ میں اس امر کو دیکھتے ہیں کہ جب کوئی چیز کسی سے خریدتے ہیں تو خریدنے کے ساتھ ہی بیچنے والے کا اپنا کوئی اختیار اور تصرف اس پر نہیں رہتا۔ پس جب ہم نے ایمان کا دعویٰ کیا اور مومن بنے تو اس کے ساتھ ہی اپنا جان و مال خدا کے ہاتھ بیچ ڈالا تو اب اس پر ہمارا اپنا تصرف کیسا؟

اسلام کی حقیقت یہی ہے کہ انسان اپنی ساری قوتوں اور طاقتوں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اپنی گردن فرمانبرداری کے لئے رکھ دے۔ اپنی خواہش اپنا ارادہ کچھ باقی نہ رہے اور یہی مومن ہونے کے معنی ہیں۔

اگر مسلمان مسلمان کہلا کر ایمان باللہ کا دعویٰ کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام کا جو اپنی گردن پر نہیں رکھتا اور اپنی خواہش اور ارادے کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ کی مرضی اور حکم کا پابند اور مطیع نہیں ہوتا تو اس کو اپنے اندر غور کرنا چاہیے کہ اسلام اور ایمان کے لوازم سے اس نے کیا لیا اور اس بات کا معلوم کرنا کہ آیا میں نے خدا تعالیٰ کے ہاتھ اپنی جان اور مال کو بیچ دیا ہے یا نہیں بڑی صفائی کے ساتھ ہو سکتا ہے اور بہت ہی آسان ہے۔ اگر وہ اپنے ارادوں، اپنی خواہشوں، اپنے دوستوں، اپنی ملکی رسم و رواج قومی عادات اور شعائر اللہ کو مقدم کرتا ہے اور الہی قوانین اور فرامین کی اتنی بڑی پروا نہیں کرتا کہ رسم و رواج یا سوسائٹی اور برادری کے اصولوں پر اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مقدم کر لے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے کچھ بھی نہیں بیچا یا کہو کہ مومن اور مسلمان کہلانے کے ساتھ اپنی جان و مال کو بیچ کر بھی اس پر ناجائز تصرف کیا ہے۔ پس یہ بہت خطرناک اور نازک مقام ہے۔ مسلمان یا مومن باللہ کہلانا آسان ہو تو ہو مگر بننا کارے دارد۔ مسلمان بننے کا نمونہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھو۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْنَا قَالَ اَسْلَمْنَا دَقَالَ اَسْلَمْنَا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (البقرة: ۱۳۲)۔ پھر مسلمان بننے کا کامل نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مشاہدہ کرو۔

غرض مومنوں کے جان و مال اللہ تعالیٰ نے خرید لئے ہیں اور اس کے معاوضہ میں وہ فوز عظیم اور وہ عظیم الشان ابدی راحت اور آسائش کا مقام اس نے دیا ہے جس کو جنت کہتے ہیں۔ اب جب کہ مومن اپنے ایمان کے اقرار کے ساتھ اپنے جان اور مال بیچ چکے تو پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان کے خرچ کرنے سے مضائقہ کیا؟ مومن کو اگر اپنی جان تک دینے کی بھی نوبت آجائے تو اسے دریغ نہیں اس لئے کہ وہ اس پر اپنا اختیار ہی نہیں رکھتا وہ تو اسے دے چکا یہاں تک کہ **يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ** (التوبة: ۱۱۱)۔ اگر یہ موقع بھی ان کو پیش آجائے کہ ان لوگوں کے مقابلہ میں جوان سے لڑتے ہیں لڑنا پڑے تو وہ ہرگز نہیں جھکتے۔

یہ وعدہ حق ہے۔ اس کا پتا توریت اور انجیل سے بھی ملتا ہے اور قرآن میں بھی موجود ہے اور یہ

تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون وفادار اور صادق الوعد ہو سکتا ہے۔ پس جب کہ یہ بات ہے تو پھر تم اپنی اسی بیع پر خوش ہو جاؤ اور یہی تو وہ اعلیٰ درجہ کی کامیابی ہے۔

لوگوں نے بہت بڑی غلطی کھائی ہے اسلامی دفاعی جنگوں کے راز کے سمجھنے میں۔ اور انہوں نے اسلام پر اعتراض کیا کہ وہ دین کے لئے تلوار اٹھانے کا حکم دیتا ہے۔ حالانکہ اسلام کے لفظ میں صلح اور آشتی اور سلامتی کا مفہوم اور منطوق موجود ہے اور اسلام نے پکار پکار کر کہا ہے لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (البقرة: ۲۵۷) اور قرآن کریم میں ایک بھی آیت اس مضمون کی نہیں ہے کہ تم غیر مذہب والوں سے مسلمان بنانے کے لئے لڑو۔ پھر خدا تعالیٰ جانے یہ لوگ کیوں ظلم اور زور کی راہ سے اسلام پر افترا کرتے ہوئے خدا سے نہیں ڈرتے۔ مسلمان کی تعریف ہمارے سید و مولیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی ہے کہ مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے عام لوگ عامۃً اور مسلمان خاصۃً محفوظ رہیں۔ غرض یہ افتراء ہے جو مسلمانوں پر کیا جاتا ہے۔ ہاں تو بات یہ تھی کہ یہ سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی وفادار نہیں ہے اور خدا تعالیٰ سے معاملہ کرنے سے بڑھ کر کوئی فوز عظیم نہیں ہے۔ پاس فاز سے ہی بگڑ کر بنا ہے۔ اب دیکھ لو کہ ایک مڈل پاس کرنے میں کم از کم سات آٹھ سو روپیہ خرچ ہوتا ہے اور عمر کا ایک بہت بڑا حصہ اور قیمتی حصہ صرف ہو جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل دیکھو قرآن کے لئے کس قدر کوشش کی جاتی ہے اور کتنا وقت اس کو دیا جاتا ہے۔ بعض وقت میں نے دیکھا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کو جانتا ہے اور سنتا ہے مگر جب نفس جوش کرتا ہے تو پھر کسی کی بھی نہیں سنتا اور اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتا کہ میں تو مسلمان کہلانے کے ساتھ ہی اپنی جان اور مال سے بے دخل ہو چکا ہوں اور یہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ بیٹھا ہوں۔ پھر نفس کی خواہش اور آرزو کے پورا کرنے میں اپنے مال اور جان کا خرچ کرنا کیوں روا رکھتا ہوں۔

مومن کا تو ہر فعل اللہ ہی کے حکم کے تابع ہونا چاہیے یہاں تک کہ اگر وہ کھاوے تو صرف اس لئے کہ خدا تعالیٰ نے کلو ا کا حکم دیا ہے، پیتا ہے تو اس لئے کہ اشربوا کا حکم ہے، بیوی سے معاشرت کرتا ہے تو صرف اس حکم کی تعمیل کی خاطر کہ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (النساء: ۲۰) کہا ہے۔ پس جب کبھی وہ اپنے مال اور جان میں تصرف کرے تو جناب الہی کی اجازت کو تو دیکھ لے۔

غرض مومن کا فرض ہے کہ اس کا ہر کام یہاں تک کہ کھانا پینا پہنا سب کچھ اللہ ہی کے لئے ہو۔ کسی قسم کا تصرف اپنے جان و مال میں بدوں اجازت الہی نہ کرے جس کے ہاتھ یہ سب کچھ بیچ چکا ہے۔ جب جب کوئی آدمی ہمارے امام علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو مجھے سخت حیرت ہوتی اور بار بار میرا دل کانپ جاتا، جب میں یہ فقرہ سنتا ہوں کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔ امام کے ہاتھ پر نہیں بلکہ خدا کے ہاتھ پر یہ عہد کیا جاتا ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم کروں گا۔ اس کے صاف معنی یہی ہیں کہ ہر معاملہ میں زندگی کی رفتار اور ہر منزل میں مقصود بالذات دین ہوگا اور دنیا کو دین کے ماتحت رکھوں گا۔ اپنے دل، زبان، جان، مال۔ غرض کسی چیز پر میرا تصرف نہ ہوگا بلکہ آپ کا ہوگا۔ دیکھو بیعت کا مفہوم یہی ہے۔ اس کے معنی بھی بیچ دینے کے ہی ہیں۔ اس کو سوچ سمجھ کر اختیار کرو۔ جب تم نے اقرار کر لیا کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں دین اور دنیا کا مقابلہ ہو اور تم کہہ دو کہ یہ نہیں ہو سکتا برادری کے رسم و رواج اور قومی عادات اس کی اجازت نہیں دیتے ایسا کرنا ایسا کہنا، میں بیچ کہتا ہوں احکم الحاکمین خدا کے حضور بہت خطرناک ہے۔

اب اللہ تعالیٰ مومنوں کی تصریح فرماتا ہے۔ ایک صفت ان کی ہوتی ہے التائبون یہ ان کی پہلی صفت ہے کہ جس طرح نفس ان کو کشاں کشاں لئے جاتا تھا اور جدھر جھکے جاتے تھے اب اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں۔ اپنی خواہشوں اور ارادوں کو خدا تعالیٰ کے حکم اور تصرف کے نیچے کر دیتے ہیں۔ کوئی دکھ، تکلیف اور مشکل اس کے قدم کو ڈمگانہ سکے بلکہ جیسا کہ شرائط بیعت میں درج ہے رنج میں، راحت میں، عسر میں، یسر میں قدم آگے ہی بڑھاتا جاوے۔ ادھر چلنا بعض اوقات نفسانی اغراض اور خواہشوں کی بنا پر بھی ہوتا ہے اس لئے دوسری صفت ان مومنوں کی یہ ہے العابدون۔ یہ توبہ، یہ رجوع اور انابت ذاتی اغراض اور مقاصد کے نیچے نہ ہو بلکہ منشاء اور مقصد صرف یہ ہو کہ خدا کی فرمانبرداری کی راہ ملے۔ عبودیت کی اصل غرض کو پورا کریں۔ بعض لوگ اپنے طرز و طریق پر نیکیاں تجویز کر لیتے ہیں مگر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نیکی نہیں ہو سکتی جب تک صرف اللہ ہی کے لئے نہ ہو اور اللہ کے بتائے ہوئے طرز پر جس کا نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے نہ ہو۔

پھر ان کی ایک اور صفت ہوتی ہے کہ الحامدون۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والے ہر حال

میں راضی برضا رہنے والے خدا تعالیٰ کے ساتھ ان کی پوری صلح ہوتی ہے۔ کوئی مصیبت، کوئی دکھ یا تکلیف ان کو اپنے مولیٰ کریم پر بدن نہیں کر سکتی اور ان کی ایک اور صفت یہ ہوتی ہے السائقون مطیع اور فرمانبردار یعنی اگر اعمال خالصہ اللہ ہی کے واسطے ہیں۔ ترک فعل بھی اللہ ہی کے واسطے ہو۔ المراد کعون نفسانی خواہشوں کو چھوڑ کر اللہ ہی کے لئے جھکنے والے ہوں اور پھر جھکنے والے بھی اس حد تک کہ الساجدون کے مرتبہ تک پہنچ جاؤ۔ سجدہ میں زمین پر سر رکھ دیتا ہے۔ اب اس سے آگے کہاں جاوے۔ عبودیت کی انتہاء ہی سجدہ ہے۔ جس قدر سجدہ میں جھکتا ہے اور تذلل اور انکساری اختیار کرتا ہے اسی قدر روح بلند پرواز کرتی ہے۔ قالب کو دیکھو جہاں جہاں سے گرا ہوا ہے وہاں وہاں سے اس کو اونچائی نصیب ہوتی ہے۔

سجدہ سے بڑھ کر اور کوئی جگہ نہیں۔ گویا بتانا ہے کہ تمام نفسانی خواہشوں سے الگ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا پورا عبد ہو گیا یہاں تک تو انسان کی اپنی ذاتی اصلاح اور درستی تھی مگر وہ انسان انسان کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسروں کو فائدہ نہ پہنچاوے۔ اسلام نے ایمان کے دو بڑے حصے اور شعبے قرار دیئے ہیں جن میں ایک تعظیم لامر اللہ اور دوسرا شفقت علی خلق اللہ۔ اس لئے دوسری شاخ کی سرسبزی اور تازگی کے لئے فرمایا **الْمَرْوُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ** (التوبة: ۱۱۲) یعنی اس کمال کے بعد وہ مکمل ہونے کا درجہ پاتے ہیں اور اس مقام تک پہنچتے ہیں جہاں وہ دوسروں کو تمام بھلی باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور کامل ہونے کے بعد ملتا ہے ورنہ ایک کامل ناپاک دوسروں کو پاک بنانے کی کیا تعلیم دے سکتا ہے۔ حکم کس بات کا بالمعروف وہ پسندیدہ باتیں جن کو جناب الہی نے پسند کر لیا ہے۔ پھر اس پر بھی بس نہ کرو آگے بڑھو۔ انسان کو اپنی فطرت، عادات، رسم و رواج کے خلاف کرنا بڑا ہی ناگوار ہوتا ہے۔ بڑے بڑے فرمانبرداروں کے مدعیوں کو جب ایک بال کے کٹوانے کے لئے کہا گیا تو بہت مشکل ہوا اور ان کو قسم قسم کے عذر کرنے پڑے۔

چند روز کا تذکرہ ہے کہ ایک شخص نے لڑکی کے نکاح کے متعلق مشورہ پوچھا اور کہا چونکہ حضرت اقدس سے تعلق ہے بہتر ہے یہاں ہی ہو۔ مگر میں نے کہا کہ اب پھر مگر کے بعد تو شرط کا لحاظ کیا جاوے گا، پھر مگر کیا؟ باوجود روکنے کے کہہ دیا کہ جوان ہو۔ میں نے کہا کہ اگر میری لڑکی ہو اور مرزا صاحب اس کو سو برس کے بڈھے سے بیاہنا چاہیں تو ہرگز عذر نہ ہو۔

پس دوسرے کو کسی کام سے روکنا بڑا بھاری کام ہے۔ مومن جب آپ کامل ہو تو اس کو لازم ہے کہ دوسرے کی تکمیل کا فکر کرے اور یہ تب ہوتا ہے کہ اچھی باتوں کو بتایا اور بری باتوں سے روکا جاوے۔ یہ دونوں امر یوں تو بہت مشکل ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق رفیق حال ہو تو بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ مجھے خود اس امر کا تجربہ ہے اور میں تو ہر روز دیکھتا ہوں کہ جب جب جس جس قدر کوئی اللہ تعالیٰ کا متبع ہوتا جاتا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ اس کے متبع بنا دیتا ہے۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (الرحمن: ۶۱)۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک ممتاز انسان تھے اور اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت کا نمونہ تھے اس لئے آپ کو جو جماعت ملی وہ آپ کی اطاعت میں محو اور از خود رفتہ تھی اور ایک ممتاز مخلوق تھی۔

اس وقت ایک زندہ نمونہ اس کا موجود ہے۔ امام کی اطاعت سے روکنے والے کس قدر موجود ہیں اور وہ کن کن حیلوں اور تدبیروں سے لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں مگر امام کو یا تون من کل فج عمیق (تذکرہ صفحہ ۳۹) کی بشارت اس وقت سے مل چکی ہے جب ابھی اسے کوئی جانتا بھی نہ تھا اور اب تم خود اسے دیکھ رہے ہو کہ کس طرح پر یہ الہام پورا ہو رہا ہے اور ہر حصہ ملک سے لوگ چلے آتے ہیں۔ خلاصۃ الکلام وَالْحٰفِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ (التوبة: ۱۱۲) اللہ تعالیٰ نے جو اوامر اور نواہی کی حد بندی کر دی ہے اس کی نگہداشت کرتے ہیں اس کو نہیں توڑتے۔ شیطانی وسوسوں اور دھوکوں سے بچو اور خبردار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ایسے مومنوں کو جو حدود اللہ کی حفاظت کرتے ہیں اور مندرجہ بالا صفات اپنے اندر پیدا کرتے ہیں خوشخبری دے دو۔ پس یاد رکھو کہ حفظ حدود اللہ اس وقت ہو سکتا ہے جب حدود اللہ کا علم ہو اور یہ نہیں آ سکتا جب تک قرآن نہ آوے اور قرآن کا فہم منحصر ہے تقویٰ اور مجاہدہ پر۔ خدا تعالیٰ تمہیں اور مجھے توفیق دے کہ ہم ان حدود سے واقف ہو جائیں اور پھر ان کی حفاظت کریں تجاؤز نہ کریں۔ آمین



۱۔ الحکم ۱۰ مارچ ۱۹۰۱ء صفحہ ۱۲ تا ۱۰

۲۔ الحکم ۷ مارچ ۱۹۰۱ء صفحہ ۶ تا ۵

سورة جمعہ پر وعظ

(تقریر فرمودہ ۲۸ دسمبر ۱۹۰۱ء بعد نماز ظہر و عصر)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝۱ یُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ
 الْمَلِکِ الْقُدُّوسِ الْعَزِیْزِ الْحَکِیْمِ ۝۲ هُوَ الَّذِیْ بَعَثَ فِی الْاُمَمِیْنَ رَسُوْلًا مِنْهُمْ
 یَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِہٖ وَیُزَکِّیْہُمْ وَیُعَلِّمُہُمْ الْکِتٰبَ وَالْحِکْمَةَ ۗ وَاِنْ کَانُوْا مِنْ قَبْلُ
 لَفِی ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۝۳ وَاٰخِرِیْنَ مِنْهُمْ لَمَّا یَدْحُقُوْا بِہُمْ ۗ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ ۝۴
 ذٰلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُوْتِیْہِ مَنْ یَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ ۝۵ مَثَلُ الَّذِیْنَ
 حَمَلُوْا التَّوْرٰتَ ثُمَّ لَمْ یَحْمِلُوْہَا کَمَثَلِ الْاِحْمَارِ یَحْمِلُ اَسْفَارًا ۗ
 بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِیْنَ کَذَّبُوْا بِآیٰتِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ
 الظّٰلِمِیْنَ ۝۶ قُلْ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ ہَادَوْا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنْتُمْ اَوْلِیَآءُ لِلّٰهِ مِنْ
 دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَتَّوْا الْمَوْتَ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝۷ وَلَا یَتَمَنَّوْنَہٗ اَبَدًا ۗ
 قَدَّمَتْ اَیْدِیْہُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ بِالظّٰلِمِیْنَ ۝۸ قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِیْ تَفَرَّقُوْنَ مِنْہٗ
 فَاِنَّہٗ مُلْقِیْکُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلَیْ عِلْمِ الْغَیْبِ وَالشَّہَادَۃِ فِیَنْبِئْکُمْ بِمَا کُنْتُمْ
 تَعْمَلُوْنَ ۝۹ (الجمعة : ۹ تا ۱)

یہ ایک سورہ شریف ہے اور ایسی مہتمم بالشان سورہ ہے کہ مسلمانوں میں جمعہ کے دن پہلی رکعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانہ تک سنائی جاتی تھی اور اب تک بھی پڑھی جاتی ہے۔ اس سے تم اندازہ کر لو کہ کس قدر مسلمان گزرے ہیں اور آج تک کس قدر جمعہ پڑھے گئے ہیں اور پھر اس سورہ شریف کو پڑھ کر نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کا اتباع کیا اور اس سورہ کو جمعہ کے دن خصوصاً پڑھ کر لوگوں کو آگاہ کیا ہے پھر جمعہ ہی کو نہیں بلکہ

احادیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم جمعرات کو بھی عشاء کی پہلی رکعت میں اس کو پڑھا کرتے تھے۔ پس ہر ہفتہ میں دو بار جہری قراءت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورۃ کو پہنچایا ہے اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ ہمارے سید و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر اہتمام اس سورۃ کی تبلیغ میں تھا۔ پس مسلمانوں کو لازم ہے کہ وہ اس سورہ شریف پر بہت بڑی غور و فکر کریں اور میں تمہیں پکار کر کہتا ہوں کہ اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ۔

میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس التزام اور اہتمام پر نظر کر کے اس سورہ شریف پر خاص غور کی ہے یوں تو قرآن شریف میری غذا اور میری تسلی اور اطمینان کا سچا ذریعہ ہے اور میں جب تک ہر روز اس کو کئی مختلف رنگ میں پڑھ نہیں لیتا مجھے آرام اور چین نہیں آتا۔ بچپن ہی سے میری طبیعت خدا نے قرآن شریف پر تدبیر کرنے والی رکھی ہے اور میں ہمیشہ دیر دیر تک قرآن شریف کے عجائبات اور بلند پروازیوں پر غور کیا کرتا ہوں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس قدر اہتمام اس کی تبلیغ میں کیا ہے اس نے مجھے اس سورہ شریف پر بہت ہی زیادہ غور اور فکر کرنے کی طرف متوجہ کیا اور میں نے دیکھا ہے کہ اس سورہ شریف میں قیامت تک کے عجائبات سے آگاہ کیا گیا ہے۔

بڑے بڑے عظیم الشان مقاصد جو جمعہ میں رکھے گئے ہیں ان سے آگاہ کیا ہے میرا اپنا خیال نہیں نہیں ایمان بلکہ اس سے بھی بڑھ کر میں کہتا ہوں میرا یقین ہے اور میں علیٰ وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ وہ ٹھوکرے جو اس عظیم الشان جمعہ (منجملہ ان کے مسیح موعود کے نزول کا مسئلہ بھی ہے) میں لوگوں کو لگی ہیں وہ اسی عدم تدبیر ہی کی وجہ سے لگی ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس التزام پر عمیق نگاہ کی جاتی اور اس سورہ پر تدبیر ہوتا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت کم مشکلات ان لوگوں کو پیش آتیں۔

غرض یہ سورہ اپنے اندر لا انتہا حقائق اور عجائبات رکھتی ہے اور قیامت تک کے واقعات کو بیان کرتی ہے جن پاک الفاظ سے اس کو شروع کیا گیا ہے اگر کم از کم ان الفاظ پر ہی غور و فکر کی جاتی تو مجھے امید ہوتی ہے کہ اسماء الہی میں تو کم از کم ٹھوکر نہ لگتی۔ وہ پاک الفاظ جن سے اس سورہ کا شروع

شروع ہوتا ہے یہ ہیں۔ **يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْقُدُّوسُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ** (الجمعة: ۲) جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اس اللہ کی جو المملک ہے القدوس ہے العزیز ہے اور الحکیم ہے۔ تسبیح کیا ہوتی ہے؟ سورہ بقرہ کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی زبان سے بتایا ہے **نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ** (البقرة: ۳۱) قرآن شریف میں جہاں تسبیح کا لفظ آیا ہے وہاں کچھ ایسے احسان اور انعام مخلوق پر ظاہر کئے ہیں جن سے حمد ہی ظاہر ہوتی ہے اور ان احسانات اور انعامات پر غور کرنے کے بعد بے اختیار ہو کر انسان حمد الہی کرنے کے لئے اپنے دل میں ایک جوش پاتا ہے ہمارے پاک سید و مولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فرمایا ہے۔ **سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا** (بنی اسرائیل: ۲) اور پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ارشاد ہوتا ہے **سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى** (الأعلى: ۲) غرض جہاں جہاں ذکر آیا ہے خدا کے محامد بزرگیاں اور عجیب شان کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس سورہ کو جو **يُسَبِّحُ لِلَّهِ** سے شروع فرمایا گیا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محامد اور انعامات اور احسانات اور فضل عظیم کا تذکرہ یہاں بھی موجود ہے ہر چیز جو زمین اور آسمان میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے یہ ایک بدیہی اور صاف مسئلہ ہے نادان دہریہ یا حقائق الاشیاء سے ناواقف سوسفطائی اس راز کو نہ سمجھ سکے تو یہ امر دیگر ہے مگر مشاہدہ بتا رہا ہے کہ کس طرح پر ذرہ ذرہ خدا تعالیٰ کی تقدیس اور تسبیح بیان کر رہا ہے دیکھو ایک کو جو زمین سے نکلتی ہے بلکہ میں اس کو وسیع کر کے یوں کہہ سکتا ہوں کہ وہ پتتا جو بول و براز میں سے نکلتا ہے کیسا صاف شفاف ہوتا ہے کیا کوئی وہم و گمان کر سکتا تھا کہ اس گندگی میں سے اس قسم کا لہلہاتا ہوا سبزہ جو آنکھوں کو طراوت دیتا ہے نکل سکتا ہے؟ اس پتتا کی صفائی، نزاکت اور نظافت خود اس امر کی زبردست دلیل اور شہادت ہے کہ وہ اپنے خالق کی تسبیح کرتا ہے۔ اسی طرح پر ذرا اور بلند نظری سے کام لو اور دیکھو کہ انسان کے جس قدر عمدہ کام ہیں وہ روشنی میں کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے جتنے عجائبات ہیں وہ سب پردہ میں ہوتے ہیں اور پھر کیسے صاف کیسے دل خوش کن

اور اللہ کی تسبیح کرنے والے ہوتے ہیں ایک انار کے دانہ کو دیکھو کیسے انتظام اور خوبی کے ساتھ بنایا گیا ہے کیا وہ دانہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہیں کرتا اسی طرح پر آسمان اور آسمان کے عجائبات اور اجرام کو دیکھو۔ نیچر کے عجائبات سے ناواقف تو عجائبات نیچر کی ناواقفیت کی وجہ سے یہ کہہ دیتا ہے کہ فلاں امر خلاف نیچر ہے مگر میرا یقین یہ ہے کہ جس جس قدر سائنس اور دوسرے علوم ترقی کرتے جائیں گے اسی قدر اسلام کے عجائبات اور قرآن شریف کے حقائق اور معارف زیادہ روشن اور درخشنا ہوں گے اور خدا کی تسبیح ہوگی۔

غرض یہ سچی بات ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔ ہر ایک ذرہ گواہی دیتا ہے کہ وہ خالق ہے اور اسی کی ربوبیت اور حیات اور قیومیت کے باعث ہر چیز کی حیات اور قائمی ہے اسی کی حفاظت سے محفوظ ہے۔ پھر یہ بھی کہ وہ اللہ المملک ہے وہ مالک ہے اگر سزا دیتا ہے تو مالکانہ رنگ میں اگر پکڑتا ہے تو جابرانہ نہیں بلکہ مالکانہ رنگ میں تاکہ ماخوذ شخص کی اصلاح ہو پھر وہ کیسا ہے؟ القدوس ہے اس کی صفات و حمد میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نقصان کا موجب ہو بلکہ وہ صفاتِ کاملہ سے موصوف اور ہر نقص اور بدی سے منزہ القدوس ہے قرآن شریف پر تدبر نہ کرنے کی وجہ سے کہو یا اسماء الہی کی فلسفی نہ سمجھنے کی وجہ سے غرض یہ ایک بڑی غلطی پیدا ہو گئی ہے کہ بعض وقت اللہ تعالیٰ کے کسی فعل یا صفت کے ایسے معنے کر لئے جاتے ہیں جو اس کی دوسری صفات کے خلاف ہوتے ہیں اس لئے میں تمہیں ایک گرتا ہوں کہ قرآن شریف کے معنے کرنے میں ہمیشہ اس امر کا لحاظ رکھو کہ کبھی کوئی معنے ایسے نہ کئے جاویں جو صفاتِ الہی کے خلاف ہوں اسماء الہی مد نظر رکھو اور ایسے معنے کرو اور دیکھو کہ قدوسیت کو بڑھ تو نہیں لگتا۔ لغت میں ایک لفظ کے بہت سے معنے ہو سکتے ہیں اور ایک ناپاک دل انسان کلام الہی کے گندے معنے بھی تجویز کر سکتا ہے اور کتاب الہی پر اعتراض کر بیٹھتا ہے مگر تم ہمیشہ یہ لحاظ رکھو کہ جو معنی کرو اس میں دیکھ لو کہ خدا کی صفت قدوسیت کے خلاف تو نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سارے کام حق و حکمت کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں جس سے اس کی اور اس کے رسول اور عامۃ المؤمنین کی عزت و بڑائی کا اظہار ہوتا ہے۔

وَاللَّهُ الْعَزِيزُ وَالرَّسُولُ لَهُ وَاللَّمُؤْمِنِينَ (المنافقون: ۹) مومنوں کو معزز کرتا ہے اور پھر

ان سے بڑھ کر اپنے رسولوں کو عزت دیتا ہے اور سچی عزت اور بڑائی حقیقی اللہ تعالیٰ ہی کو سزاوار ہے۔ غرض ہر قول و فعل میں مومن کو لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عزت کا خیال کرے کیونکہ وہ العزیز ہے۔

ظالم طبع انسان کی عادت ہے کہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک فعل سرزد ہوتا ہے تو وہ اس میں اپنی طرف سے نکتہ چینی کرنے لگتا ہے۔ آدم کی بعثت پر نَحْنُ نَسْبِحُ بِحَمْدِكَ کہنے والے اپنی کمی علم اور ناواقفی کی وجہ سے اَتَجَعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَ يَسْفِكُ الدِّمَاءَ (البقرة: ۳۱) پکار اٹھے مگر چونکہ یہ گروہ صاف طینت تھا آخراں نے اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ (البقرة: ۳۳) کہہ کر اللہ تعالیٰ کے اس فعل خلافت آدم کو حکمت سے بھرا ہوا تسلیم کر لیا۔ مگر وہ لوگ جو خدا سے دُور ہوتے ہیں وہ عجائبات قدرت سے نا آشنا محض اور اسماء الہی کے علم سے بالکل بے بہرہ ہوتے ہیں وہ اپنے خیال اور تجویز کے موافق کچھ چاہتے ہیں جو نہیں ہوتا جیسا ہمارے سردار سرور عالم فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر کہہ اٹھے لَوْلَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلٰی رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيْتَيْنِ عَظِيْمٍ (الزخرف: ۳۲) یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو احکیم نہیں مانتے ورنہ وہ اس قسم کے اعتراض نہ کرتے اور یقین کر لیتے کہ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (الانعام: ۱۲۵) اسی طرح شیعہ نے خلافت خلفاء پر بیعت وہی اعتراض کیے جو کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر کیئے۔

حکیم کے معنی ہی ہیں اپنے محل پر ایک چیز کو رکھنے والا اور مضبوط و محکم رکھنے والا۔ پھر اگر الحکیم صفت پر ایمان ہو تو بعثت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر انکار کر کے کیوں اپنے ایمان کو ضائع کرتے۔ غرض اللہ تعالیٰ یہاں بتاتا ہے کہ اس کے قول اور فعل میں سراسر حکمت ہوتی ہے اس لئے اس کے انکار سے بچنے کے لئے یہی اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کو الحکیم مانو۔ پس جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اس اللہ کی جو المملک ، القدوس ، العزیز ، الحکیم ہے زمین و آسمان کے تمام ذرات اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی ان صفات پر گواہ ہیں پس زمینی علوم یا آسمانی علوم جس قدر ترقی کریں گے خدا تعالیٰ کی ہستی اور ان صفات کی زیادہ وضاحت زیادہ صراحت ہوگی۔ میں اپنے ایمان سے کہتا ہوں کہ میں ہرگز ہرگز تسلیم نہیں کرتا کہ

علوم کی ترقی اور سائنس کی ترقی قرآن شریف یا اسلام کے مخالف ہے۔ سچے علوم ہوں وہ جس قدر ترقی کریں گے قرآن شریف کی حمد اور تعریف اس قدر زیادہ ہوگی۔

اس سورہ شریف کو ان پاک الفاظ سے شروع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا ایک انعام پیش کرتا ہے۔ **هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ** (الجمعة: ۳)

اس اللہ نے جس کی تسبیح زمین و آسمان کے ذرات اور اجرام کرتے ہیں اور ہر شے جو ان میں ہے وہ اللہ جو الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ہے اُمیوں میں (عربوں میں) ان میں ہی کا ایک رسول ان میں بھیجا جو ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے اور ان کو پاک صاف کرتا ہے اور ان کو الکتاب اور الحکمة سکھاتا ہے اور اگرچہ وہ اس رسول کی بعثت سے پہلے کھلی کھلی اور خدا سے قطع تعلق کر دینے والی گمراہی میں تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مکہ والوں میں اللہ تعالیٰ کی عزت اور حمد کا ایک بین ثبوت ہے کیونکہ جس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اہل دنیا اس رشتہ سے جو انسان کو اپنے خالق کے ساتھ رکھنا ضروری ہے بالکل بے خبر اور نا آشنا تھے۔ ہزاروں ہزار مشکلات اس رشتہ کے سمجھنے ہی میں پیدا ہو گئی تھیں اس کا قائم کرنا اور قائم رکھنا تو اور بھی مشکل تر ہو گیا تھا۔ کتب الہیہ اور صحیف انبیاء علیہم السلام میں تاویلات باطلہ نے اصل عقائد کی جگہ لے لی تھی اور پھر ان کی خلاف ورزی مقدرت سے باہر تھی دنیا پرستی بہت غالب ہوئی ہوئی تھی ان کے بڑے بڑے سجادہ نشین احبار اور رہبانوں کو اپنی گدیاں چھوڑنا محال نظر آتا تھا، خدا تعالیٰ نے بڑے لوگوں کا ذکر کیا کیونکہ اس سے چھوٹوں کا خود اندازہ ہو سکتا تھا اگر ہم ایک نمبر دار کی حالت بیان کریں کہ ایک قحط میں اس پر فاقہ کشی کی مصیبت ہے تو اس سے چھوٹے درجہ کے زمیندار کا حال خود بخود معلوم ہو جاتا ہے۔ قرآن شریف نے نہایت جامع الفاظ میں فرما دیا ہے کہ **ظَهَرَ الْقَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ** (الروم: ۴۲) جنگلوں اور سمندروں میں غرض ہر جگہ تری و خشکی پر فساد نمودار ہو چکا ہے وہ جو اپنے آپ کو ابراہیم کے فرزند کہلاتے تھے

ان کی نسبت قرآن ہی نے خود شہادت دی ہے **أَكْثَرَهُمْ فَسِقُونَ** (السبوة: ۸) ان میں اکثر لوگ فاسق تھے اور یہاں تک فسق و فجور نے ترقی کی ہوئی تھی کہ **جَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ** (المائدة: ۶۱) یہ اس وقت کے لکھے پڑھے علماء سجادہ نشین خدا کی کتاب مقدس کے وارث لوگوں کا نقشہ ہے کہ وہ ایسے ذلیل و خوار ہیں جیسے بندر وہ ایسے شہوت پرست اور بے حیا ہیں جیسے خنزیر۔ اس سے اندازہ کرو ان لوگوں کا جو پڑھے لکھے نہ تھے جو کتاب مقدس کے وارث نہ تھے جو موسیٰ کی گدی پر نہ بیٹھے ہوئے تھے پھر یہ تو ان کے اخلاق بد عادات بدیاعت و ذلت کی حالت کا نقشہ ہے اگرچہ ایک دانشمند اخلاقی حالت اور عرفی حالت کو ہی دیکھ کر روحانی حالت کا پتلا لگا سکتا ہے مگر خود خدا تعالیٰ نے بھی بتا دیا ہے کہ روحانی حالت بھی ایسی خراب ہو چکی تھی کہ وہ عبد الطاغوت بن گئے تھے یعنی حدودِ الہی کے توڑنے والوں کے عبد بنے ہوئے تھے ان کے معبود طاغوت تھے اب خیال کرو کہ اخلاق پر وہ اثر روح پر یہ صدمہ عزت کی وہ حالت! یہ ہے وہ قوم جو **نَحْنُ ابْنُو اللَّهِ وَآجِبَاؤُهُ** (المائدة: ۱۹) کہنے والی تھی اس چھوٹے درجہ کی مخلوق کا خود قیاس کر لو۔ یہ نقشہ کافی ہے عقائد کے سمجھنے کے لئے یہ کافی ہے عزت و آبرو کے سمجھنے کے لئے کہ جو بندر کی عزت ہوتی ہے۔ پھر یہ نقشہ کافی ہے اخلاق کے معلوم کرنے کے لیے جو خنزیر کے ہوتے ہیں کہ وہ سارا بے حیائی اور شہوت کا پتلا ہوتا ہے۔

جب ان لوگوں کا حال میں نے سنایا جو **نَحْنُ ابْنُو اللَّهِ وَآجِبَاؤُهُ** کہتے اور ابراہیم کے فرزند کہلاتے تھے تو عیسائیوں پر اسی کا قیاس کر لو۔ ان کے پاس تو کوئی کتاب ہی نہ رہی تھی اور کفارہ کے اعتقاد نے ان کو پوری آزادی اور اباحت سکھادی تھی اور عربوں کا حال تو ان سب سے بدتر ہو گا جن کے پاس آج تک کتاب اللہ پہنچی ہی نہ تھی اور پھر یہ خصوصیت سے عرب ہی کا حال نہ تھا ایران میں آتش پرستی ہوتی تھی۔ سچے خدا کو چھوڑ دیا ہوا تھا اور اہرن اور یزداں دو جُدا جُدا خدا مانے گئے تھے۔ ہندوستان کی حالت اس سے بھی بدتر تھی جہاں پتھروں، درختوں تک کی پوجا اور پرستش سے تسلی نہ پا کر آزر عورتوں اور مردوں کے شہوانی قومی تک کی پرستش جاری ہو چکی تھی۔ غرض جس طرف نظر اٹھا کر دیکھو جدھر نگاہ دوڑاؤ۔ دنیا کیا بلحاظ اخلاق فاضلہ کیا بلحاظ عبادات اور

معاملات ہر طرح ایک خطرناک تاریکی میں مبتلا تھی اور دنیا کی یہ حالت بالطبع چاہتی تھی کہ

ع مردے از غیب بروں آید و کارے بکند

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایک رسول کو عربوں میں مبعوث کیا جیسا کہ فرمایا
هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ یہ رسول صرف عربوں ہی کے لئے نہ
تھا باوصفیکہ عربوں میں مبعوث ہوا بلکہ اس کی دعوت عام اور کل دنیا کے لئے تھی جیسا کہ
اس نے دنیا کو مخاطب کر کے سنایا۔ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا**
(الأعراف: ۱۵۹) اے لوگو! میں تم سب کی طرف رسول ہو کر آیا ہوں اور پھر ایک اور مقام پر اللہ
تعالیٰ فرماتا ہے **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ** (الأنبياء: ۱۰۸) یعنی ہم نے تم کو
تمام عالموں پر رحمت کے لئے بھیجا ہے اسی لئے وہ شہر جہاں سرور عالم فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ظہور پایا وہ اُمّ القریٰ ٹھہرا اور وہ کتاب مبین جس کی شان ہے **لَا رَيْبَ فِيهِ** (البقرة: ۳)
وہ اُمّ الکتاب کہلائی اور وہ لسان جس میں اُمّ الکتاب اتری وہ اُمّ اللسان ٹھہری۔ یہ محض خدا تعالیٰ
کا فضل تھا جو آدم زاد پر ہوا اور بالخصوص عربوں پر اس رسول نے آ کر کیا؟ **يَتْلُوا عَلَيْهِمْ**
آيَتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ
لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ پہلا کام یہ کیا کہ ان پر خدا کی آیات پڑھ دیں
يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَتِهِ پھر نرے پڑھ دینے سے تو کچھ نہیں ہو سکتا اس لئے دوسرا کام یہ کیا
يُزَكِّيهِمْ ان کو پاک صاف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر عظیم شان اور بلند
مرتبہ ہے دوسرے کسی نبی کی بابت یہ نہیں کہ **يُزَكِّيهِمْ** رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی
قوت قدسی اور قوت تاثیر کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے عربوں اور دوسری قوموں پر کیا
اثر ڈالا۔ عرب کی تاریخ سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے آ کر اس کی کایا لٹ دی ان کے اخلاق، عادات اور ایمان میں ایسی تبدیلی کی جو دنیا کے
کسی مصلح اور ریفارمر کی قوم میں نظر نہیں آتی۔ جو شخص اس ایک ہی امر پر غور کرے گا تو اسے
بغیر کسی چون و چرا کے ماننا پڑے گا کہ ہمارے سید و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوت قدسی اور

تاثیر قوی اور افاضہ برکات میں سب نبیوں سے بڑھ کر اور افضل ہیں اور یہی ایک بات ہے جو قرآن شریف اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت دوسری تمام کتابوں اور نبیوں کے مقابلہ میں بدیہی الثبوت ہے۔

عیسائیوں نے حضرت مسیح کی شان میں غلو تو اس قدر کیا کہ (باوجودیکہ وہ اپنی عاجزی اور بیکسی کا ہمیشہ اعتراف کرتے رہے اور کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کیا) ان کو خدا بنا دیا لیکن اگر ان سے پوچھا جاوے کہ اس خدا نے دنیا میں آ کر کیا کیا؟ تو میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ کوئی قابلِ اطمینان جواب اس قوم کے پاس نہیں ہے۔ یہ ہم مانتے ہیں کہ جب مسیح آئے اس وقت یہودیوں کی ایمانی اور اخلاقی حالت بہت ہی گری ہوئی تھی لیکن سوال یہ ہے کہ ان کے اخلاق اور عادات اور ایمان میں کیا تبدیلی کی؟ جبکہ وہ اپنے حواریوں کا بھی کامل طور پر تزکیہ نہ کر سکے تو اوروں کو تو کیا فیض پہنچتا۔ یہی موجودہ انجیل جو اس قوم کے ہاتھ میں ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ چند لالچی اور ضعیف الایمان آدمیوں کے سوا وہ کوئی جماعت جو اپنے تزکیہء نفس میں نمونہ ٹھہر سکے دنیا کے سامنے پیش نہ کر سکے جو ہمیشہ اپنے مرشد و امام کے ساتھ بے وفائی کرتے رہے۔ حتیٰ کہ بعض ان میں سے اس کی جان کے دشمن ثابت ہوئے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قرآن شریف نے دعویٰ کیا ہے **وَيَزِيدُهُمْ** اور اس دعویٰ کا ثبوت بھی دیا جبکہ ان میں حیرت انگیز تبدیلی پیدا کر دی وہ قوم جو بت پرستی میں غرق تھی وہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کہنے والی ہی ثابت نہیں ہوئی بلکہ اس توحید کو جوش اور صدق سے انہوں نے قبول کیا کہ تلواروں کے سایہ میں بھی اس اقرار کو نہیں چھوڑا۔ ملک و مال احباب رشتہ داروں کو چھوڑنا منظور کیا مگر اس چھوڑی ہوئی بت پرستی کو پھر منظور نہ کیا اپنے سید و مولیٰ رسول کے ساتھ وہ وفاداری اور ثبات قدم دکھایا جس کی نظیر دنیا کی کوئی قوم پیش نہیں کر سکتی یہاں تک کہ غیر قوموں کو بھی اس کا اعتراف کرنا پڑا۔ یہ واقعات ہیں جن کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا اس لیے مجھے ضرورت نہیں کہ میں ان پر کوئی لمبی بحث کروں میرا مطلب اور مدعا صرف یہ ظاہر کرنا ہے کہ دوسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ان کا تزکیہ کیا کہ ان کی حالت یہاں تک پہنچی **يَخْرُونَ لِلذَّقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا** (بنی اسرائیل: ۱۱۰) وہ روتے

ہوئے ٹھوڑی کے بل گر پڑتے ہیں اور ان کو فروتنی میں ترقی ملتی ہے اور یَبْتَئُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا
 وَ قِيَامًا (الفرقان: ۶۵) اپنے خدا کے سامنے سجدہ اور قیام میں رات کاٹ دیتے ہیں تَتَجَافَى
 جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا (السجدة: ۱۷) راتوں
 کو اپنی خوابگاہوں اور بستروں سے اٹھ اٹھ کر خوف اور امید سے اپنے رب کو پکارتے ہیں پھر
 یہاں تک ان کا تزکیہ کیا کہ آخِرَ رِضَى اللَّهِ عَنْهُمْ وَرِضْوَانَهُ (المجادلة: ۲۳) کی سند
 ان کو مل گئی کسی ہادی اور مصلح کی ایسی سچی تاثیر اور تزکیہ کا پتہ دو۔ میں نے ہزاروں ہزار کتابیں پڑھی
 ہیں اور دنیا کے مختلف مذاہب کو ٹٹولا اور تحقیق کیا ہے میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اس قسم کی حیرت
 انگیز تبدیلی کوئی ہادی، پیغمبر، نبی، رسول اپنی قوم میں نہیں کر سکا جو ہماری سرکار نے کی ہے اللہم
 صل علی محمد وعلی ال محمد وبارک وسلم۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں یہ بہت بڑی
 عظیم الشان بات ہے۔ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتِ قدسی اور تاثیرِ افاضہ
 برکات کا ایک زندہ نمونہ موجود ہے جس سے آپ کی شان اور ہمت اور علومِ مرتبت اور بھی بڑھ جاتی
 ہے کہ وہ تیرہ سو سال کے بعد بھی اپنی تاثیریں ویسی ہی زبردست اور قوی رکھتا ہے جس سے ہم
 ایک اربعہ متناسبہ کے قاعدہ سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اس کی تاثیریں ابدی ہیں اور وہ ابد الآباد
 کے لئے دنیا کا ہادی اور رسول ہے۔ اس وقت ہمارا امام زندہ نمونہ ہے ان برکات اور فیوض کا جس
 نے آ کر ان فیوض اور برکات اور قدسی تاثیروں کا ثبوت دیا ہے جو صحابہ کی کامیاب قوم پر رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیضِ صحبت سے ہوئیں اگر دنیا میں کسی اور نبی کے برکات اور فیوض اس قسم
 کے ہیں تو پھر ان کے ماننے والوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنی قوم کا تزکیہ کیا تھا تو اس
 کے ثبوت کے لئے آج کوئی مزگنی نفس پیش کرو۔ اوروں کو جانے دو یسوع مسیح کو خدا بنانے والی
 قوم اس کی خدائی کا کوئی کرشمہ اب ہی دکھائے مگر یہ سب مُردہ ہیں جو ایک مُردہ کی پرستش کرتے
 ہیں اس لئے وہ زندوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔

غرض دوسرا کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ وہ آیات جو آپ نے پڑھ کر سنائیں
 اپنے عمل سے اور اس کی تاثیروں سے بتا دیا کہ اس کا منشا کیا ہے؟ منشا بھی بتا دیا اور عمل کرا کر بھی
 دکھا دیا۔ کیونکہ کتاب کا پڑھنا اور اس کے مطالب و منشا سے آگاہ کر دینا کوئی بڑا کام نہیں جب تک

کوئی ایسی بات نہ ہو کہ عمل کرنے کی روح پیدا ہو جاوے کتاب کا پڑھنا بھی ضائع ہو جاتا ہے جبکہ کوئی سننے کے لئے تیار نہیں۔ جب تک پڑھنے والا خود نہیں سمجھتا دوسروں کو سمجھا نہیں سکتا اس لئے نہایت ضروری ہے کہ پہلے تعلیمات صحیحہ آ جاویں پھر ان کو پہنچایا جاوے اور سمجھایا جاوے کہ کیسے عمل در آمد ہوتا ہے یا خود کر کے دکھایا جاوے۔ یہ ضروری مرحلہ ہے غور کر کے دیکھو کہ کیا یہود کے سامنے ایک بڑا بھاری انبار کتاب کا نہ تھا؟ کیا مجوس کے پاس کتابیں نہ تھیں؟ کیا عیسائی اپنی بغل میں کتاب مقدس مارے نہ پھرتے تھے؟ اور کیا ان میں عمدہ باتیں بالکل نہ تھیں؟ تھیں اور ضرور تھیں مگر ان میں اگر کچھ نہ تھا تو صرف یہی نہ تھا کہ ان پر عمل کر دینے والا کوئی نہ تھا جب تک ایک روح اس قسم کی نہ آوے جو انسان کو مزگئی بناوے۔ اس وقت تک انسان ان تعلیمات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔^۲

میں بیرونی مذاہب کو چھوڑ کر اندرونی فرقوں کی طرف توجہ کرتا ہوں کیا یہی قرآن شریف جو ہمارے سرور عالم سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس وقت سینوں، شیعوں، خوارج اور اور بہت سے فرقوں کے پاس نہیں ہے؟ کیا واعظ، امام، قاری اور دوسرے لوگ ان میں نہیں ہیں؟ مگر سب دیکھیں اور اپنی اپنی جگہ غور کریں کہ کیا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ یہ سچی بات ہے کہ جب تک کوئی مزگئی نہ ہو تو تعلیمات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی (تفسیر کبیر دازی سورة التوبہ آیت ۱۰۰) یہ صدی جس میں میں ہوں بڑی خیر و برکت کی بھری ہوئی ہے اور حقیقت میں وہ صدی بڑی ہی بابرکت تھی کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس میں موجود تھے اور آپ کی وساطت سے لوگ تزکیہ سے متمتع ہوتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دوسری صدی بھی اس پہلی کی طرح خیر و برکت والی ہوگی اور پھر تیسری پر بھی اس پہلی کا اثر پڑے گا مگر اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا۔ اب غور طلب یہ امر ہے کہ کیا قرآن شریف اس چوتھی صدی میں نہ رہا تھا جس میں جھوٹ کے پھیلنے کی آپ نے پیشگوئی فرمائی کیا تعامل اور حدیث ان میں نہ تھی؟ پھر وہ کیا بات ہے جو یفشوا الکذب (سنن ترمذی کتاب الفتن باب لزوم الجماعة حدیث نمبر ۲۱۶۵) کہا۔ بات اصل یہی ہے کہ وہ مزگئی ان میں نہ رہا۔ مزگئی کو اٹھے ہوئے تین سو سال گزر گئے بہت سے نادانوں نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ ہم

مہدی یا مسیح یا امام کی کیا ضرورت رکھتے ہیں جبکہ دلائل سے نتائج تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر امام کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے ان سے پوچھا ہے کہ اگر تمہیں امام کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اتنا بتاؤ کہ کتاب کی موجودگی میں معلم کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ اگر کہو بولی کے لئے ضرورت ہے تو پھر میں کہتا ہوں اچھا بولی سمجھتے ہو؟ ایک عمدہ پڑھا ہوا آدمی جس نے قرآن کو خوب پڑھا ہے اور فرض کرو وہ قاری بھی ہو وہ اپنی جان پر تجربہ کر کے صاف صاف بتاؤ کہ گھر میں لمبی قراءت کی نمازیں کس قدر پڑھتا ہے؟ اور باہر کس قدر؟ جس قدر جماعت میں التزام کیا جاتا ہے کیا گھر میں بھی ویسا ہی التزام کیا جاتا ہے؟ لیکن جب دیکھا جاتا ہے کہ باوصفیکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب نماز پڑھا تو امام کو چاہیے کہ مقتدیوں کا لحاظ کر لے ان میں کوئی ضعیف ہے کوئی بیمار ہے وغیرہ اس لئے ان کے لحاظ پر چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھے لیکن تنہائی میں نمازوں کو لمبا کرے مگر غور کر کے دیکھ لو کہ معاملہ بالکل اس کے برخلاف ہے اور قضیہ بالعکس ہے میں نے بہت ٹولا ہے اور دیکھا ہے کہ جبکہ یہ حدیث صحابہ تک پہنچتی ہے اور کذب کا کوئی احتمال نہیں رہتا تو پھر عمل درآمد کا نہ ہونا صریح اس امر کی دلیل ہے کہ ایک قوت اور کشش کی ضرورت ہے جو نہیں پائی جاتی۔

ریل گاڑی کی گاڑیوں کو دیکھو اگر ان میں باہم زنجیروں کے ذریعہ پیوند بھی قائم کیا گیا ہو لیکن سٹیمن انجن ان کو کھینچنے والا نہ ہو تو کیا کوئی یقین کر سکتا ہے کہ وہ گاڑیاں باہم ملاپ کی وجہ سے ہی چل نکلیں گی؟ ہرگز نہیں اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ نرا اتحاد بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اس وحدت کے مفاد سے متمتع کرنے والا کوئی نہ ہو۔ غرض ہر حال میں ایک امام کی ضرورت ثابت ہوتی ہے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا کہ **يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُرَكِّبُهُمْ** جو کچھ آپ فرماتے اور تلاوت کرتے وہی کر کے بھی دکھا دیتے اور اپنے عمل سے اس کو اور بھی مؤثر بنا دیتے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ واعظ اگر خود کہہ کر عمل کرنے والا نہ ہو تو اس کا وعظ بالکل بے معنی اور فضول ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے مسزگی ٹھہرے کہ آپ جو تعلیم دیتے تھے پہلے خود کر کے دکھا دیتے تھے پانچ وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا اور خود پڑھ کر دکھا دی۔ دیکھو امام کو کس قدر التزام کرنا پڑتا ہے پھر آپ پانچوں نمازوں کے خود امام ہوا کرتے

تھے اس سے قیاس کر لو کہ آپ کو کس قدر التزام کرنا پڑتا تھا پھر ان پانچوں نمازوں کے علاوہ تہجد اور دوسرے نوافل بھی پڑھتے اور بعض وقت تہجد میں اتنی اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے رہتے کہ آپ کے پائے مبارک متوڑم ہو جاتے جس سے آپ کا یہ التزام بھی پایا جاتا ہے کہ عام اور فرض نمازوں سے زیادہ بوجھ آپ نے اپنے اوپر رکھا ہوا ہے۔ پھر روزہ کی تعلیم دی آپ نے ہفتہ میں دو بار مہینہ میں تین روزے اور سال بھر میں معین مہینہ روزے رکھ کر دکھادیئے اور شعبان اور شوال بھی روزے رکھا کرتے گویا قریباً چھ مہینے سال میں روزے رکھ کر بتادیئے۔ حج کر کے دکھادیا *خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ* (تفسیر کبیر رازی۔ سورۃ البقرہ آیت ۱۵۹) پھر زکوٰۃ کی تعلیم دی۔ زکوٰۃ لے کر اور خرچ کر کے دکھادی اسی طرح جو تعلیم دی اسے خود کر کے دکھادیا جس سے تزکیہء نفوس ہوا۔ ایک طرف تلاوت آیات کرتے تھے اور دوسری طرف تزکیہء نفوس کرتے تھے۔ امام ابوحنیفہ ابھی امام نہ تھے مگر نماز روزہ حج زکوٰۃ کے مسائل جانتے تھے امام بخاری بھی امام ہونے سے پہلے نماز روزہ کرتے تھے؟ کیوں اس لئے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تعامل سے سب کچھ پہلے ہی سکھادیا ہوا تھا اگر ایک بھی حدیث دنیا میں قلم بند اور جمع نہ کی جاتی تب بھی یہ مسائل بالکل صاف تھے۔ غرض اللہ تعالیٰ کے فضل کے لئے ہزنگی کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ بڑی بڑی کتابوں والے عبدالطاغوت ہو جاتے ہیں اور جب یہ حالت پیدا ہوتی ہے اور قوم کے دماغ اور دل (علماء اور مشائخ) کی حالت بگڑ جاتی ہے اس وقت وہ ہزنگی آتا ہے اور اصلاح کرتا ہے۔ جب قوم اور ملک ضلال مبین میں پھنس جاتا ہے تو ایک انسان خدا سے تعلیم پا کر آتا ہے جو قوم کو نجات دیتا ہے اور تزکیہء نفس کرتا ہے۔ خیالی ریفارمر اور جھوٹے دعویداروں اور خدا تعالیٰ کے مامور و مرسلوں میں بھی امتیاز اور فرق یہی ہوتا ہے کہ اول الذکر کہتے ہیں پر کر کے نہیں دکھاتے اور تزکیہء نفس نہیں کر سکتے مگر خدا کے مامور اور مرسل جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں جس سے تزکیہء نفس ہوتا ہے ان کے قلوب صافیہ سے جو کچھ نکلتا ہے وہ دوسروں پر مؤثر ہوتا ہے ان میں جذب اور اثر کی قوت ہوتی ہے جو دنیا دار ریفارمروں میں نہیں ہو سکتی اور نہیں ہوتی اور نہیں ہوتی۔ پس اس نا فہم کے سوال کا جواب اس سے بخوبی حل ہو سکتا ہے جو کہتا ہے کہ کسی کے آنے کی کیا

ضرورت ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مامور کے آنے کا وقت صاف بتا دیا ہے جبکہ فرمایا۔
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اس کی آمد اور بعثت سے پہلے ایک کھلی گمراہی پھیلی
 ہوئی ہوتی اور میں نے ابھی تمہیں بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا کی کیا
 حالت تھی اور پھر کس طرح آپ نے آ کر اس کی اصلاح کی اور تزکیہء نفوس فرمایا۔ جو لوگ علم
 تاریخ سے واقف ہیں ان پر یہ امر بڑی صفائی کے ساتھ منکشف ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر
 تزکیہء نفوس کا کیا ثبوت مل سکتا ہے کہ آپ نے کوئی موقع انسان کی زندگی میں ایسا جانے نہیں دیا
 جس میں خدا پرستی کی تعلیم نہ دی ہو۔ میں ایک چھوٹی سی اور معمولی سی بات پیش کرتا ہوں پاخانہ کے
 لئے جانا ایک طبعی تقاضا اور ضرورت ہے میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اس وقت کے لئے کسی ہادی
 اور مصلح نے کوئی تعلیم انسان کو نہیں دی مگر ہمارے ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی
 انسان کو ایک لطیف اور بیش قیمت سبق خدا پرستی کا دیا ہے جس سے آپ کے ان تعلقات محبت کا
 جو خدا سے آپ کے لئے تھے صاف پتا لگ سکتا ہے اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ انسان کو کس
 بلند رتبہ پر پہنچانا چاہتے تھے چنانچہ آپ نے اس وقت تعلیم دی ہے **اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ**
الْحُبْثِ وَالْخَبَائِثِ (صحیح البخاری، کتاب الوضوء، باب ما يقول عند الخلاء) یعنی
 جس طرح پران گندگیوں کو تو نکالتا ہے دوسری گندگیوں سے جو انسان کی روح کو خراب کرتی
 ہیں بچا۔ جیسے پاخانہ جاتے وقت دُعا تعلیم کی ویسے ہی پاخانہ سے نکلتے وقت سکھایا ہے
غُفْرَانَكَ (سنن ترمذی، ابواب الطہارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء)۔ غور تو کرو
 کہ کس قدر تزکیہ نفس کا خیال ہے حضرت ابوالملتہ ابو الحنفیہ ابراہیم علیہ السلام اپنی دُعا میں کہتے
 ہیں **وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ**
وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ (البقرة: ۱۳۰) پھر اگر مزگنی کی ضرورت نہ تھی تو اس دُعا کی
 کیا ضرورت۔ تلاوت کو اس لئے مقدم رکھا ہے کہ علم تزکیہ کے مراتب سکھاتا ہے اور تزکیہ کو بعد
 میں اس لئے رکھا ہے کہ بدوں تزکیہ علم کام نہیں آتا اس لئے کتاب کے بعد تزکیہ کا ذکر کر دیا۔

اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی (تفسیر کبیر رازی

سورة التوبه آیت ۱۰۰) اور پھر دوسری اور تیسری صدی کو خیر القرون کہا اس کے بعد فرمایا کہ **ثُمَّ يَفْشُوا الْكُذِبَ** (سنن ترمذی کتاب الفتن باب لزوم الجماعة حدیث نمبر ۲۱۶۵) اب ایک نادان اور خدا کی سنت سے ناواقف کہہ سکتا ہے کہ آپ کی قوت قدسی معاذ اللہ ایسی کمزور تھی کہ تین صدیوں سے آگے مؤثر نہ رہی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایسے کو باطن کے جواب کے لئے فرمایا۔ **وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ** آپ کی قوت قدسی ایسی مؤثر اور نتیجہ خیز ہے کہ تیرہ سو سال کے بعد بھی ویسا ہی تزکیہ کر سکتی ہے چنانچہ **وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ** کا وعدہ فرمایا۔ یعنی ایک اور قوم آخری زمانہ میں آنے والی ہے جو بلا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض اور برکات حاصل کرے گی اور ایک بار اور ہم اسی رسول کی بعثت بروزی کریں گے وہ بعثت بھی اسی کے ہم رنگ ہوگی **جَوْفِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا** کے وقت تھی۔

احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ اُمت کے اعمال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے جاتے ہیں۔ پس سوچو کیسی ٹرپ آپ کو پیدا ہوئی ہوگی جب آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ اس قسم کے حاشیے چڑھائے جاتے ہیں جن سے امر حق کو شناخت کرنا قریباً محال ہو گیا ہے اور وہ باتیں داخل اسلام کر لی گئی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ نہ تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ اس معلم کو دوبارہ بھیج دیں گے **فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا** کی بعثت کریں گے اس کی توجہ ان پر ڈالیں گے **جَوْمًا يَلْحَقُوا بِهِمْ** کے مصداق ہیں یعنی ابھی نہیں آئے آنے والے ہیں۔^۳

یہ سنت اللہ اور استمراری عادت اللہ ہے کہ جب دنیا میں بدی پھیلتی ہے بدی کیسی! لکھے پڑھے بھی بند رسو اور عبدالطاغوت ہو جاتے ہیں خدا کا خوف دلوں سے اٹھ جاتا ہے اور انسانیت مسخ ہو کر حیوانیت اور بہیمیت سی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے تباہ شدہ مخلوق کی دستگیری کے لئے ایک مامور دنیا میں بھیجتا ہے جو آ کر ان کی گم شدہ متاع پھر ان کو دیتا ہے اور خبیثوں اور طیب لوگوں میں امتیاز ہو جاتا ہے اس قاعدہ کو مد نظر رکھ کر صاف اشارہ ملتا ہے کہ خدا تعالیٰ کس وقت معلم اور منگسی کو بھیجتا ہے اس کی شناخت کا کیا طریق اور نشان ہونا چاہئے؟ یہ بڑی بھاری غلطی پھیلی ہوئی ہے کہ جب کوئی مامور دنیا میں آتا ہے تو ناواقف اور نادان انسان اپنی کمزور خیالی کے پیمانہ اور

معیار سے اس کو پرکھنا چاہتے ہیں حالانکہ اس کو پرکھنے کے لئے وہ معیار اختیار کرنا چاہئے جو راستبازوں کے لئے ہمیشہ ہوتا ہے۔

گورداسپور میں ایک موقع پر ایک شخص حضرت امام علیہ السلام کے متعلق مجھ سے کچھ سوال کرنے آیا میں نے جب اس سے یہ کہا کہ تم وہ معیار پیش کرو جس سے تم نے دنیا میں کسی کو راستباز مانا ہے تو وہ خاموش ہی ہو گیا اور سلسلہ کلام کو آگے نہ چلا سکا۔ یہ بڑی پکی اور سچی بات ہے کہ راستباز ہمیشہ ایک ہی معیار سے پرکھے جاتے ہیں اور ان میں کوئی نرالی اور نئی بات نہیں ہوتی چنانچہ ہمارے ہادی کامل فخر بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشادِ الہی یوں ہوا **قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَاٍ مِنَ الرُّسُلِ (الاحقاف: ۱۰)** کہہ دے میں کوئی نیا رسول دنیا میں نہیں آیا دنیا میں مجھ سے پہلے رسول آتے رہے ہیں تم نے اگر کسی کو راستباز اور صادق مانا ہے تو جس قاعدہ اور معیار سے مانا ہے تو وہی قاعدہ اور معیار میرے لئے بس ہے۔ میں نے قرآن شریف کے اس استدلال کی بنا پر بارہا ان لوگوں سے جو حضرت میرزا صاحب کے متعلق سوال اور بحث کرتے ہیں پوچھا کہ تم نے کبھی کسی کو دنیا میں راستباز اور صادق تسلیم کیا ہے یا نہیں؟ اگر کیا ہے تو وہ ذریعے اور معیار کیا تھے؟ جن ذریعوں سے تم نے صادق تسلیم کیا ہے پھر میرا ذمہ ہوگا کہ اس معیار پر اپنے صادق امام کی راستبازی اور صداقت ثابت کر دوں۔ میں نے بارہا اس گُر اور اصول سے بہتوں کو لا جواب اور خاموش کرایا ہے اور یہ میرا مجرب نسخہ ہے اس راہ سے اگر چلو تو تم تمام مباحث کا دو لفظوں میں فیصلہ کر دو۔ گورداسپور کا جو واقعہ میں نے بیان کیا ہے جو لوگ میرے ساتھ تھے انہوں نے دیکھا ہے کہ باوجودیکہ سوال کرنے والا بڑا چلبلا اور چالاک آدمی تھا مگر میرے اس سوال پر وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا بعض آدمیوں نے اس کو کہا بھی کہ تم کسی کا نام لے دو اس نے یہی کہا کہ میں نام لیتا ہوں تو مرتا ہوں (یعنی ماننا پڑتا ہے اور لا جواب ہوں گا)

غرض یہ ایک سنت اللہ ہے خدا کا اٹل قانون ہے کہ جب دنیا پر ضلالت کی ظلمت چھا جاتی ہے اور یہ بے دینی اور فسق و فجور کی رات اپنے انتہا تک پہنچ جاتی ہے تو اسی قانون کے موافق جو ہم رات دن دیکھتے ہیں کہ رات کے آخری حصہ میں آسمان پر صبح صادق کے وقت روشنی کے آثار نظر

آنے لگتے ہیں کوئی آسمانی نور اترتا ہے اور دنیا کی ہدایت اور روشنی کا موجب ٹھہرتا ہے۔ اسی طرح پرہم دیکھتے ہیں کہ جب امساکِ باراں حد سے گذرتا ہے جس کا نام عام لوگوں نے ہفتہ رکھا ہے کہ سات سال سے زیادہ نہیں گذرتا تو سمجھنے والا سمجھتا ہے کہ اب بارش ضرور ہوگی۔ اس قسم کے نشانات خدا تعالیٰ کے ایک اٹل اور مستقل قانون کا صاف پتہ دیتے ہیں اگر آنکھ بالکل بند نہ ہو اگر دل بالکل سویا ہوا نہ ہو تو اس بات کا سمجھ لینا کہ روحانی نظام بھی اسی طرح واقع ہے کچھ مشکل نہیں مگر یہ آنکھ کی بصیرت اور دل کی بیداری بھی اللہ تعالیٰ ہی کے فضل پر موقوف ہے میں غور کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مامور من اللہ اور راستباز کی شناخت کے لئے ہر قسم کے دلائل مل سکتے ہیں انفسی اور آفاقی دونوں قسم کے دلائل ہوتے ہیں یعنی اندرونی اور بیرونی دلائل۔ اندرونی دلائل میں سے ایک عقل بھی ہے پھر اس کے ساتھ نقل کا پتہ لگا سکتے ہیں اور اسے سمجھ سکتے ہیں اگر اپنی عقل یا نقل کافی نہ ہو تو دوسرے عقیل اور فہیم لوگوں سے سن کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

بارہا میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ عقل مقدم ہے یا نقل اور کیا ان دونوں میں کوئی تعارض اور تناقض تو نہیں؟ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سماعتی چیزوں پر بھی عقل فیصلہ دیتی ہے جیسے فرمایا گیا ہے۔ **لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ** (المملک: ۱۱) اور پھر عقل صریح اور نقل صحیح میں ہرگز کوئی تعارض نہیں ہوتا دونوں کا ایک ہی فیصلہ ہے اور عقل مقدم ہے کیونکہ انسان مکلف نہیں ہو سکتا جب تک سوچنے اور سمجھنے نہ لگے۔ پس اب ہم اس مدعی کے دعویٰ کے امتیاز کے لئے عقلی اور نقلی دلائل سے اگر فیصلہ چاہیں تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ واقعی یہ خدا کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہے۔

عقل سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ کیا اس وقت کسی کے آنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ تو جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں خدا تعالیٰ کا مستقل اور اٹل قانون ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی طرف سے ایسے وقت پر مامور آتے ہیں اور آنے چاہئیں؟ اور پھر جب ہم نقل سے اس کا موازنہ کرتے ہیں تو عقل صحیح ہم کو بتاتی ہے کہ یہ وقت خدا کے ایک مامور کے آنے کا ہے تمام کشوف اور

رویا اور الہام اس بات پر شہادت دیتے ہیں کہ مسیح موعود اور مہدی کا زمانہ چودھویں صدی سے آگے نہیں ہر صدی پر مجدد کے آنے کا وعدہ بجائے خود ظاہر کرتا ہے کہ ایک عظیم الشان مجدد اس وقت ہونا چاہئے اور چونکہ صلیبی فتنہ کثرت سے پھیلا ہوا ہے اس لئے اس صدی کے مجدد کا نام بہر حال کا سر الصلیب ہی ہوگا خواہ وہ کوئی ہو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں میں کا سر الصلیب جس کا نام رکھا گیا ہے وہ وہی ہے جس کو دوسرے الفاظ میں مسیح موعود کہا گیا ہے اور اسی طرح سے خدا تعالیٰ کے پاک کلام پر جب ہم نگاہ کرتے ہیں تو اور بھی صفائی کے ساتھ یہ بات کھل جاتی ہے کہ اس نے وعدہ کیا کہ اسی اُمت میں سے خلفاء کا ایک سلسلہ اسی نہج اور اسلوب پر قائم ہوگا جیسے بنی اسرائیل میں ہوا اور پھر یہ بھی کھول کر بیان کیا گیا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وعدہ اور پیشگوئی کے موافق جو استثنا کے باب میں کی گئی تھی مثیل موسیٰ ہیں اور قرآن نے خود اس دعویٰ کو لیا **إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا (المزمل: ۱۲)** اب جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مثیل موسیٰ ٹھہرے اور خلفاء موسویہ کے طریق پر ایک سلسلہ خلفائے محمدیہ کا خدا تعالیٰ نے قائم کرنے کا وعدہ کیا جیسا کہ سورہ نور میں فرمایا **وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ (النور: ۵۶)** پھر کیا چودھویں صدی موسوی کے مقابل پر چودھویں صدی ہجری پر ایک خلیفہ کا آنا ضروری تھا یا نہیں؟ اگر انصاف کو ہاتھ سے نہ دیا جاوے اور اس آیت وعدہ کے لفظ **كَمَا** پر پورا غور کر لیا جاوے تو صاف اقرار کرنا پڑے گا کہ موسوی خلفاء کے مقابل پر چودھویں صدی کا خلیفہ خاتم الخلفاء ہوگا اور وہ مسیح موعود ہوگا۔

اب غور کرو کہ عقل اور نقل میں تناقض کہاں ہوا؟ عقل نے ضرورت بتائی نقل صحیح بھی بتاتی ہے کہ اس وقت ایک مامور کی ضرورت ہے اور وہ خاتم الخلفاء ہوگا اس کا نام مسیح موعود ہونا چاہئے۔ پھر ایک مدعی موجود ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں اس کے دعویٰ کو راستبازوں کے معیار پر پرکھ لو۔ میں اب ایک اور آسان ترین بات پیش کرتا ہوں جو عقل اور نقل

کی رو سے اس امام کی تصدیق کرتی ہے قرآن شریف میں چاند اور سورج کی سنت کے متعلق فرمایا ہے **قَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِيَتَّعَلَّمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ** (یونس: ۶) سورج اور چاند کے نظام اور قانون پر نظر کر کے بہت سے حساب سمجھ سکتے ہو جنزریاں بنا سکتے ہو جیسے دو اور دو چار ایک یقینی بات ہے اسی طرح پر یہ نظام بھی حق ہے اب اگر کوئی شخص میرزا صاحب کے دعویٰ کے متعلق پہلے دعویٰ کے وقت نقل صحیح سے کام لیتا تو یہ عقیدہ کیسی آسانی سے حل ہو جاتا تھا تیرہ سو برس پیشتر کہا گیا تھا کہ اس مہدی کے وقت رمضان میں کسوف اور خسوف ہوگا اور اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ بُت پرست قوم بھی سال سے پہلے جنزری لکھ دیتی ہے۔ مسلمانوں کو غیرت کرنی چاہئے تھی اور معلوم کرنا چاہئے تھا کہ کس سال میں اجتماع ممکن ہے؟ ہندو جاہل جب پتری بنا کر کسوف خسوف کے پتے دیتا ہے تو ایک مسلمان کو جس کی کتاب میں **لِيَتَّعَلَّمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ** لکھا ہے سو چنا چاہئے تھا کہ وہ وقت کب ہوگا اور جب اسے وقت کا پتا ملتا تو وہ تلاش کرتا کہ مدعی ہے یا نہیں؟ اگر وہ مدعی کو پالیتا تو سوچ لیتا کہ آسمان کی بات میرے یا کسی کے تعلق میں نہیں ہے نقل میں موجود ہے کہ اس کے وقت کسوف خسوف ہوگا اور عقل بتاتی ہے کہ یہ اجتماع کسوف خسوف کا فلاں وقت ہوگا اور وہ وقت آ گیا ہے اور مدعی موجود ہے جب ان امور پر غور کرتا تو بات بالکل صاف تھی اور وہ مان سکتا تھا اور بڑی سہل راہ سے سمجھ سکتا تھا اگر اتنی عقل اور سمجھ نہ تھی تو دعویٰ کے وقت ہی حدیث کو دیکھ لیتا اور سن لیتا اور سوچتا کہ یہ حدیث کیسی ہے اور پھر کسی ہندو سے دریافت کرتا کہ یہ موقع کب ہوگا اور وہ اسے بتاتا کہ فلاں سنہ میں ہوگا اور پھر جب وقوع میں آتا تو تسلیم کر کے اپنے تزکیہ کے لئے چلا آتا۔ غرض یہ کیسی صاف اور روشن بات تھی لیکن اگر آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتا تھا اور اس کی نگاہ اتنی اونچی نہ تھی تو زمین میں ہی دیکھتا کہ اس کے لئے کیا نشان ہیں؟ اور اس امر پر غور کرتا کہ قرآن تو اس لئے آیا ہے **لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ** (البقرة: ۲۱۴) اب اس دعویٰ کے موافق اس وقت کوئی اختلاف ہے یا نہیں؟ اور پھر قرآن شریف اس اختلاف کے مٹانے کے لئے بس ہے یا نہیں؟ پہلی بات پر نظر کر کے صاف معلوم ہوتا کہ اختلاف کثرت سے پھیلا ہوا ہے سب سے پہلا اختلاف تو ہمیں اپنے ہی اندر نظر آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض صدائیں ہمارے اندر ہیں جن کو ہم ایمانیات یا عقائد کہتے ہیں اور پھر کچھ اعمال ہیں جو یانیک ہوتے ہیں یا بد۔

اب مطالعہ کرے کہ کیا وہ اعمال ان مسلمہ نیکیوں اور صدقتوں کے موافق ہیں یا مخالف ہیں؟ اگر اس کی مانی ہوئی نیکیاں اور ہیں اور نیک اعمال فی نفسہ اور ہیں تو اس کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوتی کہ یہ پہلا اختلاف مٹنا چاہئے۔ گھبراس اختلاف کے بعد اگر اور بلند نظری سے کام لے تو اس کو بہت بڑا اختلاف ان لوگوں میں نظر آئے گا جو بخیاں خویش و بزعم خود اکابران ملتہ اور علماء امت بنے ہوئے ہیں ان کے باہمی اختلاف کو چھوڑ کر اگر خود ان کی حالت پر نظر کی جاوے تو ان کے قول اور فعل میں بعد عظیم پایا جائے گا اسی کو زیر نظر رکھ کر ایک پارسی شاعر نے کہا ہے

مشکلہ دارم ز دانشمند مجلس باز پرس

تو بہ فرمایاں چرا خود تو بہ کمتر می کنند

یہ واعظ یہ معلم الخیر ہونے کے مدعی صوفی اور سجادہ نشین چرا خود تو بہ کمتر مے کنند کے مصداق ہیں۔ یہاں تک تو وہ شاعر عقل و دانش کی حد کے اندر ہے اس سے اور آگے چل کر کہتا ہے۔

واعظاں کیں جلوہ بر مخراب و منبری کنند

چوں بخلوت میر وند آں کار دیگر می کنند

یہ گواہی جو اس پارسی بان شاعر نے دی ہے کوئی مخفی شہادت نہیں بلکہ واعظوں، صوفیوں، سجادہ نشینوں تک پہنچی ہوئی ہے کیونکہ ان کی مجلس و عظ یا مجلس وجد و حال و قال کے لئے اس کے شعر ضروری ہیں اور ہر ایک مسلمان جو کبھی کبھی اپنی مشکلات اور مصائب میں پھنس کر بے قرار ہوتا ہے تو بد قسمتی سے اسی لسان الغیب کا فال لینے کی طرف توجہ کرتا ہے اور یوں اپنے اوپر اس دورگی اور اختلاف کا جو واعظوں اور معلم الخیر کے مدعیوں میں ہے ایک گواہ ٹھہرتا اور اپنے اوپر حجت ملزمہ قائم کرتا ہے اب ان ساری باتوں کو یکجائی نظر سے دیکھو اور غور کرو کہ کیا یہ علمی اور عملی یا ایمانی اور عملی اختلاف کسی تال اور سُر کے ذریعہ مٹ سکتا ہے یا خود بخود؟ اور قرآن شریف جو اختلاف مٹانے کا مدعی ہے اور سچا مدعی ہے اس نے کیا راہ بتائی ہے؟

میں بڑے درد دل سے ان مباحث اور لیکچروں کو پڑھا کرتا ہوں جو اسی زمانہ میں مسلمانوں کے تنزل کے اسباب پر دیئے جاتے ہیں۔ اسباب تنزل اور اسباب ترقی کے بیان کرنے میں

ہمارے ریفاہمر (خود ساختہ) اور مصلح قرآن شریف کو مس نہیں کرتے اور تفرقہ کے دور کرنے کے لئے قرآن شریف میں علاج نہیں ڈھونڈتے۔

میں نے ان لیکچروں اور سٹیچوں کو پڑھ کر درد دل کے ساتھ یہی کہا ہے۔

يُرَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (الفرقان: ۳۱)

غرض میں اس عظیم الشان اختلاف کو ابھی پیش کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ یہ کیونکر دور ہو سکتا ہے؟ دیکھو ایک چیز ہے جس کا نام ایمان ہے اور ایک کا نام عمل ان دونوں کا باہم مقابلہ کرو اور سوچ کر بتاؤ کہ کیا ان میں موافقت ہے؟ کیا حال اور قال یکساں ہے؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر کیوں صاف دلی کے ساتھ یہ اقرار نہیں کیا جاتا کہ ایک منگنی کی ضرورت ہے جو انسان کو اس نفاق سے جو اس کے اندر ایمان اور عمل کی عدم موافقت سے پیدا ہو رہا ہے دور کرے اگر نرا علم کوئی چیز ہوتا معرفت صحیحہ کی ضرورت نہ ہوتی؟ اگر اس قوت اور کشش کی حاجت نہ ہوتی جو انسان پر اپنا عمل کر کے اس کے دل کو صاف کرنے میں معاون اور مددگار ٹھہرتی ہے جو مزگی کی تاثیر صحبت اور پاک انفس کی برکت سے ملتی ہے جس کی طرف **كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ**۔ (التوبة: ۱۱۹) کہہ کر مولا کریم نے توجہ دلائی ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ پھر اسی پارسی لسان الغیب کو کیا حاجت اور ضرورت تھی جو وہ بول اٹھا کہ مشکلہ دارم زدا نشمند مجلس باز پرس۔

اس ایمانی اور عملی اختلاف کے ماورا اور اختلاف ہے جس نے قوم کے شیرازہ کو پراگندہ اور منتشر کر دیا ہے اور وہ روح قوم میں نہ رہی جو **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا** (آل عمران: ۱۰۴) میں رکھی گئی تھی یعنی مختلف فرقے شیعہ، سنی، خوارج، مقلد، غیر مقلد، جبریہ، قدریہ وغیرہ کے بکھیڑوں اور قرضیوں پر نگاہ کرو تو عظیم الشان تفرقہ نظر آئے گا میں نے اکثر لوگوں سے پوچھا ہے کہ یہ فرقہ بندیاں کیوں ہیں؟ اکثروں نے کہا ہے کہ سب فرقے قرآن ہی سے استدلال کرتے ہیں۔ میں نے نہایت تعجب اور افسوس کے ساتھ اس قسم کی دلیری اور جرات کو دیکھا ہے اور سنا ہے قرآن شریف تو اختلاف مٹانے کو آیا ہے اور یہی اس کا دعویٰ ہے جو بالکل سچا ہے پھر یہ اختلاف اس کے ذریعہ کیسے ہو سکتا ہے؟

میرے اس سوال کا جواب کسی نے نہیں دیا اور حقیقت بھی یہی ہے کیا معاذ اللہ قرآن شریف موم کی ناک ہے کہ جدھر چاہی پھیر دی یا وہ اپنے اس دعویٰ میں معاذ اللہ سچا نہیں جو اس نے اختلاف مٹانے کا کیا ہے؟ پھر یہ ایمان کیوں رکھتے ہو۔

میری سنو! قرآن شریف آیات محکمات ہے وہ لاریب اختلاف مٹانے کے لئے حَکْمُ ہے مگر اس پر مسلمانوں نے توجہ نہیں کی اور اس کو چھوڑ دیا وہ اپنی نزاعوں کو قرآن شریف کے سامنے عرض نہیں کرتے۔

مجھے ایک بار لاہور کے شیعوں کے محلہ میں وعظ کرنے کا اتفاق ہوا۔ میں نے کہا کہ شیعوں سنٹیوں کے اختلاف کا قرآن سے فیصلہ ہو سکتا تھا اگر یہ توجہ کرتے۔ ایک شخص نے کہا کہ وہ قرآن سے ہی استدلال کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ قرآن موجود ہے آپ ہی بتادیں کہ کہاں سے استدلال کیا ہے۔ غرض قرآن کو ہرگز حَکْم اور فیصلہ گن نہیں مانتے اس پر ایمان ہوتا تو بڑی صفائی سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ سچی توجہ کے لیے ایک کامل الایمان مزنگھی اور مطہر کی ضرورت ہے جو اپنی قدسی قوت کے اثر سے دلوں کے زنگ کو دور کرے۔ بدوں مزنگھی کے یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ سمجھ میں نہ آسکے بلکہ وسیع نظارہ قدرت میں اس کے نظائر موجود ہیں۔ دیکھو ایک درخت کی ٹہنی جب تک درخت کے ساتھ پیوند رکھتی ہے وہ سرسبز ہوتی ہے حالانکہ اس کو جو پانی کی غذائیت ملتی ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے اب اگر اس کو دیکھ کر ایک نادان اس کو کاٹ کر پانی کے ایک گڑھے میں ڈال دے کہ لے تو اب جس قدر پانی چاہے جذب کر اور اپنے دل میں خوش ہو کہ یہ بہت جلد بار آور ہو جائے گی تو اس کی حماقت اور نادانی میں کیا شک رہ جائے گا جب وہ ڈالی بہت جلد خشک ہو کر سڑگل جائے گی اور اس کو بتا دے گی کہ میں سرسبز نہیں رہ سکتی اس درخت سے الگ ہو کر۔ اسی طرح یہ نظارہ قدرت عام اور وسیع ہے اس سے صاف سبق ملتا ہے کہ ایک مزنگھی کی ضرورت ہے جس کے ساتھ پیوند لگا کر انسان اپنے تڑکیہ کا حصہ لے سکتا ہے ورنہ مزنگھی سے الگ رہ کر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ وہ اپنی اصلاح اور تڑکیہ کر لے گا۔ یہ غلط اور محض غلط ہے بلکہ

ع ایں خیال است و محال است و جنوں۔ اور وہی مشکطے دارم کا سچا مسئلہ۔ اندرونی اختلاف اور تفرقہ اگر کچھ ایسا نہ تھا کہ اس کے دل پر اثر انداز ہو سکتا اور اس کو صرف جزئی اختلاف قرار دیتا تھا تو پھر ضرور تھا کہ غیر قوموں کے اعتراضوں ہی کو دیکھتا جو اسلام پر کئے جاتے ہیں اور دیکھتا کہ وہ کونسا ذریعہ ہے جو اسلام کے نابود کرنے اور اس پر اعتراض کر کے اس کو مشکوک بنانے میں غیر قوموں نے چھوڑ رکھا ہے؟ ذرا عیسائیوں ہی کو دیکھو کہ کس کس رنگ میں اسلام پر حملہ ہے شفا خانوں کے ذریعہ، اخباروں اور رسالوں کے ذریعہ ہفتہ وار، روزانہ اور ماہوار، ٹریکٹوں اور اشتہاروں کے ساتھ، فقیروں اور جوگیوں کے لباس میں، مدرسوں اور کالجوں کے رنگ میں، تاریخ اور فلسفہ کی شکل میں غرض کوئی پہلو نہیں جس سے اسلام پر حملہ نہ کیا جاتا ہو۔

اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ حملہ کہ پتسمہ دیتے وقت کہا جاتا ہے واحد لا شریک باپ واحد لا شریک بیٹا واحد لا شریک روح القدس، تین واحد لا شریک نہ کہو بلکہ ایک واحد لا شریک۔ باپ قادر مطلق، بیٹا قادر مطلق، روح القدس قادر مطلق تین قادر مطلق نہ کہو بلکہ ایک قادر مطلق۔ باپ ازلی، بیٹا ازلی، روح القدس ازلی تینوں ازلی نہ کہو بلکہ ایک ازلی۔ اب غور تو کرو کہ یہ تو حید پاک پر کیسا خوفناک اور بیباک حملہ ہے یہ کیا اندھیر ہے اسی طرح اس کے اسما، افعال اور صفات پر مختلف پیرایوں اور صورتوں میں حملہ کیا جاتا ہے اور غرض اسلام کو نابود کرنا ہے۔

اب اس اختلاف کو کون دور کرے اور کون اس مرض کا مداوا کرے؟ وہی جو منگھی ہو۔ مجھے نہایت ہی افسوس اور درد دل کیساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عیسائیت کے اس پر آشوب فتنہ کو فرو کرنے کے بجائے مسلمانوں نے مدد دی ہے اور اس آگ پر پانی ڈالنے کے بجائے مٹی کے تیل ڈال دینے کا کام کیا ہے۔ جب اپنے عقائد میں ان امور کو داخل کر لیا جو عیسائیت کی تقویت کا موجب اور باعث ہوئے ہیں۔^۵ یہ فیصلہ بالکل آسان اور صاف تھا اگر ذرا تدبیر اور غور سے کام لیا جاتا مگر رونا تو اسی بات کا ہے کہ عقل سے کوئی کام نہیں لیا جاتا خدا تعالیٰ کی مخلوق میں غور نہیں کیا جاتا۔ یہ کیسی

صاف بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور انسانی مخلوق کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جو کچھ انسان بناتا ہے خدا وہ کبھی نہیں بناتا اور جو اللہ تعالیٰ بناتا ہے انسان وہ ہرگز نہیں بنا سکتا۔ مثلاً ایک تنکا ہی لو۔ ساری دنیا کے صنّاع اور فلاسفر مل جاویں اور کوشش کریں ساری عمر جدوجہد کریں کبھی ممکن ہی نہیں کہ ایک تنکا بنا سکیں گھاس کا تنکا یا دانہ کا ذرہ نہیں بنتا پھر یہ خیال کر لینا اور مان لینا کہ مسیح بھی خدا تعالیٰ جیسی مخلوق بنا سکتا تھا کیسی بیہودگی ہے۔ دیکھو خدا تعالیٰ کی مخلوق ہے غلہ انسان نہیں بنا سکتا۔ انسان اپنی صنعت سے روٹی بناتا ہے خدا تعالیٰ کی غیرت کبھی پسند نہیں کر سکتی کہ وہ درختوں سے روٹیاں نکالے۔ کپڑے خدا تعالیٰ نے نہیں بنائے اسی طرح پرروٹی انسان نہیں بنا سکتا۔ اس سے کیمیا گروں کی حماقت اور فریب کا ایک ثبوت ملتا ہے اور کس طرح واضح طور پر ان کی تکذیب ہوتی ہے سونا چاندی اور چاندی سونا نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ کی یہ صفت ہے **لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ** (الشوریٰ: ۱۲)۔ کیا کوئی ہاتھی کے بچہ کو چوہا کہہ سکتا ہے؟ اور کیا ہو سکتا ہے کہ کبھی کے انڈے سے گھوڑا نکل آوے؟ ان امور کا سمجھنا آسان نہیں گو یہ بدیہی باتیں ہیں مگر ایک مزگنی جب تک موجود نہ ہو وہ انسان کو اس قسم کے شرک سے نجات نہیں دے سکتا۔

ایک وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ کیا وفات مسیح کا مسئلہ بھی کوئی اہم مسئلہ تھا لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اہمیت کس قدر ہے؟ ایک دنیا کو اس نے تباہ کر دیا ہے اور رب العالمین کے عرش پر ایک عاجز ناتواں انسان کو بٹھایا گیا ہے۔

غرض اللہ تعالیٰ کے اسماء، صفات اور افعال کے متعلق سچا علم بخشنا اس شخص کا کام ہوتا ہے جو آیات اللہ کی تلاوت کرے اور اپنی قدسی تاثیر سے تزکیہ کرے اور سچی توحید پر قائم کرے جب تک مسزگنی نہ ہو یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ اس جہاں کا پیدا کرنے والا رب العالمین ایک ہے اور اس کا کوئی بیٹا نہیں جس کے بغیر نجات عالم ہی نہ ہو سکتی ہو جیسا کہ عیسائیوں نے مان رکھا ہے۔ تعجب ہے کہ وہ خلق عالم تو اللہ تعالیٰ کی صفت مانتے ہیں پھر اس مخلوق عالم کو کیا مشکل تھا کہ نجات

بھی دے دیتا؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چونکہ عادل ہے اس لئے مخلوق کے گناہوں کو بحیثیت عادل ہونے کے بغیر سزا کے نہ چھوڑ سکتا تھا اور رحیم بھی ہے اس لئے بیٹے کو پھانسی دیا؟ یہ کیا خوب عدل اور رحم ہے کہ گناہ گاروں کے بدلے ایک بے گناہ کو پکڑ لیا اور بے گناہ پر رحم بھی نہ کیا۔ پھر اور بھی ایک تعجب ہے کہ یہودیوں کو نجات نہ ملی حالانکہ پہلے۔۔۔ نجات کے وہی مستحق تھے جنہوں نے نجات کے فعل کی تکمیل کی کوشش کی یعنی صلیب دلوانے کی۔ ان کا فعل تو گویا عیسائیوں کے اعتقاد کے موافق خدا کے ارادہ اور منشا سے تو اور درکھتا تھا پھر وہ غضب کے نیچے کیوں رہے۔ پھر ہم پوچھتے ہیں کہ کیا مسلمانوں کو نجات ملی؟ کیا مجوسیوں کو ملی؟ کس کو ملی؟ نجات تو پھر بھی محدود ہی رہی کیا فائدہ اس پھانسی سے پہنچا؟

اور پھر شیطان کا سرجب کچلا گیا تو اب کیوں گناہ ہوتا ہے۔ پھر پوچھا گیا ہے کہ گناہ کا بد اثر جسم پر ہوتا ہے یا روح پر۔ اگر روح پر ہوتا ہے تو آدم سے کہا گیا کہ محنت سے روٹی کھائے گا اور عورت درد زہ سے بچے جنے گی۔ اور اگر جسم پر پڑتا ہے تو عیسائی آتشک اور سوزاک وغیرہ امراض میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں اور کیا عیسائی عورتیں درد زہ سے بچے جنتی ہیں انہیں اس سے تو معلوم ہوا کہ نجات کے آثار پائے نہیں جاتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مزنگی کے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی۔ ان خیالی باتوں سے کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس کفارہ کا نتیجہ تو یہ ہوا کہ دنیا میں فسق و فجور اور اباحت پھیل گئی اور خدا کا خوف اٹھ گیا اب جس مزنگی کی ضرورت ہے وہ ایسی خاصیت اور قوت کا ہونا چاہیے جو اس فتنہ کو دور کرے۔

اور اب غور کر کے دیکھ لو کہ یہ مزنگی اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوا ہے یا نہیں۔ ایک اصل جو اس نے پیش کی ہے اس کے ذریعہ مذاہب باطلہ کو اس نے ہلاک کر دیا ہے۔ ایک عیسائی نے مجھ سے پوچھا کہ اس نے آکر کیا کیا ہے میں نے کہا کہ تم کو لا جواب کر دیا ہے۔^۶ امرتسر میں پندرہ روز تک مباحثہ ہوا اگر رحیم کریم نہ ہوتا تو ایک ہی منٹ میں ختم کر دیتا۔ ایک ہی اصل اس نے پیش کی تھی جس کا جواب عیسائی اور دوسری قومیں ہرگز نہیں دے سکتیں اور قیامت تک نہ دے سکیں گی۔ پھر وہ اصل ایسی اصل نہیں ہے کہ اسے یونہی رد کر دیا جاوے بلکہ ہر سلیم الفطرت دانشمند انسان کو ماننا پڑے گا کہ بڑی سچی اصل ہے اور وہ اصل یہ ہے کہ ہر مذہب کی

الہامی کتاب کا یہ خاصہ ہونا چاہئے کہ جو دعویٰ وہ کرے اس کی دلیل بھی اسی میں ہو یعنی دعویٰ بھی وہی کرے اور دلیل بھی وہی دے مثلاً عیسائی کہتے ہیں کہ یسوع خدا ہے تو چاہئے کہ انجیل میں پہلے وہ یہ دعویٰ دکھائیں کہ یسوع خدا ہے پھر اس کے دلائل دیں مگر یہ اصل انجیل میں کہاں؟ عیسائی مجبور ہو گئے اور ان کو اس حصہ کو چھوڑنا پڑا۔ اس راہ پر وہ ایک منٹ بھی چل نہ سکتے تھے مباحثہ کی روئیداد موجود ہے جو چاہے دیکھ لے۔ میں تو اسی وقت جب اس کے منہ سے یہ لفظ نکلا تھا سمجھ گیا اور مان چکا تھا کہ یہ کسر صلیب میں کامیاب ہو گیا۔ اس اصل سے اس نے قرآن شریف کی وہ عزت اور عظمت ظاہر کی کہ میرا ایمان ہے تیرہ سو برس کے اندر کسی نے نہیں کی۔ اس نے کل مباحثہ میں اپنے اس طرز اور اصل کو نہیں چھوڑا جو دعویٰ بیان کرتا قرآن شریف سے اور جو دلیل بیان کرتا وہ بھی کتاب اللہ سے دیتا۔ اور پندرہ دن تک برابر اسی کا التزام رکھا اب بتاؤ کہ یہ طرز بیان مزنگی کے سوا حاصل ہو سکتا ہے میں نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں اور میں یقیناً کہتا ہوں کہ جس قدر تم اس وقت موجود ہو تم سب سے زیادہ میں کتابیں پڑھ چکا ہوں اور کتاب میری ہر وقت کی رفیق ہے لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ اس طرز پر مباحثہ کی بنیاد کوئی نہیں ڈال سکا۔ اور ایسی طرز کہ مخالف پہلا ہی قدم نہیں اٹھا سکتا جو چاہے آزما کر دیکھ لے۔ میں نے تو آج بھی اس اصل سے فائدہ اٹھایا۔ ایک شخص نے اعتراض کیا میں نے اسے بھی کہا کہ اس اصل کو مد نظر رکھو۔

مجھ پر اعتراض کیا گیا کہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ اور پھر رمضان ہی میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ میں نے اس کو اولاً یہی جواب دیا کہ تم بتاؤ تمہاری کس کتاب نے منع کیا ہے کہ روزہ نہ رکھو اور پھر اس منع کے دلائل کیا دیئے ہیں۔ میں تو بتاؤں گا کہ روزہ کیوں رکھنا چاہئے اور رمضان میں کیوں فرض کیا گیا اسے کچھ جواب بن نہ پڑا۔ میں نے اس مضبوط اور محکم اصل کو لے کر کہا کہ دیکھو ہماری کتاب قرآن شریف روزہ کا حکم دیتی ہے تو اس کی وجہ بھی بتاتی ہے کہ کیوں روزہ رکھنا چاہیے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة: ۱۸۳) روزہ رکھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم دکھوں سے بچ جاؤ گے اور سکھ پاؤ گے۔ رمضان ہی میں کیوں رکھیں؟ اس کی وجہ بتائی شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (البقرة: ۱۸۶)

چونکہ اس میں قرآن نازل ہوا، یہ برکات الہیہ کے نزول کا موجب ہے اس لئے وہ اصل غرض جو **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** میں ہے حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح پر جس امر کو لویا جس نہی کو لو قرآن نے اس کے اسباب اور نتائج کو واضح طور پر بیان کیا ہے اور نہ صرف بیان کیا ہے بلکہ ان کے نتائج سے بہرہ مند کر کے دنیا کو دکھا دیا ہے۔ آخرت کے وعدے تو آخرت میں پورے ہوں گے اور ضرور ہوں گے مگر اس دنیا میں ان سے حصّہ دیا اور ایسا حصّہ دیا کہ اربعہ متناسبہ کے قاعدہ کے موافق وہ آخرت پر بطور دلائل اور حجج کے ٹھہرے جن کو دیکھ کر اب کوئی آخرت کا انکار نہیں کر سکتا۔ صحابہ ہی تک وہ فیض اور فضل محدود اور مخصوص نہ تھا اب بھی اگر کوئی قرآن شریف پر عمل کرنے والا ہو غلوص سے اللہ تعالیٰ کی طرف آوے وہ ان انعامات اور فضلوں سے حصّہ لیتا ہے اور ضرور لیتا ہے اس وقت بھی لیتا ہے۔ دیکھو ہمارا امام ان وعدوں اور فضلوں کا کیسا سچا نمونہ اور گواہ موجود ہے۔

غرض سب کچھ قرآن میں ہے مگر مزگئی کے بغیر، معلّم کے بغیر، وہ تزکیہ اور تعلیم نہیں ہوتی۔ مزگئی اپنی کشش اور اثر سے تزکیہ کرتا ہے اور ان انعامات کا مورد بنانے میں اپنی دُعا، عقد ہمت، توجہ تام سے کام لیتا ہے جو دوسرے میں نہیں ہوتی ہے۔

ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ وفات مسیح پر اس قدر زور کیوں دیا جاتا ہے۔ ثابت ہو گیا کہ وہ مر گیا اب اس کی کیا ضرورت ہے کہ بار بار اسی کا تذکرہ کیا جاوے؟ میں نے اس کو کہا کہ یہی وہ سرّ ہے جس سے یہ مسیح موعود بنایا گیا اور جو کسر صلیب کا تمغہ لیتا ہے تم اور میں اور اس قابل نہیں ہوئے یہ ثبوت ہے اس کے خدا کی طرف سے ہونے اور اس کے کامیاب ہو جانے کا۔ میں سچ کہتا ہوں اور ایمان سے کہتا ہوں کہ میری آنکھ نے وہ دیکھا جو بہت تھوڑوں نے ابھی دیکھا ہوگا میں دیکھ چکا ہوں کہ کسر صلیب ہو چکی میں نے تو اسی روز اس کا مشاہدہ کر لیا تھا جب اس نے امرتسر کے مباحثہ میں وہ اصل پیش کی جس کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے اس سے بھی بہت عرصہ پہلے مجھے اس کی خوشبو آ رہی تھی اندر باہر جہاں کہیں ہو کوئی بھی مضمون ہو جس پر یہ بول رہا ہو میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ خواہ وہ وفات مسیح سے کتنا ہی غیر متعلق ہو مگر وفات مسیح کا ذکر ضرور ہی کرے گا یہ

عزم، یہ استقلال اور عقد ہمت مامور کے سوا کسی دوسرے کو نہیں ملتی ہے اور یاد رکھو نہیں ملتی ہے تم مامور من اللہ کو اس کے عقد ہمت اور توجہ تام سے بھی شناخت کر سکتے ہو۔ بے شک خدا تعالیٰ مضطر کی دُعا سنتا ہے جب انسان مضطر ہو تو کیوں نہ سنے میں دیکھتا ہوں کہ اپنی بیماری یا دوسرے بیماروں کو دیکھتا ہوں تو میں مضطر ہوتا ہوں اور میرا مولیٰ میری دُعا سنتا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ صورت جاتی رہتی ہے تو پھر وہ حالت پیدا نہیں ہوتی اس وقت میں اپنے نفس کو کہتا ہوں کہ تو مزگئی نہیں ہو سکتا اس وقت مزگئی وہی ہو سکتا ہے جو ہر حالت میں مسیح کی وفات کو لے آتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی کہ میں قرآن پڑھایا کرتا ہوں مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ فرمایا قرآن شریف پڑھایا کرتے ہو تو بس یہی کافی ہے کہ اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ کے معنی اِنِّیْ مُمِیْتُکَ پڑھا دیا کرو اب غور کرو کہ کس قدر عقد ہمت ہے! کیسی توجہ ہے! ساری نصیحتوں میں اسے یہ ایک ضروری معلوم ہوئی ہے۔ مجھ سے اگر وہ شخص پوچھتا تو شاید سینکڑوں نصیحتیں کرتا اور وہ بظاہر ضروری بھی ہوتیں مگر نہ کرتا تو یہی نہ کرتا اور یہی سب سے اہم ہے۔ یا کسی اور سے وہ پوچھتا تو وہ اپنی جگہ سوچ لے کہ کیا وہ یہی نصیحت کرتا جو اس مزگئی نے کی؟ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ہرگز نہ کرتا۔ یہ اسی کا کام ہے دوسرے کا وہی نہیں سکتا اور یہی تو بتاتا ہے کہ یہ کسر صلیب کے لئے آیا ہے۔ کچھ یہ یقین رکھو کہ جب تک خدا تعالیٰ کے فضل کے جذب کرنے کے لئے اضطراب اور سچا اضطراب نہ ہو کچھ نہیں بنتا۔ مسیح کی موت معمولی بات نہیں یہ وہ موت ہے جو عیسوی دین کی موت کا باعث ہے۔

اس قوم کو اگر کوئی جیت سکتا ہے تو اس کے لئے یہی ایک گرہ ہے اور غور کر کے دیکھ لو کہ اس کے لئے اس نے کس قدر دُعا کی ہوں گی دل میں کس قدر جوش اٹھتے ہوں گے ہم تو ان کو سمجھ بھی نہیں سکتے کہ ایک آدمی مر گیا بس مر گیا بات کیا ہے مراہی کرتے ہیں مگر نہیں اس کے حل سے سب کچھ حل ہے یہ فہم جو اسے دیا گیا ہے یہ فہم مامور من اللہ کے سوا دوسرے کو نہیں ملتا یہ اضطراب اور جوش دوسرے کا حصہ نہیں ہو سکتا اگر کوئی دعویٰ کرے تو خیال باطل اور وہم محال ہے۔

پھر اختلاف اندرونی اور بیرونی پر نظر کرو کہ کیا حالت ہو رہی ہے ایک کہتا ہے بائبل میں یہ ہے دوسرا کہتا ہے قرآن میں یہ ہے حضرت صاحب مثال دیا کرتے ہیں کہ انہوں نے مداری کے

تھیلے کی سی بات کر رکھی ہے جسے وہ چاہتا ہے اس میں سے نکالتا ہے ویسے ہی یہ بھی جو روایت اپنے مطلب کی چاہتے ہیں نکال کر پیش کر دیتے ہیں اور یہ اختلاف اس شدت سے پھیلا ہوا ہے کہ اس کا بیان کرنا بھی آسان نہیں۔ صداقت اس طرح پر چھپ جاتی ہے جب تک مامور من اللہ خدا تعالیٰ سے لطیف فہم لے کر نہیں آتا۔ صداقت بیچ کی طرح رہتی ہے جیسے جب بارش آسمان سے آتی ہے تو خواہ ساری دنیا زور لگائے کہ بیچ نشوونما نہ پائے وہ اگنے سے نہیں رہتا اسی طرح پر جب مامور من اللہ آتا ہے تو خواہ کوئی کچھ ہی کرے وہ صداقت کو ضرور نکال لیتا ہے اس کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ جو کام وہ کرتا ہے عقل صحیح اور نقل صریح اور تائیدات سماوی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔

اس وقت آزادی کی راہیں کھلی ہوئی ہیں اسلام پر وہ اعتراض کئے جاتے ہیں کہ پہلے کسی نے کبھی سنے بھی نہ تھے۔ میں نے بعض لوگوں سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی اعتراض کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں یہ بالکل غلط اور جھوٹ بات ہے پہلے کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا۔ اسلامی سلطنت کی سطوت و جبروت کے مقابلہ میں کون اعتراض کر سکتا تھا یہ سب کچھ اسی صدی کا کرشمہ ہے اور اسی انڈیا میں اس کو ترقی ہے جو چاہے کوئی کہہ دے اخبارات و رسالہ جات میں زور شور سے مخالفت کی جاتی اور اعتراض کئے جاتے ہیں کوئی نہیں روکتا۔

فسق و فجور نے یہاں تک ترقی کی ہے کہ شراب جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماع الاثم کہا ہے اسی پر قیاس کر لو کہ کیا حالت ہے۔ لنڈن ایک شہر میں اس کی یہ حالت ہے کہ صرف شراب فروشوں کی دوکانوں کو الگ ایک لائن میں رکھا جاوے تو پچھتر میل سے زیادہ تک جاتی ہیں اور کل کارخانے اتوار کو بند رہیں مگر شراب کی دوکانیں اتوار کو بھی کھلی ضروری ہیں اس سے اندازہ اور قیاس کر لو دوسری حالتوں کا۔

عورتوں کی بابت آیا ہے کہ وہ حبال الشیطان ہیں یعنی عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں حقیقت میں جس قدر ابتلا ان عورتوں کے ذریعہ سے آتے ہیں اور جس طرح شیطان ان رسیوں کے ذریعہ سے اپنا کام کرتا ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں کہ کسی سے پوشیدہ ہو۔ مشنری عورتوں اور مشنریوں سے

جو خرابیاں اکثر اوقات پیدا ہوتی ہیں اور آئے دن اس قسم کی خبریں سننے میں آتی ہیں کہ فلاں گھر میں ایک مشنری عورت آتی تھی اور وہاں سے فلاں عورت کو نکال لے گئی اس کا پتا نہیں وغیرہ۔ پھر اس سے ذرا اور آگے بڑھو ولایت میں جو لوگ پڑھنے کے واسطے جاتے ہیں اور کوئی ان کے حال کا پرہاں اور نگراں نہیں ہوتا پھر جو کچھ وہاں وہ کر گزریں تھوڑا ہے۔ مذہب کی رسمی قیود بھی بمبئی تک ہی سمجھی جاتی ہیں اس کے بعد پھر کوئی مذہب نہیں الا ماشاء اللہ۔ ایک معزز ہندو نے نواب محمد علی خاں صاحب کے مکان پر بیان کیا کہ یہ مت پوچھو کہ ولایت میں کیا کیا کھایا بلکہ یہ پوچھئے کہ کیا نہیں کھایا۔

غرض حباک الشیطان کی وہ حالت، جماع الاثم کا وہ زور شور، سلطنت کا رعب و سطوت و جبروت الگ یہاں تک کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے گو ویسے کچھ اور ہی ظاہر کر دیا گیا ہو کہ مقدمات میں تبدیلی مذہب نجات کا موجب ہو گئی اور مجسٹریٹ نے لکھ دیا کہ عیسائی مذہب کی وجہ سے خلاف گواہی دی گئی یا مقدمہ بنایا گیا۔

ایک آدمی بجائے خود ذلیل اور کس پیرس ہوتا ہے لیکن مشنریوں کے ہاں جا کر اسے روزگار مل جاتا ہے یا کسی کو ممانعت روزگار ہوئی مشنریوں نے اسے پادری بنا دیا اس قسم کے واقعات موجود ہیں یہ خیالی یا فرضی باتیں نہیں ہیں۔ مشنریوں کی بعض رپورٹوں تک سے یہ واقعات کھل جاتے ہیں اگر ان پر زیادہ غور کی جاوے۔

یہ تو ان لوگوں کی آزادی کے اسباب ہیں جنہوں نے مذہب کی پروا نہیں کی۔ اس کے علاوہ مصنفوں اور ماسٹروں کا اثر پڑھنے والوں پر اندر ہی اندر ایک مخفی رنگ میں ہوتا چلا جاتا ہے۔ تصنیف کا ایسا خوفناک اثر ہوتا ہے کہ دوسروں کو معلوم بھی نہیں ہوتا اور شاید پڑھنے والا بھی اسے جلدی محسوس نہ کر سکے مگر آخر کار وہ ایسا متاثر ہوتا ہے کہ خود اس کو جرات ہوتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے بھی اس اثر کے متعلق لکھا ہے اور میں چونکہ بہت کتابوں کے پڑھنے والا ہوں میں نے تجربہ کیا ہے اور علاوہ بریں علم طب کے ذریعہ مجھے اس راز کے سمجھنے میں بہت بڑی مدد ملی ہے۔ میر حسن کی مثنوی پڑھ کر ہزاروں ہزار لڑکے اور لڑکیاں زانی اور بدکار ہو گئی ہیں اور یہ ایسی بین اور ظاہر بات ہے کہ کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا جبکہ تصانیف کا اثر طبائع پر پڑتا ہے اور ضعیف

طبیعتیں بہت جلد اس اثر کو قبول کرتی ہیں تو آج کل تصانیف کے ذریعہ جو ہر مشنری گروہ نے پھیلا یا ہے اس کے متعلق مجھے کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر رنگ میں فلسفہ، تاریخ، طب وغیرہ ہر شاخ علم اور ہر کتاب میں مذہب سے مغائرت اور آزادی کا سبق پڑھایا جاتا اور اسلام کی پاک تعلیم پر کسی نہ کسی رنگ میں حملہ کیا جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کا جادو کچھ ایسا کارگر ہوا ہے کہ ہر شخص بلا سوچے سمجھے کہ اس کے بچے کو کس قسم کی تعلیم مفید اور کارآمد ہو سکتی ہے اپنے لڑکوں کو سکول اور کالج میں بھیجتا ہے جہاں حفاظتِ دین کے اسباب بہم نہیں پہنچائے جاتے۔ وہاں قسم قسم کی فصیح و بلیغ تقریروں والے اور بڑی بڑی لمبی داڑھیوں والے عجیب غریب باتیں سناتے ہیں اور یورپین اقوام کی ترقیوں اور صنایعوں پر لیکچر دے دے کر نوجوانوں کو اس طرف مائل کرتے ہیں یہاں تک کہ سیدھے سادھے نوجوان جو اپنی مذہبی تعلیم سے بالکل کورے اور صاف ہوتے ہیں مذہب کو ایک آزادی کی مانع چیز سمجھنے لگتے ہیں اور انسانی ترقیوں کا مانع اسے قرار دیتے ہیں۔ باتوں ہی باتوں میں سمجھادیئے جاتے ہیں کہ اگر وہ اعتراض علماء کے سامنے کئے جاتے ہیں تو ان پر کفر کے فتوے جڑے جاتے ہیں۔

ان اعتراضوں کا جو اثر پڑتا ہے اس کے متعلق میں ایک قصہ بیان کرتا ہوں مگر یاد رکھو کہ میں قصہ گو نہیں بلکہ درد دل کیساتھ تمہیں اسلام کی حالت دکھانی چاہتا ہوں میری غرض کسی پرکتہ چینی کرنا نہیں ہے اور نہ ہنسنا مقصود ہے بلکہ اصلیت کا بیان کرنا مدنظر ہے۔

میں ایک بار ریل میں سفر کر رہا تھا جس کمرہ میں میں بیٹھا ہوا تھا اسی کمرہ میں ایک اور بڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ ایک اور شخص جو مجھے مولوی صاحب کہہ کر مخاطب کرنے لگا تو اس دوسرے شخص کو سخت بُرا معلوم ہوا اور اس نے کھڑکی سے باہر سر نکال لیا۔ وہ شخص جو مجھ سے مخاطب تھا اس کے بعض سوالوں کا جواب جب میں نے دیا تو اس بڑھے نے بھی سر اندر کر لیا اور بڑے غور سے میری باتوں کو سننے لگا اور وہ باتیں مؤثر معلوم ہوئیں۔ پھر خود ہی اس نے بیان کیا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے کیوں سر باہر کر لیا تھا۔ میں نے کہا نہیں اس نے بیان کیا کہ مجھے مولویوں کے نام سے بڑی نفرت ہے۔ اس شخص نے جب آپ کو مولوی کر کے پکارا تو مجھے بہت بُرا معلوم ہوا لیکن جب

آپ کی باتیں سنیں تو مجھے ان سے بڑا اثر ہوا۔ میں نے پوچھا کہ مولویوں سے تمہیں نفرت ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے لدھیانہ میں ایک مولوی صاحب کا وعظ سنا اس نے دریائے نیل کے فضائل میں بیان کیا کہ وہ جبل القمر سے نکلتا ہے اور اس کے متعلق کہا کہ چاند کے پہاڑوں سے آتا ہے میں نے اس پر اعتراض کیا تو مجھے پٹوایا گیا۔ اس وقت مجھے اسلام پر کچھ شکوک پیدا ہو گئے اور میں عیسائی ہو گیا بہت عرصہ تک میں عیسائی رہا پھر ایک دن پادری صاحب نے مجھے کہا کہ ایک نئی تحقیقات ہوئی ہے دریائے نیل کا منبع معلوم ہو گیا ہے اور اس نے بیان کیا کہ جبل القمر ایک پہاڑ ہے وہاں سے دریائے نیل نکلتا ہے میں اس کو سن کر رو پڑا۔ اور وہ سارا واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ ایک عیسائی نے مجھے مسلمان بنا دیا اور ایک مولوی نے مجھے عیسائی کیا۔ اس وجہ سے میں ان لوگوں سے نفرت کرتا تھا مگر آپ ان میں سے نہیں ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اس کی یہ کہانی سن کر میرے دل پر سخت چوٹ لگی کہ اللہ! مسلمانوں کی یہ حالت ہے غرض اس وقت مسلمانوں کی حالت تو یہاں تک پہنچی ہوئی ہے اور اس پر بھی ان کو کسی مزگنی کی ضرورت نہیں۔ ۵

غرض یہ حالت اس وقت اسلام کی ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ مزگنی کی ضرورت نہیں۔ قرآن موجود ہے میں پوچھتا ہوں اگر قرآن ہی کی ضرورت تھی تو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ قرآن شریف کے آنے کی کیا حاجت تھی؟ کسی درخت کے ساتھ لٹکا لٹکا یا مل جاتا؟ اور قرآن شریف خود کیوں یہ قید لگاتا ہے۔ **وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُرِيهِمْ** (البقرة: ۱۳۰) وغیرہ میں سچ کہتا ہوں کہ معلم کے اور مزگنی کے بدوں قرآن شریف جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت غیر مفید ہوتا آج بھی غیر مفید ہوتا۔

خدا تعالیٰ نے ہمیشہ سے یہ طریق پسند فرمایا ہے کہ وہ انبیاء و مرسلین کے ذریعہ ہدایت بھیجتا ہے یہ کبھی نہیں ہوا کہ ہدایت تو آ جاوے مگر انبیاء و مرسلین نہ آئے ہوں۔

پس اس وقت جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں اور مختلف پہلوؤں سے میں نے دکھایا ہے ضرورتیں داعی ہو رہی ہیں کہ ایک مزگنی اور مطہر انسان جو قرآن کریم کے حقائق و معارف بیان کر کے اس ہدایت کو لوگوں تک پہنچا دے جو قرآن شریف میں موجود ہے یہ کام اس کا ہے کہ وہ

ہدایت کی اشاعت کرے۔ جب یہ ضرورت ثابت ہے تو پھر اس امر کا پتا لگانا کچھ بھی مشکل نہیں ہو سکتا کہ وہ منگسی آیا ہے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں کہ وہ منگسی آ گیا اب اس کی صداقت کا جانچنا باقی رہتا ہے اس کے لئے قرآن شریف اور منہاج نبوة کامل معیار ہے اس سے دیکھ لو اس کی سچائی خود بخود کھل جاوے گی اور عقلی دلائل، نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ اور تائیدات سے اسے شناخت کر لو۔

کسوف و خسوف کا کس قدر عظیم الشان نشان موجود تھا مگر دیکھنے والوں میں سے سب نے فائدہ اٹھایا؟ ہرگز نہیں۔ اس کے پورا نہ ہونے سے پہلے تو اسے صحیح قرار دیتے تھے مگر جب وہ پورا ہو گیا تو روایت کی صحت میں شبہ کرنا شروع کر دیا۔ حقیقت میں جب انسان تعصب اور ضد سے کام لیتا ہے اور ایک بات ماننی نہیں چاہتا تو اس کی بہت سی توجیہیں نکالتا ہے اور اپنے خیال کے موافق عذرات تراش لیتا ہے۔ چونکہ انسان کی قوتیں دن بدن آگے بڑھتی ہیں اس لئے وہ خیالات اور ترقی کرتے جاتے ہیں۔ دیکھو میں کل جس عمر کا تھا آج اس سے ایک دن بڑا ہوں اسی طرح دیکھ لو پچھلے حصہ زندگانی پر جس قدر غور کرو گے اور جتنا پیچھے جاؤ گے اسی قدر تمہیں نمایاں فرق نظر آئے گا کہ کمزوری بڑھتی گئی ہے دیکھو پہلے بول نہ سکتا تھا پھر بولنے لگا اور اپنی مادری زبان میں کلام کرنے لگا۔ پھر یہاں تک ترقی کی کہ اردو بولنے لگا اور پھر یوماً فیوماً اس میں بھی ترقی کی یہاں تک کہ اب اپنی زبان میں مسلسل دو چار فقرے بھی ادا نہیں کر سکتا۔ ایک بار حضرت امام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مجھے پنجابی زبان میں وعظ کرنے کا حکم دیا میں دو چار فقروں کے بعد ہی پھر اردو بولنے لگا۔ اسی طرح دیکھ لو کہ ہر صورت میں انسان ترقی کرتا ہے بچپن کے زمانہ میں جو کپڑے کام آتے تھے اور خوبصورت اور ٹھیک موزوں تھے آج میں ان کو نہیں پہن سکتا۔ یہی نہیں کہ وہ میرے بدن پر نہیں آسکیں گے بلکہ بہت ہی بُرے ہوں گے۔

جہاں تک غور کرتے جاؤ انسان ترقی کرتا جاتا ہے اسی اصول کے موافق وہ نیکیوں اور بدیوں میں بھی ترقی کرتا ہے اور رسم و رواج لباس وغیرہ امور میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ مردوں کے پا جاے گلبدن کے ہوتے تھے اور وہ دوہری پگڑیاں پہننا کرتے تھے اور بھدی سی

تلواریں ہوتی تھی اور کچھ بدنما ڈھالیں مگر آج دیکھو کہ وہ طرز لباس ہی نہیں رہا۔ ان تلواریں اور ڈھالوں کی ضرورت ہی نہیں رہی اس قسم کی توپیں اور بندوقیں آئے دن ایجاد ہو رہی ہیں کہ دشمن اپنے ہی مقام پر ہلاک کر دیا جاتا ہے تو اسے خبر ہوتی ہے۔

فنون حرب میں اس قدر ترقی ہوئی ہے کہ کچھ کہا نہیں جاتا۔ میری غرض اس وقت زمانہ کی ایجادات اور فنون کی ترقیوں پر لیکچر دینا نہیں ہے بلکہ میں اس اصل کو تمہارے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ انسان ترقی کرتا ہے اور وہ جس حالت میں ہو اس میں رہ نہیں سکتا۔ غرض پھر اس حکومت کے دور دورہ میں جہاں اور ترقیاں ہوئیں لباس میں بھی ترقی ہونے لگی پھر الٹی وضع کی پگڑیوں کے بجائے پگڑیوں کا طور بدلا۔ ٹوپیوں کا رواج شروع ہوا۔ بال رکھتے تھے یہ سوچا کہ سردھونے کی تکلیف ہوتی ہے۔ بال چھوٹے کئے جاویں بالوں پر اثر پڑا۔ پھر ڈاڑھیوں کی صفائی شروع ہوئی۔ پھر جوتے کی طرف دیکھا کہ پرانی وضع کے جوتے بھدے اور بدنما ہیں۔ اس لئے ان میں ترمیم کرنی چاہیے اور اس قسم کے ہونے چاہئیں جیسا کہ پاؤں کا نمونہ نیچر نے رکھا ہے۔ پس بوٹ کی طرف توجہ ہوئی اور فرغل چغہ کی بجائے کوٹ نکلے یہاں تک تو خیر تھی۔

لباس سے آگے اثر شروع ہوا اور ایک تہ بند گزار کو نماز بھی چھوڑنی پڑی کیونکہ نماز پڑھنے میں ایک قیمتی پوشاک خراب ہوتی ہے۔ وضو کرنے سے کالر اور نیکیٹائی وغیرہ کا ستیاناس ہوتا ہے اور کفیں خراب ہو جاتی ہیں۔ یہ انسان کی ترقی کی ایک بات ہے اور یہی معنی ہیں میری نظر میں مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (سنن ابی داؤد کتاب اللباس باب فی لبس الشهرة) موجودہ زمانہ میں بھی یہی اثر ہوا ہے قوم کی حالت اسی طرح بگڑی ہے۔ بعض کو فلسفہ نے تباہ کر دیا ہے بعض اور مشکلات اور حالتوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئے۔ میری طبیعت فلسفہ کو پسند کرتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے قرآن جیسا مجھے فلسفہ دیا ہے اور پھر ایک اپنا امام مجھے عطا کیا ہے کہ جس کی قوت قدسی اور تاثیر صحبت سے یہ فلسفہ مجھے بہت ہی عزیز اور کامل تر فلسفہ ملا۔ میں نے دیکھا ہے کہ آج کل کے نوجوان جو انگریزی فلسفہ کی چند کتابیں پڑھتے ہیں جس پر بجائے خود بیسیوں نہیں سینکڑوں اعتراض ہیں۔ بڑے فخر سے ملن، سپنسر کے نام لیتے ہیں اور ناز کرتے ہیں کہ پلیٹونو فلسفہ میں یہ لکھا ہے اور فیثاغورث نے یہ کہا ہے ان باتوں نے ان پر کچھ ایسا اثر کیا ہے کہ اب وہ

مذہب پر ہنسی کرتے ہیں اور اس کو ٹھٹھے میں اڑاتے ہیں۔ مذہب کی حالت تو یوں بدتر ہوئی۔ پھر سوسائٹی کی طرف دیکھو۔ ادنیٰ سے اعلیٰ تک کو میں نے دیکھا ہے جب ان سے کوئی بات پوچھو تو ان کے نزدیک گویا حرام ہے کسی مسلمان کا نام لینا، وہ سوسائٹی کے اصولوں کو بیان کرتے ہوئے بڑے خوش ہوتے ہیں اور انگریزوں کے نام لیتے ہیں اور ان کی کتابوں کے حوالے دینے لگتے ہیں۔

مختصر یہ کہ دنیا الگ معبود ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے جو اثر ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے۔ بچے یوں مبتلا ہیں۔ مدارس میں مذہبی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں اور مسلمان کر نہیں سکتے۔ گورنمنٹ برداشت نہیں کر سکتی کہ ہر مذہب کے معلم مدرسوں میں اپنی گروہ سے قائم کرے کیونکہ مذہبی تعلیم دینا خود مسلمانوں کا اپنا فرض ہے اور اصل تو یہ ہے کہ خود مسلمانوں کی حالت ایسی ہے کہ جہاں جہاں انہوں نے بظاہر دینی تعلیم کا انتظام کیا بھی ہے وہاں بھی یہ حالت ہے کہ دینی تعلیم اصل مقصد نہیں بلکہ دنیوی علوم کے ساتھ برائے نام ایسا رکھا گیا ہے۔

میں اپنے یہاں دیکھتا ہوں دوسرے مدرسوں کی نسبت یہاں دینیات کی طرف توجہ ہے مگر میں نے دیکھا ہے کہ لڑکے مسجد میں بھی انگریزی کتابوں کے سچے یاد کرتے رہتے ہیں مجھے تعجب ہی ہوا ہے۔ عربی اور قرآن شریف کی طرف وہ توجہ نہیں پاتا ہوں جو انگریزی اور اس کے لوازمات کی طرف ہے۔ غفلت جس قدر مسلمانوں پر سایہ کیے ہوئے ہے اس کا تو ذکر ہی نہ پوچھو۔ اعمال میں یہ حالت ہے کہ گھر میں تو اِنَّا اَعْطَيْنَا بھی گراں گزرتی ہے لیکن اگر امام ہوں تو پھر سورہ بقرہ بھی کافی نہیں۔ حدود اللہ میں یہ غفلت ہے کہ اپنی ہی سستی اور کمزوری سے تمام حدود اٹھ گئی ہیں۔ کسی کو جھوٹ یا چوری یا دوسری خلاف ورزیوں کی سزا نہیں ملتی ہے۔

ان باتوں کا اگر ذکر نہ بھی کریں اور مختصر الفاظ میں کہیں تو یہ ہے کہ مذہب سے ناواقفی ہو گئی ہے۔ مہذب جماعت نے مذہب کا ذکر ہی خلاف تہذیب سمجھ رکھا ہے۔ مذہبی مباحثوں کو وہ اس قدر نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس کی کچھ حد ہی نہیں ان کی مجلس میں اگر اسلام یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن شریف کی نسبت سخت الفاظ میں حملے کئے جائیں تو ان کو سن کر خاموش ہو رہنا اور

کسی قسم کا جواب نہ دینا فراخ حوصلگی اور مرنج و مرنجاں کا ثبوت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب کا تعلق صرف دل سے ہے، زبان سے یا اعمال سے یا مال سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔

جہاں تک نظر دوڑاؤ مخلوق کو عجیب حالت میں مبتلا پاؤ گے باوجود اس حالت کے آزادی یہاں تک ہے کہ شاکت مذہب کے متعلق تک بھی کتابیں شائع ہو گئی ہیں اور گپت پرکاش کے نام سے ان کے حالات ظاہر ہو گئے ہیں کوئی مذہب ایسا نہیں رہا جو اس وقت دنیا میں موجود ہو اور اس کے عقائد اور متعلقات پبلک کے سامنے نہ آئے ہوں۔

جب یہ حالت ہے تو پھر میں مسلمانوں سے خطاب کر کے پوچھتا ہوں کہ **لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ** (الصف: ۱۰) کا وقت کب آئے گا اور علامات اور واقعات سے اگر تم استدلال نہیں کرتے تو مجھے اس کا جواب دو کہ مذاہب مختلفہ کا ظہور تو اب ہو چکا ہے وہ رسول اس وقت کہاں ہے جس نے اسلام کو جمع ملل پر غالب کر کے دکھانا ہے۔

الغرض انسان کی اپنی ضرورتیں، پس و پیش کی ضرورتیں، اعمال کا مقابلہ عقل اور فطرت کے ساتھ؛ عقلا کی گواہیاں، راست بازوں کی گواہیاں، اپنے نفس کی گواہیاں موجودہ ضروریات کیا کافی نہ تھیں یہ ثابت کرنے کے واسطے کہ یہ زمانہ امام کا زمانہ ہے۔ بے شک یہ ساری شہادتیں کافی ہیں کہ یہ امام کا زمانہ ہے اور یہ سچ ہے کہ کوئی درخت جڑ کے سوا، کوئی کام ایک مخزن کے سوا نہیں چلتا آخر خدا ہی کا فضل ہوا۔ **ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ** (الجمعة: ۵) اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضلوں کا مالک ہے یہ اسی کا فضل ہے کہ وہ کس کے زمانہ میں امام، معلم منگتی، تالی بھیج دیتا ہے اور کوئی قوم کا دردمند انسان مبعوث فرما دیتا ہے۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے فضل اور رحم کا ایک عظیم الشان نمونہ تھا آپ کی بعثت اللہ تعالیٰ کی رحمانی صفت کے انتہائی تقاضے کا نتیجہ تھی اسی لئے فرمایا **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ** (الانبیاء: ۱۰۸) محمد وہی ہوتا ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے آپ کے نام ہی میں

رحمانیت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ تعریف اسی کی کی جاتی ہے جو بلا مزدوری کام آئے اور شفقت فرمائے اگر مزدوری بھی لے تو پھر تعریف کیسی! بے وجہ عنایت فرما کی ہی تعریف ہوتی ہے اور بے مانگے دینے والا رحمن ہوتا ہے۔ پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمن کا مظہر ہوئے۔ اس قسم کے رحیم و کریم عنایت فرما کے احکام کی خلاف ورزی ایک شریر النفس اور ناپاک فطرت کا کام ہے کیونکہ فطرتی طور پر بمصدق جُبِلَتْ الْقُلُوبُ عَلٰی حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا (کنز العمال، حدیث نمبر ۴۴۱۰۲ جزء نمبر ۱۶ صفحہ ۱۱۵) محسن کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے اور محبت کا شدید تقاضا اس کی اتباع ہے اس لئے فرمایا گیا۔ **قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ** (آل عمران: ۳۲) جو چاہتا ہے کہ وہ مولا کریم کا محبوب ہو اس کو لازم ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے اور سچی اتباع کامل محبت سے پیدا ہوتی ہے اور محبت محسن کے احسانوں کی یاد سے بڑھتی ہے جو شخص اس محسن اور عنایت فرما کی خلاف ورزی کرتا ہے جو بلا وجہ اور بلا مزد مروت و احسان کرتا ہے وہ سب سے زیادہ سزا کا مستحق ہوتا ہے اسی لئے ابو الحفصاء کے منہ سے قرآن شریف میں اب آذکویہ کہلوا دیا **إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ** (مریم: ۴۶) یعنی جس نے بلا وجہ تم پر احسان کیا تیرا قلب اچھا ہوتا تو اس کی محبت میں تو ترتی کرتا بر خلاف اس کے تو نے بتوں کی پرستش کی۔ پس اس رحمانی صفت کے انکار کی وجہ سے عذاب بھی شدید آئے گا۔

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلو سے بھی رحمانیت کے مظہر تھے کہ آپ قرآن جیسی رحمت، شفاء، نور، امام کتاب لے کر آئے اور قرآن کا نزول رحمانی صفت ہی کا اقتضا تھا جیسے فرمایا **الرَّحْمَنِ** عَلَّمَ الْقُرْآنَ (الرَّحْمَنِ: ۳۲) قرآن کا نزول چونکہ اس صفت کے نیچے تھا آپ جب معلم القرآن ہوئے تو اسی صفت کے مظہر بن کر باوجود اس کے کہ ان سے دکھ اٹھائے مگر دُعا، توجہ، عقد ہمت اور تدبیر کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ آخر آپ کامیاب ہو گئے۔ پھر جن لوگوں نے آپ کی سچی اور کامل اتباع کی ان کو اعلیٰ درجہ کی جزا ملی اور ان کی تعریف ہوئی۔ اس پہلو سے آپ کا نام احمدؑ ٹھہرا کیونکہ دوسرے کی تعریف جب کرتا ہے جب فائدہ دیتا ہے چونکہ آپ نے عظیم الشان فائدہ دنیا کو

پہنچایا اس لئے آپ کی تعریف بھی اسی قدر ہوئی۔ اس سے بڑھ کر کیا فائدہ ہوگا کہ ابدالآباد کے لئے خلافت کا سلسلہ آپ کے کامل تبعین میں رکھ دیا۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (النور: ۵۶)۔ اسی وعدہ اللہ اور صادقہ کے موافق آج بھی خدا تعالیٰ (نے) خاتم الخلفاء کو بھیجا ہے۔

غرض! خدا میں جو رحمن و رحیم کی صفت تھی محمد و احمد میں وہ جلوہ گر ہوئیں اس لئے وہ اپنے سچے غلاموں میں دونوں باتیں پیدا کر دیتا ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جس قدر مصلحان اسلام میں ہوئے ہیں وہ یا اسم محمد کے نیچے تھے یا اسم احمد کے۔ میں نے دیکھا ہے کہ علماء ایک بڑی بھاری غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں جب کہ وہ تمام مختلف پیشگوئیاں جو مختلف اشخاص کے حق میں ہوئی ہیں ایک ہی آدمی میں جمع کرنا چاہتے ہیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ کی آیت بھی اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ موعود خلیفہ ایک سے زیادہ ہوں گے پھر کیوں سعی کی جاتی ہے کہ سب کا مصداق ایک ہی ہو۔ مختلف مہدی ہوئے اور اپنے اپنے وقت پر ہو گزرے مسیح بھی ایک مہدی ہے اور وہ اب موجود ہے مگر ذلک فضل اللہ یؤتیه من یشاء جس کو چاہتا ہے فضل دیتا ہے اگر کہو کہ اس وقت بہت سے سلسلے گدی نشین اور سجادہ نشین اور کیا کیا ہیں تو مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْبَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا (الجمعة: ۶) اسفار ان بڑی کتابوں کو کہتے ہیں جن سے کشف حقائق ہو جاتا ہے مگر کوئی بتائے کہ ان انکشافات کے اسباب سے گدھا کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے گدھا جس کی عقدہ ہمت اور توجہ اس سے پرے نہیں کہ دانہ اور گھاس مل جاوے یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ اچھی اروٹھی مل جاوے اور طویلہ کا آخری حصہ ہو جو خاکروب نے اچھی طرح صاف نہ کیا ہو۔ رات کو جھول اور پالان مل جاوے مقدرت سے زیادہ بوجھ نہ ہو۔ اصل غرض اس کی تھوڑی سی نفس پرستی ہے۔ اسی مثال کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کرتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس انکشاف حقائق کے اسباب ہوتے ہیں مگر وہ ان سے اس قدر فائدہ صرف اٹھاتے ہیں جس قدر گدھا دانے، گھاس، جل، پالان اور تھوڑی سی رسی یا اروٹھی سے۔ پس جن کی اصل غرض دنیا ہوتی

ہے وہ ان اسباب انکشاف حقائق سے اسی مقدار دنیا طلبی کے فائدے اٹھاتے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں۔

اس وقت ایک قوم دنیا میں موجود ہے جس نے ۲۷ سوزبان میں ایک کتاب کا ترجمہ کیا اور پھر ترجمہ در ترجمہ کر کے بھی کہتے ہیں کہ وہ کلام اللہ ہے اگر پوچھو کہ اس پر عمل کرنا شرط ہے یا نہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ شرط نہیں کیونکہ شریعت لعنت ہے پر سمجھ میں نہیں آتا کہ اس قدر بوجھ کیونکر اٹھایا ہے اس کی غرض ترجمہ کنندہ کی غرض روپیہ ہے پر پیچ کی غرض اتنی ہی ہے کہ تنخواہ مل جاوے یہ قوم اس کی مصداق ہے **يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا** (البقرة: ۸۰)۔

یہ صاف ظاہر ہے کہ اس قدر زبانوں میں مسیح نے کام نہیں کیا مگر پھر بھی وہ اس کا نام کلام اللہ، کتاب مقدس رکھا جاتا ہے۔ پر پیچوں کو کلام الہی کے خادم کہا جاتا ہے اس سے کس صفائی کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ **يَتَلَوْا** کی صفت نہیں رہی یہ تو ہے غیر مذہب کے لوگوں کا حال، اپنے گھر میں غور کرو۔

کثرت کے ساتھ وہ لوگ جو علماء کہلاتے ہیں ایسے ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ **تَبَارَكَ الَّذِي يَدْعُو** یاد ہے اور کچھ نماز جنازہ آ جاوے گویا سارے قرآن میں ان کو اتنی ہی ضرورت ہے کہ مُرَدِّعٍ یا نئے تعلق نکاح وغیرہ سے کچھ مل جاوے۔ قرآن کی غرض و غایت ان کے نزدیک صرف اتنی ہی ہے اس سے آگے کچھ نہیں۔ مصنفوں کو دیکھو کتابیں لکھتے ہیں۔ مطلب صرف اتنا ہے کہ کچھ فائدہ ہو ان اسفار کا نتیجہ گدھے کی طرح ہے جو فوائدِ قلیلہ کے لئے اس قدر بوجھ اٹھاتا ہے کیا بُری مثال ہے وہ جامع اخلاق انسان جو صفاتِ عالیہ کا وارث ہو سکتا ہے اور خدا تعالیٰ کے فضل و رحم کا وارث بن سکتا ہے وہ انسان جس کا خدا اللہ ہے اور پچھڑا نہیں وہ اس بات پر ایمان لایا ہے کہ اخلاقِ فاضلہ کے حاصل کرنے منشاء زندگی کو معلوم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ کوئی معلم آئے جو **مَنْزُكِي** ہو اور تالی آیات اللہ کا ہو۔ مجھے اس آیت نے بارہا متاثر بنایا ہے **أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا** (طہ: ۹۰) وہ معبود کیسا ہو سکتا ہے جو کسی کی بات کا

جواب ہی نہیں دیتا اگر وہ کسی ایک سے بھی بولتا تو کم از کم یہ الزام اٹھ جاتا۔ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب کسی سے کلام نہیں کرتا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ کچھڑے خدا پر ایمان لائے ہیں نہ کہ متکلم خدا پر! وہ ہرگز نہیں مانتے کہ وہ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ (الفاتحہ: ۲ تا ۴) خدا ہے۔ ایک نیچری کہتا ہے کہ دُعاؤں کا کچھ نتیجہ اور اثر نہیں اس قسم کا اعتقاد رکھنے والا بھی خدا کو کچھڑا ہی مانتا ہے اسلام کے خدا پر وہ یقین نہیں لاتا جس کی بابت یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ وہ اللہ وہی ہے جس نے یہ سچ فرمایا۔

أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (المؤمن: ۶۱)۔

غرض انسان اسفار سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک معلم، مہزنگی موجود نہ ہو۔ اگر ساری دانش اور قابلیت کتابوں پر منحصر ہوتی تو میں سچ کہتا ہوں کہ میں سب سے بڑھ کر تجربہ کار ہوتا کیونکہ جس قدر کتابیں میں نے پڑھی ہیں بہت تھوڑے ہوں گے جنہوں نے اس قدر مطالعہ کیا ہو اور بہت تھوڑے ہوں گے جن کے پاس اس قدر ذخیرہ کتب کا ہوگا مگر میں یہ بھی سچ کہتا ہوں کہ وہ ساری کتابیں اور سارا مطالعہ بالکل رائیگاں اور بے فائدہ ہوتا اگر میں امام کے پاس اور اس کی خدمت میں نہ ہوتا۔ مجرد کتابوں سے آدمی کیا سیکھ سکتا ہے جب تک مہزنگی نہ ہو۔ اب میری حالت یہ ہے کہ جبکہ میں نے محض خدا کے فضل سے راستباز کو پالیا ہے تو ایک منٹ بھی اس سے دور رہنا نہیں چاہتا یہاں تک کہ ایک نے ہزار روپیہ دے کر بلوانا چاہا مگر میں نے گوارا نہ کیا پھر اس پر مجھے تعجب اور حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے دوسرے بھائی کیونکر قادیان سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ میں یہ باتیں صرف تحدیث بالعممہ کے طور پر کہتا ہوں شاید کسی کو فائدہ ہو کہ میں نے بہت کتابیں جمع کیں لیکن جو کچھ مجھے ملاحظہ اس کے فضل سے ملا۔ تم نہ تھے کوئی دعویٰ نہ تھا اس وقت میرے دل نے مان لیا تھا کہ یہ سچا ہے میرے لئے اس کی سچائی کی دلیل اور نشان میں آپ ہی تھا۔ پھر میرا لڑکا عبدالحئی آیۃ اللہ ہے۔ محمد احمد مر گیا تھا۔ لدھیانہ کے ایک معترض نے اس پر اعتراض کیا میرے غافل قلب نے اس کی پروانہ کی اور حقیقت میں میری یہ حالت ہے کہ میں محض اولاد کا خواہشمند نہ تھا میں اسی مجلس میں ایک شخص کو بطور شہادت پیش کر سکتا ہوں اور وہ ایڈیٹر الحکم ہے کہ ایک طبیب نے جو اشتہاری ہے مجھے اس کی معرفت پیغام دیا کہ تم میرا علاج کرو تمہارے یہاں اولاد ہو

جاوے گی میں نے اس کو یہی جواب دیا کہ مجھے محض اولاد کی ضرورت نہیں بلکہ سعادت مند اولاد کی ضرورت ہے اگر اس کا کوئی نسخہ تمہارے پاس ہو تو میں کئی ہزار روپیہ دینے کو تیار ہوں اس کا جواب اس نے کچھ نہ دیا۔ (ایڈیٹر۔ یہ واقعہ بالکل درست اور صحیح ہے)

غرض میں نے اس لدھیانوی معترض کی تحریر کا کچھ بھی لحاظ نہ کیا اور اس پر کوئی توجہ نہ کی مگر میرے آقا امام نے اس پر توجہ کی تو اس کو وہ بشارت ملی جو انوار الاسلام کے صفحہ ۲۶ پر درج ہے اور پھر اس کے چند برس بعد یہ بچہ جس کا نام عبدالحی ہے پیدا ہوا۔ اسی کشف کے مطابق اس کے جسم پر بعض پھوڑے نکلے جن کے علاج میں میری طبابت گرتھی۔ اس کو ان پھوڑوں کے باعث سخت تکلیف تھی اور وہ ساری رات اور دن بھر تڑپتا اور بے چین رہتا جس کے ساتھ ہم کو بھی کرب ہوتا مگر ہم مجبور تھے کچھ نہ کر سکتے تھے ان پھوڑوں کے علاج کی طرف بھی اس کشف میں ایما تھا اور اس کی ایک جز ہلدی تھی اور اس کے ساتھ ایک اور دوائی تھی جو یاد نہ رہی تھی ہم نے اس کے اضطراب اور کرب کو دیکھ کر چاہا کہ ہلدی لگائیں آپ نے کہا کہ میں جرأت نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا دوسرا جزو یاد نہیں مگر ہم نے غلطی کھائی اور ہلدی لگا دی جس سے وہ بہت ہی تڑپا اور آخر ہم کو وہ دھونی پڑی اس سے ہمارا ایمان تازہ ہو گیا کہ ہم کیسے ضعیف اور عاجز ہیں کہ اپنے قیاس اور فکر سے اتنی بات نہیں نکال سکے اور یہ مامور اور مسلوں کی جماعت ایک مشین اور کل کی طرح ہوتے ہیں جس کے چلانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے اس کے بلائے بغیر یہ نہیں بولتے غرض میرا ایمان ان نشانوں سے بھی پہلے کا ہے اور یہ خدا کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو نشان کے بغیر نہ چھوڑا سینکڑوں نشان دکھائیے اور خود میرے ہی گھر میں نشان موجود ہے جس کا میں نے ذکر بھی کیا ہے۔

یہ بات بھی یاد رکھو کہ جو لوگ اپنا ایمان کسی نشان سے مشروط رکھتے ہیں وہ ٹھوکر کھاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو آزمانا چاہتے ہیں اور اس سوء ادبی اور جرأت کی سزا ان کو یہ ملتی ہے کہ وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اقتراجی معجزات مانگتے ہیں ان کو کوئی نشان نہیں دیا جاتا۔ میں نے اب بھی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اس قسم کے اعتراض اور جرأت کیا کرتے ہیں کہ اتنے عرصہ میں فلاں قسم کا عذاب ہم پر آجائے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی عقل اور حد کے پیمانہ میں محدود کرنا چاہتے ہیں اور اس پر حکومت کی خواہش کرتے ہیں حالانکہ اللہ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ (یسوسف: ۲۲)

اس کی شان ہے۔

مختصر یہ کہ ہم محتاج تھے اور قحط زدہ تھے فطرتاً ہم چاہتے تھے کہ اس وقت ہماری دستگیری کی جاوے لیکن ہماری صرف صورت سوال تھی اگر ہم میں عقل ہوتی تو زمانہ کی حالت کو دیکھ کر آنے والے کی تلاش کرتے مگر میں پھر بھی اللہ تعالیٰ کے بڑے فضل کا شکر یہ کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ٹھوکر نہیں کھانے دی بلکہ میری حفاظت فرمائی۔ اللہ

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ کہہ دو! اے یہودیو! اگر تمہیں یہ ناز اور گھمنڈ ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو۔ تو اگر اس دعویٰ میں سچے ہو تو پھر الموت کی تمنا کرو۔

یہودیوں کو اس لئے خصوصاً مخاطب فرمایا کہ وہ عیسائیوں کے بالمقابل مشکلات میں نہ تھے اور کتاب اللہ کے وارث تھے چونکہ عمل نہ تھا اور دنیوی لذات اور شہوات پر جو عارضی اور فانی تھیں مرٹے تھے اس لئے گدھے کہلائے۔ بایں وہ اس امر کے مدعی تھے کہ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ (المائدہ: ۱۹) ان کا یہ دعویٰ لوگوں کو حیرت میں ڈالتا تھا اس لئے اس دعویٰ کی صحت اور عدم صحت کے لئے اللہ تعالیٰ اب اس طرح پر تھری کرتا ہے۔ عیسائیوں کی طرح مشکلات میں نہ تھے اس سے یہ مراد ہے کہ عیسائی قوم اپنی کتاب کے متعلق خطرناک مشکلات میں مبتلا ہے اول حضرت مسیح کی کوئی کتاب ہی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے اور یہ مشکل بہت ہی خطرناک مشکل ہے پھر دوسری مشکل یہ ہے کہ جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہے اس کے متعلق یہ قطعی اور یقینی فیصلہ نہیں ہے کہ وہ مسیح کے حواریوں کی ہی ہے کیونکہ لوقا اور مرقس کی بابت تو صاف فیصلہ ہے کہ وہ حواری نہ تھے اور یوحنا کی بابت بھی بہت سے اعتراض ہوتے ہیں اور ان میں الحاقی حصے پائے جاتے ہیں پھر یہ دعویٰ نہیں کہ وہ خدا کے الہام اور وحی سے لکھے گئے ہیں پھر تیسری مشکل اور ہے کہ ان میں باہم اس قدر اختلاف ہے جو ان کو پایہ اعتبار سے ساقط کر رہا ہے۔..... علاوہ بریں بہت باتیں ان میں ایسی پائی جاتی ہیں جن کی کوئی اصل ہی نہیں۔ چہارم یہ مشکل ہے کہ جس زبان میں مسیح نے وعظ کہا تھا وہ عبری زبان تھی ان کی ماں کی بھی یہی بولی تھی چنانچہ مسیح کے آخری الفاظ جو انجیل میں موجود

ہیں ایسی ایسی لہذا سبق تانسی یہ بھی عبرانی ہیں۔ لیکن اس کے مقابلہ میں یونانی کو اصل سمجھا گیا حالانکہ یہ زبان عبری کے مقابل میں ردی اور کفر سمجھی جاتی تھی یہاں تک کہ یروشلم میں یونانی کے متعلق کسی نے فتویٰ پوچھا کہ کیا اس کو پڑھ سکتا ہوں تو اس کو یہی جواب دیا گیا کہ رات اور دن کے تمام گھنٹوں میں عبرانی پڑھو۔ پھر اس سے جو وقت بچے اس میں یونانی پڑھ لو اب اس سے اندازہ کر لو کہ یونانی کیسی پھیلی ہوئی تھی اور اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ یوسی فس مورخ عبری تھا وہ یونانی جانتا تھا مگر اسے یہ عذر کرنا پڑا کہ یونانی حرام ہے۔ اچھا آدمی اس کو سیکھ نہیں سکتا یوسی فس مستثنیٰ کیا گیا ہے اور اس طرح پر گویا قوم کا کفر کیا گیا ہے۔ غرض اس قسم کے مشکلات میں عیسائی قومیں مبتلا ہیں سب سے بڑی مشکل جس کا ابھی میں نے ذکر کیا انجیل کی اصلی زبان کا سوال ہے جس کے حل نہ ہونے کی وجہ سے انا جیل کی حقیقت بہت ہی کمزور اور بے اصل ثابت ہوتی ہے جب یہ پتا ہی نہ رہا کہ اصل کتاب کس زبان میں تھی؟ تو کتاب کی اصلیت میں کتنا بڑا شک پڑتا ہے! اور یہ ایسی زبردست زد ہے عیسائی مذہب پر کہ اس کا جواب کچھ نہیں دے سکتے۔ چونکہ اصل کتاب ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ ترجمہ در ترجمہ ہے اس لئے اور بھی غلطیاں در غلطیاں اس میں واقع ہو گئی ہیں اور اس کا اندازہ کرنا ہی اب قریباً ناممکن ہو گیا ہے کہ یہ قوم کس قدر غلطیوں میں مبتلا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے اس کتاب کے متعلق یہی فیصلہ دیا ہے۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُوبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيْسَتْ رُؤْيَاهُ تَمَنَّا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْتُوبُونَ (البقرة: ۸۰)

غرض عیسائی قوم تو ان مشکلات میں مبتلا تھی اور ہے اس لئے اس قوم کو مخاطب کیا جس کا یہ دعویٰ تھا نحنُ اَبْنُو اللّٰهِ وَاَحِبَّاؤُهُ پس ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ اور زعم ہے کہ تم خدا کے محبوب اور اپنا اور اولیا ہو تو پھر الموت کی تمنا کرو۔

اولیاء اللہ نہیں فرمایا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا کہ ایسی قوم کو جو گدھے سے مشابہ ہو چکی ہے اپنی طرف مضاف کرے الموت کی تمنا کرو۔ یہ ایک قولِ فیصل ہے ان لوگوں کے

درمیان اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بروز علیہ الصلوٰۃ والسلام کے درمیان۔ بہادر ہو خدا کے حضور اپنے تئیں راست باز اور مقرب سمجھتے ہو تو پھر آؤ میری موت کے لئے بددعائیں کرو اور منصوبے باندھو کہ میں مر جاؤں۔ پھر دیکھ لو گے کہ کون کامیاب ہوتا ہے چنانچہ غور کرو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کس قدر کوششیں اور ناپاک منصوبے کئے گئے اور آپ کی جان لینے کے لئے کونسا دقیقہ تھا جو باقی رکھا گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے وعدہ کو پورا کیا۔

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ التَّاسِ (المائدہ: ۶۸) میں الموت کے معنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی آرزو اور کوشش کیوں کرتا ہوں اس کا ایک زندہ ثبوت ہے احمد مظہر نے دنیا کے تمام سجادہ نشینوں اور سیفی پڑھنے والوں کو کہا ہے کہ میرے لئے بددعا کرو اور پھر دیکھو کہ وہ کس پر الٹ پڑتی ہے۔ مخالف جو بددعائیں کرتے ہیں ان کی بددعائیں ان پر لوٹیں گی جو موت کی آرزو کرتے ہیں خود موت کا نشانہ بنیں گے اور آخر ان کو ماننا پڑے گا اور یا منافقانہ رنگ میں خاموش ہو جائیں گے اور مل ہالکہ چوڑھوں چماروں کی طرح زندگی بسر کریں گے۔ ۱۲

لَا يَتَمَتُّونَ اَبَدًا یہ کبھی بھی مرد میدان ہو کر نہ نکلیں گے اور الموت کی تمنا نہ کریں گے مبالغہ کے لئے نہ آئیں گے۔ لوگوں کے سامنے چونکہ انکار نہیں کر سکتے اس لئے ایسی شرائط اور حجیتیں پیش کریں گے جن کا آخری نتیجہ یہ ہو کہ مبالغہ نہ کرنا پڑے کیونکہ اپنی بد اعمالیوں اور ایمانی کمزوریوں کو تو خوب جانتے ہیں صرف پردہ درمی کے لئے حیلے بہانے کرتے ہیں اور دنیوی مفاد اور منافقوں کو نقصان سے بچانے کی خاطر۔ یہ بجائے خود کیسی حیرت انگیز اور عظیم الشان تحدی ہے جس میں مخالفوں کو غیرت بھی دلائی گئی ہے کہ کبھی بھی مبالغہ میں نہ نکلیں گے اب اگر وہ اپنی ذاتی شعور اور بصیرت سے اپنے ایمان میں قوت پاتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حق پر نہیں سمجھتے تو پھر کونسا امر ہے جو ان کو اس تمٹی سے روک سکتا ہے وہ اتنا ہی غور کریں کہ اس میدان میں نہ نکلنے سے لَا يَتَمَتُّونَ اَبَدًا کی پیشگوئی پورا کرنے والے ٹھہریں گے مگر آخر خدا تعالیٰ کی ہی باتیں سچی اور لا تبدیل ہوتی ہیں۔ یہی سچ ہے کہ وہ کبھی الموت کی تمنا نہ کریں گے کیونکہ

وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ (التغابن: ۵)۔

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ اللَّهُ تَعَالَى صَدْر (مراکز قوی) کا عالم ہے مگر یاد رکھیں کہ یہ بھی مباہلہ ہی ہے مقابلہ جو کرتے ہیں اس مقابلہ میں مباہلہ کا رنگ موجود ہوتا ہے اس لئے وہ موت جس سے بھاگتے ہیں اسی سے مخالف ہلاک ہوتے ہیں ثُمَّ تَرُدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ پھر عالم الغیب کے حضور جاؤ گے اور وہاں بھی عذاب ہوگا اور یہ اربعہ تناسبہ کے قاعدہ کی رو سے صحیح ثابت ہے کیونکہ جب اس جہان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موافق وہ معذب ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موافق وہ اس جہان میں بھی معذب ہوں گے۔

اب اس قوم کا فیصلہ کر کے اللہ تعالیٰ صرف مومنوں کو مخاطب کرتا ہے یا بہ تغیر الفاظ یوں کہو کہ اٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَدْحُقُوْا بِهٖمُ کی مصداق قوم کو مخاطب کرتا ہے اور پہلے اس قوم کا ذکر کیا کہ جنہوں نے تشابہ بالیہود کیا۔

اٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَدْحُقُوْا بِهٖمُ کے مصداق گروہ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ (الجمعة: ۱۰) یعنی اے مومنو! جب تم نماز کے لئے جمعہ کے دن پکارے جاؤ تو اللہ کے ذکر کی طرف کوشش کر کے چلے آؤ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَنْ يُّغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرَّاكِبُوْنَ (الجمعة: ۱۱) یعنی اے مومنو! تم کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے بہتر ہے۔

میں نے ابھی کہا ہے کہ یہ آیت اٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَدْحُقُوْا بِهٖمُ کے نیچے ہے اور یہ بالاتفاق مانا گیا ہے کہ وہ مسیح موعود و مہدی مسعود کا زمانہ ہے کھلے الفاظ میں میں یوں کہتا ہوں کہ یہ قوم ہماری قوم احمدی قوم ہے اور تم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتا ہے۔

مسیح موعود کا زمانہ بھی حقیقت میں ایک جمعہ ہے۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کی تکمیل جمعہ کی آخری ساعت میں ہوئی تھی اسی طرح پر یہ ضروری تھا کہ آدم ثانی کی بعثت بھی جمعہ ہی کہلائے اور جس طرح پر جمعہ کا دن باقی آئمہ کو معطل کر دیتا ہے اور مسلمانوں کو ایک مسجد میں جمع کر کے ایک ہی امام کے تابع کر دیتا ہے۔ مسیح موعود کا نام اِمَامُكُمْ مِنْكُمْ اسی لئے رکھا گیا ہے اور حکم بھی اسی واسطے رکھا گیا ہے یہ باتیں میں محض خوش اعتقادی کی بنا پر نہیں کہتا بلکہ میں یقین رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ

نے جہاں تک مجھے سمجھایا ہے ہاں اس نے آپ سمجھایا ہے قرآن شریف اسی مطلب کو ادا کرتا ہے اور قرآن شریف نے اس آیت میں نَفَحَ فِي الصُّورِ فَجَمَعَهُمْ جَمْعًا (الکہف: ۱۰۰) میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے یہی وجہ ہے کہ آیت اٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَدْحُقُوْا اِبْهَامَهُمْ کو سورہ جمعہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔

غرض مسیح موعود کا زمانہ ایک روحانی جمعہ ہے اور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سے مراد وہی قوم ہو سکتی اور ہے جو مسیح موعود کو ماننے والی ہے اگرچہ عام طور پر عام مسلمان بھی اس حکم کے نیچے ہیں لیکن جو باوجود مسلمان اور مومن کہلانے کے مسیح موعود کا انکار کرتے ہیں وہ دراصل قرآن شریف کی اس آیت کے مصداق ہیں تُوْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضِ (البقرہ: ۸۶) پس میں یقینی طور پر سچا مصداق اس آیت کا انہیں لوگوں کو مانتا ہوں جو کل قرآن شریف پر ایمان لاتے ہیں اور عملی یا اعتقادی طور پر کسی حصہ کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ غرض اللہ تعالیٰ مومنوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم ذکر اللہ کی طرف چلے آؤ۔

صلوٰۃ کیا ہے؟ اس کا جواب خود اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں دیا ہے اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ (العنکبوت: ۴۶) نماز تمام بے حیائیوں اور بدکاریوں سے روکتی ہے پس اگر نماز پڑھ کر بھی بے حیائیاں اور بدیاں نہیں رکتی ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی تک نماز اپنے اصل مرکز پر نہیں اور وہ سچا مفہوم جو نماز کا ہے وہ حاصل نہیں ہوا۔ اس لئے میں تم سب کو جو یہاں موجود ہیں مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ تم اپنی نمازوں کا اسی معیار پر امتحان کرو اور دیکھو کہ کیا تمہاری بدیاں دن بدن کم ہو رہی ہیں یا نہیں۔ اگر نسبتاً ان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا تو پھر یہ خطرناک بات ہے۔

مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جمعہ کی نماز کے لئے بلا یا جاوے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔^۳ یہ تمہارے لئے اچھا ہے اور بیچ چھوڑ دو۔ میں نے اس بیچ کے لفظ پر غور کی ہے کہ یہ کیوں کہا؟ انسان مختلف مشاغل میں مصروف ہوتا ہے۔ ملازمت، حرفت، زراعت وغیرہ

یہاں خصوصیت کے ساتھ بیچ کا کیوں ذکر کیا ہے؟ حقیقت میں جو لوگ قرآن شریف پر غور کرتے ہیں اور اس کے نکات اور معارف سے بہرہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو ضروری ہے کہ وہ اس کی ترتیب اور الفاظ پر بڑی گہری نگاہ سے غور کیا کریں۔ میں نے جب اس لفظ پر غور کیا تو میرے ایمان نے شہادت دی کہ چونکہ یہ سب سلسلہ **وَآخَرِينَ مِنْهُمْ** کے نیچے ہے اور یہ مہدی اور مسیح کا زمانہ ہے اس زمانہ میں دجال کا فتنہ بہت بڑا ہوگا اور دجال کے معنی کتب لغت میں جو لکھے ہیں اس سے پایا جاتا ہے کہ وہ ایک فرقہ عظیمہ ہوگا جو تجارت کے لئے پھرے گا۔ گویا یہ مشترکہ کمپنیاں تجارت کی طرف بلائی ہوں گی اور ذکر اللہ اور طرف۔ اس لئے اس بیچ کے لفظ میں دجال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

ایک جمعہ تو ہفتہ کے بعد پڑھتے ہیں جیسے یہ جمعہ چھوٹا ہے ویسے ہی اس کے مقابل تجارتیں بھی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ایک عظیم الشان جمعہ ہے چھ ہزار برس کے بعد ساتویں ہزار کا جمعہ ہے اگر اور دنوں میں جمعہ کی ضرورت ہے اور اس کے حق میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو جمعہ کی پروا نہیں کرتا اس کا $\frac{1}{۱۰}$ حصہ دل کا سیاہ ہو جاتا ہے اور دو جمعہ کے ترک سے نصف اور چار جمعہ کے ترک سے سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس طرح پر گویا عبادت کی لذت ہی باقی نہیں رہتی۔ پھر فرمایا جو جمعہ سے تحلف کرتے ہیں میرے جی میں آتا ہے کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دی جاوے اور پھر فرمایا کہ اس جمعہ میں ایک وقت ہے جو قبولیت دُعا کا وقت ہے پھر اسی جمعہ میں آدم اپنے کمال کو پہنچا اور بہشت میں داخل ہوا۔ بہشت سے باہر مخلوقات کے پھیلانے کا ذریعہ ہوا۔ اسی جمعہ میں بہت درود شریف پڑھنے کا ارشاد ہوا کم از کم سو بار جمعہ کی رات اور دن کو۔ اور ایک اور عظیم الشان بات ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لیا کرو اور نہیں تو کم از کم پہلی اور آخری دس آیتیں ہی پڑھ لیا کرو۔ پہلی آیتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں لکھا ہے **وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا** (الکھف: ۵) یعنی ان کو ڈرایا جاوے جنہوں نے اللہ کا ولد تجویز کیا ہے اور یہ بھی ہے کہ اس کا بیٹا تجویز کرنے میں **مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ** (الکھف: ۶) نہ ان

کے پاس نہ ان کے بڑوں کے پاس کوئی علمی دلیل ہے ہاں یہ بات ہے۔ **يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ**
يُحْسِنُونَ صُنْعًا (الکھف: ۱۰۵)۔ ان کو اپنی صنعتوں پر ہی ناز ہے۔

اب ان تمام امور پر نظر کرو اور سوچو تو معلوم ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی جمعہ میں بھی فتنہ دجال سے ڈرایا ہے۔ جمعہ میں فتنہ دجال سے ڈرانا اپنے اندر ایک حقیقت رکھتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے مجھے مطلع کیا ہے کہ جمعہ کے ساتھ مسیح موعود کو عظیم الشان تعلق ہے بلکہ میں یہ یقیناً کہتا ہوں کہ جمعہ کا وجود بھی مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت اور آمد کے لئے ایک نشان اور پیشگوئی تھا مگر افسوس ہے کہ جب مسلمانوں نے معمولی جمعہ سے لاپرواہی کی اور اس کو ترک کر دیا تو اس بڑے جمعہ کی طرف آنے کی ان کو توفیق ملنی بہت مشکل ہو گئی۔ میں نے بڑے غور کیساتھ ہندوستان میں مسلمانوں کے زوال کی تاریخ پر فکر کی ہے اور میں اس صحیح نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ یہ سلسلہ زوال اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب مسلمانوں نے ترک جمعہ کو کیا۔ فتنہ دجال سے جو جمعہ کے آداب میں ڈرایا ہے یہ اشارہ تھا اس امر کی طرف کہ دجال کا فتنہ عظیم اس جمعہ میں ہونے والا ہے۔

دجال کے مختلف معنی ہیں دجال سونے کے معنی بھی دیتا ہے اور دجال تجارتی کمپنیوں کو بھی کہتے ہیں یہاں جملہ میں بیع کے لفظ سے بتایا ہے کہ دجال کی پرواہ نہ کرو اب یہ وہ جملہ آ گیا ہے جس کی یاد دہانی جمعہ میں رکھی گئی تھی۔ عجیب بات ہے کہ اس مسیح موعود کو آدم بھی کہا گیا ہے اور پھر یہ اور بھی مشابہت ہے کہ جیسے آدم کی تکمیل جمعہ کی آخری گھڑی میں ہوئی تھی۔ اسی طرح پر اس مسیح موعود کے ہاتھ پر بھی اسلام کی تکمیل اشاعت کا کام رکھا گیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
(الصّف: ۱۰) مفسروں نے بالاتفاق تسلیم کر لیا ہے کہ یہ غلبہ مسیح موعود کے وقت میں ہوگا اور حضرت امام نے **الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ** (المائدة: ۴) کے جو معنی کئے ہیں وہ آپ میں سے اکثروں نے سنے ہوں گے وہ فرماتے ہیں کہ تکمیل سے دو قسم کی تکمیل مراد ہے ایک تکمیل ہدایت دوسری تکمیل اشاعت ہدایت۔ تکمیل ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہو چکی اور تکمیل

اشاعت ہدایت کا یہ وقت آیا ہے یعنی یہ مسیح موعود کے وقت مقدر تھی چنانچہ اس وقت دیکھتے ہو اشاعت کے کس قدر سامان اور اسباب پیدا ہو گئے ہیں۔

اور پھر جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک جمعہ کے ترک سے $\frac{1}{۱۰}$ حصہ دل کا سیاہ ہو جاتا ہے اسی طرح پر یہ بھی مسلم بات ہے کہ خدا کی وحی کے انکار سے سلب ایمان ہو جاتا ہے پھر خدا تعالیٰ کے مامور و مرسل مسیح موعود کے انکار سے سلب ایمان ہونا یقینی ٹھہرا۔ اور پھر جمعہ میں ایک وقت ایسا ہے جو قبولیت دُعا کا ہے اسی طرح پر جب خدا تعالیٰ کا کوئی برگزیدہ بندہ اصلاح خلق کے لئے آتا ہے تو لیلۃ القدر کا وقت ہوتا ہے جس کی بابت قرآن شریف میں آپکا ہے کہ وہ حَیْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ (القدر: ۴) ہوتی ہے ان سارے امور کو اکٹھا کرو اور پھر سوچو اور دیکھو کہ کیا اب یہ وہ وقت نہیں ہے؟ میں ایمان سے کہتا ہوں اور پھر اس پر پورا یقین رکھتا ہوں کہ یہ وہی وقت ہے یہ وہی جمعہ ہے۔ دجال بھی موجود ہے اور مسیح موعود بھی ہے۔

فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذُرِّ وَالْبَيْعِ (الجمعة: ۱۰) دو وقت ایسے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اُمیوں میں اپنے رسول کو بھیجا ہے ایک وہ وقت تھا جب گل دنیا پر تاریکی چھائی ہوئی تھی خصوصاً عرب میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تھی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے موافق اور ابراہیم و اسماعیل کی دُعا کے نتیجہ میں ان میں رسول مبعوث کیا اور اب آپ آئے تیرہ سو سال گزرنے کے بعد جب اسلام کی حالت پر اُمت غالب ہو گئی اور اخلاقی اور ایمانی اور عملی قوتیں کمزور اور مُردہ ہو گئی اور قرآن شریف کی طرف بالکل توجہ نہ رہی بلکہ وہ وقت آ گیا کہ رَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (الفرقان: ۳۱) امصداق ہے اور قرآن آسمان پر اٹھ گیا اور ہر طرف سے اسلام اور قرآن پر حملے ہونے لگے تو خدا کے اس وعدہ کا وقت آیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ (الحجر: ۱۰) اس کی حفاظت کی ضرورت ہے اور چونکہ وہ آسمان پر اٹھ گیا ہے گویا اس کے دوسرے نزول کی ضرورت ہے تب ہی تو اٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ (الجمعة: ۴) والی قوم تعلیم اور ہدایت حاصل کرے اس لئے اٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ والی قوم کا معلم ضرور ہے کہ وہی احمد ہو

(صلی اللہ علیہ وسلم) جو مکہ میں مبعوث ہوا تھا پس اس وقت وہی احمد اپنے بروزی رنگ میں آیا ہے دیکھنے والے دیکھتے ہیں جن کو توفیق نہیں ملی وہ نہیں دیکھ سکتے۔

قرآن شریف سے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ذکر بھی ہے اور جیسے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا بھی وعدہ فرمایا تھا۔ **وَ اللّٰهُ يَعْصِيكَ مِنَ النَّاسِ** (المائدہ: ۶۸) اور عجیب بات ہے کہ یہی وعدہ حضرت مسیح موعود سے بھی ہوا ہے ان ساری آیتوں پر غور کرنے سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہ صحیح ہے کہ ذکر سے مراد اس آیت میں جمعہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بعثت ہے جو بروزی رنگ میں مسیح موعود کی صورت میں ہوئی۔ ﷺ

یہ وہ ذکر ہے جو آخری خلیفہ کہلاتا ہے یہ وہ راہ ہے جو صراط مستقیم ہے۔ پس اس طرف آ جاؤ اور اس وقت دجالی تحریکوں کی طرف نہ جاؤ۔ اس صراط مستقیم کی طرف آنے یا اس ذکر کی طرف متوجہ ہونے کا اتنا ہی مطلب نہیں ہے کہ مان لیا کہ وہ حق ہے اور خدا کی طرف سے آیا ہے۔ یہ ایمان زندہ ایمان نہیں کہلاتا جب تک اس میں عمل کی روح نہ ہو یہ بالکل سچ ہے کہ ایمان بدوں عمل کے مُردہ ہے۔ میں نے جس وقت حضرت امام کے منہ سے یہ سنا کہ تم میں سے بہت ہیں جو اس چشمہ پر پہنچ گئے ہیں جو زندگی کا چشمہ ہے مگر ابھی پانی نہیں پیا۔ ہاں منہ رکھ دیا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ جس وقت سے میں نے یہ سنا ہے میں بہت ہی ترساں ہوں اور استغفار پڑھتا رہا ہوں کہ خدا نہ کرے کہیں وہ میں ہی نہ ہوں۔

لا الہ الا اللہ کے کہنے میں ہم سب یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود، محبوب اور مطاع نہ ہوگا اور کوئی غرض و مقصد اللہ تعالیٰ کے اس راہ میں روک نہ ہوگی۔ اس امام نے اس مطلب کو ایک اور رنگ میں ادا کیا ہے کہ ہم سے یہ اقرار لیتا ہے دین پر دنیا کو مقدم کروں گا اب اس اقرار کو مد نظر رکھ کر اپنے عمل درآمد کو سوچ لو کہ کیا اللہ تعالیٰ کے احکام اور امر و نواہی مقدم ہیں یا دنیا کے اغراض و مطالب۔ اس اقرار کا منشا یہ ہے کہ ساری جزئیں اللہ کے خوف کی اور حصول مطالب کی امید کی اللہ تعالیٰ کے سوا نہ رہیں یعنی خوف ہو تو اسی سے امید ہو تو اسی سے وہی

معبود ہو اسی کی عظمت اور جبروت کا خوف ہو جس سے اطاعت کا جوش پیدا ہو۔ ایسی اطاعت اور عبادت روح میں ایک تذلل اور انکساری پیدا کرے گی جس سے سرور اور لذت پیدا ہوگی اور عملی زندگی کو قوت ملے گی لیکن جب اللہ تعالیٰ کی صفات پر کامل ایمان نہ ہو تو اس ایمان میں عملی قوت پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ وہ اس کھائے ہوئے دانہ کی طرح ہوتا ہے جس میں نشوونما پانے کی خاصیت باقی نہیں رہی۔ غرض اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم نماز کے لئے جمعہ کے دن بلائے جاؤ تو بیع کو چھوڑ کر ذکر اللہ کی طرف آ جاؤ۔

عام جمعوں میں چھوٹی چھوٹی بیع ہے لیکن مسیح موعود کا وقت چونکہ عظیم الشان جمعہ ہے اس لئے اس وقت دجال کا فتنہ بہت بڑی بیع ہے۔ اس لئے فرمایا کہ اس کو چھوڑو اور ذکر اللہ کی طرف آ جاؤ۔ نتیجہ اس کا کیا ہے؟ **ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ** (الجمعة: ۱۰) اگر تم کو کچھ علم ہے تو یاد رکھو کہ یہ تمہارے لئے مفید ہے اس میں خیر و برکت ہے۔ تمہارے لئے اللہ تعالیٰ جس امر کو خیر و برکت کا موجب قرار دیتا ہے اس کو ظنی یا وہمی خیال کرنا کفر ہے۔ انسان چونکہ عواقب الامور اور نتائج کا علم نہیں رکھتا اس لئے وہ بعض اوقات اپنی کمزوری علم اور کمی معرفت کی وجہ سے گھبرا جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے مامور کی صحبت میں رہنا یا اس کے پاس جانا اخراجات کو چاہتا ہے یا بعض تجارتی کاموں میں اس سے حرج واقع ہوگا دوکان بند کرنی پڑے گی یا کیا کیا عذر تراشتا ہے لیکن خدا تعالیٰ یقین دلاتا ہے کہ اس کی آواز سنتے ہی حاضر ہو جانا خیر و برکت کا موجب ہے اس میں کوئی خسارہ اور نقصان نہیں مگر تم کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ پس اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے ہاں۔

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعة: ۱۱)

جب نماز ادا کر چکو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو لو۔ اس کا اصل اور گریہ ہے اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم مظفر و منصور ہو جاؤ گے۔

خدا کی یاد ساری کامیابیوں کا راز اور ساری نصرتوں اور فتوحات کی کلید ہے۔ اسلام انسان کو بیدست و پابنانا یا دوسروں کے لئے بوجھ بنانا نہیں چاہتا۔ عبادت کے لئے اوقات رکھے ہیں

جب ان سے فارغ ہو جاوے پھر اپنے کاروبار میں مصروف ہو۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ ان کاروبار میں مصروف ہو کر بھی یاد الہی کو نہ چھوڑے بلکہ دست بکار دل بہ یار ہو اور اس کا طریق یہ ہے کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھے اور دیکھ لے کہ آیا خلاف مرضی مولیٰ تو نہیں کر رہا۔ جب یہ بات ہو تو اس کا ہر فعل خواہ وہ تجارت کا ہو یا معاشرت کا ملازمت کا ہو یا حکومت کا غرض کوئی بھی حالت ہو عبادت کا رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ کھانا پینا بھی اگر امر الہی کے نیچے ہو تو عبادت ہے۔

یہ اصل ہے جو ساری فتح مند یوں کی کلید ہے مگر افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اس اصل کو چھوڑ دیا۔ جب تک اس پر عمل در آد رہا تو اس وقت تک وہ ایک قوم فتح مند قوم کی حالت میں رہی لیکن جب اس پر سے عمل جاتا رہا تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ قوم ہر طرح پستیوں میں گر گئی۔ **وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ** (الجمعة: ۱۲) اور جب تجارت کے سامان مل جاتے ہیں یا کھیل تماشہ کا وقت پاتے ہیں وہ تجھے چھوڑ کر چل دیتے ہیں ان کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز ہے وہ ساری تجارتوں اور کھیل تماشوں سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہ حالت انسان کی اس وقت ہوتی ہے جب وہ خدا تعالیٰ پر سچا اور کامل یقین نہیں رکھتا اور اس کو رازق نہیں سمجھتا۔ یوں ماننے سے کیا ہوتا ہے جب کامل ایمان ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے لئے سب کچھ چھوڑنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔

بعض لڑکوں سے میں نے پوچھا ہے کہ تم جو گھر جاتے ہو کیوں؟ کیا لہو کے واسطے۔ اگر یہ غرض ہے تو پھر یہ خدا کے اس ارشاد کے نیچے ہے۔ **لَهُوًا** اور **تِجَارَةً** کو گویا خدا تعالیٰ پر مقدم کرتا ہے اس سے بچنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ کو **خَيْرُ الرَّازِقِينَ** یقین کرو۔ اور مت خیال کرو کہ صادق کی صحبت میں رہنے سے کوئی نقصان ہوگا کبھی ایسی جرات کرنے کی کوشش نہ کرو کہ اپنی ذاتی اغراض کو مقدم کر لو۔ خدا کے لئے جو کچھ انسان چھوڑتا ہے اس سے کہیں بڑھ کر پالیتا ہے۔ تم جانتے ہو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

نے کیا چھوڑا تھا اور پھر کیا پایا صحابہ نے کیا چھوڑا ہوگا اس کے بدلے میں کتنے گنے زیادہ خدا نے ان کو دیا۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے جو نہیں ہے۔ **لِلّٰهِ خَزَائِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ** (المنافقون: ۸) تجارتوں میں خسارہ کا ہو جانا یقینی اور کاروبار میں تباہیوں کا واقع ہو جانا قرین قیاس ہے لیکن خدا تعالیٰ کے لئے کسی چیز کو چھوڑ کر کبھی بھی انسان خسارہ نہیں اٹھا سکتا۔ ۱۵

غرض اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز ہے وہ ساری تجارتوں سے بہتر ہے وہ خیر الرازقین ہے۔ میں نے بہت سے ایسے بیباک دیکھے ہیں جو کہا کرتے ہیں۔

ای خیانت بر تو رحمت از تو گنجی یافتم

ای دیانت بر تو لعنت از تو رنجی یافتم

ایسے شوخ، دیدہ خود ملعون ہیں جو دیانت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ پس خدا کے لئے ان ذریعوں اور راستوں کو چھوڑو جو بظاہر کیسے ہی آرام دہ نظر آتے ہوں لیکن ان کے اندر خدا کی خلاف ورزی پائی جاتی ہے۔ میں نے بسا اوقات نصیحت کی ہے کہ **كُونُوا مَعَ الصّٰدِقِیْنَ** (التوبة: ۱۱۹) پر عمل کرنے کے واسطے ضروری ہے یہاں آ کر رہو۔ بعض نے جواب دیا ہے کہ تجارت یا ملازمت کے کاموں سے فرصت نہیں ہوتی لیکن میں ان کو آج یہ سناتا ہوں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام تجارتوں کو چھوڑ کر ذکر اللہ کی طرف آ جاؤ وہ اس بات کا کیا جواب دے سکتے ہیں کیا ہم کنبہ قبیلہ والے نہیں؟ کیا ہماری ضروریات اور ہمارے اخراجات نہیں ہیں؟ کیا ہم کو دنیوی عزت یا وجاہت بُری لگتی ہے؟ پھر وہ کیا چیز ہے جو ہم کو کھینچ کر یہاں لے آئی۔ میں شیخی کے لئے نہیں کہتا بلکہ تحدیث بالعممۃ کے طور پر کہتا ہوں کہ میں اگر شہر میں رہوں تو شاید بہت روپیہ کماسکوں لیکن میں کیوں ان ساری آمدنیوں پر قادیان کے رہنے کو ترجیح دیتا ہوں؟ اس کا مختصر جواب میں یہی دوں گا کہ میں نے یہاں وہ دولت پائی ہے جو غیر فانی ہے جس کو چورا اور قزاق نہیں لے جا سکتا مجھے وہ ملا ہے جو تیرہ سو برس کے اندر آرزو کرنے والوں کو نہیں ملا۔ پھر ایسی بے بہادرتی کو چھوڑ کر میں چند روزہ دنیا کے لئے مارا مارا پھروں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر اب کوئی مجھے ایک لاکھ کیا ایک کروڑ روپیہ پومیہ بھی دے اور قادیان سے باہر رکھنا چاہے میں نہیں رہ سکتا۔ ہاں امام علیہ السلام کے حکم

کی تعمیل میں پھر خواہ مجھے ایک کوڑی بھی نہ ملے۔ پس میری دولت میرا مال، میری ضرورتیں اسی امام کے اتباع تک ہیں اور دوسری ساری ضرورتوں کو اس ایک وجود پر قربان کرتا ہوں۔

میرے دل میں بار بار یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ صحابہ کو جو مہاجر تھے کیوں خلافت ملی اور مدینہ والے صحابہ کو جو انصار تھے اس سے حصہ نہیں ملا۔ بظاہر یہ عجیب بات ہے کہ انصار کی جماعت نے ایسے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جب آپ مکہ سے تکالیف برداشت کرتے ہوئے پہنچے۔ مگر اس میں بھید یہی ہے کہ انصار نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چھوڑا نہیں ان کی نصرت کے لئے خدا نے ان کو بہت کچھ دیا مگر مہاجر جنہوں نے اللہ کے لئے ہاں محض اللہ ہی کے لئے اپنے گھر بار بیوی بچے اور رشتہ دار تک چھوڑ دیئے تھے اور اپنے منافع اور تجارتوں پر پانی پھیر دیا تھا وہ خلافت کی مسند پر بیٹھے۔ میں ثقیفہ کی بحث پڑھتا تھا اور منکم امیر و منا امیر

(صحیح بخاری کتاب فضائل الصحابہ باب قول النبی صلعم لو کنت متخذاً خلیلاً حدیث نمبر ۳۴۶۷) پر میں نے غور کی ہے مجھے خدا نے اس مسئلہ خلافت میں یہی سمجھایا ہے کہ مہاجرین نے چونکہ اپنے گھر بار تعلقات چھوڑے تھے ان کو ہی اس مسند پر اول جگہ ملنی ضرور تھی۔ اللہ تعالیٰ کے لئے جب کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ پس ایسے عذر بے فائدہ اور بے ہودہ ہیں اس وقت دنیا خطرناک ابتلا میں پھنسی ہوئی ہے۔ پہلی بلا جہالت کی ہے تدبیر سے کتاب اللہ کو نہیں پڑھتے اور نہیں سوچتے جب تدبیر ہی نہ ہو تلاوت ہی نہ ہو تو اس پر عمل کی تحریک کیسے پیدا ہو۔ کتاب اللہ کو چھوڑ دیا گیا ہے اور اس کی جگہ بہت بڑا وقت قصوں کہانیوں اور اور لغویات میں بسر کیا جاتا ہے۔

دوسرا نقص یہ ہے کہ فسق و فجور بڑھ گیا ہوا ہے۔ بد معاملگی ہے۔ جہالت ہے گندگی اور ناپاکی کو مقدم کر لیا گیا ہے پھر اس کے ساتھ کبر ہے وہ کبر کہ یہ برداشت نہیں رہی کہ کوئی نصیحت کرے تو صبر کیساتھ اس نصیحت کو سن لیں اور اس کے ساتھ اور مصیبت یہ ہے کہ اپنے دکھ سے نا آشنا ہیں مرض کے حالات سے ناواقف ہیں اسے محسوس نہیں کرتے طبیب کی تشخیص پر نکتہ چینیاں کرتے ہیں اور اسے ہی مجنون ٹھہراتے ہیں۔

غرض یاد رکھو کہ اب زمانہ بہت نازک آ گیا ہے ایک راست باز دنیا میں آیا ہے جس کے

لئے آسمان نے گواہی دی۔ اس وقت کہ جب خدا ایک پچھڑا سمجھا گیا تھا خدا تعالیٰ نے اپنے کلام سے بتایا کہ وہ زندہ اور متکلم خدا ہے اور اس نے اپنے برگزیدہ بندہ کو بھیج کر حجت پوری کی مگر پھر بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کی مخالفت کی جاتی اور اس کے خلاف منصوبہ بازیاں ہوتی ہیں مگر اس کی کچھ پروا نہیں یہ لوگ آخر خائب و خاسر ہونے والے ہیں اور ہوتے جاتے ہیں مخالف منصوبے بناتا ہے کوشش کرتا ہے سفر کر کے خرچ کر کے فتویٰ تیار کرتا ہے کہ یہ کافر ہے اور زور لگا کر کہتا ہے کہ میں اس کو گراؤں گا مگر اس کے سارے اخراجات ساری محنتیں اور کوششیں رایگاں جاتی ہیں خود گرتا ہے اور جس کو گرانے کا ارادہ کرتا تھا وہ بلند کیا جاتا ہے جس قدر کوشش اس کے معدوم کرنے کی کی جاتی ہے اسی قدر وہ اور بھی ترقی پاتا اور بڑھتا ہے۔

یہ خدا تعالیٰ کے ارادے ہیں ان کو کوئی بدل نہیں سکتا اس کے مخالف **تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً** (الانفال: ۳۷) کے مصداق ہو جاتے ہیں۔ پس یاد رکھو اس وقت ضرورت ہے ایسے امام کی جو حق کا سنانے والا، سمجھانے والا اور پھر تزکیہ کرنے والا ہو۔ بڑے ہی بد قسمت ہیں وہ لوگ جو اس نور سے حصہ نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور تم کو توفیق دے کہ ہم جنہوں نے اس نور سے حصہ لینے کی سعی کی اور اس چشمہ کے پاس پہنچے ہیں پوری روشنی حاصل کر سکیں اور سیراب ہوں۔ اور یہ ساری باتیں حاصل ہوتی ہیں جب بصیرت، معرفت اور عقل عطا ہو۔ اور یہ خدا ہی کے فضل سے ملتی ہیں۔ پس جب کسی کو صادق کا پتہ لگ جائے تو ساری تجارتوں اور بیع و شری کو چھوڑ کر اس کے پاس پہنچ جانا چاہیے اور **كُونُوا مَعَ الصّٰدِقِیْنَ** (التوبة: ۱۱۹) پر عمل کرنا ضروری سمجھا جاوے۔

بعض لوگ جو یہاں آتے ہیں اور رہتے ہیں ان کو ایسی مشکلات پیش آتی ہیں جو ان کی اپنی پیدا کردہ مشکلات سمجھنی چاہئیں مثلاً کوئی کہتا ہے کہ مجھے چار پائی نہیں ملی یا روٹی کے ساتھ دال ملی۔ میں ایسی باتوں کو جب سنتا ہوں تو اگرچہ مجھے ان لوگوں پر افسوس ہوتا ہے جو ان خدمات کے لئے مقرر ہیں مگر ان سے زیادہ افسوس ان پر ہوتا ہے جو ایسی شکایتیں کرتے ہیں میں ان سے پوچھوں گا کہ کیا وہ اس قدر تکالیف سفر کی برداشت کر کے روٹی یا چار پائی کے لئے آتے ہیں یا ان کا مقصود کچھ اور ہوتا ہے؟ میرے ایک پیر شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں رہا کرتے تھے ایک

شخص ہجرت کر کے مدینہ میں آیا۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ میں یہاں نہیں رہتا کیونکہ لوگ شرارتی ہیں۔ شاہ صاحب نے اس کو کہا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آئے تھے یا عربوں کے واسطے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آئے تھے تو وہ تو ویسے ہی ہیں جیسا کہ تم نے یقین کیا تھا اور اگر عربوں کے لئے آئے تھے تو وہ بیشک ایسے ہی ہیں جیسا کہ تم سمجھتے ہو۔ پس میں بھی ان احمقوں سے یہی کہوں گا جو اس قسم کی شکایتیں کرتے ہیں کہ اگر تم **اٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ** کے معلم کے لئے آئے تھے تو وہ اپنے خلق عظیم کے ساتھ ویسا ہی موجود ہے اور اگر ہمارے لئے آئے ہو تو ہم ایسے ہی ہیں۔ کیا کھانا کپڑا چارپائی گھر نہیں ملتی تھی جو اس قدر تکلیف اٹھا کر اسی روٹی کے واسطے یہاں آئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ آتے تھے ان کے لئے جاننے ہو کوئی مہمان خانہ تجویز ہوا ہوا تھا یا کوئی لنگر خانہ جاری تھا؟ کوئی نہیں پھر بھی لوگ آتے تھے اور کوئی شکایت نہ کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آتے تھے اور وہی ان کی غرض ہوتی تھی۔ غرض یہاں آؤ نہ اس لئے کہ روٹی یا بستر ہے بلکہ اس لئے کہ تمہاری بیماریوں کا علاج ہو۔ تم خدا کے مسیح اور مہدی سے فیض حاصل کرو۔

ہماری بابت کچھ بھی خیال نہ کرو ہم کیا اور ہماری ہستی کیا؟ ہم اگر بڑے تھے تو گھر رہتے پاکباز تھے تو پھر امام کی ہی کیا ضرورت تھی اگر کتابوں سے یہ مقصد حاصل ہو سکتا تھا تو پھر ہمیں کیا حاجت تھی ہمارے پاس بہت سی کتابیں تھیں! مگر نہیں ان باتوں سے کچھ نہیں بنتا۔

دیکھو ایک در دسر کا بیمار، ایک کھانسی والے بیمار کے پاس ہو اور وہ ساری رات کھانستار ہے اور اس کو تکلیف ہو اور اس کی شکایت کرے تو یہ شکایت بیجا ہوگی وہ خود مریض ہے اسی طرح پر ہم جس قدر یہاں ہیں اپنے اپنے امراض میں مبتلا ہیں اگر ہم تندرست ہو کر کسی مریض کو دکھ دیں تو البتہ ہم جو ابدہ ٹھہر سکتے ہیں لیکن جبکہ خود مبتلائے مرض ہیں اور یہاں علاج ہی کے لئے بیٹھے ہیں تو پھر ہماری کسی حرکت سے ناراض ہونا عقلمندی نہیں ہے۔ پس ہمارے سبب سے مبتلا میں مت پڑو۔ جو لوگ مبتلاؤں سے گھبراتے ہیں میں سچے دل سے کہتا ہوں کہ وہ ہمارے لئے نہ آیا کریں اور اگر ہماری کوئی تقریر ان کو پسند نہ آوے تو وہ یہ سمجھیں کہ ہم مامور نہیں۔ صادق مامور ایک ہی ہے جو مسیح

اور مہدی ہو کر آیا ہے۔ پس خدا سے مدد مانگو ذکر اللہ کی طرف آؤ جو فحشا اور منکر سے بچانے والا ہے اسی کو اُسوہ بناؤ اور اسی کے نمونہ پر چلو۔ ایک ہی مقتدا اور مطاع اور امام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اسی سے سچا پیوند کریں۔ آمین ۱۶

☆.....☆.....☆

الحکم ۱	۳۱ اگست ۱۹۰۲ء صفحہ ۱۰ تا ۱۲
الحکم ۲	۱۰ ستمبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۷ تا ۹
الحکم ۳	۱۷ ستمبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۷ تا ۹
الحکم ۴	۲۲ نومبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۹، ۱۰
الحکم ۵	۱۰ دسمبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۵
الحکم ۶	۲۲ دسمبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۳، ۴
الحکم ۷	۱۷ جنوری ۱۹۰۳ء صفحہ ۴
الحکم ۸	۱۷ فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۴
الحکم ۹	۲۸ فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۷، ۸
الحکم ۱۰	۱۰ جنوری ۱۹۰۳ء صفحہ ۷
الحکم ۱۱	۳۱ جنوری ۱۹۰۳ء صفحہ ۵
الحکم ۱۲	۱۴ فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۳، ۴
الحکم ۱۳	۱۴ فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۳، ۴
الحکم ۱۴	۱۰ مارچ ۱۹۰۳ء صفحہ ۳، ۴

اتفاق اور اختلاف

﴿تقریر فرمودہ اکتوبر ۱۹۰۳ء بمقام کپورتھلہ﴾

سیدنا خلیفہ المسیح اول حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ ۱۹۰۳ء میں برادر مکرّم خان صاحب محمد خاں صاحب مرحوم کی علالت طبع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد سے کپورتھلہ تشریف لے گئے تھے۔ جماعت کپورتھلہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاص مخلصین کی جماعت ہے اور برادر محمد خاں مرحوم حضرت کے عشق و محبت میں ایک فانی شخص تھے۔ میں نے حضرت خلیفہ اول سے اپنے کان سے سنا کہ وہ محمد خاں مرحوم کی محبت اور عشق کو اپنی محبت کے مقابلہ میں بہت بڑھ کر سمجھتے تھے۔ بہر حال وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی محبت میں گداز اور فانی فطرت رکھتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ان کی وفات پر خصوصاً افسوس ہوا اور مرحوم محمد خاں کی اولاد حضرت کے ایک خاص نشان کی صورت میں ممتاز ہے۔ یہ داستان دراز اور پُر لطف ہے کسی دوسرے موقع پر انشاء اللہ سنائیں گے۔ یہ تقریب تھی حضرت خلیفہ اول کے کپورتھلہ جانے کی۔ وہاں کی جماعت نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور حضرت حکیم الامت کی ایک عام تقریر کا اعلان کیا۔ اس موقع پر جبکہ مختلف مذاہب اور مختلف مذاق کے سربر آوردہ لوگوں کا ایک مجمع تھا حضرت خلیفہ اول نے ایک تقریر فرمائی جس کو آج میں قارئین الحکم کے لئے بطور ایک خاص تحفہ کے پیش کرتا ہوں کیوں کہ اس قسم کی تحریریں بجز ایڈیٹر الحکم کے انشاء اللہ العزیز کسی کو نہیں مل سکتیں اور اس قسم کے نادرات کا ایک بیش قیمت ذخیرہ اس کے پاس ہے۔ غرض حضرت نور الدینؒ عظیم کی یہ وہ تقریر ہے۔

اس موقع پر جماعت کے معزز اور مخلص دوست نے حضرت حکیم الامت کو عام عرف کے موافق انٹرویو کیا۔ حضرت حکیم الامت نے اپنی تقریر کو اسی انٹرویو پر ریویو سے شروع کیا۔ اس تمہیدی نوٹ کے بعد ناظرین اس کا لطف اٹھائیں۔ (ایڈیٹر الحکم)

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمد اعبده ورسوله

اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصْرًا ۗ تِلْكَ اٰمَانِيْهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوْا بُرْهٰنَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ . بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ اَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ ۗ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (البقرة: ۱۱۲، ۱۱۳)

یہ دنیا میں ایک رسم ہوگئی ہے کہ جب کوئی شخص کسی تقریر کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو پہلے لوگ اس کی روشناسی کے لئے انٹروڈیوس کراتے ہیں۔ اور اسی طرح آج بھی کیا گیا ہے پر جس طرح انسان خود روشناسی کرا سکتا ہے اس طرح دوسرے کا کام نہیں۔ میں ایک پنجابی آدمی ہوں۔ بھیرہ ضلع شاپور میرا زاد بوم ہے۔ میرا نام والدین نے نور الدین رکھا۔ خدا کرے یہ نام سچ ہو۔ میری مادری زبان پنجابی تھی لیکن چونکہ زمانہ طالب علمی میں ہندوستان میں بہت رہا ہوں اس لئے اردو بولتا ہوں پنجابی بول نہیں سکتا۔ میں سنی مسلمان ہوں مگر ان میں بہت فرقے ہیں۔ بہر حال میرے والدین حنفی المذہب تھے انہی میں میں نے علم پڑھا اور ترقی پائی۔ اس زمانہ میں حدیث پڑھنے کا شوق ہوا تو دور دور کا سفر کیا مگر ابتدائی بات میرے ساتھ تھی حدیث کو ضرورت ترجیح دیتا رہا۔ مباحث کا بھی بہت اتفاق ہوا اور اب اخیر زمانہ عمر میں بھی میں اسی قدیم مذہب پر ہوں اور اسی کے ساتھ مرزا صاحب کا مرید ہوں۔ مجھے یہ تو بتلایا نہیں گیا کہ آپ لوگوں کو کیا سناؤں اس لئے ایسے موقع پر میں اپنے دلی خیالات کا اظہار کر سکتا ہوں یہ کہنا کہ میرے لیکچر پر بحث کی جائے میں پسند نہیں کرتا بلکہ یہ تو اظہار خیال ہے۔ اس سے..... لگ سکے گا کہ آیا میں کچھ باتیں سنانے کے قابل ہوں کہ نہیں۔ میں یہاں مباحثہ کے لئے نہیں آیا بلکہ ایک دوست کی علالت ہے کسی کا مجبور کیا ہوا آیا ہوں۔ مومن کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ جہاں سے کوئی بھلی بات سنے اس کو لے لے۔

میں خوب سمجھتا ہوں کہ نظارہ قدرت میں میرے اپنے اندر اور تمہارے دیکھنے سے مجھے پتا لگتا ہے کہ ہم میں اختلاف بھی ہے اور اتفاق بھی۔ اگر اختلاف ہی اختلاف ہو یا اتفاق ہی اتفاق ہو تو کام نہیں چل سکتا۔ دیکھو صانع قدرت نے عناصر کو کس طرح رکھا ہے۔ گرم کے ساتھ سرد، نمک،

مرج، گھی، پانی یا میری عادت کے موافق گوشت بھی ہو۔ مگر میں نے اپنے اندر کبھی نہیں دیکھا کہ سب کا ایک ہی رنگ ہو۔ بہر حال ان عناصر میں اختلاف بھی ہے اور یکجائی بھی۔ یہ درخت جو میرے سامنے کھڑا ہے، تنا، پھل، پتہ، جڑ میں اختلاف بھی رکھتا ہے وہ بھی اتفاق کے ساتھ ایک خوشنما منظر بھی بناتا ہے۔ پس ہر شخص کی شکل جوتی، پگڑی، آواز، بال، جلد، زبان، رنگ دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے۔ اگر سب ایک ہی شکل صورت والے ہوتے تو بھائی بندوں، بی بی بچوں میں کس قدر اختلاف پڑتا۔ پھر اگر اس وقت اتفاق بھی نہ ہو تو سب لوگ باوجود اس قدر اختلافات کے ایک شخص کے اقوال سننے پر کیسے جمع ہوتے بلکہ باوجود مذہبی اور اخلاقی اختلاف کے بھی ایک وحدت تمہارے اندر ہے۔ اگر اختلاف کئی ہوتا یا اتفاق کئی ہوتا جس کو اتفاق یا اختلاف تامہ کہا جاوے تو آج میرے خیال میں آپ لوگ کبھی بھی نہ جمع ہوتے۔

ایک بچہ کے خیال، غذا، شکل میں والدین کے ساتھ باوجود اتحاد کے اختلاف بھی ہے اور وہ گھر باامن بھی کہلاتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ لوگوں میں اتفاق بھی ہو اور اختلاف بھی ضرور ہو۔ اتفاق کے واسطے دنیا میں خدا کی طرف سے منادی آئے اور آتے رہیں گے۔ مگر لوگوں کو ان سے اتفاق بھی کرنا پڑا۔ پھر اختلاف میں ضرور قدم مارنا پڑا بلکہ میں کہتا ہوں کہ کسی بادشاہ کسی نبی، کسی رسول نے نہ ایک مذہب کر کے دکھلایا اور نہ کل دنیا میں وحدت کی روح پھونک سکا اگر کہیں وحدت کی روح ٹھنکی ہے تو ساتھ اختلاف کی بھی ضرور ٹھنکی ہے۔

پس میں اپنی باتوں سے اختلاف کرنے والے کو تسکین دلا سکتا ہوں کہ میرا دل اس بات کے لئے بالکل تیار نہیں کہ سب لوگ میرے ساتھ متفق ہی ہوں۔ میرے ہزاروں ہزار شاگرد، لاکھوں دوست سینکڑوں فدائی اور جان فدا کرنے والے لوگ ہیں۔ مگر میں نے سب کو اپنے ساتھ واحد نہیں پایا بلکہ میں تو آزاد خیال بنانا چاہتا ہوں۔

پھر میں کسی کی تسلی اور تشفی کا ٹھیکہ دار بن کر نہیں آیا اور نہ آؤں گا۔ میں تو اپنے خیال کا اظہار کروں گا۔ پھر یہی اختلاف کے ساتھ اتحاد اور اتحاد کے ساتھ اختلاف کو بھی پسند کروں گا۔

خدا نے ہمارے اغذیہ، اشربہ، علم وغیرہ چیزوں میں اختلاف ضرور رکھا ہے۔ ہاں ایسی باتیں

کرنے والا مجنون کہلا سکتا ہے مگر وہ بُرا نہ مناوے۔ میں آپ لوگوں میں چونکہ یہاں کا باشندہ نہیں تمیز نہیں کر سکتا کہ آپ لوگ کس پایہ کے مسلمان، ہندو، آریہ، مقلد، غیر مقلد، صوفی، سکھ، ظاہر پرست ہو۔ کس قدر وہ لوگ ہیں جن کے خیال میں آتا ہے کہ اب تو آرام سے گزرتی ہے۔ اب باوجود اس قدر ناواقفی کے کوئی مضمون چھیڑوں تو کیا؟ مقلدوں یا غیر مقلدوں کی باتیں چھیڑوں یا مرزا کی باتیں کروں یا یہ کہ میں کس طرح قرآن اور انبیاء پر ایمان لایا ہوں۔ مگر یہ ایسے مسائل ہیں کہ آپ لوگوں کو میرے بیان سے اتفاق نہ ہوگا۔ اگر خالص میرے اپنے لوگ ہوتے تو پھر اس اپنے عقائد کا وسیع میدان دیکھتا مگر جبکہ اتفاق اور اتحاد دیکھتا ہوں تو چاہیے کہ ایسی بات کروں جو نیک نیتی پر مبنی ہو۔ پھر اسی لئے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت ایسی پڑھی ہے جو ایسی مجلس کے مطابق حال ہے۔

انسان کو خدا تعالیٰ نے یاد ہرنے یا نیچر کے قویٰ نے، بہر حال کچھ بھی مختلف نام ہوں مگر ایک زبردست طاقت کا اختیار دنیا میں ضروری اور لابدی مانا گیا ہے، جس نے پیدا کیا۔ ایک دفعہ مجھے ایک رئیس کے ہاں بیٹھنے کا اتفاق ہوا وہاں سفید چاندنی بچھی تھی اور نرم ہوا چل رہی تھی اور وہ چاندنی بڑی نزاکت سے لہریں مار رہی تھی میں اس کے تماشا میں محو ہو گیا۔ ہر ایک نظارہ قدرت کو پانچ آدمی دیکھتے ہیں۔ بچہ اور مالی۔ یہ ایک ادنیٰ نظارہ ہے۔ پھر شاعر دیکھتا ہے وہ اس کو دیکھ کر عجب عجب اشعار تراشتا ہے۔ پھر ایک فلسفی دیکھتا ہے۔ وہ اس کے تناقضات اتحاد اور سائنس کے مسائل بناتا ہے۔ پھر صوفی خدا پرست دیکھتا ہے وہ اس میں اپنے مولیٰ کی قدرت اس کا جلال مشاہدہ کرتا ہے۔ پھر میں بھی اس موج کو اپنے حال کے مطابق جس طرح کا تھا دیکھ رہا تھا یہ نظارہ میرے لئے ایک دلربا چیز بن گیا اسی محویت میں تھا کہ رئیس نے کہا کہ مولوی صاحب ہمارے اور ہمارے وزیر صاحب کے درمیان ایک تنازعہ ہے آپ اس کا فیصلہ کریں۔ میں نے عرض کیا کیا؟ جواب ملا کہ یہ صاحب ہستی باری کے منکر ہیں آپ ثبوت پیش کریں۔ میں نے کہا کہ یہ چاندنی کی موجیں عمدہ ثبوت ہیں۔ دونوں اس طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے کہا۔ کیا یہ چاندنی اپنے ارادہ سے ناپتے ہیں کہا نہیں ہوا چلاتی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا میں ارادہ ہے۔ کہا نہیں اس کو انقباض چلاتا ہے۔ میں نے کہا کیا

انقباض میں ارادہ ہے۔ کہا نہیں یہ کوئی غیر معلوم سبب ہے۔ میں نے کہا۔ کیا اس غیر معلوم سبب میں ارادہ ہے۔ کہا نہیں اس کو کوئی گریٹ پاؤر دھکا دیتی ہے۔ میں نے کہا کیا اس پاؤر میں ارادہ ہے تو سر نیچا کر لیا۔ اس پر مہاراج کہنے لگے پھر اسی گریٹ پاؤر کو مولوی صاحب اللہ کہتے ہیں اور ہم پر میشر کہتے ہیں۔ پھر سچے دہریہ اور سچے فلسفی حقیقت میں خدا کے منکر نہیں ہوتے ایک زبردست طاقت کا خیال ضرور دل میں ہوتا ہے۔ پس باوجود اختلاف کثیر کے اگر ہم اتفاق پیدا کر سکتے ہیں تو پھر دوسری ہستی کا سرور دل میں پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے قوانین پر عمل کرنا اور دوسری چیز سمجھنا یہی اس کی ہستی کا سرور ہے وہ ہمارے اندر سے اندر کے راز یعنی **يَعْلَمُ السِّرَّ وَ اَخْفَى** (طہ: ۸)۔ یعنی چھپی سے چھپی باتوں کو جانتا ہے اس وقت ہمارے اندر کیا ہے اگر کوئی بچہ سے بچہ اس وقت کہہ سکتا ہے کہ تم اپنے حال سے اس وقت واقف ہو کہ تمہارے دل میں کیا ارادہ ہے۔ پھر ایک گھنٹہ کے بعد۔ ایک سال کے بعد، دس برس کے بعد، اس کے اندر کیا ارادہ ہوگا۔ بعد ایک ایسا راز ہے کہ مجھ سے ضرور مخفی ہے۔ پس ایسے اندرونی حالات کو جاننے والا بے وقت و قوتوں میں جو خیال آویں گے ان کو بھی وہ ایسا جانتا ہے جیسے کہ اس وقت کے خیالات کو جانتا ہے پھر باوجود اختلاف کے اس طاقت پر بھی یہ ایمان لاوے اور اس کا یقین کرے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جس طرح ہم اپنے حاکم کو حقیقت شناس اور رعایا کا پاس دار سمجھتے ہیں اسی طرح اگر اس طاقت پر یقین ہو تو بڑی بڑی کٹھن منزلیں حل اور آسان ہو سکتی ہیں اس سے یہ بھی یقین ہوگا کہ کبھی میرا دشمن مجھ سے زبردست ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ اس سے ہزاروں قسم کی نادانیوں، غلط کاریوں، تکبروں، نخوتوں کے دور کرنے کا مجرب نسخہ مل جاوے گا۔

میں ہمیشہ اپنے مسنونوں کا ذکر کیا کرتا ہوں اور کروں گا کیوں کہ مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے میں نے اپنے ایک پیر سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتلاؤ کہ تمام دکھوں سے بچنے کے واسطے بڑا ہتھیار پیدا کر سکوں فرمایا۔ ہاں خدا کا دھیان۔ اگر ہم کبریائی سے چلتے ہیں تو ذرہ سوچیں چیز تو اُسی کی۔ ایک شخص بڑے تکبر سے اپنے افسر سے کسی ایسے حکم پر دستخط کرانے گیا جو اس کے مفید اور اس کے دشمن کے خلاف تھا مگر قلم ہاتھ میں رہی اور جان نکل گئی۔ ایسے آدمی بھی میں نے دیکھے ہیں کہ کسی

کو مارنے کے لئے ڈنڈا اٹھایا اور وہیں جان نکل گئی۔ ایک رئیس کو میں نے ایک مجلس میں ناچتے ہوئے دیکھا جب گھر پہنچا تو سنا کہ وہ رئیس مر گیا ہے۔ پس کیا پیاری بات ہے کہ خدا کا دھیان ہو اور اسی ہستی کا خوف دل میں نگران ہو۔ میں دیکھتا ہوں کہ میری عمر کا ایک وہ حصہ تھا کہ سلطنت ایسی وسیع نہ تھی اگر ہم لوگوں کو اس وقت لاہور سے کوئی چیز منگوانی ہوتی تو بڑا روپیہ خرچ کرنا پڑتا تھا اور میرے والد چونکہ میری تعلیم کے بہت خواہشمند تھے وہ میرے لئے اکثر چیزیں لاہور سے منگواتے اور بڑی دقتوں سے منگواتے! اب ایسا زمانہ ہے کہ ایک مسافر پشاور سے سو رہے اور کلکتہ تک سوتا ہی چلا جاوے۔ میں نے ایک دفعہ چارکار ڈمنگوائے عدن، سیلون، چین اور لندن لکھ دیئے۔ میں نے سجدہ شکر کیا کہ ایک بادشاہ کے اتحاد سے ہم کو کتنا آرام مل گیا ہے کہ ہم ساری دنیا کی خبر آسانی سے گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں اور گھر بیٹھے ہم کن کن دور دراز کے دوستوں سے ملاقات کر سکتے ہیں حسد اور بخل کا دل مطیع اور کاغذ نے نکال کر پھینک دیا ہے۔ دس ورق کی کتاب کی پہلے کیا قیمت تھی اور اب کیا ہے پھر جس طرح اس سلطنت سے اتحاد کر کے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے اس طرح وہ طاقت جس کے ہاتھ میں ہمارے دکھ، سکھ، موت، حیاتی رکھی ہوئی ہے اس پر ایمان لا کر یعنی اس سے اتحاد کر کے انسان کبھی غضب، تکبر میں نہ پڑ گیا اور ہزاروں بیماریوں کا خود علاج بن جاوے گا۔ یہی اس جلسہ کے حاضرین اگر ایک امر مشہودہ میں کوشش کریں تو مباحثات کا موقع نہ ملے۔

یہ میرا تجربہ ہے کہ کبھی انسان کسی نیک کام یا نیک خیال میں لگا ہوا ہوتا ہے کہ یک دم اس کا خیال بدی کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور کبھی کسی بدی میں مصروف ہوتا ہے کہ فوراً نیک کام کی تحریک ہوتی ہے کبھی دوسرے پر رحم۔ کبھی سلوک اور کبھی محبت کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اور کبھی اس میں ریا اور دنیا طلبی آ جاتی ایسے خیالات کو ہمارے شریعت کی اصطلاح میں ملائکہ یا شیاطین کی تحریک نام رکھتے ہیں۔ گو یہ اصطلاحی نام ہے مگر ایسا واقع ضرور ہوتا ہے پھر اگر ہم نیکی سے اتفاق کریں۔ جیسے ایک بچہ کو پہلے پتنگ چڑھانے میں تکلیف تو ضرور ہوتی ہے پر جب وہ دور چلا جاوے تو وہ خود بخود چڑھتا ہے اس طرح جب انسان نیکی میں قدم بڑھاتا تو پہلے ذرا تکلیف معلوم ہوتی ہے بعد

میں خود بخود اس سے نیکی سرزد ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور اس میں پھر اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ مالی نہ جانی محسوس ہوتی ہے ساتھ ہی یہ خیال آتا کہ کنویں کی پھر کی کو اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں تو عجیب سبق ملتا ہے۔ وہ یہ کہ جب اس کے ذریعہ ڈول کو کنویں میں گرانا چاہتے ہیں تو جوں جوں ڈول بعید ہوتا جاتا توں توں پھر کی کی گرانے کی طاقت بڑھتی جاتی ہے۔ پھر جب انسان گرنے لگتا ہے تو گرنے میں بھی گرانے والی طاقت جلدی جلدی ترقی کرتی ہے پہلے پہل کچھ گناہ کا شرم، کچھ دوستوں کا لحاظ، کچھ مریوں سے حجاب ہوتی بھی ہے مگر پھر آہستہ آہستہ سب سے بڑھ جاتا ہے پھر جب ہمارے دل میں نیک خیال آویں تو ہم ان کے بڑھانے کی کوشش کریں تاکہ ہم سکھ پہنچانے کی کوشش کریں۔ مگر جب بدی کے خیال آویں تو ان کو روکیں ورنہ اس میں ترقی ہو کر دکھ اٹھانا پڑے گا۔

پھر مذہب میں پاک کتابیں بھی ہوتی ہیں ان میں دنیا کی بہتری بھی ہوتی مگر ان میں ایک حصہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بحث طلب ہوتا ہے۔ پھر کیا بابرکت ہے وہ ملک، وہ قوم، وہ گھر جس نے اپنی کتاب کی نیکی باتوں میں جن میں اتحاد تھا اتفاق کیا۔ تورات، انجیل، وید، مہاں بھارت، قرآن کریم میں نیکی کی باتوں میں تو اتفاق تھا۔ اس سے اگر لوگ نیکی کی باتوں میں اتفاق کرتے اور اختلاف کے لئے ہمارے اندرون کو جاننے والا دعائیں کرتا۔ کیونکہ ہم اپنی بھلائی میں تو کوشاں ہیں۔ مگر بعض باتیں جن میں ہمارا اختلاف تھا ہم لوگوں نے اس اختلاف کو آگے رکھ لیا اور اتحاد کو چھوڑ دیا اس لئے اختلاف بڑھ گیا۔

ایک دفعہ ایک عالم صاحب مرزا صاحب کے متعلق مباحثہ کرنے آئے۔ میں نے کہا آپ تو مولوی ہیں اور تنہائی میں بحث چاہتے ہیں گویا آپ ہارنا نہیں چاہتے۔ مگر بد قسمتی سے آپ نے ضرب کا صفحہ پڑھا ہے۔ مگر نہ آپ مارنے والے نہ مار کھانے والے۔ پھر آپ کیا فائدہ اٹھادیں گے کیوں۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ اگر آپ جیت جائیں تو اگر ہار جائیں تو گواہ کون ہوگا اسی لئے تو آپ تنہائی چاہتے ہیں اصل میں آپ کا دل مانتا ہی نہیں کہ ایک انسان دنیا کا مصلح ہو سکتا ہے پھر اس کی عمدہ راہ یہ ہے کہ ہر قسم کی بدی دل سے دور کر کے خدا کے حضور دعا کرو کہ مولا کریم! مجھے ان امور میں بہت شبہات ہیں پھر تو میری راہ نمائی کر اور ہدایت کر۔ پھر مضطر انسان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔

خرگداندہ بنو۔ زگردا بنو۔ پس خدا تعالیٰ خود تمہاری راہ نمائی کرے گا۔ جواب دیا اس سے کچھ نہیں بنتا۔ میں نے کہا پھر مجھ سے بھی کچھ نہیں بنتا مجھے یہ یقین تھا کہ اگر یہ شخص اس طرح دعا کرے گا تو ضرور فائدہ اٹھاوے گا۔ مگر خلاف نکلا۔ کیا حرج تھا کہ وہ ایک دفعہ بھی دعا کر لیتا اور میں سمجھتا کہ مجھے بھی با وقعت سمجھا۔ مگر کچھ دنوں کے بعد میں نے اس کی ایک کتاب دیکھی اس میں لکھا کہ مرزا کے قبیح ایسے بودے ہیں کہ میں نے نور الدین سے سوال کیا تو مجھے دعا کی غلط راہ دکھائی پھر کسی کی تسلی کر دینا یا تسلی کرنے کا وعدہ کرنا یہ بدوں فضل الہی حاصل نہیں ہو سکتا اس لئے ہر قسم کے بغض، کینہ، عداوت کو چھوڑ کر ایسی بات اختیار کرے جن سے خود بھی اور دنیا کو بھی سکھ میں رکھ سکے۔

میں نے اپنے پیر سے ایک دفعہ عرض کیا کہ کوئی ایسا نسخہ بتلاؤ کہ دنیا میں ہمیشہ خوش رہوں۔ کہا آسان ہے مگر لوگ علم نہیں رکھتے اور عمل نہیں کرتے۔ میں نے کہا کیا؟ جواب دیا کہ خدا نہ بنو اور رسول نہ بنو۔ میں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ کہا تم خدا کس کو کہتے ہو۔ میں نے کہا وہ ایک ایسی زبردست طاقت ہے کہ جو چاہے سو کرے۔ کسی کی مجال نہیں کہ نافرمانی کرے پھر کہا کہ

چاہا ہم نے مگر نہ چاہا تو نے چاہا تیرا ہوا ہمارا نہ ہوا مجھے یہ بات نہایت پسند آئی کہ ناکام انسان بھی کبھی ناراض نہ ہو۔ کیونکہ ہم خدا تو نہیں کہ ہمارا ہر چاہا پورا ہو جاوے اگر اس کا کام پورا نہیں ہوتا تو نفس کو ملامت کرے کہ تو کوئی خدا ہے جو تیرا چاہا ہو کر رہے پھر فرمایا۔ رسول کس کو کہتے ہو۔ عرض کیا کہ وہ خدا کی طرف سے آتے اور جو کچھ لاتے وہ حق اور سچ ہوتا۔ اور اگر لوگ اس پر عمل نہ کرتے تو گھبراتے کہ جو کچھ ہم لائے ہیں لوگ اس کو ضرور مان لیں۔ فرمایا پس تو اگر کسی حکم کی اتباع کرانے میں ناکام رہے تو سمجھنا کہ تیرا رسول کا عہدہ تو نہیں کہ تیرا کہنا مان لیا جاوے پھر تو یاد رکھ کہ اگر تیری سچائی کو بھی کوئی چھوڑتا ہے تو تو مامور نہیں یہی راحت بخش زندگی ہے۔

ایک تقدیر کا مسئلہ ہے جس پر اتفاق ہونا چاہیے یہ بھی ملک کی بد قسمتی ہے کہ پاک اور سچے معنوں کا انکار کریں۔ تقدیر کے معنی ہیں اندازہ، آواز، علم، خیمہ وغیرہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے جس کو عربی میں تقدیر کہتے ہیں خَلْقَ كُلِّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا (الفرقان: ۳)۔ پس یہ سب

چیزیں اندازہ کے ساتھ ہیں۔ بد قسمت انسان ہے وہ جو اس بھید کو نہیں سمجھتا کہ بدی کا نتیجہ بدنہ ملے گا بلکہ اچھا ملے گا۔ گندم از گندم بروید جو ز جو کیا عمدہ اور پاک ترجمہ ہے تقدیر کا۔ بدی سے نیکی کی امید جھوٹ، جھوٹ، فریب دھوکہ وغیرہ سے اگر کوئی یقین کرے کہ میں کامیاب ہوا تو وہ بالکل جھوٹا ہے نہیں سمجھتا کہ گندم از گندم بروید جو ز جو۔ پنجابی کی خوب مثل ہے کہ جو کوئی آگ کھائے گا انکارہ ہگئے گا۔

بہلول ہارون رشید کے بھائی تھے مگر امور سلطنت میں دخل نہ دیتے تھے۔ ایک دفعہ ہارون رشید نے ان کو کہا کہ آپ ایک بھلا کام کریں۔ بازار کی خبر رکھا کرو۔ کہا بہتر۔ ایک دفعہ کروڑوں کے تاجر کی دوکان پر گئے اور پوچھا کیا حال ہے۔ کہا پیسہ روپیہ منافع لیتے ہیں بچہ آوے نادان آوے بوڑھا آوے جوان آوے اس سے زیادہ نہیں لیتے کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ لاکھوں کا مال بکتا ہے۔ نقد خرید فروخت ہے۔ سینکڑوں کا منافع ہے۔ دوسری ایک دوکان پر گئے جہاں ہزاروں کی دوکان تھی سوایا منافع لیتے اس میں کچھ قرض بھی بتلایا گیا کہا بعض آسامی لچ بھی جاتی ہے بقدر ضرورت گزارہ ہوتا ہے۔ پھر ایک گلی کے چور دوکان پر گئے۔ پوچھا سناؤ کہا اندھا راجہ پیدا گنر چار گنہ آٹھ گنہ بیس گنہ بھی کر لیتے ہیں۔ مگر قدرت خدا کی اگر دن کا ہے تو رات کا نہیں اور اگر رات کا ہے تو دن کا نہیں۔ برا حال ہے۔

یہ سیر کر کے بہلول ہارون کے پاس گئے کہا ضرور عقائد اور زبان بھی اثر کرتے پر اعمال بھی اپنا پھل دے رہے ہیں میرے اور تمہارے نگرانی کے سوائے بھی لوگ اپنے اپنے اعمال کی جزا سزا پا رہے ہیں۔ ہاں اندھے انسان کی نظر اس پر نہیں پڑتی۔ پس میرے خیال میں تقدیر پر ضرور ایمان ہو۔ پھر تمدیر ہوتی، جو تقدیر کے نیچے چلتی ہے پھر جو تمدیر تقدیر کے خلاف ہو وہ کبھی کارگر نہیں ہوتی مگر یہ بات ضرور مد نظر رہے کہ جس کام کو یہ کھل کر علی و س الا شیاء نہیں کر سکتا اس میں ضرور کچھ کپٹ ہے۔ پھر جو بات دوسروں کی طرف سے ہم اپنے لئے پسند نہیں کرتے۔ چاہئے کہ وہ ہم دوسروں کے لئے بھی ناپسند رکھیں۔ میرے دانست میں ان اتفاقات میں کوشش کرنا ہی اس آیت میں ہے لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوَ اَوْ نَصْرًا (البقرة: ۱۱۲) یہود کہتے ہیں ہم

خدا کے مقرب ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ہم مقرب ہیں کیونکہ مسیح کفارہ ہو گیا میں کہتا ہوں کہ آتشک کس کو ہوتا ہے تم کو یا مسیح کو۔ ہر انسان صرف دعوے سے کامیاب نہیں ہو سکتا اسلام کے معنی ہیں سلامتی، آشتی، عمدہ نمونہ مگر ایک شخص زانی فاسق، فاجر، معاشرت اور تمدن میں بُرا نمونہ ہے وہ ان لفظوں سے بچ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لئے کہ بَلَىٰ ۚ مَنۢ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ (البقرة: ۱۱۳) پھر یہی شخص فائدہ اٹھائے گا۔

نماز کا وقت آ گیا ہے۔ اور شاید میری تقریر میں آپ لوگوں کی دلچسپی بھی پیدا نہ ہوئی ہو۔ اس لئے میں اس کو ختم کرتا ہوں اور یہ کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ باوجود اختلاف اغذیہ، اشربہ، صور، مکان اور شہر کے پھر بھی وحدت کی روح اگر تم میں لگی رہے تو آرام اور سکھ پاؤ گے تمہارے کام عمدہ طور پورے ہوں گے۔ کیا پھلے ہیں وہ جو اختلاف میں اختلاف رکھتے اور اتفاق میں اتفاق۔ ایسا ملک ایسا گھر ایسا شہر امن سے رہتا ہے۔ لو میں سب سے رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔^۱



الحکم ۷، ۱۴، ۲۱ دسمبر ۱۹۱۸ء صفحہ ۵۲۳ تا ۵۲۴

الحکم ۲۱ دسمبر ۱۹۱۸ء صفحہ ۵۲۳ تا ۵۲۴

قرآن کریم اور فضل الہی کا سائبان

(افتتاح کالج کی تقریب سے خطاب فرمودہ ۲۸ مئی ۱۹۰۳ء)

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله
 اما بعد ہم تو ہر روز تم کو وعظ سناتے ہیں اور سارا دن اسی میں صرف ہو جاتا ہے قرآن شریف کا
 وعظ بھی خدا کے فضل سے مستقل طور پر جاری ہے مگر اس وقت خصوصیت سے مجھے ارشاد ملا ہے کہ کچھ
 سناؤں۔ تمہید کی ضرورت نہیں ہے اس وقت یہ نظارہ سامنے موجود ہے۔ ایک طرف قرآن شریف
 اور دوسری طرف کرۂ ارض پڑا ہوا ہے پھر اوپر سائبان ہے اور ایک طرف وہ لمبی لکڑی ہے یہی مضمون
 کافی ہے۔ انسان کو خدا نے بنایا ہے اور اس کے اندر اس قسم کی اشیاء رکھی ہیں کہ اگر ان سب کا نشوونما نہ
 ہو تو پھر وہ انسان انسان نہیں رہتا ایک ذلیل مخلوق ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ان خدا کی عطا کردہ قوتوں کا
 عمدہ نشوونما ہو تو وہی انسان خدا کا مقرب بن سکتا ہے اور اس کے یہی ذرائع ہیں جو تمہارے سامنے ہیں۔
 (قرآن کریم کی طرف اشارہ کر کے) یہ پاک کتاب جب نازل ہوئی اس وقت ساری دنیا میں اندھیر
 تھا۔ عرب خصوصیت سے ایسی حالت میں تھا کہ کل دنیا کا روبرو راست ہو جانا آسان مگر اس کا سدھرنا
 مشکل سمجھا جاتا تھا۔ یہ میاں نبی کے نوحہ میں یہ ایک فقرہ موجود ہے جس میں وہ اپنی قوم کو نصیحت کرتا ہے
 کہ تم نے سچے خدا کو چھوڑ دیا۔ دیکھو تمہارے پاس عرب موجود ہیں۔ وہ جھوٹے خداؤں کو نہیں چھوڑ
 سکتے لیکن یہ ایک کتاب ہے جس نے ان عربوں کو ایسا بنایا اور عزت دی کہ وہ دنیا کے ہادی، مصلح، نور
 اور ہدایت بن گئے اس کا ذریعہ صرف قرآن کریم ہی تھا جو ان کے واسطے شفا، نور اور رحمت ہوا۔

قرآن کریم کا دائیں جانب ہونا تمہارے لئے خوش قسمتی کی فال ہے اور یہ وہی کتاب ہے جو کہ
 دائیں جانب ہونی چاہیے۔ اس سے یہ تقاول ہے کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں ہو (کرۂ ارض کی
 طرف اشارہ کر کے) دوسری طرف یہ ہے جس پر زندگی چل رہی ہے۔ کتاب اللہ میں بھی اس کی
 ترتیب اسی طرح سے ہے کہ اول آسمان کا ذکر ہے تو پھر زمین کا موجودہ ضرورت کے لحاظ سے تم کو اس

قرب الہی کے حاصل کرنے کی ضرورت ہے جس سے عرب کی نابود ہستی بود ہو کر نظر آئی وہ ذریعہ قرآن کریم ہے کہ جس سے اس کرہ پران کو حکمرانی حاصل ہوئی تھی۔ اس وقت اس کے بڑے حصہ ایشیا اور افریقہ اور یورپ ہی تھے جن کو مخلوق جانتی تھی اور اس قرآن کی بدولت ان معلوم حصص پران کی حکمرانی ہوئی مگر اس کے ساتھ ہی اصلی جڑ فضل الہی کا سائبان بھی ان پر تھا ورنہ قرآن تو وہی موجود ہے اور اس وقت اہل اسلام کی تعداد بھی اُس وقت سے اضعاف مضاعفہ ہے۔ آنحضرت صلعم کے زمانہ میں پڑھے لکھوں کی تعداد ۱۳۵ سے زیادہ ہرگز نہ تھی۔ خطرناک قوم کے مقابلہ پر سخت جنگ کی حالت میں ۳۱۳ سے زیادہ سپاہی نہ تھے۔ غزوہ خندق میں ۶۰۰ تھے اب باوجود اس کے کہ اس وقت سے بہت بہت زیادہ تعداد موجود ہے مگر وہ بات نہیں ہے نہ وہ عزت نہ آبرو نہ اندرونی خوشی نہ بیرونی۔ تو اس بات کی جڑ یہ ہے کہ اس زمانہ میں جس وقت فرمان نازل ہوا اس کی قدر کی گئی اس کو دستور العمل بنایا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اہل عرب جو اول کچھ نہ تھے پھر سب کچھ بن گئے۔ قرآن شریف کے ابتدائی الفاظ میں لکھا ہے ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ (البقرة: ۲) نبی کریم صلعم نے اس کتاب کا ادب اس طرح سے کیا کہ آپ کے زمانہ میں سوائے قرآن کے اور کوئی کتاب نہ لکھی گئی اس وقت بھی خوش قسمتی سے وہی کتاب موجود ہے۔ اگر کوئی اور بھی اس وقت کی لکھی ہوئی ہوتی تو پھر یہ جوش نہ ہوتا یا خدا اور کوئی راہ کھول دیتا۔ غرضیکہ اس کتاب کی عزت سے فضل الہی کا وہ سایہ قائم ہوا۔ جیسے اس وقت تم لوگ آسائش سے بیٹھے ہو سائبان تم پر ہے دھوپ کی تپش سے محفوظ ہو۔ اس طرح وہ لوگ جو کہ جنگلوں میں اور دور دراز بلاد میں رہتے تھے۔ وہ اس کے ذریعہ سے امن کی زندگی بسر کرنے لگے۔ تمام ترقیوں عزت اور حقیقی خوشی کی جڑ یہ کتاب ہے اور اسی کے ذریعہ سے ہم اس (کرہ ارض) پر حکمرانی کرتے ہیں۔ اور اسی کے ذریعہ سے فضل الہی کا سایہ ہم پر پڑ سکتا ہے، یہ نہ خیال کرو کہ ایرانی سلطنت ایسی راحت میں ہے ہرگز نہیں۔ جس قدر وہ اس کتاب سے دور ہے اسی قدر اس میں گند ہے۔ مگر تم کو ان باتوں کا علم نہیں ہے۔ بڑے بڑے لائق، چالاک اور پھرتی سے بات کرنے والوں کے ساتھ ناچیزی کی حالت میں میرا مقابلہ ہوا ہے مگر اس قرآن کے ہتھیار سے جب میں نے ان سے بات کی ہے تو ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگ گئیں۔ ایک انسان جو کہ بیماریوں میں مبتلا ہو بظاہر تم

اسے خندہ اور خوش دیکھ سکتے ہو مگر اندر سے دکھ اسے ملامت کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ یاد رکھو خوشی کا چشمہ قلب پھر عقل، پھر حواس ہیں اس کے بعد جسم میں خوشی ہوتی ہے مگر جو لوگ غموں میں مبتلا ہوں ان کو حقیقی خوشی نہیں ہوا کرتی۔

میں تم کو ایک بچہ کا قصہ سناتا ہوں کیونکہ تم بھی بچے ہو مگر وہ عمر میں تم سب سے چھوٹا تھا اس کا نام یوسفؑ ہے جس وقت بھائیوں نے اسے باپ سے مانگا اور چاہا کہ اسے باپ سے الگ کر دیں اور جنگل میں جا کر ایک کنویں میں اتار دیا۔ اب تم سمجھ سکتے ہو کہ اس کی کیا عمر تھی۔ اگر چہ وہ چھوٹا تھا اور ناواقف تھا مگر پھر بھی اوروں کی طرح باپ سے الگ ہونے اور نکالے جانے کا اسے علم تھا اور یہ جانتا تھا کہ اس سے دکھ ملتا ہے ذرا سوچو تو جب ایک بچہ کو اس کی ماں سے الگ کیا جاتا ہے تو بچہ کا کیا حال ہوتا ہے۔ پھر بچے ہوئے کے نام سے دب جاتے، سہم جاتے ہیں اور اس کو وہ تاریک کنواں دکھایا جس میں اسے اتارا گیا۔ نہ اس وقت کوئی یار نہ آشنا نہ ماں اور نہ باپ اگر ہوتے بھی تو اسے وہ بات نہ بتلا سکتے جو خدا نے بتائی اور ان کو کیا علم تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا مگر خدا کا سایہ اس پر تھا۔ خدا نے اسے بتلایا **لَتَنبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ** (یوسف: ۱۶) کہ اے یوسف! دیکھ تجھے باپ سے الگ کیا تیری زمین سے تجھے الگ کیا اور اندھیرے کوئیں میں ڈالا۔ مگر میں تیرے ساتھ ہوں گا اور اس علیحدگی کی تعبیر کو تو بھائیوں کے سامنے بیان کرے گا اور ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ دیکھ لو یہ باتیں باپ نہیں کر سکتا نہ وعدہ دے سکتا ہے کہ یوں ہوگا۔ یا جاہ و جلال کے وقت تک یہ تندرستی بھی ہوگی ایک باپ بچے سے پیار تو کر سکتا ہے مگر وہ اس کے آئندہ کی حالت کا کیا اندازہ لگا سکتا ہے ان باتوں کو جمع کر کے دیکھو اگر کوئی انسان تسلی دیتا تو بچہ کو پیار کرتا گلے میں ہاتھ ڈالتا اور اسے کہتا کہ ہم جی جی دیویں گے۔ مگر خدا کی ذات کیا رحیم ہے وہ فرماتا ہے **لَتَنبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِ هَذَا** ہم وہ عروج دیویں گے کہ تو ان احمقوں کو بتلا دے گا۔

یہ حقیقت ہے اس سایہ کی جسے میں چاہتا ہوں تم پر ہو۔ علوم کی تحصیل آسان ہے مگر خدا کے فضل کے نیچے اسے تحصیل کرنا یہ مشکل ہے۔ کالج کی اصل غرض یہی ہے کہ دینی اور دنیوی تربیت ہو مگر اول فضل کا سایہ ہو، پھر کتاب، پھر دستور العمل ہو اس کے بعد دیکھو کہ کیا کامیابی ہوتی ہے۔ فضل الہی کے لئے پہلی

بشارت پیارے عبدالکریم (سیالکوٹی۔ ناقل) نے دی ہے۔ وہ کیا ہے حضرت صاحب کی دعائیں ہیں میں ان دعاؤں کو کیا سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے اور یقیناً تمہارے ادراک سے بالاتر ہوگی مگر میں کچھ بتلاتا ہوں۔

مخالفوں سے انسان ناکامیاب ہوتا ہے گھبراتا ہے ایک لڑکا ماسٹر کی مخالفت کرے تو اسے مدرسہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ جس قدر مہتمم مدرسہ کے ہیں اگر وہ سب مخالفت میں آویں تو زندگی بسر کرنی مشکل ہو۔ اگرچہ افسر بھی لڑکوں کے محتاج ہیں مگر ایک ذرہ سے نقطہ سے اسے بورڈنگ میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اس پر اندازہ کرو کہ ایک کی مخالفت انسان کو کیسے مشکلات میں ڈالتی ہے۔ لیکن ہمارے امام کی ساری برادری مخالف ہے رات دن یہی طاق ہے کہ اسے دکھ پہنچے پھر گاؤں والے مخالف حالانکہ ان کو نفع پہنچتا ہے۔ میں نے ایک شریعہ سے پوچھا کہ مرزا صاحب کے طفیل تمہاری کتنی آمدنی ہوگئی ہے تو کہا بیس روپے ماہوار زیادہ ملتے ہیں علیٰ ہذا القیاس ان گدھے والوں اور مزدوروں سب سے دریافت کرو تو یقین ہوگا کہ ان کے واسطے ہمارا یہاں رہنا کیسا باہرکت ہے مگر ان سب کے دلوں میں ایک آگ بھی ہماری طرف سے ہے باوجود ہم سے متمتع ہونے کے پھر بھی ان کے اندر ایک کپکپی ہے کہ یہ یہاں کیوں آگئے۔ ابھی ایک مینار بن رہا ہے۔ اگر کوئی میرے جیسا خلیق ہوتا تو راستہ کو توڑ کر مینار ایک کونہ میں بناتا مگر اس مجسم رحم انسان (مرزا غلام احمد) نے اسے مسجد کے اندر بنایا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ ان لوگوں کو غیرت نہیں آتی کہ کیا ان دور دراز سے آنے والوں کی عقل ماری گئی ہے کہ دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ یہ کہاں کے فلاسفر ہوئے جو ایسی بات کرتے ہیں؟ کیا ان کے تجارب ہم سے زیادہ ہیں یا معلومات میں ہم سے بڑھ کر ہیں؟ شرم کے مارے کچھ جواب تو نہیں دے سکتے۔ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی مت ماری گئی ہے کہ روپیہ اپنا کھاتے ہیں اور یہاں رہتے ہیں۔ یہ حال تو گاؤں کی مخالفت کا ہے۔ پھر سب مولوی مخالف، گدی نشین مخالف، شیعہ مخالف، ہنسی مخالف، آریہ مخالف، مشنری مخالف، دہریوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا مگر وہ بھی مخالف اور نہایت خطرناک دشمن اس سلسلہ کے ہیں۔ ان تمام مشکلات کے مقابلہ میں دیکھو وہ (حضرت مرزا صاحب) کیسے کامیاب ہے۔ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تم اس طرح کامیاب ہو۔ یہاں ہمارا رہنا تمہارا رہنا سب اسی کے نظارہ ہیں کہ باوجود اس قدر مخالفت کے پھر

پروانہ دار اس پر گرتے ہیں اس کا باعث یہی ہے کہ وہ کتاب اللہ کا سچا حامی ہے اور رات دن دعاؤں میں لگا ہوا ہے۔ اس لڑکے سے بڑھ کر کوئی خوش قسمت نہیں۔ جس کے لئے یہ دعائیں ہوں۔ مگر ان باتوں کو وہی سمجھتا ہے جس کی آنکھ مینا اور کان شنوا ہو۔ لَتَسْتَبْتَهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا کی صدا یوسفؑ کے کان میں پڑی اس سے سوچو کہ خدا کا فضل ساتھ ہوتا ہے تو کوئی دشمن ایذا نہیں پہنچا سکتا کس طرح کے جاہ و جلال اور بحالی یوسفؑ کو ملی اور سب سے عجیب بات یہ کہ ان بھائیوں کو آخر کہنا پڑا اِنَّا كُنَّا خٰطِئِيْنَ (یوسف: ۹۸) اس کا جواب یوسفؑ نے دیا لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ (یوسف: ۹۳)۔

یہ سب کچھ اللہ پر یقین کا نتیجہ تھا تم بھی اللہ پر کامل یقین کرو اور ان دعاؤں کے ذریعے جو کہ دنیا کی مخالفت میں سپر ہیں فضل چاہو۔ کتاب اللہ کو دستور العمل بناؤ تاکہ تم کو عزت حاصل ہو باتوں سے نہیں بلکہ کاموں سے۔ اپنے آپ کو اس کتاب کے تابع ثابت کرو۔ ہنسی، تمسخر، ٹھٹھا، ایذا، گالی یہ سب اس کتاب کی تعلیم کے برخلاف ہے، جھوٹ سے، لعنت سے، تکلیف اور ایذا دینے سے ممانعت اور لغو سے بچنا اس کتاب کا ارشاد ہے صوم اور صلوة اور ذکر شغل الہی کی پابندی اس کا اصول ہے۔

تمہاری تربیت کی ابتدائی حالت ہے اگر چہ تربیت کرنے والے اس قابل نہیں ہیں کہ تم کو اعلیٰ منازل تک پہنچائیں مگر کوئی کمزوری اور نقص اگر انتظام میں ہے تو اس کی اصلاح تمہارے ہی ہاتھ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذٰلِكَ نُؤَيِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (الانعام: ۱۳۰) یعنی اس طرح ہم ظالموں پر ظالموں کو ولی کرتے ہیں تاکہ اپنے اعمال کا نتیجہ بھوگیں۔ پھر فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ (الرعد: ۱۲) پس اپنی اصلاح میں لگو کہ مصلح تمہارا متولی ہو اللہ تعالیٰ تم کو توفیق دے کہ فضل خدا کا سایہ تم پر ہو اس کی کتاب تمہارا دستور العمل ہو کرہ زمین پر عزت سے زندگی بسر کرو دنیا کے لئے نمک نور اور ہدایت ہو جاؤ اپنی کمزوریوں کے لئے دعا کرو اپنے حکمرانوں کے لئے دعا کرو اور کوشش کرو کہ یوسفؑ کی طرح بن جاؤ۔ آمین

(الحکم ۲۴ جون ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۲، ۱۱)



عورتوں کو وعظ

﴿تقریر فرمودہ ۱۴ جولائی ۱۹۰۳ء بعد نماز عصر﴾

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكُمْ إِن كُنْتُمْ تُرِيدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيَّتَهَا فَتَعَالَيْن
أَمْتِحْنَنَّ وَأُسْرِحْنَنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (الاحزاب: ۲۹)

یہ آیتیں قرآن شریف کے ۲۱ پارہ کے اخیر اور ۲۲ پارہ کے ابتدا کی ہیں ان میں خدا نے ایک گھر والیوں کو وعظ فرمایا ہے۔ اس گھر اور اس واعظ کا وعظ اور جن بیبیوں سے اس واعظ کا تعلق ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے میری عرض یہ ہے کہ واعظ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ گرامی ذات ہے جس کے لئے دنیا کو یہ حکم ہوا کہ **إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ** (ال عمران: ۳۲) کہ اگر تم کو یہ منظور ہے کہ خدا کے محبوب بنو تو اس کی اتباع کرو۔ جب انسان کسی کا پیارا بنتا ہے تو پیار کرنے والا اپنے پیارے کی تکلیف کو پسند نہیں کرتا۔ اگر کسی غلطی کی وجہ سے وہ کسی تکلیف میں ہو تو اس کی تکالیف کو دور کرتا ہے۔ مگر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ محبوب کی تکلیف دیکھتے اور اس کو دور نہیں کر سکتے۔ اس لئے کہ ان میں طاقت دور کرنے کی نہیں ہوتی مگر خدا تو کامل قدرت اور کامل علم والا ہے۔ پس خدا نے فرمایا کہ اگر تم کو مجھ سے تعلق ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو پھر تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ جب تم اس کے محبوب بن جاؤ گے تو ہر ایک قسم کے سامان تمہارے لئے اللہ تعالیٰ مہیا کرے گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس پاک بندے سے گھر میں وعظ کروایا اس لئے کہ ہم اس پر عمل کر کے فضل اور ابدی آرام حاصل کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ کیا اور اپنی بیبیوں کو سنایا وہ یہاں کسی تھیں **وَالتَّيَّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ** (النور: ۲۷) پس ان بیبیوں کو وعظ سنایا۔

ہم کو اتباع کا حکم ہے۔ اس لئے یہ وعظ مجھ کو دو طرح سنانے کے لئے مامور کیا جاتا ہے۔ پہلے رسول اللہ کے اتباع کا حکم دوسرے اس سچے اور حقیقی نائب اور خدا کے پاک بندے نے حکم دیا ہے کہ میں تم کو وعظ سناؤں۔

اب بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعظ کیا اور کیا وہ وعظ خود کیا یا خدا کے ارادہ سے کیا۔ اس میں خدا کا ارشاد یہی تھا کہ وعظ سناؤ۔ اس سے ہم کیا فائدہ اٹھائیں۔ سنیں اور سنائیں اور اس کے اغراض پر غور کر کے عمل کریں۔

آجکل دنیا میں ایک بیماری ہے نہ صرف عورتوں میں بلکہ مردوں میں بھی کہ جب ہم کسی راستباز کے اعمال، احکام اور چال چلن بیان کرتے ہیں تو اس وقت بہت لوگ شیطانی اغوا سے کہہ دیتے کہ یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا نہ ہم رسول اور نہ رسول کی بی بی۔ میرے نزدیک یہ کہنا کفر ہے اور خدا پر بھی الزام آتا ہے۔ اس لئے کہ اگر ہم سے ان احکام کا نباہ نہیں ہو سکتا تو کیا خدا نے کوئی لغو حکم دیا ہے۔ پھر جب خدا نے نبی کی اتباع کا حکم دیا ہے جبکہ ہم وہ کام کر ہی نہیں سکتے تو ہمیں ان کی اتباع کا حکم کیوں ملا؟ میرا ایمان ہے کہ جن احکام کا متبع خدا نے ہم کو بنایا ہے ہم ضرور کر سکتے ہیں اور جن سے روکا ہے ان سے ہم رک سکتے ہیں۔ پس میں یقین کرتا ہوں کہ خدا نے جو حکم دیئے ہیں ان کو ہم کر سکتے اور اس کے موانعات سے ہم رک سکتے ہیں۔

رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیبیاں جب مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ میں کوئی مکان، باغ، زراعت یا تجارت کا سامان نہ تھا اور سب کو ایک گونہ تکلیف تھی اور وہ اس قسم کی تکلیف نہ تھی جیسے آجکل لوگوں کو لنگر سے کھانا ملتا اور مہمان خانہ میں چار پائی ملتی۔ بلکہ اس وقت ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہ ملتا تھا۔

پھر ایک شریر قوم یہود نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت چھیڑکی یعنی دس ہزار آدمی کو باہر سے چڑھا کر لائے اور اندر سے خود تباہ کرنا چاہا۔ مگر خدا نے ان باہر والوں کو بھگا دیا اور یہود کو اس پاداش میں ہلاک کیا۔ اور ان کے کل اموال آنحضرت کے سپرد کئے۔ اس پر کمزور طبائع کی عورتوں کو خیال آیا کہ اب ہمیں آسائش ہو جاوے گی۔ اس پر یہ حکم آیا کہ اے نبی اپنے گھر والوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارا اصل منشاء دنیا والی زندگی اور اس کی زیب و زینت کا خیال ہے تو آؤ ہم تمہیں کچھ دے کر علیحدہ کر دیتے ہیں اور اگر یہ منشاء ہے کہ خدا راضی ہو اس کا رسول راضی ہو آئندہ سکھ پاؤ تو یاد رکھو کہ خدا کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اے نبی کی بیبیو! اگر تم میں سے کوئی بدی کا ارتکاب کرے گی تو اس کو دو ہر اعداب ملے گا۔ اور یہ بات خدا پر آسان ہے اور جو کوئی تم میں سے خدا اور رسول کی اطاعت

کرے گی اور عمل صالح کرے گی دو گنا اجر دیں گے۔ اے نبی کی بیویو! کیا تم عام عورتوں کی طرح تو ہونہیں جب کہ تم نے متقی بننے کا ارادہ کیا ہے تو کوئی ایسی بات نہ کرنا جس میں کسی شریر کا لحاظ پایا جاوے اور ایسی بات کہو جو بھلی اور پسندیدہ ہو اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور جاہلوں کی طرح باہر نہ نکلا کرو۔ اور درست رکھو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ اور اطاعت کرو خدا اور اس کے رسول کی تحقیق ارادہ کر لیا ہے خدا نے یہ کہ دور کر دے تم سے ہر قسم کی ناپاکی، اے گھر والو اور تمہیں پاک کرے۔

اب غور کرو یہ نبی کی بیویوں کا حکم ہے تم میں اگر ہماری ام المؤمنین ہیں تو حکم پہلے ان کے لئے ہے کہ تمہارے لئے دنیا اور اس کی زینت کا ارادہ کرنا خدا کا منشاء نہیں۔ جب وہ خدا اور رسول اور یوم آخرت کا ارادہ کریں گے تو خداوند ضائع نہ کرے گا اور اگر تم سے کوئی غلطی ہوگی تو دوہرا عذاب ہوگا کیونکہ ان کے چال چلن کا اثر دوسری عورتوں پر پڑے گا۔ اگر وہ اپنے خاوند کے حالات پر غور نہ کریں گی اپنا نیک نمونہ دوسری عورتوں کو نہ دکھادیں گی تو بہت بڑا جوابدہ ہونا پڑے گا خدا کا منشاء ان کے لئے بھی وہی ہے جو رسول اللہ کی بیویوں کے لئے تھا۔

اب جس قدر پیماں ان کے ماتحت ہیں لازمی ہے کہ وہ ان کا نمونہ اختیار کریں گی۔ ہماری ایک چھوٹی سی بچی ہے وہ عقل نہیں رکھتی پر ہمیں دیکھ کر کاغذ قلم دوات سے لکیریں ڈالتی رہتی ہے۔ پس جب کہ انسان کی جبلت اس طرح پر واقع ہوئی ہے تو عورتیں بھی نمونہ کی محتاج ہیں بہت سی عورتیں باہر سے آئیں اگر وہ وہی نمونہ یہاں آ کر بھی دیکھیں جو ان کے اپنے دنیاوی گھروں میں ہے تو پھر وہ سست اور کاہل ہو جائیں گی پھر اگر یہاں چستی اور نیکی اور دینداری کا نمونہ دیکھیں گی تو خود بخود نمونہ بنیں گی۔ پھر آپ کا چال چلن ایسا ہو کہ دوسری عورتیں اسے دیکھ کر نیکی کا نمونہ بنیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ایک نمونہ صرف ایک نمونہ سنا تا ہوں۔ وہ ایک ایسی بی بی کا ذکر ہے کہ حقیقت میں ہماری ام المؤمنین کی ماں تھی۔ سچا تقویٰ انسان حاصل کر ہی نہیں سکتا جب تک نکاح سے لباس حاصل نہ کرے کیونکہ بہت سے تعلقات اور نرمیاں اور اغماض اس رشتہ سے کرنے پڑتے ہیں۔ میں نے ایک حدیث میں پڑھا ہے کہ یہ بطل لوگ جن کا کوئی رشتہ بی بی، بچہ نہیں بڑے ناقابل اعتبار ہیں۔

پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے وقت پہلے پہل جس پر اپنا دعویٰ اظہار کیا وہ آپ کی بی بی خدیجہؓ تھیں۔ ساتھ ہی اس بی بی کو یہ بھی کہا کہ میں مامور ہوا ہوں اس لئے اپنی جان کا بھی مجھے ڈر ہے۔ یہ نمونہ تعجب انگیز نہیں۔ اس وقت ہمارے مرشد و مولا بھی تنہا ہیں۔ ہندو، سکھ، آریہ، عیسائی، شیعہ وغیرہ و غیرہ گل قو میں دشمن۔ رشتہ دار دشمن۔ سر پر باپ موجود نہیں۔ غرض اندرونی بیرونی دنیا دشمن ہو رہی ہے پر خدا کے بغیر کون اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میں خود ابھی تک اس حد تک نہیں پہنچا جسے میں چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی پاک زبان سے سنا ہے کہ میں ایک ایسے جنگل میں جانا چاہتا ہوں جس کی راہ میں لوہے کے کانٹے ہیں پھر ہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دشواری نظر نہیں آتی مجھ کو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ محبت ہے وہاں اس بی بی سے بھی اس طرح کی محبت ہے۔ اس بی بی نے اس وقت آنحضرتؐ کو کیا جواب دیا اور کیسا پاک اور پیارا جواب دیا جو بخاری میں درج ہے کہ میری روح اس پر قربان ہوتی ہے فرمایا کلاً واللہ نہیں حضور ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم خدا آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا۔ آپ تو رحم کا بڑا بھاری لحاظ کرتے ہیں پس رحم کے لحاظ سے جو بیوی کے رشتہ داروں سے محبت کی جاتی ہے جو شخص ایسا لحاظ کرتا ہے پیارے خاندانہ ذلیل نہیں ہوتا۔ پس تم بھی رشتہ داروں سے خاص خاص پیارا اور محبت کرو کہ خدا ذلت سے بچاؤ۔

آپ تو دکھیاروں کے دکھاٹھاتے ہو اور دکھیوں اور تھکے ماندوں کی مدد کرنے والا خدا کے حضور ذلیل نہیں ہوتا۔

پھر آپ کے حضور جو لوگ آتے ہیں وہ، وہ چیز پاتے ہیں جو جہان میں ان کو میسر نہیں آ سکتی یعنی خدا کے قرب کی راہیں آپ سے ملتی ہیں۔ اور آپ سچ بولتے ہیں اور ضرورتوں کے وقت آپ ہمیشہ لوگوں کے شریک ہوتے ہیں اسی طرح کے لوگ کبھی ذلیل نہیں ہوتے۔

پس یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو سچ طور پر رسول کی رسالت کو ثابت کرتی ہیں۔ یہ کلمہ اس بی بی کے منہ سے نکلا ہوا ہزاروں ہزار لوگوں کے واسطے راہ ہدایت ہوا۔ جب لوگ دیکھتے کہ پندرہ برس کی تاجرہ کا ربی بی ایسے الفاظ کہتی ہے تو سوائے ماننے کے اور کیا کہہ سکتے۔

اسی قسم کا پاک نمونہ ہونے کے لئے خدا نے ان آیات میں آگاہ کیا ہے کہ جو عورتیں رسول کے گھر میں رہتی ہیں خدمت گار ہوں یا اصیل ہوں خدا تمہارے لئے چاہتا کہ تمہارا اصل ارادہ زینتِ دنیا نہ ہو بلکہ خدا اور رسول کی اتباع اور آخرت کی بھلائی ہو۔

تمہاری غلطی دوہری غلطی نہ ہو کیونکہ غلط کار اپنی غلطی کا آپ ہی پھل اٹھاتا۔ پس جس کی غلطی دیکھ کر دوسروں نے اثر پذیر ہونا ہے اس کو دو غلطیوں کا پھل ملے گا۔ اسی طرح تمہارے لئے نیکی کے عوض میں اجر بھی دوہرا ہے۔ مثلاً اگر ہمارا چال چلن بُرا ہے تو ہم اول تو خدا کا گناہ کرتے ہیں دوسرا اپنے امام پر الزام لگاتے ہیں کہ اس کے ہم نشینوں کے اعمال کیسے ہیں تو خود اس کے کیسے ہوں گے۔ پس تم بھی دوہری جواب دہ ہوگی اول اپنی ذات میں دوسرے وہ نقص بھی تمہارے ذمہ ہے جو تم کو دیکھ کر دوسری عورتوں نے تمہاری اتباع کا نمونہ گھڑا۔

خدا کی اتباع کرو تا کہ خدا تمہارے کل دلِ درِ دور کرے اور تم پر اپنی مہربانی کرے واعظ باتیں تو بہت کرتا ہے پر میں دیکھتا ہوں کہ واعظ کو مشکلات بھی بہت ہیں۔ میں بچپن سے وعظ کرنے کا عادی ہوں۔ پر مجھے بہت تجربہ ہوا ہے کہ واعظ کو وعظ میں بڑی بڑی دقتیں پیش آتی ہیں اگر واعظ صرف یہی بات کرے نیکی عمدہ چیز اور بدی بری چیز ہے تو پھر یہ تو ہر ایک فرد بلکہ بچہ بھی جانتا ہے اس کے بیان کی حاجت کیا ہے مگر واعظ کو ہمیشہ تفسیر میں دقت ہوا کرتی ہے۔ اول کوئی شخص ان بد اعمالیوں اور بیماریوں میں مبتلا ہے جو واعظ بیان کر رہا ہے پر وہ سمجھتا ہے کہ واعظ مجھ کو برسرعام بدنام کر رہا ہے اور واعظ سے بدظن ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو کہ ایسا ظن بُری چیز ہے ہاں واعظ کو بھی اس میں دقت ضرور ہے کیونکہ اگر کھول کر ان بیماریوں کا ذکر کرے تو لوگ سمجھتے کہ ہمیں طعنہ دے رہا ہے اگر چپ رہے تو وعظ کیا ہوا۔ پس بیسیوں کو اس بات سے بھی آگاہ رہنا چاہئے کہ اگر میں بیان میں کسی ایسی بیماری کا ذکر کروں جو کسی کے اندر موجود ہو تو وہ یہ بدظنی نہ کرے کہ میں اس کو بدنام کرنا چاہتا ہوں یا اس کو طعنہ دے رہا ہوں۔

میں تمہارے گھر کو قابلِ عزت سمجھتا ہوں اور اس پر جان و مال قربان کرنے کو طیار ہوں اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ بالکل سچ ہے اگر اب بھی تم ایسے الزام لگاؤ تو میں بُری ہوں

تیسری غلطی یہ ہے کہ انسانی کمزوری سے انسان دوسرے کی غلطی دیکھ کر بدظن ہو جاتا ہے مگر خدا کے نزدیک اور میزان ہے۔ جس کے لئے فرمایا۔ **مَنْ تَقَلَّتْ مَوَازِينَهُ فَهُوَ فِي عَيْشِهِ رَاضِيَةٌ** (القارعة: ۷، ۸) پس میری طبیعت میں خدا تعالیٰ نے یہ بات رکھ دی ہے کہ انسان کے بہت سارے اعمال صالح پر نظر ڈالا کرتا ہوں۔ کیونکہ خدا نے فرمایا ہے **خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا** (التوبة: ۱۰۲)

پس جب ہم کسی بدی یا بیماری کی تفسیر کرتے ہیں تو یہ ارادہ نہیں ہوتا کہ کسی کو نشانہ بنا دیں بلکہ اس لئے کھولتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کوئی ایسی تحریک پیدا کر دے کہ ان کے اندر سے وہ بیماری دور ہو جائے۔ پس میں عورتوں کی بیماریوں کا ذکر کروں گا کیونکہ مجھ کو گول بات پسند نہیں ہوتی۔

(۱) عورتوں کی عادت بد دعا کی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہوشیار عورت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ جو فرماتے ہیں کہ جہنم میں عورتیں بہت جاویں گی اس کی کیا وجہ ہے۔ فرمایا اس لئے کہ تم بڑی لعنت دینے والی قوم اور خاوند کی کافر ہو۔ ایک انسان تمام عمر تمہارے ساتھ نیکی سے گزار دے پھر ایک دن کی تکلیف سے تم کہہ دیتی ہو کہ میں نے تم سے کبھی سکھ نہیں پایا۔

اسی طرح اولاد، جان، مال کو بد دعا دیتی ہیں پر ایک وقت ایسی ہوا آتی کہ وہی دعا قبول ہو جاتی۔ جرتج نام ایک شخص کو ماں نے نماز میں بلایا اس نے تین دفعہ بلایا۔ انہوں نے ماں کو تو کچھ جواب نہ دیا پر نماز میں دعا کی کہ خدایا ان صلوات و امی مگر اس عورت نے کہا کہ خدایا یہ بڑا نیک بنا پھرتا ہے اس کو موت نہ دیجو جب تک کچھنی کا منہ نہ دیکھے۔ چنانچہ ایک فاحشہ نے اس کو بدی کے لئے بلایا اس نے انکار کیا مگر اس کو کسی اور جگہ سے حمل ہو گیا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو عورت نے اس پر منسوب کیا لوگوں نے اس کو مارا مگر اس بچہ نے اس کی بریت کی شہادت دی۔ پس بیبیوں کو چاہئے ایسی باتوں میں خوب احتیاط سے کام لیں۔

ایک بی بی کے پاس سے ایک امیر گزرا۔ بچہ کو وہ دودھ پلا رہی تھی۔ کہا خدایا میرا بچہ بھی ایسا ہی امیر ہوگا اس بچہ نے کہا خدایا میں ایسا بننا نہیں چاہتا پھر ایک پلٹی ہوئی عورت گزری تو اس بی بی نے کہا خدایا میرے بچہ کو ایسا نہ کر یو۔ اس بچہ نے کہا کہ خدایا مجھے ضرور ایسا کر یو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ امیر ظالم تھا اور وہ عورت نیک تھی۔

(۲) عیب عورتوں میں تمسخر کا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی زبان قابو میں رکھو۔ صحابہ نے عرض کیا کیا ہم زبان سے بھی پکڑے جاویں گے۔ فرمایا زبان دوزخ میں اوندھا گرا دیتی ہے۔ ہنسی ٹھٹھے میں یہ قاعدہ ہے کہ انسان دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے ابلیس کا گناہ تھا یہی کہ **أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ** (ص: ۷۷) اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک دوسرے پر ٹھٹھانہ کرو ممکن ہے کہ وہی تم سے اچھا ہو۔ زبان کو قابو میں رکھنا بڑی خوبی کی بات ہے۔ انسان زبان سے ہی مومن اور زبان ہی سے کافر بنتا ہے اور اسی سے مومن اور اسی سے منافق بنتا ہے۔

(۳) تیسری بات ہماری پاک کتاب میں سورہ نور ہے تم میں جو پڑھی ہوئی ہیں وہ پڑھ کر عمل کریں اور جو پڑھنا نہیں جانتیں وہ دوسریوں سے سن کر عمل کریں۔ اس فضل سے پہلے جو خدا نے مجھ پر مرزا صاحب کے تعلق سے کیا ہے۔ میرا مولا پہلے ہی مجھ پر بڑے بڑے فضل کرتا رہا ہے جن میں سے ایک یہ فضل تھا کہ میں شاہ عبدالغنی صاحب کا مرید تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اہل ہند نے سورہ نور پر عمل ترک کر دیا ہے بلکہ اپنے لئے اس کو منسوخ ہی سمجھ لیا ہے۔ پس تم اس پر ضرور غور کرو اس میں سب سے پہلے زنا کی مذمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر ایک عضو زنا کرتا ہے پس انسان ہر ایک عضو کا نگہبان بنے۔

خدا تعالیٰ نے اس سورت شریف میں فرمایا ہے کہ زانیہ کی سزا کے وقت نیک لوگ موجود ہوں اور اس پر رحم قریب ہی نہ آوے۔ وہاں حضرت صدیقہ کا ذکر فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی کنواری بی بی ہیں ان کا درجہ میرے نزدیک حضرت خدیجہ سے کچھ بھی کم نہیں۔ میں تم کو ایک نمونہ سنا تا ہوں یہ ایک ایسی ذہین ذکی اور نبی کریم کے چال چلن پر گہری نظر کرنے والی بی بی ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے اس کا ایک ایک لفظ معرفت کا بھرا ہوا اور جامع ہے۔ کسی صحابی نے اس بی بی سے پوچھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کس طرح پڑھتے تھے۔ فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا۔ ایک شخص نے اس بی بی سے آنحضرت کی سوانح عمری دریافت کی فرمایا کان خلقہ القران (صحیح مسلم کتاب الصلوٰۃ باب جامع صلوٰۃ اللیل) یعنی قرآن اگر کوئی قول ہے تو نبی کریم اس کا عامل ہے دیکھو ایک لفظ میں نقشہ کھینچ دیا ہے۔ اس بی بی نے امت پر بڑا احسان کیا ہے

حضرت عمرؓ جیسے جلال والے انسان کا مقابلہ قرآن کریم سے بھی کرتی تھی۔

اس بی بی پر لوگوں نے اتہام لگایا تھا ان کے گلے میں ایک ہار تھا کس چیز کا۔ سلیمانی منکے اور کچھ لونگ اس میں پروئے ہوئے تھے وہ لشکر سے باہر پاخانہ پھرنے کو گئیں تو وہاں ہار ٹوٹ پڑا اس کو چننے لگیں یہ نو برس کی بیابھی گئیں اور ۱۸ برس کی بیوہ بھی ہو گئیں تھیں اور ۶۳ برس کی عمر میں فوت ہو گئیں تھیں۔ اس عرصہ میں مسلمانوں کے بہت انقلاب دیکھے چونکہ بہت ہلکی پھلکی تھیں ساربانوں نے ان کا ڈولا اونٹ پر کس دیا اور چل دیئے۔ کسی کو معلوم نہ ہوا کہ آپ اس میں ہیں کہ نہیں جب یہ جنگل سے واپس اس مقام پر آئیں تو دیکھا کہ قافلہ چلا گیا ہے جوانی کے ایام تھے نیند نے غلبہ کیا اور سو گئیں۔

ایک شخص ہمیشہ لشکر میں پیچھے رہتا ہے کہ گری پڑی چیز اٹھلاوے چنانچہ صفوان صحابی اس کام پر مامور تھا۔ جب اس نے دور سے بی بی کو پڑا ہوا دیکھا تو سمجھا کہ کوئی عورت فوت ہو گئی ہے اور یہیں چھوڑ کر قافلہ چلا گیا ہے اور زور سے انا للہ پڑھا۔ آواز سن کر آپ جاگ اٹھیں۔ پھر صفوان نے ان کو اونٹ پر سوار کیا اور خود آگے آگے ہوا اور دو پہر کو لشکر میں لے کر پہنچا لیکن بہت سارے شہریر اور بدگمان لوگوں نے کہا کہ شاید کسی بدی کی وجہ سے بی بی پیچھے رہ گئی ہیں۔ جب یہ خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو حضرت عائشہؓ ان دنوں میں بیمار تھیں ان دنوں گھروں میں پاخانہ نہیں ہوتا تھا ایک روز آپ باہر پاخانہ کو گئیں تو ایک بڑھیا سا تھ تھی۔ ساتھ والی بڑھیا راستہ میں گر پڑی (عورتیں بات دل میں نہیں رکھ سکتیں) گر کر اپنے بیٹے کو سخت گالی نکالی۔ بی بی نے منع کیا۔ غرض تین دفعہ اسی طرح کیا اور تین دفعہ بی بی نے منع کیا تو کہنے لگی کہ تجھے خبر نہیں تجھ پر لوگوں نے تہمت لگائی ہے اور اس میں میرا بچہ بھی شریک ہے اس لئے اس کو گالی دیتی ہوں۔ پس صدیقہ اسی دن اپنے میکے میں چلی آئی۔ ایک مہینہ کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور کہا عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہوئی ہے تو استغفار کرو اگر نہیں ہوئی تو خدا تعالیٰ مجھے وحی سے آگاہ کر دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ غیب کی کنجیاں اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتے بہت لوگ ان کو خدا کا ایجنٹ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو کہ خدا بڑا بادشاہ ہے کل انبیاء اولیاء مرسل اس کی قوت کے نیچے رہتے ہیں اور جس کو وہ چاہتا ہے اس کو اطلاع دیتا ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل کیں اور اسی بی بی کا پاک اور مطہر ہونا بتلایا۔ فرمایا:

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا (النور: ۱۳)۔

جب عائشہؓ کے حق میں تم لوگوں نے بُرا فقرہ سنا تھا تو نیک گمانی سے کیوں کام نہ لیا۔ پس میں تمہیں یہی فقرہ سنانا چاہتا ہوں کہ نیک گمانی سے کام لیا کرو۔ خدا فرماتا ہے کہ کیوں تم نے ایسی باتیں سن کر نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات کہنا مناسب نہیں۔ پس یہ عیب مردوں میں بھی ہے پھر عورتیں اس پر بڑے بڑے منصوبہ باندھتی ہیں۔ اور اس پر بڑے بڑے حکایات چلاتی ہیں۔ پس خدا نے اس سے منع کیا ہے۔

اس سورہ شریف میں ایک اور حکم فرمایا ہے **الْحَيْثُ لِلْحَيْثُ وَالْحَيْثُ لِلْحَيْثُ** (النور: ۲۷) یعنی اچھوں کے لئے پیماں بھی اچھی ہوتی ہیں اس کے واسطے بڑے کلمات نہ نکالو۔

پھر فرمایا یہ کہہ دو **قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَحْضُرْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ** (النور: ۳۲) کہ اپنی آنکھیں نیچے رکھیں شرم گاہوں کو محفوظ رکھیں اور اپنی زینت کو نہ دکھائیں سوائے خاوند اور باپوں وغیرہ کے اور سوائے اپنی خاص عورتوں کے۔ اس پر بھی مجھے حیرت ہے کہ بہت کم عمل ہے۔ بہت سی عورتوں سے یہی پردہ لازم ہے۔ ہر ایک عورت سے بے پردگی نہ ہو۔

(۴) ایک اور بات ہے بعض عورتیں قسم قسم کے دکھوں میں مبتلا ہو جاتیں اور عورتیں ان کو طعنہ یا ملامت کرتی ہیں ایسی عورتیں بڑی بدطینت ہوتی ہیں مثلاً اگر بیوہ کو نکاح کرنا موجب ملامت ہے تو جناب خدیجہؓ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے خاوند تھے۔ پس ایسی طاعن کس کو طعنہ دیتی ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیبیوں میں سے صرف حضرت عائشہؓ صدیقہ کنواری تھیں۔

طلاق بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت زینب کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کر کے زید سے نکاح کرایا۔ مگر اس نے طلاق دے دی۔ پس پھر بڑی بد قسمت ہے وہ عورت جو مطلقہ کو طعن دیتی ہے۔

پھر قرآن نے حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو تمہارے گھر میں تین وقتوں میں غیر مرد اور نابالغ لڑکے نہ آویں قبل از نماز فجر دو پہر اور بعد عشاء کے کیونکہ یہ خاص احتیاط کا وقت ہے۔

پھر اگر بوڑھی عورت بھی ہو تو اپنے کپڑے احتیاط سے رکھے اور اپنی زینت دوسرے پر ظاہر نہ کرے پھر کچھ مال خدا نے مردوں کا اور عورتوں کا بنایا ہے۔

(۵) ایک اور عیب ہے کہ بہت سی لباس پہننے والیاں ہیں پر خدا کے نزدیک نگلیاں ہیں۔ بہت

لباس خدا اور رسول کو پیارا نہیں ہوتا۔

(۶) بعض عورتیں اولاد کے صدمہ پر الفاظ ناشائستہ کہہ دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا اس صابرہ کو دوزخ سے بچا لیتا ہے جو اولاد کے صدمہ پر صبر اور استقلال دکھاتی ہے۔

(۷) عام طور پر عورتیں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے کم پرواہ رکھتی ہیں۔

مسبح علیہ السلام کی ماں کی طرف دیکھو کہ اپنی اولاد کے واسطے کیسی دعائیں مانگتی ہیں۔

عورتوں کے لئے پڑھنا پڑھانا لکھنا وغیرہ خوبی کی بات ہے اس کے بغیر ان کو مسائل سے پوری واقفیت نہیں ہو سکتی۔ میں نے کسی عورت کو اپنی عمر میں نہیں سنا کہ اذان کے ساتھ اذان پڑھتی ہو جو طریق مسنون ہے۔

بالآخر میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ تمہیں اعمال صالحہ کی توفیق دیوے۔ تمہارے اندر واعظہ اور خدا کا پاک نمونہ موجود ہے۔ تم سخت ذمہ داری کے نیچے ہو۔ کیونکہ باہر کی عورتیں تمہارے نمونہ کو دیکھ کر قدم بقدم چلیں گی۔ تمہاری زبانیں پاک ہوں تمہارے اندر بدگمانیوں کے تخم ناپیدا ہوں۔ خدا کی سچی کتاب تمہارا دستور العمل ہو اور خدا تمہیں اس کی توفیق دیوے اور تمہیں قرآن کریم کا تابع بناوے تمہاری اولاد کے واسطے تمہارے منہ سے نیک دعائیں نکلیں۔ ایک دفعہ حضرت زینبؓ اپنے کپڑے گیری میں رنگنے لگیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے اور کپڑے رنگتے ہوئے دیکھ کر واپس تشریف لے گئے حضرت زینبؓ تاڑ گئیں کہ آپ کس بات کی وجہ سے واپس تشریف لے گئے ہیں۔ ہادیوں کے گھر میں ہر وقت الہی رنگن چڑھی رہتی ہے۔ جس کا ذکر صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً (البقرة: ۱۳۹) میں ہے۔ یہ رنگینیاں اس کے مقابل میں کیا چیز ہیں۔ پس یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بناوٹ، زیور اور لباس سے خوش نہیں ہوتا بلکہ نیک بیبیوں کی بناوٹ اور زیوران کے نیک عمل ہیں۔

خدا تعالیٰ کم سے کم میری پیبیوں کو بھی اس بات کی توفیق دیوے کہ وہ یہ نہ کہیں کہ یہ اس کی
زبانی ہی باتیں ہیں۔ آمین۔ والسلام

(الحکم ۳۱ جولائی، ۱۰ اگست ۱۹۰۴ء صفحہ ۸ تا ۱۰)



تقویٰ اور اس کے اصول و نتائج

(۱۳۰/ اکتوبر ۱۹۰۲ء بعد نماز ظہر بمقام سیالکوٹ)

(الحکم کے لئے مفتی فضل الرحمن صاحب نے لکھا)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٥٠﴾
وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ
كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۚ

(ال عمران: ۱۰۳ تا ۱۰۴)

یہ ایک قرآن کریم کی آیت ہے۔ اس سے میری ایک غرض ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں لوگ مختلف خیالات کے پیدا کئے گئے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ سننا جانتے اور سننا چاہتے۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ بولنا ہی جانتے اور بولنا ہی چاہتے ہیں۔ تیسرے وہ ہیں جن کو نہ بولنے کی خواہش ہے اور نہ سننے کی۔ پھر بولنے اور سننے والے بھی دو قسم کے ہیں۔ سننے والے دو قسم اس طرح ہیں کہ بعض تو بطور تماشا یاد لگی یا بطور نکتہ گیری کے سنتے ہیں۔ اور بعض اس غرض سے سنتے ہیں کہ اگر کوئی حق و حکمت کی بات مل جاوے تو اس سے فائدہ اٹھائیں۔

پہلے لوگ اگر معرفت کا ہزار نکتہ بھی سینے تو انہیں کچھ سروکار نہیں۔ پھر اگر بولنے والے کے منہ سے ایک لفظ صر فی یا نحوی یا زباندانی کے لحاظ سے غلط نکل گیا ہے یا اس کے مطلب میں انہیں کچھ تامل نظر آتا ہے تو وہ صرف اس وعظ سے اتنا ہی نتیجہ لے جاتے کہ ہاں جی فلاں شخص کا وعظ بھی ہم نے سنا ہے۔ لغتی غلطیاں بہت کرتا ہے۔ پس ان کے حصہ میں تو نکتہ چینی ہے اور بس۔ ان لوگوں کی تمثیل مکھی کی مثال ہے کہ اس کو کچھ تمیز نہیں کہ میں پاک مٹھاس پر بیٹھی ہوں یا سنڈا اس پر یا بعض ان میں ایسے ہوتے کہ کوئی لفظ اپنی اغراض کے مطابق مل جاتا ہے تو وہ دوسروں سے پیش کرتے کہ دیکھو فلاں شخص کا بھی یہی مذہب ہے جو ہمارا ہے۔

اور دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو غلطیوں اور ناموزوں الفاظ کو بالکل نظر انداز کرتے اور اس

واعظ یا مقرر کی تقریر سے اگر کوئی بے بہا موتی حق و حکمت کامل جاتا ہے تو اسے لے کر خوش ہوتے۔ پھر سنانے والوں کی دو قسمیں یہ ہیں کہ بعض تو چند پیسوں کے لئے بولتے خواہ وہ انجمن کے واسطے یا مسجد کے لئے یا اپنی ذات کے واسطے خواہ عمدہ کام کے واسطے۔ یا سنانے والے ایسے ہوتے کہ طبیعت ہی ایسی واقع ہوئی ہے کہ اپنے اعلیٰ خیالات کا اظہار کرنا چاہتے خواہ تحریری طور پر خواہ تقریری طور پر۔ یا بعض اس کے عوض میں کچھ ماہانہ تنخواہ لیتے اور بعض ایسے ہوتے کہ وہ اپنے آپ کو مامور من اللہ یقین کرتے اور کہتے کہ ہم خدا کے بلائے سے بولتے ہیں۔ پس اب تم خود سوچ لو کہ تم کس طرح کے سننے والے اور میں کس طرح کا سنانے والا ہوں۔

میں نے تو دنیا کی کل کتابوں میں سے قرآن کریم اور بخاری شریف کو پسند کیا ہے۔ بخاری کے ابتدا میں یہ بیان ہے کہ اسلام دنیا میں کس طرح آیا اور کیا لایا ہے۔ اس کے اغراض کیا تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کس طرح ہوئی اور آخری ترقی انسانی پر اس کو ختم کیا اور کتاب شروع کی ہے اسلام سے اور اس کو ختم کیا ہے انسانی اعلیٰ ترقی پر۔ لیکن پہلا باب باندھ کر پہلے ہی صفحہ پر اس غرض کو چھوڑ دیا ہے اور اس کا باب اس طرح شروع کیا ہے کہ کس طرح خدا کی وحی آخری نبی پر نازل ہوئی اس کے بعد اس کو ضرور تھا کہ اس کے ذرائع بیان کرتا۔ ہر بات یوں شروع کی ہے کہ **اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ اِنَّ لَآ مَرِيءَ مَّا نَوَى**۔ یعنی ہر ایک اختیاری فعل۔ (عمل کہتے ہیں اس فعل کو جس کو انسان اپنی استطاعت اور مقدرت سے شروع کرتا پس لا بد ہے کہ اس کا کوئی ارادہ اور مقصد بھی ہو) جب انسان ارادہ سے کرتا ہے تو ہر آدمی کو اس کی نیت کا پھل مل جاتا ہے جیسے ارادے اور اغراض ہوتے ہیں ویسا ہی وہ پھل اٹھاتا ہے۔ پس میں نے غور کیا کہ جس کتاب کو میں اس قدر عظیم الشان سمجھتا ہوں اس کا ہیڈنگ کچھ اور ہے اور یہ بات کچھ اور۔ پس میں نے خیال کیا کہ اس شخص نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ جب تم اس کتاب پر وقت خرچ کرنا چاہو تو سوچ لو کہ تمہارے اس سے ارادے کیا ہیں۔ پس ان کی نیت ٹٹولنے کو یہ بات لکھ دی اب چونکہ مجھے وہ کتاب بہت عزیز ہے۔ اس لئے تم سے کہتا ہوں کہ تمہارا سننا کسی غرض سے ہو خواہ وہ غرض چھوٹی سے چھوٹی اور خواہ بڑی سے بڑی ہو۔ غرض کا لفظ جھوٹا ہے۔ ہر شئی نکلنے کو بھی کہتے ہیں اور خدا کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ پس یہ لفظ اسی طرح

جامع ہے۔ غرض سننے والا اپنے وقت اور طاقت کو ضائع نہ کرے۔ یہاں کیسا ہجوم ہے اور ہجوم میں کیسی خلاف صحت ہوائیں چلتی ہیں۔ پس اس جگہ کھڑے ہو کر تم اپنا وقت ضائع نہ کرنا بلکہ تمہاری اغراض نیک ہوں۔

سنانے والے کے کیا اغراض ہیں۔ یہ بتلانے کی مجھے ضرورت نہیں۔ کیونکہ یہ معاملہ میرے دل کا ہے یا میں خود جانتا ہوں یا اس سے بڑھ کر میرا مولا خوب سمجھتا ہے۔ کیونکہ وہ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَحْفَى (طہ: ۸)۔ یعنی وہ موجودہ اغراض کو اور کہ ان اغراض کا نتیجہ دو سال کے بعد کیا ہوگا۔ اس نتیجہ کو بھی جانتا ہے اس واسطے میں اپنی غرض کو بتلاؤں کہ میری اس بولنے سے کیا غرض ہے ضرورت نہیں ہے... اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بہر حال تم لوگ اگر نیکی کی اغراض سے میری اس تقریر کو نہیں سنتے تو اپنے قیمتی وقت کو ایسی ہجوم اور ایسی متعفن ہوا میں بے فائدہ رائیگاں نہ کرو۔

بہت ساری مخلوق ایسی ہوتی ہے کہ ان کے اغراض بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور صرف موجودہ وقت کے واسطے ہوتے ہیں ہر انسان کو علم اور عقل اس لئے بخشا گیا ہے کہ اس کے اغراض بھی بہت بلند پروازی کرنے والے ہوں۔ یہ میں نے تمہاری خیر خواہی کی ہے۔ پس میری پہلی بات کو تم لے لو۔ اور بڑی بات کو۔ کالائے بدر بربیش خاوند۔ یہیں چھوڑ دو۔ حق و حکمت کا کاسہ لینے سے دریغ نہ کرو اور برائی کے کلمہ سے ہمت بلند سے کام لے کر اعراض کرو۔

جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو جیسا کہ تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے۔ تقویٰ کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے اور اس کے پہلوؤں سے انسان کس طرح آگاہ ہو سکتا ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ خدا تمہیں تقویٰ کا حکم دیتا ہے کہ حق تقویٰ ادا کرو۔

تقویٰ کہتے ہیں اس بات کو جس سے انسان دکھوں اور تکالیف سے بچ سکتا ہے۔ عربی زبان میں اس کا نام تقویٰ رکھا ہے اب آیا کہ کس طرح انسان دکھوں اور مصیبتوں سے بچ سکتا ہے قرآن کریم نے اس کو کھول کر بیان فرمایا ہے۔ یہاں میں صرف ان میں سے ایک ہی آیت کو لیتا ہوں۔

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۗ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۗ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۗ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَآتَى الزَّكَاةَ ۗ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (البقرة: ۱۷۸)

یہاں اسلامی شریعت نے تقویٰ کے معنی بتلائے ہیں۔ تقویٰ کی جز شاخوں اور اس کی روکوں کا
اظہار کیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ سچے متقی کون ہوتے ہیں میں نے اس پہلی زیر نظر آیت کے لفظ تقویٰ
کی تفسیر کے واسطے یہ دوسری آیت پڑھی ہے۔ لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ تمہیں پہلے یہ بتاؤں کہ تقویٰ
کیا ہوتا ہے کبھی جی چاہتا کہ تمہیں پہلے یہ بتاؤں کہ تقویٰ کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ کیونکہ جب نتیجہ
مد نظر ہوتا ہے تو انسان اس کام کو شرح صدر سے کرتا ہے۔ پس پہلے، مجھے بھی یہ پسند ہے کہ تمہیں
بتاؤں کہ تقویٰ کے نتائج کیا ہیں پس مختصراً بتلا دیتا ہوں۔

ایک مومن کی طبیعت چاہتی ہے کہ صرف اس لئے کہ ہمارے مالک رب العالمین کا حکم ہے ہم
ماننے کو تیار ہیں ہمیں بتلا دو کہ تقویٰ کیا چیز ہے۔ مگر ایک اور شخص یہ سوال پیش کر سکتا ہے کہ ہم کسی کام
کو کرنے نہیں سکتے جب تک ہمیں یہ علم نہ ہو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ پس بہتر ہے کہ ہم پہلے نتائج کا ہی
اظہار کریں۔

ہر ایک انسان کی فطرت میں یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ میں ایک طاقت عظیم یا عظیم کا محبوب بن
جاؤں۔ جب یہ خواہش موجود ہے تو ایک بیمار جو بہت طبیعوں کا علاج کر چکا ہے مفلس ہو گیا ہے۔
گھر والوں کو دو بھر معلوم ہوتا ہے۔ پر جب وہ ہر طرف سے تھک کر میری طرف آتا ہے تو اخراجات
کثیر کا زیر بار ہو کر آتا اور پھر میرے سامنے نذر رکھتا ہے۔ حالانکہ کیا اس کو یقین ہے کہ اس سے مجھے
شفا مل جاوے گی۔ یا اس کی طبابت اکمل ہے۔ پھر ہماری طبابت ہی کیا ہے۔ اس کا بہت سارا حصہ
کنچنیوں، ڈاکٹروں، حجاموں، جراحوں کے سپرد ہے اور بہت تھوڑا حصہ ہمارے پاس ہے۔ پھر باوجود
اس قلیل مقدار طب کے پھر وہ ہمارے ہاتھ سے زہر کھانے کو بھی تیار ہے۔ پس یہ وہی بات ہے کہ
اپنے سے زیادہ عظیم کا متبع بنا چاہتا ہے۔

پھر انسان طاقتوروں کا بھی اپنا بننا چاہتا ہے مثلاً حکام کا جیسے کوئی شخص کہہ دیتا کہ فلاں ڈاکٹریا فلاں حکیم یا فلاں ڈپٹی انسپکٹر وغیرہ میرا اپنا ہے یعنی میرا دوست ہے۔

پس جو لوگ مذہب کے پابند ہیں یعنی خدا کی ہستی کو مانتے ہیں (کیونکہ اس وقت میں خدا کی ہستی پر بحث کرنے کے واسطے کھڑے نہیں ہوا۔ اور وہ اور تو میں جن کے سامنے ہمیں یہ بحث کرنے کی ضرورت ہوتی ہے) وہ اس ہستی کو خوب جانتے ہیں کہ وہ بڑا علیم اور قادر ہے۔ اگر کوئی شخص اس پر اعتراض بھی کر دے تو میں تھوڑا سا ثبوت دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میرے ایک بڑے مہربان نے مجھ پر سوال کیا کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ (المائدة: ۹۸)۔

یعنی کعبہ ہم نے ایک عزت کا گھر بنایا ہے وہاں لوگ حج کو جاتے اور قربانیاں کرتے وغیرہ۔ یہ اس لئے کہ خدا ہے اور قادر ہے اور علیم ہے۔ کیا یہ دلیل مکہ کے وجود سے ثابت ہو جاتی ہے اگر کوئی شخص کہہ دے کہ دو ہزار برس تک یہ جہت ایسا ہی مکرم اور معظّم رہے گا۔ کیا کوئی عالم یہ دعویٰ کر سکتا ہے ہرگز نہیں۔ پھر خدا کہتا ہے کہ ہم نے اس مسجد کو عزت والا بنا دیا ہے دنیا کی ہزاروں سلطنتیں پلٹ جاویں دنیا الٹ پلٹ ہو جاوے اور یہ سب کچھ ممکنات میں سے ہے پر ایسے جنگل و بیابان میں ایک کوٹھہ ہے اور اس کے لئے دعویٰ کیا جاتا ہے اور دنیا میں شور مچا دینا کہ اس کو مٹا کر تو دکھلاؤ۔ پھر اس کو کوئی مٹانہ سکے گا پھر یہ بات کیسی پوری ہوئی یہ اس لئے کہ تمہیں پتا لگ جاوے کہ کوئی خدا کی ذات ہے اور وہ زمین و آسمان کی باتیں جانتا ہے اور یہ کہ وہ ہر ایک بات کا جاننے والا ہے اور وہ قادر ہے۔

پس جب ایسے علیم و قادر سے محبت ہو تو پھر کیا بات ہے۔

متقی کے واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

۱۔ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ (التوبة: ۴)۔ اللہ متقی کو پیار کرتا ہے

۲۔ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ (المائدة: ۲۸)۔ اللہ قبول کرتا ہے متقی کی بات کو۔

۳۔ وَاَتَقُوا اللّٰهَ وَيَعْلَمُ كَمَا اللّٰهُ (البقرة: ۲۸۳)۔ متقی کو وہ علم سکھائیں جو تمہیں نہیں آتا۔

۴۔ مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لّٰهٖ مَخْرَجًا ۗ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق: ۴)

متقی کو ہر تنگی اور دکھ سے نکلنے کا راستہ ہم بتا دیں گے اور اس کو اتنا رزق دیں گے کہ وہ شمار بھی نہ کر سکے

گا ہم اس کو تنگ سے تنگ حالت سے فراخی کی راہ بتا دیں گے۔ رزق کی بھی تکالیف ہوتی ہیں۔ اس کے سوائے اور کئی قسم کے مشکلات ہوتے ان سب سے نکالیں گے۔ اور رزق وہاں سے دیتا ہوں کہ اس کو خبر بھی نہ ہو۔

۵۔ اِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا (الانفال: ۳۰)۔ ہم تمہارے مخالفوں کو اڑا دیں گے اور تمہارے لئے راہ نکالیں گے اور دشمن ناکام ہوں گے۔ میں نے اپنی عمر میں کبھی تنگی نہیں دیکھی پر اس کی حقیقت کو خوب سمجھتا ہوں۔

۱۔ پس متقی خدا کا محبوب بنتا۔ ۲۔ علم سیکھتا۔ ۳۔ تنگی سے نجات پاتا۔ ۴۔ کامیاب ہوتا اور اس کے دشمن ناکام ہوتے ہیں۔ ۵۔ رزق لیتا۔ ۶۔ اس کی باتیں قبول ہوتیں۔
اب متقی کی حقیقت اور نتائج کو تو تم نے سمجھ لیا۔ اب ہم یہ بتلاتے ہیں کہ تقویٰ کیا چیز ہے۔
۱۔ پہلی جڑ تقویٰ کی خدا پر ایمان لانا ہے۔

۲۔ دوسری جزا و سزا پر ایمان ہے۔ ۳۔ فرشتوں پر ۴۔ کتابوں پر ۵۔ انبیاء پر ایمان لانا۔ ان پانچ جڑوں کی میں تفسیر کرنا چاہتا ہوں جو دل کے متعلق ہے۔
دنیا میں بدی بھی ہوتی ہے جس کا نتیجہ دکھ اور نیکی بھی ہوتی جس کا نتیجہ سکھ ہوتا ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بہت سی آہ و فریادیں نالہ و زاری گھر والوں اور پڑوسیوں کو بے قرار کر دیتی ہیں جو دکھ کی وجہ سے ہوتی ہیں ایک وجودی کو وجع مفاصل کی بیماری ہوئی اور شدید ہوئی تو ایک دن گھبرا کر یہ شعر کہا

ان كان منزلتي في الحب عندكم ماقد لقيت فقد ضعيت ايامي

اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو محبت کی ترنگ میں کہتے ہیں کہ تو میں اور میں تو ہو گیا۔ پر اب معلوم ہو گیا کہ تو اور ہے اور میں اور ہوں۔ پس ایک ہی چیز سے دکھ اور سکھ پہنچے یہ نہیں ہو سکتا پھر ہر ایک چیز کے اغراض اور اسباب الگ الگ ہوتے ہیں۔ دکھ کی جڑ بدی اور سکھ کی جڑ نیکی پر ہوتی ہے وہ خواہ کسی علم پر موقوف ہو۔ پر خدا کا ماننا بھی بہت سی بدیوں سے روک دیتا ہے۔ میں جب کبھی کسی شہر میں جاتا ہوں تو اپنے مذاق کے لوگوں کے پاس جا کر ڈرہ کرتا ہوں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ

گوٹیا گانے والوں کے مکان پر اور فقیر تکیہ پر برہمن ٹھا کر دوارے میں اور عیسائی مشن کمپاؤنڈ میں اس کی تلاش کر کے جاڈریہ لگا دے گا۔ پس انسان جس سے تعلق پیدا کرتا ہے اسی کے پاس رہنا اور سہنا اس کو مطلوب ہوتا ہے۔ اسی سے حسب استطاعت رنگین ہوتا ہے۔ حکام اپنے ہم مذاق حکام کے مکانوں پر جاتے۔ پس اسی طرح جب انسان کو خدا پر ایمان اور تعلق ہوتا اس کی ربوبیت، پاک ہستی، رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت پر ایمان ہوتا ہے اور یہ کہ کس طرح یہ ربوبیت کا محتاج ہے اور اس کے محامد کا مطالعہ کرتا ہے تو اس طرف خیال آجاتا ہے کہ میں ایک گندہ اور ناپاک انسان ہو کر کس طرح اس پاک اور قدوس خدا کے دربار میں منہ دکھلاؤں گا۔ جب تک ایک مناسبت انسان میں نہیں ہوتی اس وقت تک دوسرے سے تعلق پیدا نہیں کر سکتا۔ جیسے ہمیں اپنے مذاق کا ہی آدمی پیارا لگتا ہے۔

پس تمام نیکیوں کی جڑ اور حاصل حصول اور خوبیوں کے واسطے عظیم الشان ذریعہ خدا کی شان ہی ہو سکتی ہے۔ پولیس ہم کو بدیوں کے ارتکاب سے روکتی پر تمام بدیوں کی جڑ تودل میں ہوتی اور اس کو جب تک خدا نہ روکے رک نہیں سکتا۔ پس اس کی ہستی کا اقرار اور اس پر ایمان اور اس پر یہ یقین کہ اس کو بدیوں اور بد اعمالیوں سے پیار نہیں۔ گناہ سے بچنے کا عمدہ ذریعہ ہے۔

۲۔ پھر انسان کبھی کبھی ایسا بھی بنایا گیا ہے کہ ہتک کو پسند نہیں کرتا اور ایک آدمی کے سامنے بھی پسند نہیں کرتا۔ میری کیسی فطرت ہے کہ میں نے کہا کہ میری اگر کوئی غلطی ہو تو اس کی پرواہ نہ کرو اور اس سے درگزر کرو۔ یہ اسی لئے کہ میری ہتک نہ ہو۔ چور چوری کر کے اور کیوں انکار کرتا صرف اس لئے کہ میری ہتک نہ ہو۔ پھر بھلا ایک گھر والوں کے سامنے ایک شہر والوں کے سامنے۔ پھر ایک تمام ملک کے لوگوں کے سامنے پھر ساری دنیا کے سامنے پھر تمام اولین و آخرین کے سامنے ہماری ہتک ہو اور مقابلہ ہو یہ ہم سے برداشت ہو سکتا ہے؟ پس کوئی شخص ایسا ایمان رکھ کر کب ایسی ہتک کو پسند کرے گا۔

ایک دفعہ میرے ایک دوست نے مجھے سوال کیا کہ جب ہم دوزخ سے سزا پا کر بہشت میں چلے جاویں گے تو کیا حرج ہے کہ کچھ وقت کے لئے اس عذاب کو برداشت کر لیں اور پھر بہشت میں چلے جاویں۔ میں نے اس کو جواب دیا کہ ہم اس وقت ایک بازار میں چلے جاتے ہیں اور یہاں ہمارا

واقف بھی کوئی نہیں۔ میں تمہیں دور و پیہ نذر دیتا ہوں مجھے سر پر دو جوت لگا لینے دو۔ تو وہ ڈر گیا کہ یہ کہیں ایسا کرنے بیٹھے اور کہا کہ دیکھنا کہیں ایسی حرکت کرنے بیٹھنا۔ پس میں نے کہا کہ دیکھو یہاں تم کو دور و پیہ بھی ملتے ہیں اور کوئی ہمارا شناسا بھی نہیں ہے تو تم صرف دو جوت کو پسند نہیں کرتے۔ پھر کیا وجہ کہ اس ذلت کو تم ساری دنیا کے سامنے پسند کرو گے۔ پس یہ شہادت تو تمہاری اپنی فطرت میں موجود ہے۔

ہر ایک بدکار قوم کے اندر ہی ایک ملزم کرنے والا موجود ہے۔ مثلاً ڈاکو، ٹھگ، چور، کنجر میں نے دیکھے اور ان لوگوں کو نصیحت کی ہے وہ کہتے کہ ہم ان باتوں کو بدی نہیں سمجھتے۔ میں نے ایک کنجر کو جواب میں کہا کہ کیا تم اپنی بہو سے زنا کرو اتنے ہو تو اس نے جواب دیا کہ نہیں پر اس لئے کہ دوسرے کی لڑکی کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ پس جو شخص تمہارے گھر میں بدکاری کے واسطے آیا ہے کیا وہ لڑکی اس کے واسطے غیر کی نہیں۔ اسی طرح ٹھگ اور چور ٹھگی اور چوری کو اپنے جتنے میں برا سمجھتے ہیں۔ میں نے ٹھگوں اور چوروں سے بھی پوچھا ہے کہ تم چند آدمی مل کر ایسا کام کرتے ہو اور مال صرف ایک آدمی کے سپرد کرتے ہو اگر وہ اس میں سے کچھ نقصان کر لے تو پھر جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرے تو وہ مکینہ اور بد ذات چور ہے اور ہماری شرکت کے قابل نہیں۔ میں نے کہا کیا دوسرے کا مال کھانے والا مکینہ اور بد ذات ہوتا ہے تو پھر لا جواب ہو گیا۔

پس ہر ایک انسان کے اندر حق کی شناخت اور حق کا واعظ موجود ہے۔ لہذا جزا و سزا کا اعتقاد بھی نیکی پر مائل کرتا ہے۔ پس یوم آخرت کے یہی معنی سمجھ لو کہ بدی کو نتیجہ ضرور بھگتنا پڑے گا اور پڑتا ہے۔

۳۔ تیسرا ذریعہ نیکی کا محرک ہے پر افسوس کہ لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی اور اگر کی ہے تو کم کی ہے یا اس پر ایمان نہیں یہ فرشتوں کا اعتقاد ہے اور لوگوں نے اس کو ایک معمولی وجود سمجھا ہے۔

ہمیں خدا تعالیٰ نے ملائکہ کا اعتقاد۔ جزو ایمان میں کیوں بتلایا۔ میں تو ان کے اسباب اور نتائج وغیرہ وغیرہ کاموں میں بڑا لگا رہتا ہوں اور بقدر اپنی طاقت کے ہمیشہ ایسی تلاشوں میں رہتا ہوں۔ ملائکہ پر ایمان جیسے میں نے بتایا ہے کہ شروع وعظ کیا تقویٰ سے اور پہلے بتا دیا یہ کہ تقویٰ کے

پھل کیا ہیں۔ اسی طرح ہمیں خیال آتا ہے کہ ملائکہ کا ایمان کیا ہے اور کیوں ہے۔ لوگ کہتے کہ ہم ملائکہ کو نہیں مانتے۔ پر ہم تلاش کرتے ہیں کہ ان سے محبت کس طرح بڑھانی چاہیے۔ بہت لوگ اس طرف بھی جھکے ہیں کہ ملائکہ کوئی نہیں۔ چنانچہ آریہ دیوتا کے معنی کرتے ہیں یا معمولی انسان فضیلت والا؛ پر اگر ایسی بات ہوتی تو اس پر ایمان لانے کی کیا ضرورت تھی۔ میرا تو حق البتین ہے کہ ملائکہ کا ایمان نیکی کی جڑ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں (دنیا مانتی ہے کہ کوئی کام دنیا میں بے سبب کے نہیں ہوتا۔ مثلاً ہم ایک بچہ کی بازی چھپالیں تو وہ ہم سے طلب کرتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بے سبب یہ غائب نہیں ہوئی۔ کوئی نہیں مانے گا کہ میں نہیں بولتا دیوار سے آواز آرہی ہے۔) تو بعض دفعہ معاً ایک نیکی کا خیال آجاتا ہے۔ یا عین بدکاری میں ایک نیکی کا خیال آجاتا ہے۔ بعض دفعہ نماز پڑھتے ہوئے اس کے دل میں ریا آجاتا ہے۔

میں نے ایک دفعہ صبح کی نماز گھر میں پڑھی تو بہت مختصر کر دی اور ایک دفعہ پھر مسجد میں صبح کی جماعت کرانے لگا تو لمبی قراءت شروع کر دی۔ معادل میں خیال آیا کہ تو نے گھر میں جہاں لمبی قراءت چاہے تھی چھوٹی کی اور مسجد میں جہاں چھوٹی قراءت چاہے تھی لمبی شروع کر دی ہے۔ پس غور کر کہ کیا یہ ایمان کا مقتضاء ہے؟ جھٹ سلام پھیر کر راستہ لیا۔ کسی نے سمجھا جنبی تھا۔ کسی نے کچھ خیال کیا اور کسی نے کچھ۔

پس انسان کو بیٹھے بیٹھے کبھی نیک اور کبھی بد ارادے پیدا ہو جاتے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں جبکہ کوئی کام بدوں اسباب اور علل کے نہیں ہوتا۔ تو نیک اور بد ارادے کی تحریک کیوں ہوئی۔ اس محرک کو ہماری شریعت میں فرشتہ کہتے ہیں۔ ہم اسی پر قناعت کرتے اور نیکی کے محرک کا نام فرشتہ رکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ملائکہ و شیاطین کو ہر وقت انسان کے دل سے تعلق رہتا ہے اور موقع پر تحریکیں کرتے ہیں۔ اگر وہ تحریک نیکی کی ہے تو فرشتہ کی طرف سے ہے اور بدترتیب پھر وہ تحریک ہوتی اور بڑھتی جاتی ہے اور وہ انسان اس میں لگ پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے ملائکہ اور شیاطین میں جنگ ہو پڑتی اور ملائکہ جیت جاتے اور پھر وہ شخص فرشتوں سے مصافحہ کر لیتا ہے۔ اس کے متعلق قرآن کریم میں فرمایا۔ **لَإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا**

تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ (حج السجدة: ۳۱) پس ایسے لوگوں پر پھر ملائکہ نازل ہوتے اور خدا کہتا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں مت غم کھاؤ۔ پس اس طرح ملائکہ کا ماننا بھی نیکی سکھاتا اور بدی سے روکتا ہے۔

۴۔ پھر پاک اور مقدس کتابیں بھی ایمان لانے سے ایسی ہی تحریک کرتی ہیں۔

مصنف کے خیالات کا اثر پڑھنے والے پر پڑتا ہے۔ مثلاً مثنوی میر حسن کے اثر سے ہزاروں عورتیں اور مرد ہندوستان میں بدکار ہو گئے۔ یہ بات بہت مصنفین نے صاف لفظوں میں لکھی ہے۔ اب ہم اپنا مشاہدہ دیکھتے ہیں کہ ناول، افسانے، عشق و حسن کے قصے پڑھنے والوں کو دیکھو کہ ان کا نتیجہ نیک اٹھایا یا بد۔ بہت کتابیں بازاروں میں پڑی ہوئی ہوں گی اور تمہارے لوگ پڑھتے ہوں گے ان کا مطالعہ کر کے دیکھ لو کہ ان کے نتائج کیا نکلے ہیں؟

میں نے ایک دفعہ راگ کے مسئلہ پر خیال کیا تو خیال آیا کہ گیت گانے والوں نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا ہے۔ اور گیت گانے والے کون لوگ ہیں۔ کج بھڑوے، راس دہارے، مراسی، ڈوم، پھر قوال۔ ذرا غور کرو ان میں زیادہ قدر لوگ قوالوں کی کرتے ہیں مگر بندہ تو فعال چاہیے۔ وہ تو صرف قوال ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں کہ قرآن کو اور اشعار کو سریلی آوازوں سے پڑھنے والوں کے اعمال پر غور کرو وہ ان کے اقوال کے مطابق ہی نہیں ہوتے۔ پس ملائکہ کے ایمان کے بعد مقدس لوگوں کی کتابیں پڑھنے سے بہت فائدے ہوتے ہیں پھر خدا اور انبیاء کی کتابیں۔

۵۔ پھر پاک لوگوں کی صحبت اور پاک نمونوں سے انسان نیک بنتا ہے اور انبیاء اور ان کی کتابوں پر ایمان لانے سے ہم نیک نمونے دیکھتے ہیں۔

یہ جڑ ہیں ہیں تقویٰ کی۔ اب ان جڑوں کے پھل اور نتائج کیا ہیں۔

گر جان طلبی مضائقہ نیست و زر طلبی سخن دریں است

ابھی اگر چندہ کا سوال کریں تو یہ مجلس درہم برہم ہو جاوے میں چندہ کی درخواست ہرگز نہیں کرتا۔ پر وہ لوگ جو ان جڑوں کے پابند ہوتے ہیں وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَ
الْيَتَامَىٰ (البقرة: ۱۷۸) ہوتے ہیں۔ اللہ کی محبت اور اللہ کی مخلوق پر رحمت کرنے کے لئے مال خرچ

کرتے ہیں یہ ان میں تقویٰ کا ثبوت ہوتا ہے اور وہ شخص دیتا کہاں ہے تم لوگ میرے رشتہ داروں سے واقف نہیں میرے حالات جوانی سے واقف نہیں۔ پر میرے رشتہ دار خوب واقف ہیں۔ اس لئے خدا نے حکم دیا ہے کہ

۱۔ مال سے رشتہ داروں کی خبر لو۔ جب انسان دیکھتا ہے فلاں میرے رشتہ دار نے میرے بچہ کو مارا تھا فلاں نے مجھے گالی دی تھی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا دل ایسے رشتہ داروں کو چیز دینے سے تعرض کرتا ہے۔ پر خدا کے حکم کے سامنے ان باتوں کی پرواہ نہ کر کے اس کی پرورش کرتا ہے یہ اس تقویٰ کا نتیجہ ہے۔ پھر

۲۔ اموال کے خرچ کرنے میں انسان یہ خیال کرتا ہے کہ یہاں سے مجھے بہت کچھ عوض میں ملے گا۔ مجھے یہ عزت ملے گی اور خدا فرماتا ہے کہ قرابت کے بعد مال یتیموں کو دو۔ کیونکہ یتیم سے تو بدلہ کی امید نہیں اور یہ مظہر بنتا ہے تقویٰ کا۔

پھر تیسری ایک اور جگہ ہے مال کے خرچ کرنے کی۔ ایک شخص درزی ہے اور اس کے پاس سوئی دھاگہ اور قینچی نہیں وہ سکون کی حالت میں ہے کام نہیں کر سکتا۔ جب تک اس کے پاس سامان نہ ہو۔ پس سامان بنوادینا مسکین کی خبر گیری ہے۔

۴۔ پھر مسافروں کو مشکلات پیش آتے ہیں اور ہم ان مشکلات سے خوب واقف ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہاتھ پھیلانے کی حقیقت کو بھی نہیں جانتے۔ پس مسافر نوازی بھی تقویٰ کی راہ ہے پانچ ہی اصول تقویٰ کے بتلائے ہیں اور پانچ ہی ظاہر نتائج تقویٰ کے بتلائے ہیں پھر سائل پر عجیب حالت ہے۔ ایک شخص سوال کرتا دوسرا اس کو کچھ دیتا تو نہیں پر کہتا کہ اس کے پاس تو ہزاروں روپیہ ہیں۔ پر یہ خیال نہیں کرتا کہ ہر ایک شخص کو دنیا میں کسی نہ کسی موقع پر ضرور سوال کی ضرورت پڑی ہے۔

سید عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں کہ جب سوالی آوے تو چار باتوں پر خیال کر لیا کرو۔ ۱۔ کبھی تو مسؤل کی جیب واقعی خالی ہے اور دے نہیں سکتا۔ ۲۔ کبھی جیب تو پُر ہوتی پر بخل کی عادت اس کو نکالنے نہیں دیتی۔ اسی طرح پھر سائل کی دو حالتیں ہیں۔ ۱۔ کبھی تو واقعی اس کے پاس کچھ نہیں اور وہ سوال پر مجبور ہوا ہے۔ اور کبھی اس کو ضرورت نہیں پر حرص نے دست سوال پڑھایا ہے۔

اب اگر یہ اس کو دیتا نہیں تو اس کا سوال لغو گیا۔ پس سید لکھتے ہیں کہ یہ شخص خدا سے استغفار کرے۔ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ یہ مغفرت کے وہ معنی فرماتے ہیں۔ استغفار کہ یا الہی اگر کسی

گناہ کی وجہ سے میری جیب خالی ہے تو اس کو پُر کر۔ یا بخل کی وجہ ہے تو مجھے اس عادت کے عذاب سے نجات دے اور اس سوا کی کو یا تو توفیق اور رزق عطا کر جو کسی گناہ کی وجہ سے تنگی کا زریعہ ہے۔ یا اگر اس کے گھر میں روپیہ ہے تو اس پر رحم کر کہ اس حرص کے عذاب سے نجات پاوے۔

پانچواں مظہر ہے تقویٰ کا رقب، مثلاً قرضہ۔ ڈگری غلامی والے کو دیوے۔ یہ تقویٰ کے مظہر ہیں اموال پر۔

۱۔ وَاقَامِ الصَّلَاةِ - صبح کا وقت ہے اور سردی کا موسم ہے۔ رات کو احتلام ہو گیا ہے اور صبح کی اذان ہوئی ہے۔ نماز پڑھنی ہے۔ پھر چستی سے اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرتا اور نماز میں جا کر شامل ہوتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس عشاء کا وقت ہے یا عصر کا وقت ہے کہ دوکان پر خریداروں کا جمگھٹا لگا ہوا ہے کہ مسجد سے اذان کی آواز آئی ہے اور یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مسجد کو دوڑتا ہے اسی واسطے صبح اور عشاء کی نماز میں منافق کسل کا پللی کرتا ہے۔

۲۔ وَابْتِئَاءِ الزَّكَاةِ - اپنے اموال میں حصص مقرر کرتا ہے۔

۳۔ وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ - اپنے معاہدوں میں وفاداری سے کام لیتا ہے۔

۴۔ وَالصَّيْرِينَ فِي الْبَسَاءِ وَالضَّرَّاءِ - بیماری اور مقدمہ اور غربت و افلاس۔ یہ تین وقت انسان کو بہت مشکل ہوتے ہیں۔ ہر آدمی اس پر غور کرے کہ ان تین وقتوں میں، ہمت، حوصلہ، استقلال اور جوان مردی سے کام لے۔ یہ تقویٰ کے نشان ہیں اور ان نشانوں والے شخص کو متقی کہتے ہیں اب تم نے اس آیت کے معنی سمجھ لئے ہوں گے۔ پس اس طرح انسان خدا کا محبوب بنتا ہے اب وقت ختم ہو گیا ہے اور نماز کا وقت آ گیا ہے۔ باقی پھر سہی۔ ہاں سامان تقویٰ بتلا دیتا ہوں۔ دعا۔ نیک صحبت اور صدقہ و خیرات دینا۔ یہ سامان ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق عطا کرے۔ آمین

(الحکم ۲۴ جنوری ۱۹۰۵ء صفحہ ۱۱ تا ۹)



جلسوں کی اغراض

﴿ تقریر فرمودہ ۲ نومبر ۱۹۰۴ء بمقام سرانے مہاراجہ والی جموں و کشمیر سیالکوٹ ﴾

دنیا میں بہت سے جلسے ہوا کرتے ہیں ان کے اغراض اور مصالح مختلف ہوتے ہیں۔ بعض جلسے اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان میں ملکی اور سیاسی امور پر بحث ہوتی ہے، بعض جلسے اس غرض سے ہوتے ہیں کہ ان میں کسی خاص قوم کی اصلاح کے لئے غور کیا جاتا ہے اور بعض اصلاح اخلاق کے لئے ہوتے ہیں لیکن آج حسن اتفاق سے اور خوش قسمتی سے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ایک موقع دیا ہے کہ ایک لیکچر سنیں اور پھر اس کے مضامین پر غور کریں۔

بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ایک بات سنتے تو ہیں لیکن چونکہ اس پر غور نہیں کرتے اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اس لئے ان کا سننا اور نہ سننا برابر ہو جاتا ہے اور جب انہیں پتا لگتا ہے کہ ہم اس کے فائدہ سے محروم ہو گئے ہیں تو اس وقت انہیں دستِ افسوس ملنا پڑتا ہے۔ اس مضمون کو قرآن شریف کی ایک آیت میں نہایت ہی لطیف طور پر بیان کیا ہے کیونکہ انسان ایک وقت اپنی غفلت پر کھچتا ہے مگر اس وقت اس سے کچھ بھی بن نہیں پڑتا۔ چنانچہ فرمایا ہے۔

لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (الملک: ۱۱)

کاش! ہم ان باتوں کو سنتے اور پھر عقل سے کام لے کر ان پر غور کرتے تو آج ہم دکھوں میں نہ ہوتے۔ یہ ایسے ہی لوگوں کے متعلق ہے جنہوں نے وہ باتیں نہ سنیں اور ان پر غور نہ کیا جیسی آج اس لیکچر کے ذریعہ آپ لوگوں کو سنائی جانی مقصود ہیں۔

عقل انسان کے اندر ایک قوت اور طاقت ہے جس کا صحیح استعمال انسان کو بری کارروائیوں سے بچا لیتا ہے اور جلد بازی اور شتاب کاری سے روک کر غور کرنے اور سوچنے کی عادت پیدا کرتا ہے۔

عقل کے معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں۔ چونکہ یہ انسان کو جذبات نفسانی کے روکنے کے لئے کام دیتی ہے اس لئے عقلمند وہی ہوتے ہیں جو اپنے جذبات پر حکومت کرتے ہیں اور نہایت اطمینان اور سکینیت کے ساتھ ایک بات کو سنتے ہیں اور غور کرتے ہیں۔ اس وقت سننے والے عقلمند ہیں یا کم از کم کافی تعداد عقلمندوں کی ہے اور وہ فائدہ کے لئے سننا چاہتے ہیں۔ اس لئے میں یقین کرتا اور خدا تعالیٰ سے توفیق چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو وہ سننے کا موقع دے جو سننے کا حق ہے یعنی آپ توجہ سے سنیں اور ان پر بہت غور کریں اور ان کو مفید یا کر عمل کریں کیونکہ یہ معمولی آدمی کا کلام نہیں ہے بلکہ ایسے شخص کا کلام ہے جو کہتا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہوں۔ پس اس لحاظ سے اور بھی ضروری ہے کہ آپ بہت توجہ سے سنیں اور عمل کریں۔ قرآن شریف میں فرمایا ہے:

يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ (الزمر: ۱۹)

یعنی اچھی باتوں کو سنتے ہیں اور پھر ان کے تتبع ہو جاتے ہیں۔

میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کہنا کافی ہے۔ اب مولوی عبدالکریم صاحب وہ لیکچر جو حضرت صاحب نے لکھا ہے آپ کو پڑھ کر سنائیں گے۔

اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے اور آپ لوگوں کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین

(الحکم ۲۴ نومبر ۱۹۰۴ء صفحہ ۵)



بُت پرست شکر گزار نہیں ہو سکتا

﴿تقریر بر موقع جلسہ درخیر خواہی گورنمنٹ فرمودہ ۱۲ مئی ۱۹۰۷ء بروز اتوار بعد نماز عصر﴾

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُثَلِّى عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَ
ذِكْرًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (العنکبوت: ۵۲)

اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی تعریف میں فرماتا ہے کہ کیا کافی نہیں کہ خدا تعالیٰ نے ایک کتاب بھیجی ہے جو دنیا کے واسطے رحمت ہے اور اس میں نصیحت کی باتیں ہیں اس پاک کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کے واسطے ایک نشان مقرر فرمایا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ** (النساء: ۶۰) اے ایماندارو! اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکام کی اطاعت کرو۔ اس آیت شریف میں سب سے اول خدا کی اطاعت کا حکم ہے جو ہمارا خالق ہے ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، جی اور قیوم خدا ہے ہمارے ذرہ ذرہ کا وہی خالق اور وہی مالک ہے۔ رحوں کا خالق بھی وہی ہے اس کا حق ہے کہ ہم کو اپنا مطیع بنائے۔ ہمارا فرض ہے اس کی اطاعت کریں اس کے صفات سے آگاہی حاصل کریں پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر فرض ہے جس کی اطاعت ہم کو خدا تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے جیسا کہ فرمایا ہے **قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبُّكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ** (آل عمران: ۳۲) کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو خدا کے محبوب بن جاؤ گے خدا تمہارے گناہوں کو بخشے گا اور خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ رسول کی اطاعت کے بعد اولی الامر کی اطاعت کا حکم ہے کیونکہ وہ حصہ انتظامی کے مظہر ہیں۔ اولی الامر میں بادشاہ وقت ہے پھر صوبہ کا حاکم ہے پھر شہر کا افسر ہے پھر نمبردار ہے پھر محلہ کا چوہدری ہے۔ غرض انتظامی معاملات میں سب کی اطاعت کرنا انسان کا فرض ہے بعض

لوگ اس آیت کے معنوں میں لفظ منکم پر اٹکے ہیں کہ اس سے یہ مراد ہے کہ تم میں سے کیا معنی صرف مسلمانوں میں سے جو حاکم ہو اس کی بات مانو۔ لیکن یہ بات درست نہیں کیونکہ منکم کی مثالیں اور بھی قرآن شریف میں موجود ہیں جیسا کہ دوزخ والوں کو کہا جائے گا **الَّذِي يَأْتِيكُمْ رَسُولٌ مِّنكُمْ** (الانعام: ۱۳۱) کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے۔ اس میں کفار کو کہا گیا کہ رسول تم میں سے آئے۔ ظاہر ہے کہ وہ کافر تھے اور یہ مومن تو رسول کافروں میں سے کس طرح ہوئے۔ پس اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول ان کے زمانہ میں تھے ان کے ملک میں تھے اور ان کی طرف رسول ہو کر آئے تھے اس تعلق کے لحاظ سے ان کو منکم کہا گیا۔ قدرت خداوندی کے عجائبات میں سے ایک یہ بات ہے کہ چونکہ مسلمانوں کو آئندہ زمانہ میں ایسے واقعات پیش آنے تھے کہ وہ عیسائیوں کے زیر حکومت رہیں گے اس واسطے ابتدائے زمانہ نبوی میں بھی اس کی نظیر قائم کی گئی تھی کہ مسلمانوں کو عیسائیوں کی ماتحتی میں کس طرح رہنا چاہیے۔ ابتدائے اسلام کے زمانہ میں جب کہ کفار نے مسلمانوں کو عرب میں دکھ دینا شروع کیا تو آنحضرت نے صحابہ کو فرمایا کہ حبشہ میں چلے جاؤ چنانچہ حبشہ کے عیسائی بادشاہ کے پاس آپ کے صحابہ کو بہت امن ملا۔ مسلمانوں کو عیسائی سلاطین کے ماتحت امن ملنے کی طرف قرآن شریف کی یہ آیت بھی راہ نمائی کرتی ہے **وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي** (المائدة: ۸۳) اور تو ضرور نصاریٰ کو مومنوں کے ساتھ مودت کرنے میں دوسرے لوگوں سے بڑھ کر پائے گا۔

اس ملک کے ہندوؤں نے خدا تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا شکریہ ادا نہیں کیا جو کہ آیت کریمہ **وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَازِرَ فِيهِ وَ لِيَبْتَغُوا مِنِّي فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ** (النحل: ۱۵) جہازوں کی آمد و رفت کا جو نتیجہ ہے وہ خدا کا ایک فضل ہے جس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا اور اس سے کیا تجارت میں اور کیا ساہوکارہ میں اور کیا زراعت میں اور کیا ملازمت میں سب سے زیادہ فائدہ ہندوؤں نے ہی حاصل کیا ہے لیکن انہوں نے ہی سب سے زیادہ ناشکری کی اور ان سے اس سے زیادہ کچھ امید بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ جو مشرک اپنے حقیقی محسن خالق مالک رب کو چھوڑ کر ایک پتھر کے آگے سر جھکاتا ہے اس سے کیا امید ہو سکتی ہے کہ وہ کسی انسان کے احسان کو شکریہ کے ساتھ دیکھے گا

کیونکہ خدا تعالیٰ کے احسانات کے مقابلہ میں انسان کے احسان ہی کیا ہو سکتے ہیں وہ جس نے خدا کے ساتھ ہی بغاوت کی ہے وہ اپنے ہم جنس انسان کے ساتھ کب نیک سلوک کرے گا؟ خدا تعالیٰ کے حضور اس ناشکر گزاری میں ہندو لوگ جو حصہ لے رہے ہیں وہ تو ظاہر ہی ہے لیکن آریہ لوگ دراصل ان سے بڑھ گئے ہیں کیونکہ خدا کی مخلوق ہو کر وہ کہتے ہیں کہ نہ ہماری روح کا وہ خالق ہے اور نہ ہمارے جسم کے مادہ کا وہ خالق ہے پھر زمانہ کو بھی خدا کا مخلوق نہیں مانتے۔ یہ کس قدر ناشکری ہے جو ان لوگوں سے ظاہر ہو رہی ہے گورنمنٹ برطانیہ کے ذریعہ سے آریوں کو جو آرام اور فائدہ حاصل ہوا ہے زراعت میں اس سے ظاہر ہے کہ مدت کی بات ہے ایک دفعہ میں نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ پانچ کروڑ روپیہ کی جائیداد ہر سال مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر ہندوؤں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے سرکاری ملازمت میں دیکھو تو تمام بڑے بڑے عہدے علی العموم ہندوؤں کے قبضہ میں ہیں اور کیا مجال ہے کہ کسی مسلمان کو معمولی دفتر کی کلر کی میں بھی حتی الوسع رہنے دیں ہاں دفاتر کے چپڑاسی اور فراش مسلمان رکھ لئے جاتے ہیں پھر مقدمات میں مسلمانوں اور بالخصوص احمدیوں کے ساتھ ہندو مجسٹریٹوں کا جو سلوک ہے وہ چندو لعل اور آتمارام کے مقدمات کرنے سے ظاہر ہے کہ وہ مقدمہ جس کو ایک انگریز نے بغیر اس کے کہ ہمارے امام بلکہ اس کے خدام کو بھی کوئی تکلیف ہو ایک ہی روز میں فیصلہ کر دیا گیا اس پر ان لوگوں نے دو سال تک گورداسپور کی آمدورفت کی جو تکلیف حضرت امام اور آپ کے خدام کو دی وہ تاریخ زمانہ میں ایک یادگار رہے گی۔ غرض ہمارے لئے تو امن کی اور کوئی صورت گورنمنٹ برطانیہ کے ماتحت رہنے سے بڑھ کر ہے نہیں اور اس کے شکر یہ میں ہمارے امام نے جو تحریریں آج تک شائع کی ہیں ان سب کو ایک جگہ جمع کیا جاوے تو ایک ضخیم کتاب بن سکتی ہے۔

(البدرد ۲۳ مئی ۱۹۰۷ء صفحہ ۷۷-۸۰)



خليفة وقت کی اطاعت کی اہمیت

(تقریر فرمودہ ۲۷ مئی ۱۹۰۸ء بر موقع انتخاب خلافت)

انتخاب خلافتِ اولیٰ کے موقع پر حضرت حکیم مولوی نور الدینؒ کی خدمت میں ایک تحریری درخواست کے پڑھا جانے کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر ایک تقریر فرمائی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ:-

میرے دل کے کسی گوشہ میں کبھی اس امر کا خیال خواہش یا واہمہ نہیں تھا کہ یہ کام میرے سپرد کیا جائے۔ میں چاہتا تھا کہ حضرت کا صاحبزادہ میاں محمود احمد جانشین بنتا۔ اور اسی واسطے میں ان کی تعلیم میں سعی کرتا رہا۔ یا میرنا صرنواب صاحب جو حضرت کے واسطے جائے ادب تھے یا نواب محمد علی خان صاحب جو حضرت کی فرزندگی میں داخل ہیں یا حضرت مولوی محمد احسن صاحب جنہوں نے اس قدر تصانیف تالیف حضرت میں کیں یا مولوی محمد علی صاحب جنہوں نے دین کی راہ میں ایسی جانفشانی کی یا سید میر حامد شاہ صاحب یا اور کوئی دوست۔ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ یہ بوجھ مجھ پر ڈالا جاتا کیونکہ میں اپنے میں اس کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا لیکن جب کہ بلا میری خواہش کے یہ بار میرے گلے میں ڈالا جاتا ہے اور دوست مجھے مجبور کرتے ہیں تو اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر میں قبول کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اور دوستوں سے دعا کی ہر طرح کی امداد کی خواہش رکھتا ہوں۔ ممکن ہے کہ بعض باتیں جو میں منواتا ہوں وہ کسی کی مرضی کے برخلاف ہوں۔ پس اگر تم تیار ہو کہ میرا کہنا ہر امر میں مانو تو میں اسے منظور کرتا ہوں۔ تم پھر بھی سوچ لو اور جن کے نام میں نے لئے ہیں ان میں سے کسی کو اپنا امیر بنا لو۔

(البدرد ۲/جون ۱۹۰۸ء صفحہ ۶، ۷)



وفات انبیاء پر سنتِ الہی اور اس کا ظہور

(خلافت کے بعد پہلی تقریر)

بعد کلمہ شہادت واستعاذہ آپ نے آیت **وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (ال عمران: ۱۰۵)**۔ پڑھی اور اس کے بعد فرمایا۔

میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جو ابدی اور ازلی سنت الہی متعلق وفات انبیاء:- ہمارا خدا ہے۔ ہر ایک نبی جو دنیا میں آتا ہے اس کا

ایک کام ہوتا ہے جو کرتا ہے جب کر چکتا ہے خدا تعالیٰ اس کو بلا لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی نسبت یہ بات مشہور ہے کہ وہ ابھی بلا دشام میں نہیں پہنچے تھے کہ رستہ ہی میں فوت ہو گئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر و کسریٰ کی کنجیوں کا ذکر فرمایا کہ مجھے دی گئی ہیں مگر آپ نے وہ کنجیاں (چابیاں) نہ دیکھیں کہ چل دیئے۔ ایسی باتوں میں اللہ تعالیٰ کے مخفی اسرار ہوتے ہیں یہاں بھی بہت سے لوگ تعجب کریں گے کئی پیشینگوئیاں کی تھیں وہ ابھی پوری نہیں ہوئیں۔

میرے خیال میں یہ اللہ کی سنت ہے پیش گوئیاں کس طرح پوری ہوا کرتی ہیں:- کہ وہ بتدریج کام کرتا ہے اور پھر

جسے مخاطب کرتا ہے کبھی اس سے مراد اس کا مثیل بھی ہوتا ہے۔ پہلے پارہ میں فرمایا کہ تم نے موسیٰ سے پانی مانگا اور ایسا ہی اور جگہ فرمایا حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب وہ لوگ نہ تھے۔ پس خدا کی باتیں رنگ برنگ شکلوں میں پوری ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کی یہ بھی سنت ہے کہ بعض مواعید الہیہ کسی دوسرے وقت پر ملتوی کئے جاتے ہیں اسی لئے فرمایا **يُصِيبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي وَعَدْتُكُمْ (المؤمن: ۲۹)** اس بَعْضُ الَّذِي پر خوب غور کرو کہ اس میں یہی ستر تھا کہ تمام وعدے نبی کی زندگی میں پورے نہ ہوں گے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا۔ **قد يوعد و لا يوفى**۔

یعنی بعض دفعہ خدا وعدہ کرتا ہے مگر پورا نہیں کرتا۔ نادان سمجھتا ہے کہ اس نے وفا نہیں کی حالانکہ مناسب وقت پر وہ وعدہ دیا اس کی مثل پورا ہو جاتا ہے۔

امامت کی خواہش نہیں:- میری پچھلی زندگی پر غور کر لو میں کبھی امام بننے کا خواہش مند نہیں ہوا۔ مولوی عبدالکریم مرحوم امام الصلوٰۃ بنے تو میں نے

بھاری ذمہ داری سے اپنے تئیں سبکدوش خیال کیا تھا۔ میں اپنی حالت سے خوب واقف ہوں اور میرا رب مجھ سے بھی زیادہ واقف ہے۔ میں دنیا میں ظاہر داری کا خواہشمند نہیں۔ میں ہرگز ایسی باتوں کا خواہشمند نہیں۔ اگر خواہش ہے تو یہ کہ میرا مولیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس خواہش کے لئے میں دعائیں کرتا ہوں قادیان بھی اسی لئے رہا اور رہتا ہوں اور رہوں گا۔ میں نے اس فکر میں کئی دن گزارے کہ ہماری حالت حضرت صاحب کے بعد کیا ہوگی۔ اسی لئے میں کوشش کرتا رہا کہ میاں محمود کی تعلیم اس درجہ تک پہنچ جائے حضرت صاحب کے اقارب میں اس وقت تین آدمی موجود ہیں۔ اول میاں محمود احمد وہ میرا بھائی بھی ہے میرا بیٹا بھی۔ اس کے ساتھ میرے خاص تعلقات ہیں۔ قرابت کے لحاظ سے میرا ناصرب صاحب ہمارے اور حضرت کے ادب کا مقام ہیں۔ تیسرے قریبی نواب محمد علی خان صاحب ہیں۔ اسی طرح خدمت گزاران دین میں سے سید محمد احسن صاحب نہایت اعلیٰ درجہ کی لیاقت رکھتے ہیں۔ سید بھی ہیں خدمات دین میں بھی ایسے کام کئے ہیں کہ میرے جیسا انسان شرمندہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے ضعیف العمری میں بہت سی تصانیف حضرت کی تائید میں کیں۔ یہ ایسی خدمت ہے جو انہی کا حصہ ہے بعد اس کے مولوی محمد علی صاحب ہیں جو ایسی خدمات کرتے ہیں جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتیں۔ یہ سب لوگ موجود ہیں۔ باہر کے لوگوں میں سید حامد شاہ اور مولوی غلام حسن ہیں اور بھی کئی اصحاب ہیں۔

یہ ایک بڑا بوجھ ہے، خطرناک بوجھ ہے اس کا اٹھانا مامور کا کام ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس سے خدا کے عجیب در عجیب وعدے ہوتے ہیں جو ایسے دکھوں کے لئے جو پیٹھ توڑ دیں عصا بن جاتے ہیں۔ موجودہ حالت میں سوچ لو۔ کیسا وقت ہے جو ہم پر آیا ہے۔ اس وقت مردوں بچوں عورتوں کے لئے ضروری ہے کہ وحدت کے نیچے ہوں اس وحدت کے لئے ان بزرگوں میں سے کسی کی بیعت کر لو۔ میں تمہارے

ساتھ ہوں میں خود ضعیف ہوں۔ بیمار رہتا ہوں پھر طبیعت مناسب نہیں۔ اتنا بڑا کام آسان نہیں۔
حضرت صاحب کے ساتھ چار کام تھے۔

۱۔ ایک ان کی اپنی عبودیت۔ دوم کنبہ پروری۔ سوم مہمان نوازی۔ چہارم اشاعت اسلام جو ان کا اصل مقصد تھا۔ ان چار کاموں میں سے ایک سے ہم سبکدوش ہو سکتے ہیں وہ آپ کی عبودیت تھی جو ان کے ساتھ رہے گی۔ آپ نے جیسے اس جہان میں خدمتیں کیں ویسے ہی بعد الموت کریں گے۔ باقی تین کام ہیں ان میں سے اشاعت اسلام کا کام بہت اہم اور نہایت مشکل ہے۔ اس وقت دہریت کے علاوہ اندرونی اختلاف بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے اختلاف کے مٹانے کے لئے ہماری جماعت کو منتخب کر لیا ہے۔ تم آسان سمجھتے ہو مگر بوجھ اٹھانے والے کے لئے سخت مشکل ہے۔ پس میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جن عمائد کا نام لیا ہے ان میں سے کوئی منتخب کر لو۔ میں تمہارے ساتھ بیعت کرنے کو تیار ہوں اگر تم میری بیعت ہی کرنا چاہتے ہو تو سن لو کہ بیعت بک جانے کا نام ہے۔ ایک دفعہ حضرت نے مجھے اشارہ فرمایا کہ وطن کا خیال بھی نہ کرنا۔ سو اس کے بعد میری ساری عزت اور سارا خیال انہی سے وابستہ ہو گیا اور میں نے کبھی وطن کا خیال... تک نہیں کیا۔ پس بیعت کرنا ایک مشکل امر ہے ایک شخص دوسرے کے لئے اپنی تمام حریت اور بلند پروازیوں کو چھوڑ دیتا ہے اسی لئے اللہ نے اپنے بندے کا نام عبودیت رکھا ہے اس عبودیت کا بوجھ اپنی ذات کے لئے مشکل سے اٹھایا جاتا ہے کوئی دوسرے کے لئے کیا اور کیونکر اٹھائے۔ طبائع کے اختلاف پر نظر کر کے یک رنگ ہونے کے لئے بڑی ہمت کی ضرورت ہے۔ میں تو حضرت صاحب کے کاموں میں حیران ہوتا ہوں کہ اول بیمار پھر اس قدر بوجھ۔ نثر، نظم، تصنیف، دیگر ضروری کام ادھر میں حضرت صاحب کے قریب عمر۔ وہاں تائیدات روزانہ موجود یہاں میری حالت ناگفتہ بہ۔ اسی لئے فرمایا۔ **فَأَصْبَحْتُ مَبْعُوثًا بِعَمَلِهِ إِخْوَانًا** (ال عمران: ۱۰۴)۔ کہ یہ سب کچھ خدا کے فضل پر موقوف ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت :- میں ایک بڑا امر پیش کرتا ہوں کہ جناب ابو بکرؓ کے

زمانے میں عرب میں ایسی بلا بھیلی تھی کہ سوا مکہ اور مدینہ اور جواشہ کے سخت شور و شر اٹھا۔ مکہ والے بھی فرنٹ ہونے لگے مگر وہ بڑی پاک روح تھی جس نے انہیں کہا کہ اسلام لانے میں تم سب سے پیچھے ہو۔ مرتد ہونے میں کیوں پہلے بنتے ہو۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میرے باپ کے اوپر جو پہاڑ گرا ہے وہ کسی اور پر گرتا تو چور ہو جاتا۔ پھر بیس ہزار کی جماعت مدینہ میں موجود تھی اور چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے چکے تھے کہ ایک لشکر روانہ کرنا ہے پس اس کو بھیج دیا۔ ادھر اپنی قوم کا یہ حال تھا مگر آخر خدا نے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھلایا۔ **لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمُ (النور: ۵۶)** کا زمانہ آ گیا۔ اس وقت بھی اس قسم کا واقعہ پیش آیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ دفن ہونے سے پہلے تمہارا کلمہ ایک ہو جائے۔ نبی کریم صلعم کے بعد ابو بکر کے زمانہ میں صحابہ کرام کو بہت سی مساعی جیلہ کرنی پڑیں۔ سب سے پہلا اہم کام جو کیا وہ جمع قرآن ہے۔ اب موجودہ صورت میں جمع یہ ہے کہ اس پر عملدرآمد کرنے کی طرف خاص توجہ ہو۔

پھر حضرت ابو بکر نے زکوٰۃ کا انتظام کیا۔ یہ بڑا عظیم الشان کام ہے انتظام زکوٰۃ کے لئے اعلیٰ درجے کی فرمانبرداری کی ضرورت ہے۔ پھر کتبہ کی پرورش ہے غرض کئی ایسے کام ہیں۔

اب تمہاری طبیعتوں کے رخ خواہ کسی طرف ہوں تمہیں میرے احکام کی تعمیل کرنی **خليفة المسيح** ہوگی اگر یہ بات تمہیں منظور ہو تو میں طوعاً و کرہاً اس بوجھ کو اٹھاتا ہوں۔ وہ بیعت کے دس شرائط بدستور قائم ہیں ان میں خصوصیت سے میں قرآن کو سیکھنے اور زکوٰۃ کا انتظام کرنے و اعظمتی کے بہم پہنچانے اور ان امور کو جو وقتاً فوقتاً اللہ میرے دل میں ڈالے کو شامل کرتا ہوں۔ پھر تعلیم دینیات، دینی مدرسہ کی تعلیم میری مرضی اور منشاء کے مطابق کرنا ہوگی اور میں اس بوجھ کو صرف اللہ کے لئے اٹھاتا ہوں۔ جس نے فرمایا۔ **وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ (ال عمران: ۱۰۵)**۔

یاد رکھو کہ ساری خوبیاں وحدت میں ہیں۔ جس کا کوئی رئیس نہیں وہ مرچکی۔ فقط

(الحکم ۶ جون ۱۹۰۸ء صفحہ ۷۰۷)



وفات مسیح موعودؑ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و آلہ مع البرکات و التسلیم اما بعد
فاشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمداً عبده و رسولہ ثم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

۱۔ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (المائدة: ۷۶)
۲۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَقَابِينَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ
انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَصُرَ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي
اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (ال عمران: ۱۳۵)

ان دونوں آیتوں پر غور کریں۔ کیا فرماتی ہیں اگر پہلی آیت کریمہ مسیح ابن مریم کو رسول فرما کر اس کے گزر جانے کا ذکر فرماتی ہے تو دوسری آیت بینہ کیا ہی دلربا تعلیم دیتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خاتم النبیین رسول رب العالمین کو اگر موت آجاوے یا وہ بالفرض قتل کئے جاویں تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں اپنی ایڑیوں پر لوٹ جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹا پھر اپنی ایڑیوں پر پس وہ ہرگز ضرر نہ دے سکے گا اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی اور عنقریب ہی اللہ بدلہ دے گا ان قدر کرنے والوں کو۔ کیا معنی؟ حضرت نبی کریم کے اللہ مولیٰ نے تم کو جن بد اعتقادیوں اور بد چلنیوں سے ایک پاک روح کے طفیل نکالا۔ کیا اس کے مرجانے کے بعد تم ان عقائد غیر صحیحہ اور اقوال و افعال و اعمال باطلہ کی طرف پھر رجوع کر جاؤ گے؟ ایسا نہ کرنا کیونکہ وہ اعمال و افعال و اقوال بہر حال گھنوںے اور اسی لائق تھے کہ ان کو ترک کیا جاوے۔ وہ تو کسی طرح بھی قابل عملدرآمد نہیں تھے۔ رہے تمہارے مشکلات اور وہ ابتلا جو تم کو اپنے ہادی کے بعد آئیں گے سوان کی پروامت کرنا۔ تم نے اس پاک وجود کی اور اس کی پاک تعلیم کی قدر کی اور اس کے شکر گزار ہوئے تو اللہ تعالیٰ بھی جو حقیقی شکر ہے بڑا قدر دان

اور بڑے بدلے دینے والا ہے۔ کیا معنی؟ تم کو بڑھ چڑھ کر ضرور اس قدر کا بدلہ دے گا۔ جب اس نے بدلہ دیا تو کیا وہ تم کو تباہ کر دے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا پس تم ہرگز تباہ نہ ہو گے۔ حضرت امام خود اپنی الوصیۃ کے صفحہ نمبر ۵ میں اپنی وفات کا ذکر فرماتے ہوئے اور مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو جناب الہی سے پامال کر دکھانے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں اور قوم کو مخاطب فرما کر ارشاد کرتے ہیں۔

”غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں کیونکہ تمہارے لئے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لئے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا اور وہ دوسری قدرت نہیں آسکتی جب تک میں نہ جاؤں۔“

(رسالہ الوصیت۔ روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحہ ۳۰۵)

موت کا آنا سب کے لئے جو مخلوق ہوا ضروری ہے **كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ** (العنکبوت: ۵۸) بلا استثناء یہ ایک عام قاعدہ اول تو منصوص پھر موجود و مشہود ہے۔ اس سچے قاعدہ کے مطابق قرآن کریم ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ موت جب سامنے حاضر ہو تو وصیت کا کرنا تمہارے لئے ایک ضروری اور فرض کام ہے اس پر اس امام نے کیسا عمل کیا ہے؟ اس نص کو سن لو اور پھر اس عمل و در آمد کو دیکھ لو۔ نص یہ ہے **كَتَبَ عَلَيكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ أَنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ** (البقرہ: ۱۸۱) اور اس پر جو عمل و در آمد اس کامل انسان نے فرمایا وہ رسالہ الوصیت میں ملاحظہ کرو۔ صفحہ نمبر ۲ سطر ۴ سے فرماتے ہیں۔

”میرا زمانہ وفات نزدیک ہے (یہ حضر احد کم الموت کا بیان ہے)

اور اس بارہ میں اس کی وحی اس قدر تو اترا سے ہوئی کہ میری ہستی کو بنیاد سے ہلا

دیا۔..... **قُرْبَ أَجَلِكَ الْمُقَدَّرُ (الِیٰ آخِرَةَ)۔ قُلْ مِيعَادُ رَبِّكَ (الِیٰ**

آخِرَةَ) جَاءَ وَقُتِلْتُ۔ (الِیٰ آخِرَةَ)“ (رسالہ الوصیت۔ روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحہ ۳۰۱)

اور صفحہ نمبر ۳ سطر ۱۱ میں ہے۔

”بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں۔ اس دن سب پر اداسی چھا جائے گی۔“

(رسالہ الوصیت۔ روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحہ ۳۰۲)

ان الہامات پر ایک سعادت مند دل غور کرے۔ پھر صفحہ نمبر ۴۲ کی سطر ۱۵ سے فرماتے ہیں۔
 ”اور جس راستبازی کو وہ دنیا میں پھیلا نا چاہتے ہیں اس کی تخم ریزی انہی کے
 ہاتھ سے کر دیتا ہے۔ لیکن اس کی پوری تکمیل ان کے ہاتھ سے نہیں کرتا بلکہ
 ایسے وقت میں ان کو وفات دے کر جو بظاہر ایک ناکامی کا خوف اپنے ساتھ
 رکھتا ہے مخالفوں کو ہنسی اور ٹھٹھے اور طعن اور تشنیع کا موقعہ دے دیتا ہے۔“
 (رسالہ الوصیت۔ روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحہ ۳۰۴)

اس آپ کے پاک کلام سے کیسا واضح ہوتا ہے کہ آپ کو قرب اجل کی خبر دی گئی اور آپ نے
 الوصیہ لکھ دی اور اس حالت کا ایسا نقشہ کھینچا کہ گویا آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف موت ہے
 دوسری طرف دشمن ہنستا ہے۔ سامنے قوم ہے۔ ان کلمات طیبات اور اس نظارہ کو جو آپ کی وفات
 کے بعد لاہور میں ہم نے دیکھا ہے کوئی عقلمند سعید دیکھے اور بے باک مرتد کا ٹریکٹ اس پر طرہ اور
 امرتسری مولوی کا اشتہار علاوہ بریں ہر دو۔ تو قدرت کا مشاہدہ ہو جاتا ہے کہ خدا کی باتیں کیسی سچی
 ہوتی ہیں جو وہ اپنے بندوں سے فرماتا اور ان کے منہ سے نکلاتا ہے۔ اب آپ کی وفات تو ہو چکی
 اور ہم نے دیکھ لی اور وہ صداقت بھی ظاہر ہو چکی جس کا ذکر فرمایا کہ لوگ ہنسی ٹھٹھا کریں گے تو اب
 الوصیہ کے صفحہ نمبر ۵۵ سطر اول میں جو ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کو پڑھیں۔

”نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور
 میں آجاتے ہیں (جیسے ہم کو لاہور میں ایسا تنگ کرنا چاہا کہ گویا اب ہم کو
 کھالیں گے۔ اس وقت ابر رحمت کی طرح پولیس آگئی اور مسخرے خائب و خاسر
 بھاگے۔ ناقص) اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا اور یقین کر لیتے ہیں
 کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں
 پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمزریں ٹوٹ جاتی ہیں اور کئی بد قسمت مرتد ہونے کی
 راہیں اختیار کر لیتے ہیں۔ تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ (پہلی مرتبہ تو اس امام
 کے وقت میں ان لوگوں نے ناخنوں تک زور لگایا اور جہاں تک ان سے

ہوسکا جان و دل سے سرتوڑ کوششیں کیں۔ پر الہی قدرت نے آخر ایک ممتاز جماعت قائم کر دی۔ ناقل) اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے پس وہ جو اخیر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کے اس معجزہ کو دیکھتا ہے جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے وقت میں ہوا۔“

(رسالہ الوصیت۔ روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحہ ۳۰۴، ۳۰۵)

عزیزان غور کرو! آپ کے بعد معاً دفن سے پہلے، جماعت میں بلا اختلاف شمال سے جنوب اور مغرب سے مشرق تک وحدت کی روح اللہ قادر و مقتدر نے کس طرح پھونک دی۔

اے خدا قربان احسانت شوم

اب ایک مسلمان، ایک مدبر، ایک عاقبت اندیش اور ایک دنیا کے حوادث کو دیکھنے والا غور کرے۔ حضرت میرزا کا ایک کیا، چار بیٹے اور پوتا موجود، میرزا کا داماد، محمد علی نام کا مجموعہ قابل قدر اور لائق موجود، میرزا کا خسر بجائے باپ موجود ہے اور تمام قوم نے ایک اجنبی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب خدا را اس آیت کریمہ کو پڑھو۔

وَأَنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ
وَأَلْفَ بَيْنٍ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ
أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (الانفال: ۶۳، ۶۴)

ترجمہ: اور اگر چاہیں گے وہ کہ دھوکا دیں تجھے تو سن لے بے ریب اللہ ہی بس ہے تجھے۔ وہ وہی ہے جس نے تائید کی تیری اپنی نصرت سے اور مومنوں کے ساتھ۔ اور الفت ڈال دی ان کے دلوں میں۔ اگر خرچ کرتا تو جو کچھ اس زمین میں ہے سب کا سب نہ الفت دے سکتا تو ان کے دلوں میں۔ لیکن اللہ نے الفت دی ان کے درمیان تحقیق اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔

اس آیت کریمہ کو عملی رنگ میں کوئی دکھائے کہ جن مشکلات میں ہم کو ہمارے گدی نشینوں اور علماء پھر چلتے پرزوں اور مردوں نے ڈالنا چاہا۔ ہمیں ہمارے مولیٰ ہمارے ناصر ہمارے ہاتھ اور ہماری کمروں کو تھامنے والے الحی القیوم نے کیا بچایا۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِلَّةِ يَوْمِ الدِّينِ (الفاتحة: ۴۱۲)

ہمارے ملک میں یا ہمارے ملک میں سے سید محمد جو پوری، علی متقی شیخ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، الشیخ المجدد الالف الثانی، شاہ ولی اللہ اور سید احمد بریلوی یہ لوگ ہیں جنہوں نے دعاوی مجددیت کے کئے اور لوگوں نے بھی ان کو مجدد مانا۔ ان کے کارنامے بحمد اللہ ہم سے مخفی نہیں۔ مگر جو کچھ اس شخص مغفور نے کر کے دکھایا اس کا مقابلہ سوائے عقلمندوں کے کون کرے؟ اللہ تعالیٰ کو توفیق ہے کہ آنکھیں کھول دے کیونکہ

۱۔ اول آپ نے تمام دنیا کو دعوت کی اور انگریزی وارد میں بیس ہزار اشتہار سے اعلان کیا کہ الاسلام حق۔

۲۔ دہریہ کے واسطے قرآنی صدہا پیشین گوئیوں اور اپنے متعلق ایک بڑا مجموعہ بشارات کا اور قبل از وقت اخبار کا پیش کر کے معرفت الہیہ کا دروازہ کھول دیا ہے گو ہمارے مخالف خدا کے ماننے والے اس راہ میں مشکلات ڈالتے رہے اور ڈالتے ہیں کہ بعض بشارات پوری نہیں ہوئیں۔ مگر عقلمند جانتے ہیں کہ مفید و راحت بخش تدابیر اپنی کثرت کے لحاظ سے مفید یقین کی جاتی ہیں نہ اس لئے کہ وہ کبھی مستثنیات بھی رکھتیں ہیں۔

۳۔ پھر آریہ کے لئے براہین، سرمہ چشم آریہ، شحہ حق، آریہ دھرم، قادیان کے آریہ اور ہم، چشمہ معرفت وغیرہ کتابیں لکھ کر اہل اسلام کو ان کے شر سے آگاہ فرمایا۔

۴۔ اور سکھوں کے لئے ست بچن، ہی پر بس نہ کی بلکہ چولہ صاحب ایک اور، قرآن کریم کو منجملہ تبرکات بابانا تک^(۲) جی ثابت کر کے جنم ساکھی بھائی^(۳) بالا سے قوم سکھ کو جگایا اور خوب جگایا کہ ان پر حجت قائم کر دی۔

۵۔ پھر برہم دھرم کو براہین احمدیہ لکھ کر بیدار فرمایا کہ الہام کیا ہے اور اس کی لامحدودیت کیا ہے اور کس طرح ہوتا ہے اور خدا ہے تک وہ کیوں قدم نہیں اٹھاتے۔ اگرچہ ہونا چاہئے تک وہ پہنچ گئے ہیں۔

۶۔ دارالسلطنت لاہور، میں اول تو فیصلہ آسمانی خود سنایا۔ جلسہ اعظم مذاہب مہوتسو میں کیسا

جامع و مانع عظیم الشان خطبہ سنا کر اپنے کام سے سبکدوش ہو چکے۔ پھر ایک اور لیکچر تیسری بار، اس کے بعد پھر اس لئے کہ آخر دارالسلطنت ہے۔ آریہ کے جلسہ میں اپنی جماعت کو ایک مضمون دے کر بھیجا اور آخری ان کا حملہ جو بڑے ہی زور شور سے ہوا۔ اس کا بذات خود جواب دے کر چشمہ معرفت کا منہ کھول دیا۔ پھر اس پر بس نہ کی۔ وہاں کے عمائد و اراکین کو اپنے مکان پر بلایا اور دعوت دی اور اپنی تعلیم و دعویٰ کا نہایت ہی مدلل پیش کیا اور آخری پیغام صلح اسی لاہور میں دے کر اپنے فرائض منصبی کو پورا کر دیا۔ جزاہ اللہ عنا احسن الجزاء۔

۷۔ مسیحی لوگوں کی مذہبی لڑائی میں تو آپ کا عہدہ ہی آپ کو شامل کر چکا تھا۔ اس لئے اول تو دعاؤں سے کام لینا ان کا اصل فرض تھا کیونکہ یہی ایک ہتھیار خصوصیت سے ان کو دیا گیا تھا۔ کوئی غور کرے کہ اس چونتیس پینتیس برس میں اس قوم کے اندر کیسا خطرناک کیڑا لگا ہے کہ تثلیث یا ثلاث اور کفارہ اور الوہیت مسیح کا پہاڑ گرا کہ گرا۔ اس قدر اعلان و اشتہار شائع کئے کہ اس گاؤں میں ایسے عظیم الشان کام پر تعجب آتا ہے۔ پھر اقوال موجہ و اصول صادقہ کا وہ مستحکم پہاڑ بنایا ہے کہ اس ذوالقرنینی سد کو اب یا جوج نہ نہیں توڑ سکے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ سعدی علیہ الرحمۃ تو۔

تراسد یا جوج کفر از زرتست

کہہ کر اسلامیوں کی کمزوری ظاہر کر کے اپنے ممدوح کو جزیہ دینے والا کفار کا باجگزار بناتا ہے مگر اس امام نے واقعی ایک ایسی سد بنا دی ہے کہ اس کا توڑنا اب انسانی کام نہیں رہا۔ مثلث مثلاً میں ایک اینٹ اس دیوار کی پیش کرتا ہوں۔ جنگ مقدس میں آپ فرماتے ہیں۔

آسمانی کامل کتاب کا ایک نشان یہ ہے کہ وہ اپنے دعاوی اور ان دعاوی کے دلائل خود پیش کرے تو کہ اس جی قیوم کے کلام کو دوسرے کا سہارا نہ لینا پڑے۔ اگر وہ کتاب اعلیٰ صداقتیں پیش کرے تو ان صداقتوں کے دلائل بھی آپ ہی دے اور اگر کسی بطلان کا بیان کرے تو وجہ بطلان بھی اپنے دلائل سے بتادے۔ پھر آپ نے قرآنی تعلیمات کو اس طرح تمثیلات سے دکھایا۔ نیز مرزا صاحب نے بتایا کہ کامل کتاب اللہ تعالیٰ کے قرب کی راہیں بتا کر کل کو نہ سہی مگر بعض متبعین کو تو مکالمات الہیہ کے شرف سے مشرف فرماوے۔ ایسا خدا تو نہ بتاوے جیسا یہود کی ملامت کا باعث

ان کا پچھڑو معبود خدا ٹھہرایا گیا جس پر اللہ فرماتا ہے **اِنَّهُ لَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَلَا يَهْدِيكُمْ سَبِيْلًا** (الاعراف: ۱۳۹)۔ ترجمہ: پچھڑو کو کیونکر معبود بناتے ہیں۔ تحقیق وہ تو ان سے کلام نہیں کرتا اور ان کو نیک راہ نہیں بتاتا۔

۸۔ سید احمد خانی جماعت کو رو باصلاح لانے کے لئے برکات الدعاء اور آئینہ کمالات اسلام میں ایک چٹھی لکھی اور ان کے فلسفیانہ خدا اور فلسفیانہ الہام کے بدلہ اسلامی قادر مقتدر اپنے پیاروں سے کلام کرنے والے خدا کی طرف راہ نمائی فرمائی۔ بہت متصوف گدی نشینوں اور رسمی علماء کو اقسام مواعظ و تعلیمات صحیحہ۔ دعاؤں کے طریق بتا کر سچی راہ دکھائی اور بقیۃ السیف کو اعجازی تحریر اور سیفیوں کو بیکار دکھا کر اندر ہی اندر نادم کر دیا۔

۹۔ مسئلہ حیات و ممات مسیح اسرائیلی پر جو آپ کے دعویٰ کی اصل بنیاد اور ابطال مذہب مسیحی کے لئے بے نظیر حربہ تھا۔ وہ بسط کیا ہے کہ اس پر اب بحث کا موقع ہی نہیں رہا۔

۱۰۔ اپنے مقناطیسی جذب سے جو حقیقتہً بالکل الہی فضل تھا۔ وہ طاقت دکھائی کہ مخالفوں نے بہ ہیئت اجماعیہ ناخنوں تک زور لگایا مگر آپ کی روزانہ روز افزوں ترقی کو کوئی روک نہ سکا۔

۱۱۔ زندگی میں سر الخلافہ لکھ کر اور وفات میں قوم کی روحانی ترقی کا معجزہ دکھا کر ثابت کر دیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر خلافت کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ دیکھتے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام اور اس کے جانشین کے روبرو آپ کے چار بیٹے، پوتا اور ایک لائق داماد اور ایک سید خسر موجود ہے اور وہ ہمہ تن اس آدمی کے ماتحت جو نہ مغل اور نہ ترک اور نہ اتنا رشتہ دار جتنا قرشیت کے لحاظ سے صدیق اکبر کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق حاصل تھا۔ اس موجودہ اتفاق و وحدت سے ہمارے احباب فائدہ اٹھائیں۔

۱۲۔ آدم سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کو یہ کامیابی نصیب نہ ہوئی جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ عیسائیوں کے خدا صاحب عیسائیوں کے نزدیک جتنے اپنی زندگی میں کامیاب ہوئے اور ان کے مطاع مکرم جس طرح ہولی لینڈ میں جابر ارجی ان پر ظاہر ہے۔ گو ہم مسلمان ان کی وجاہت و کامیابی کے قائل ہیں مصلحان ملک نے کبھی ایسی کامیابی کا منہ نہ دیکھا

مگر آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں نے ہی بتدریج تمام مراکز مذاہب یروشلم اور آتش کدہ آزر وغیرہ کو فتح کر لیا۔ پھر اصلی آیت کریمہ کا آخری حصہ لیتے ہیں۔ پس کیا آپ کی وفات پر (صلی اللہ علیہ وسلم) بلکہ فرض کر لیں کہ اگر آپ قتل بھی ہو جاتے تو کیا آپ کے تعلیم یافتہ لوگ شرک و کفر اور ان بد اعمالیوں کو جن میں ملک گرفتار تھا پھر اختیار کرتے۔ نہیں اور ہرگز نہیں۔ ایسا ہی اس وقت دنیا نے دنیا کو دین پر مقدم کر لیا تھا اور حیات مسیح کے مسئلہ نے مسیحی مذہب کی کمر کو مضبوط کر دیا تھا اور آپ کے نزول جسمانی کے توہمات نے مسیحیوں کے ساتھ مسلمانوں کو بولنے کے قابل نہ رکھا تھا۔ رویا، کشف، وحی کا مسئلہ ہنسی و تمسخر میں اڑایا جاتا تھا اور مسیح کا بت ایسا قائم کیا گیا کہ کروڑوں روپیہ سالانہ اس بت کی خاطر پانی کی طرح بہایا جاتا تھا اور شراب خواری، جو بازی اور قسم قسم کی سود خواری جس نے مسلمانوں کی زمینیں اور وجاہت کو کھالیا اور شریعت کے ناواقفوں نے مسئلہ ربا میں یہاں تک بے حیائی سے کام لیا کہ ربا کے معنی ہی گویا کسی کو نہیں آتے۔ ربا جیسا خطرناک گناہ جس کی نسبت حَرَّمَ الرَّبُّوا (البقرة: ۲۷۶) اور فَأَذْنُوا حَرِّبَ مِنَ اللَّهِ (البقرة: ۲۸۰) کا فتویٰ موجود ہے ہر روز مسلمانوں پر ربا کے باعث ڈگریاں ہوں اور ان کے اموال وزمینیں تباہ ہوں اور ہمارے محقق الربا کہتے جاویں کہ ربا کے معنی تو حضرت عمرؓ کو بھی معلوم نہ تھے۔ ایک دکاندار ایک ادنیٰ بیج، بے پاری تو اس کے معنی جانتا ہو مگر عمر رضی اللہ عنہ اس کے معنی سے بے خبر ہوں۔ دینی غفلت کا یہ حال ہو گیا تھا کہ ایک ریفارمر نوجوان نے مجھے فرمایا کہ کوشش کرو کہ لوگ صرف مردم شماری میں اپنے آپ کو مسلمان لکھوادیں اور بس۔ کسی عمل و اعتقاد کی ضرورت نہ رہے اور دعا کی تاثیرات، دعا کی حقیقت اور دعا جیسے عظیم الشان سبب حصول مرادات کو محض لغو قرار دیا جا رہا تھا۔ ایسے وقت ایک نور اتر ا اور اس نے علاوہ مکارم اخلاق اور معاشرت و تمدن و اطاعت اولوالامرا و تمام خوبی بھری تعلیموں کے ہم کو اعلیٰ اصل یہ سکھایا کہ ہم گندی زندگی سے توبہ کریں اور آئندہ دین کو دنیا پر مقدم رکھیں اور سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روحوں کو اس تعلیم کے ساتھ نجات دے دی اور اس تعلیم کی قریباً پینتیس برس آپاشی کر کے آخر ا إذا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا اَلْوَصِيَّةَ (البقرة: ۱۸۱) کا سبق دے کر قریب تھا کہ رخصت ہو جاتا مگر صرف مولیٰ کا احسان ہوا کہ

حقیقۃً الوحی، چشمہ معرفت اور پیغام صلح لکھ کر اور لاہور میں امراء کو بلا کر ان پر حجت قائم کر کے اس دنیا سے حسب بشارات چل دیا۔

(۱) خرام کہ وقت تو نزدیک رسید (بدر ۱۹ دسمبر ۱۹۰۸ء)۔ (۲) ڈرومت مومنو (۱۵ مئی ۱۹۰۸ء)۔
(۳) تیری خوش زندگی کا سامان ہو گیا ہے۔ (۴) سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو۔ الوصیۃ

اب وہ اس دنیا میں رہ کر کیا کرتے۔ کیا تمام مخالفوں، مردوں، دشمنوں کا قلع و قمع کر کے اپنے جانشینوں کو مساعی جمیلہ اور کوشش واجتہاد سے محروم کر کے جاتے اور جو ترقیات ابتلاؤں محنتوں سے ہوتی ہیں اور جو جو نیک بدلے اور صلوات و رحمتیں و برکات صبر پر ملتی ہیں ان سے ہم لوگوں کو محروم کر جاتے۔ عزیزان! یہ لوگ دنیا کے لئے نور، رحمت اور برکت ہوتے ہیں۔ جب دنیا روحانی دکھوں میں مبتلا ہو کر تباہ ہونے کو ہوتی ہے۔ جیسا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت آیدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون (الروم: ۴۲) سے ظاہر ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ حضرت حق سبحانہ، کرم، ستاری، غنائے ذاتی اور بے پروائی کام کرتی ہے اور بدکار کو اس کی بدکاری پر عفو و درگزر سے کام لیتا ہے۔ اور پھر ایک اور وقت آتا ہے کہ چور پکڑا جاتا ہے ڈاکو کو سزا ملتی ہے اور ظالم اپنے ظلم کا پھل کھاتا ہے۔ سزا کا زمانہ آنے سے کچھ طبائع میں نئے زمانہ کا شوق پیدا ہو جاتا اور اپنے موجودہ حالات سے گونہ سیر ہی نہیں ہو جاتے بلکہ تنگ آ جاتے ہیں۔ ادھر حق کی تڑپ بعض نفوس میں پیدا ہو جاتی ہے دنیا کی بے ثباتی، کثرت اموات اور دنیا کے مشکلات کی حقیقت قحطوں اور جنگوں سے سامنے آ جاتی ہے۔ اس سنت اللہ پر غور کرو اور پھر غور کرو۔ آپ کے زمانہ کو دیکھو، قحط کے علاوہ جنگ ٹرنسوال و برطانیہ اور روس و جاپان نے کیسے جوانوں کے اقارب و احباب میں دنیا کی بے ثباتی کے نقشہ کو پیش کیا اور قحط نے کنبہ والوں کو کن مشکلات کا نظارہ دکھایا۔ پھر طاعون نے بقیۃ السیف اور بقیۃ القحط لوگوں کو کیا وعظ کیا۔ بائبل کا مجموعہ صد ہا تراجم کے ذریعہ خدا کے نام سے آگاہ کر کے لوگوں کو مجرم کر چکا اور پھر قرآن کریم اپنے تراجم کے ساتھ اور اس ملک میں برہمن پھر ان کے بعد آریہ نے بھی اوم نام پیش کر کے ہندوستان کو بہت وعظ کیا یہ تو عام کارروائی اور حجت ملزمہ تھی مگر پنجاب میں خصوصیت سے ایک اس انسان حضرت میرزا نے پیدا ہو کر

تمام دنیا میں ایک انقلاب ڈال دیا اور اس طرح وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (الانعام: ۴۳) کی تصدیق کر دی۔ غرض یہ لوگ قسم قسم کی بد اعمالیوں اور روحانی بیماریوں میں مخلوق کو گرفتار دیکھ کر ان کے لئے کبھی تڑپتے اور گاہے خفا ہو کر بد اعتقادوں شوخوں پر بد دعائیں کرتے ہیں کبھی مدلل کلام سے ایک حصہ ملک اور سعادت مند انسانوں کو آگاہ فرماتے اور کبھی اس جمالی رنگ سے جلالی رنگ میں جھڑکیاں دیتے ہیں یہاں تک کہ اس مزرعة الآخرت میں جنتی طوبی کا بیج بودیتے ہیں اور اس پاک درخت کو بو کر اپنی پاک توجہات، دعاؤں، عقد ہمت اپنے اقوال و احوال اور اعمال و افعال سے اس کی آپاشی کر کے اس کی جڑھیں مضبوط پا کر ملاء اعلیٰ سے جاملتے ہیں۔ كَزَّرِعِ آخْرَجَ شَطْطُهُ فَأَزْرَهُ فَاسْتَعْلَظَ۔ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوْقِهِمْ يُعْجِبُ الرِّزَّاعِ (الفتح: ۳۰) اور سورہ (النصر: ۲) پر تدر کر۔ یہ آیت اور سورہ کریمہ دو بڑی گواہ میرے اس کلام پر ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متمم مکارم اخلاق اور انسانی شخصی اصلاح، معاشرت و خانہ داری، اپنے و بیگانے سے تعلقات کیسے چاہیے عبادات و معاملات، سیاست و تمدن اور اطاعت اولی الامر وغیرہ کی اصطلاحات کے لئے دنیا میں رونق افروز ہوئے مگر اصل اصول آپ کی تعلیمات کا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبده و رسوله تھا۔ جب یہ مضمون مکہ و مدینہ اور ان کے نواحی میں قائم ہو گیا تو داعی اجل کو بلید کہ دی۔ ایک لاکھ چالیس ہزار کے مجمع حجۃ الوداع میں اَلَا هَلْ بَلَغْتُ (صحیح بخاری، کتاب العلم، باب لیبغ العلم الشاہد الغائب) پکار کر اسی روز بعد اس دنیا سے کوچ کر دیا مگر جو بیج بویا تھا اس کا وہ درخت بنا جس نے پہلے تمام عرب پر اپنا سایہ کر دیا اور یہ واقعہ دنیوی تاریخ میں سپر نیچر کا رنگ رکھتا ہے کیونکہ تاریخ کے صفحہ پر ایسا عملی رنگ کسی مصلح کے زمانہ کا نظر نہیں آتا۔ خیر بہر حال اب دشمن جلسے کریں اور خوشیاں منائیں۔ پہلی زبردست قدرت الہیہ اور نصرت الہیہ کو تو دیکھ چکے ہیں اور دوسری قدرت کا تماشہ دیکھیں۔ اب یہ درخت محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے جیسے محفوظ رہا ہے ویسا ہی اب پھولے گا اور پھلے گا اگر ہم میں ان کو کارکن لوگ تھوڑے نظر آتے ہیں تو امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے مذاہب کے رو سے صحابہ کرامؓ میں فقہا کتنے تھے ان کی تعداد دکھائیں اور خالد بن ولید جیسے سپاہی کتنے تھے ان کی تعداد پیش کریں اور

قدرت کا نمونہ دیکھیں۔

برادرانِ وفات مسیح کا مسئلہ بھی منجملہ عجائباتِ الہیہ و اسرارِ خداوندی کے ہے کیونکہ ہمارے امام، علی نبینا محمد و علیہ الصلوٰۃ والسلام ہمیشہ اپنے ایامِ زندگی میں مسئلہ وفات مسیح علیہ السلام پر اپنی تعلیمات میں زور دیتے ہی رہے اور اپنی پر زور تقریر و تحریر و عقدِ ہمت سے اس مسئلہ کو اجلی بدیہیات سے کر کے دکھایا اور ہزار ہا قلموں اور تقریروں کے سامنے یہ جری اللہ آخِ فرخ مند ہوا۔

جَزَاہُ اللّٰهُ اَحْسَنَ الْجَزَاِءِ - آمین۔ اور آپ کی وفات کے بعد معاً آپ کے احباب پر اسی مسئلہ وفات مسیح کے بارہ میں ہی دشمن نے حملہ کر دیا۔ الہی تیری پاک ذات بڑے بڑے عجائبات کا سرچشمہ ہے۔ ایک عقلمند، عاقبت اندیش اور خدا ترس دنیا کی بے ثبات ایامِ زندگی کو دیکھنے والا کیسے کیسے سبق سیکھ سکتا ہے اگر توفیق بھی اس کی دستگیر ہو۔ ہمارے مخالف جلد بازو! کچھ تو صبر سے بھی تم کام لیتے۔ تم نے پہلی قدرت کا نمونہ دیکھا تھا۔ دوسری کے لئے صبر کرتے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ہی صبر کے اجر انشاء اللہ تعالیٰ رکھے ہیں۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ کیا تمہیں خبر نہیں کہ ہمارے امام نے انتقال کیا اور ظاہر ہے کہ رئیسِ جماعت اور ان کا امام جب انتقال کرتا ہے تو اس کی جماعت کو نفس اس واقعہ سے کیا ابتلا آتا ہے اور دشمن بھی مانتا ہے کہ یہ واقعہ بے ریب ہمارے لئے رنجِ دہ واقعہ ضرور ہے۔ مگر ہم نے اس پر صبر سے کام لیا۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ۔

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا فِیْ مُصِیْبَتِنَا وَاخْلِفْ لَنَا خَیْرًا مِّنْهَا وَعِضْنَا خَیْرًا مِّنْهَا۔ مگر تم نے ہماری تعزیت پر سوانگ بھرے۔ تمہارے پروفیسر اور صوفی نے سوانگ بھرنے والوں کو اعزازی خطاب خادمِ دین کا دیا۔ تمام دنیا میں برے یا بھلے مرے ہیں۔ اہل اسلام کی تعلیمات میں کیا تم نے یہ تعلیم کہیں پڑھی ہے کہ یہ طریق تعزیت کب سے معمول اہل اسلام ہوا؟ اور کس نے اس کی ابتدا سے من سن سنۃ سبیتۃ کا تمغہ لیا؟ عزیزان۔ اللہ تعالیٰ کے تمام کام بے ریب حق و حکمت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے ہر ایک کام میں اس کی ربوبیت و رحمانیت و رحیمیت اور مالکیت جوش زن رہتی ہے۔

ہر بلا کیس قوم را حق دادہ است

زیر آں گنج کرم بنہادہ است

ہاں تعلیم و عملدرآمد اور تبعین پر جو اثر اس تعلیم و عمل و درآمد کا ہوتا ہے وہی عاقبت اندیش انسان کے لئے آخری کامیابی کا معیار ہوا کرتا ہے۔ بہر حال پہلے مسیح علیہ السلام کی وفات کے مسئلہ کی طرح یہ مسئلہ وفات الہامات صحیحہ اور رسالہ الوصیۃ سے تکمیل کو پہنچ چکا تھا۔ بدر ۲۹ دسمبر ۱۹۰۷ء۔ ”بخرام کہ وقت تو نزدیک رسید۔“ ستائیس کو ایک واقعہ (ہمارے متعلق) اللہ خیر و ابقی۔“ خوشیاں منائیں گے۔“ بدر ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء۔ (۲ مئی ۱۹۰۸ء کا الہام ہے)۔ ”الرحیل ثم الرحیل والموت قریب۔“ ۱۵ مئی ۱۹۰۸ء۔ ”ڈرومت۔ مومنو!“ ۱۰ نومبر ۱۹۰۷ء۔ ”موت قریب ہے، ان اللہ یحمل کل حمل۔“

قادیاں کے آریہ اور ہم

وہ دن گئے کہ راتیں کٹتی تھیں کر کے باتیں اب موت کی ہیں گھاتیں غم کی کتھا یہی ہے جلد آپیارے ساقی اب کچھ نہیں ہے باقی دے شربت تلاقی حرص و ہوا یہی ہے (درئین صفحہ ۸۱)

حقیقۃ الوحی صفحہ اخیر

چہرہ دکھلا کر مجھے کر دیکھنے غم سے رہا کب تک لمبے چلے جائیں گے ترسانے کے دن بدر نمبر ۱۸ جلد ۲۔ ”دشمن کا بھی ایک وار نکلا۔ وَتِلْكَ الْآيَاتُ نَدَاؤُهَا يَنْبَأُ النَّاسِ“۔ پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”ہماری عادت ہے کہ کبھی ہم دشمن دین کو بھی خوش کر دیا کرتے ہیں۔“ ۲۶ اپریل ۱۹۰۸ء۔

”ماتم کدہ۔ منسوخ شدہ زندگی“۔ ۲۶ اپریل ۱۹۰۸ء مباحش ایمن از بازی روزگار۔“

اور امام نے الوصیۃ کو لکھ کر اپنے ایسے بہت سے الہامات کی عملاً تصدیق فرمادی۔ اب الوصیۃ کو دیکھ کر کب قابل وقعت ہے وہ جو اپنے منہ سے کہہ چکا ہے کہ وہ بیس برس متواتر اس کا متبع رہا جس کو وہ خود خاک بدنش کہتا ہے۔ جو کہتا ہے اور جس کی اتباع میں وہ بیس ہزار روپیہ برباد کر چکا ہے

(گو اس کا یہ خرچ میرے جیسے انسان کے لئے تامل کا مقام ہے کیونکہ میں بھی تجربہ کار ہوں) اور جس نے بار بار کہا ہے کہ یاتینی صادق و کاذب۔ اور جس نے دیکھ لیا کہ صدق کی عمارت قائم ہے۔ اس لئے وہ راستباز ہلاک نہیں ہوا اور جس کے نزدیک کسی راستباز کا ماننا ضروری ہی نہیں۔ کیونکہ نجات کی راہیں بے انت ہیں اور جس کے شہر میں ایک نے حضرت خاتم النبیین رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ والہ الی یوم الدین کو مسیح الدجال کہہ کر ایک کتاب لکھی جس کا نام مسیح الدجال تھا اور اب خود اپنا نام الذکر الحکیم معروف کا نا دجال کہہ کر اپنے آپ کو پہلے کا جانشین بنایا۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِ الْاَعْدَاءِ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِ الْاَعْدَاءِ. اَللّٰهُمَّ اَكْفِنَا شَرَّهُمْ بِمَا شِئْتَ۔ ہمیں اپنے اعداء پر تعجب بھی آتا ہے کیونکہ عبد الحکیم بھی اپنی نسبت اِنَّكَ لَمِنْ الْمُرْسَلِيْنَ اور اَنَا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا اور مسیح و محمد و ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ بنے کا مدعی ہے۔ پھر پیسہ اخبار اور مولوی صاحبان کا اس کی نسبت کوئی جوش نہیں اس کا کیا بھید ہے؟

بہر حال حضرت مرزا کی وفات پر جن مشکلات کا ہمیں خیال ہو سکتا تھا کہ ہمارے سامنے ہوں گے ان کے علاوہ لاہور کے عوام کا وہ شور و غل تھا جس کا مجھے وہم و گمان بھی نہ تھا۔ قریب تھا کہ وہ لوگ ہمیں گاڑی تک بھی نہ پہنچنے دیتے کہ معاً اللہ تعالیٰ نے ابر رحمت کی طرح پولیس ہمارے لئے بھیج دی اور گورنمنٹ کا دل سے شکریہ کرتے ہوئے ہم پلیٹ فارم پر آرام سے سوار ہو گئے۔ اگر مرزا صاحب اپنے امن اور سامان اشاعت اور ہر طرح کے سکھوں کے باعث اس گورنمنٹ کے شکر گزار تھے اور قوم کو اطاعت کی تاکید کرتے گئے تو اس کی وفات نے از سر نو اس کی قوم کو امن پسند گورنمنٹ کا شکر گزار بنا دیا۔ میں خوشامد سے نہیں کہتا کسی غرض سے نہیں میرا مطاع اس دنیا سے کوچ کر گیا اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرا زمانہ بھی کچھ بہت بڑا نہیں۔ میرے دل میں یہ سطور لکھنے کا جوش تھا جو قلم سے نکلا۔ ایاکم و الظن فان الظن اکذب الحدیث (صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ باب تحريم الظن) ہماری قوم اس آرام کی قدر دان ہو۔ آمین یارب العالمین۔

اب میں ان حملوں کا ذکر کرتا ہوں جو ہم پر ہو چکے ہیں اور تمام حملوں میں زبردست حملہ جس کو دشمن یقین کرتا ہے کہ اس سے ہم کو پاش پاش کر دے گا اور اس حملہ سے ثابت کرتا ہے کہ اس نے

مرزا کو ہلاک کر دیا اور اس کا نام و نشان نہیں چھوڑا۔ وہ یہ حملہ ہے کہ میرزا صاحب قبل از وقت انتقال کر گئے اور ان کے الہامات کی رو سے جو ان کی عمر چاہئے تھی اس میں سے چار پانچ برس تو ضرور ہی کم ہو گئے کیونکہ عمر کی نسبت اصل الہام یہ تھا کہ ”تیری عمر اسی برس کی ہوگی یا پانچ کم یا پانچ زیادہ“۔ اس الہام میں علیم وخبیر کی طرف سے یا، یا کا لفظ بعض ایسی طبائع کو جو سماویہ کتب کے محاورات سے نابلد ہیں تعجب میں ڈالتا ہے مگر اس کا سر ہم انشاء اللہ تعالیٰ بیان کر دیں گے۔

سویا در ہے کہ یہی اعتراض مخالفوں کے اعتراضات کا سرچشمہ ہے باقی تمام اعتراضات اس اعتراض کے باعث پیدا ہوتے ہیں۔ اس اعتراض کے لئے کوئی برہم اور شریف و متین مسیحی اور فلسفی تیار نہیں ہوا اور نہ ایسے گروہ سے خیال ہو سکتا ہے کہ توجہ کرے۔ اس اعتراض کے جو شیے معترض اڈیٹر اہل حدیث اور امرتسر کے نرم دل، مرنج و مرنجان مرحوم و مغفور انسان عبداللہ الغزنوی رحمۃ اللہ کی طرف تلمذ کا مدعی عبدالحق ہے۔ ہاں ایک امرتسری وکیل بھی ہیں جو ایک طرف تو ہمیں متانت و بردباری کی تعلیم دیتے ہیں اور دوسری طرف علماء کرام اور اپنے خطبائے عظام کو ہماری مخالفت میں تیز قلمیں اٹھانے کی ترغیب دیتے ہوئے ہمیں اور ہمارے امام کو جتنا برا کہنا اس کی ابتدائی کارروائی میں اور جس قدر زور لگانا اس کو مناسب تھا اس سے بہت زیادہ زور لگایا۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کو اس کا بدلہ دے۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِ الْاَعْدَاءِ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِ الْاَعْدَاءِ . اَللّٰهُمَّ اَكْفِنَا شَرَّهُمْ بِمَا شِئْتَ ۔

مرزا صاحب مغفور کی کیا عمر تھی جب آپ کا انتقال ہوا۔ اس کے لئے میں کوشش میں ہوں کہ پتا لگے مرزا سلطان احمد نے تولد کا سنہ ۳۶، ۳۷ بتایا ہے پس اس شمسی حساب سے آپ کی عمر قمری حساب میں چوتھڑ پچھتر ہوتی ہے اور کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا اور حضرت نے نصرۃ الحق میں قریباً یہی لکھا ہے مگر قبل از اطلاع تام خواہ مخواہ اگر مان لیں کہ آپ نے کچھ عمر کم پائی ہے۔ تو ایڈیٹر اہل حدیث اور عبدالحق کا علاج ایک حدیث شریف کے نسخے سے شروع کرتا ہوں۔ والشافی هو اللہ تعالیٰ، هو الشافی، ترمذی شریف کی تفسیر سورۃ الاعراف اور خلاصۃ مشکوٰۃ باب القدر میں ہے حدثنا عبد بن حمید نا ابو نعیم نا ہشام بن سعد عن زید بن اسلم عن ابی صالح عن ابی ہریرۃ

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته الى يوم القيامة وجعل بين عيني كل انسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال اي رب من هولاء قال هولاء ذريتك فراى رجلاً منهم فاعجبه وبيص ما بين عينيه يقال اي رب من هذا قال هذا رجل من اخر الامم من ذريتك يقال له داؤد قال رب كم جعلت عمره قال ستين سنة قال اي رب زده من عمرى اربعين سنة فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت فقال اولم يبق من عمرى اربعون سنة قال اولم تعطها الابنك داؤد قال فجحد آدم فجحدت ذريته ونسى آدم فنسيت ذريته وخطى آدم فخطت ذريته۔

هذا حديث حسن صحيح و قد روى من غير وجه عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم۔

تفسیر در منشور میں ابن ابی حاتم و ابن مندہ و ابوالشیخ و ابن عساکر سے اس مضمون کی روایات کثیرہ اس کی تائید میں موجود ہیں اور ان میں یہ لطیفہ قابل قدر ہے کہ جملہ نسی آدم و نسیت ذریتہ و جحد آدم فجحدت ذریتہ کو ابو ہریرہ کا قول بتایا ہے اور و اذا اخذ ربك من بنى آدم کے نیچے بیان کیا ہے۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ایک عظیم الشان انسان کی عمر سے چالیس برس کم ہو گئے اور ہمارے مرزاجی کو میں آج نہیں کہتا براہین احمدیہ کے لکھتے وقت یا آدم اسکن انت و زوجت الجنة کا الہام ہو چکا تھا اور اسے آدم کہا گیا۔ پھر اگر یہاں مانا جاوے کہ چار پانچ برس کی کمی ہوئی اگرچہ واقع میں کمی نہیں ہوئی تو آپ لوگوں نے کیوں حسن ظن سے کام نہ لیا۔ احادیث صحیحہ سے ایاکم و الظن فان الظن اکذب الحدیث ثابت ہے۔

اس میرے بیان کی تصدیق اول ان صداہا بلکہ ہزار ہا الہامات سے ہوتی ہے جن کی صداقت مرزا صاحب ^{مغفور} ۱۳۲۶ کی زندگی میں ہم دیکھ چکے۔ پھر آپ کی کامیابیوں کو آخر آپ کے

بعد الوفات کامیابی اور وحدت سے ہم دیکھ چکے ہیں۔ فجزاه الله عنا احسن الجزاء۔ عبدالحکیم اگر اس حدیث کا انکار کرے تو تعجب نہیں کیونکہ اس کے نزدیک نجات کی بے انت راہیں اتنی وسیع ہیں کہ انبیاء پر ایمان بلکہ ایمان باللہ بھی ضروری نہیں۔ مگر وہ اب تک قرآن کریم سے تمسک پکڑتا ہے۔ اس لئے اس کو ہم یہ آیت کریمہ سناتے ہیں مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِئُهَا نَاتٍ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (البقرة: ۱۰۷)۔ یہاں آیت کا لفظ ایک وسیع لفظ ہے انسانوں پر بھی بولا جاتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ایک ویران بستی پر گزرنے والے کو مخاطب کر کے فرماتا ہے وَ لَنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ (البقرة: ۲۶۰)۔ یہاں اس گزرنے والے کو آیت فرمایا ہے جو لوگ دنیا میں مامور ہو کر آتے ہیں وہ بھی آیت اللہ ہوتے ہیں اور ان کا اس دنیا سے کوچ کر جانا ان کے عنصری وجود کی نسخ ہوتی ہے۔ بلکہ ایک زمانہ ایسا بھی آتا ہے کہ بعض آیات بھول بھی جاویں۔ لاکن رحمت الہیہ نَاتٍ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ہم کو عمدہ تسلی بخش ہے۔ جس پر ہم ایمان لا کر یقین کرتے ہیں کہ آپ کی اولاد سے آپ سے خیر کان اللہ نزل من السماء یا کم سے کم آپ کی مثل آنے والا ہے اور نسخ کے ایسے وسیع معنی لینے میں السید عبدالقادر الجیلانی جیسے بزرگ ہمارے ساتھ ہیں۔ مسیح کی وفات کا مسئلہ آپ کی زندگی میں مہتمم بالشان مسئلہ تھا اور یہی مسئلہ ہم لوگوں کے لئے ہماری زندگی میں بھی وفات مسیح کا مسئلہ مہتمم بالشان ہو گیا۔ یاد رکھو کبھی دعاؤں، صدقہ و خیرات و علاج و معالجہ سے قضا و قدر ٹلتی ہے اور گاہے صبر و شکر اور وَلَنَبْلُوَنَّكَ بِمَنِّكَ وَ لَنَبْلُوَنَّكَ بِمَنِّكَ وَ لَنَبْلُوَنَّكَ بِمَنِّكَ کی حکومت سے ہماری تدابیر ٹل جاتی ہیں اور اس عجیب قدرت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کو الایمان بین الخوف والرجاء کا مسئلہ سکھایا گیا ہے اور یہ خوف و رجاء ہمارے لئے دو پر عطا کئے گئے جیسا کہ سید عبدالقادر الجیلانی نے فتوح الغیب میں اس کا بسط فرمایا ہے۔

ایک صوفی اور اس کا معظم و مکرم قادری بھی خوشیاں کرتے ہیں اور وہ یقین کرتے ہیں کہ عمر والے الہام میں وہ جیت گئے ان کو میں حضرت السید عبدالقادر الجیلانی کا ایک قول سناتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہاں تک وہ قادری اور صوفی مشرب ہیں اگر یہ دوائی ان کے لئے مفید نہ ہوئی تو سلاسل اربعہ کے اقوال بطور حجت ان کے پیش کروں گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ و ماتو فیقی الا باللہ اور اس آپ کے

بیان سے میری تحریر بالا کو صفائی سے تائید ملتی ہے۔ جس کا میں نے نسخ کے معنے میں ذکر کیا ہے۔ حضرت السید الجلیلی مقالہ ۵۶ میں عبودیت کا ذکر فرماتے ہوئے اور اس کے انعامات کی تفصیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

فِيخْتَارُ الْعَبْدُ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَيُرِيدُ بَارَادَتَهُ عَزَّوَجَلَّ وَيَدْبُرُ بَدَنَهُ بِرِيشَاءِ بَمَشِيئَتِهِ وَيَرْضَى بِرِضَاهِ وَيَمْتَثِلُ أَمْرَهُ دُونَ غَيْرِهِ وَلَا يَرِي لَغَيْرِهِ عَزَّوَجَلَّ وَجُودًا وَلَا فِعْلًا فِحِ يَجُوزُ أَنْ يَعِدَهُ اللَّهُ بِوَعْدٍ ثُمَّ لَا يَظْهَرُ لِلْعَبْدِ وَفَاءً أَبْذَلًا وَلَا يَبْلُغُهُ مَا قَدْ تَوَهَّمَهُ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ الْغَيْرِيَّةَ قَدْ زَالَتْ بِزَوَالِ الْهَوَىٰ وَالْإِرَادَةَ وَطَلَبَ الْحِظْوِظَ وَصَارَ فِي نَفْسِهِ فَعَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَارَادَتَهُ وَمَرَادًا لَهُ عَزَّوَجَلَّ فَلَا يُضَافُ إِلَيْهِ وَعَدُّ وَلَا خَلْفٌ لِأَنَّ هَذِهِ صِفَةٌ مِنْ لَهْ هَوَىٰ وَارَادَةَ فَيَصِيرُ الْوَعْدُ فِي حَقِّهِ مَعَ اللَّهِ كَرَجُلٍ عَزَمَ عَلَىٰ فِعْلِ شَيْءٍ فِي نَفْسِهِ وَنَوَاهُ ثُمَّ صَرَفَهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ كَالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ فَيَمَّا أَوْحَى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنَسِّهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (البقرة: ۱۰۷)

ترجمہ: کامل عبودیت کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند کر لیتا ہے اور اللہ ہی کے ارادہ و تدبیر و مشیت و رضا کے ساتھ اپنے ارادہ و تدبیر و مشیت و رضا کو وابستہ کر لیتا ہے اور اسی کا حکم مانتا ہے نہ غیر کا اور اللہ کے سوا کسی کا حقیقی وجود و فعل نہیں مانتا۔ پس ایسے وقت میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندہ سے کوئی وعدہ کرے اور ظاہر نہ کرے بندہ کے لئے اس وعدہ کی وفا کو اور پہنچاتا ہی نہیں اس بات پر جس کا اس بندہ کو خیال تھا کیونکہ اس بندے اور اس کے معبود میں غیریت اس لئے دور ہو گئی کہ بندے کی خواہش دور ہو گئی اور اس کا ارادہ اور طلب حظوظ بھی تو اس لئے اس بندے کے افعال افعال الہیہ ہو جاتے ہیں تو وہ وعدہ اور اس کے خلاف کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ ہو گیا۔ کیونکہ وعدہ اور اس کا خلاف تو غیرت سے وابستہ تھا پس اس وقت عبودیت میں جو وعدے اس بندے سے ہوئے ایسے ہو جاتے ہیں کہ گویا کسی بندہ نے آپ ہی ارادہ کیا اور پھر اس ارادہ اور اس نیت کو کسی دوسرے کام میں لگا دیا اور یہ معاملہ نسخ و منسوخ کی طرح ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب..... میں جو ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی فرمائی۔ اس میں فرمایا ہے کہ اگر ہم

منسوخ کر دیں کسی بات کو یا بھلا دیں تو لاتے ہیں بہتر اس سے یا اس کی مثل کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اس تعلیم پر قادری ہونے کے مدعی اور السید عبدالقادر جیلانی کے معتقد توجہ فرمائیں۔ اگر حضرت مرزا صاحب کا کوئی ارادہ اور خواہش تمہارے لئے ٹھوکر کا باعث ہو تو اسی مقالہ میں غور کریں حضرت جیلانی فرماتے ہیں لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مسزوع الهوى والارادة سوى المواضع التي ذكرها الله عز وجل في القرآن۔ یہاں سوی المواضع کے مقام میں مرتبہ خاتم النبیین ورسول رب العالمین صلی اللہ علیہ والہ وسلم اور مرتبہ غلام احمد کا مد نظر رکھیں تو انشاء اللہ تعالیٰ..... ان کا بھلا ہوگا۔

اب میں اس اپنی پہلی تحریر میں مسئلہ وفات مسیح کو ان اشعار پر جو ایک صوفی اور ان کے تابعین کے لئے انشاء اللہ مفید ہوں گے لکھتا ہوں۔ یہ نظم حضرت کی ہے اور ایک احمدی خلیفہ رشید الدین نے ۲۵ مئی کو لکھی اور ۲۶ کو بمقام قادیان دس بجے خوش قلم لکھوائی۔ حالانکہ واقع وفات سوادس بجے کو ہوا۔

آنانکہ گشت کوچہٗ جاناں مقام شان مثبت ست بر جریدۂ عالم دوامِ شان
ہرگز نمیرد آنکہ دلش زندہ شد بعشق میرد کسیکہ نیست مرا مش مرامِ شان
اے مردہ دل مکوش پے ہجو اہلِ دل جہل و قصور تست نفہمی کلامِ شان

ایک لڑکی کے متعلق کہ اس سے آپ کی شادی ہوگی اور ایک عورت سے زلازل کے پہلے ایک لڑکا ہوگا اور پانچویں اولاد کی بشارت پر جو اعتراض ہیں۔ ان کا لہو و باللہ قرآنی جواب یہ ہے کہ کتب سماویہ کا طرز ہے کہ مخاطب سے گاہے خود مخاطب ہی مراد ہوتا ہے اور گاہے وہ اور اس کا جانشین اور اس کی اولاد بلکہ اس کا مثیل مراد ہوتا ہے مثلاً اللہ تعالیٰ زمانہ نبوی میں فرماتا ہے

أَيُّمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (البقرة: ۴۳) اس حکم الہی میں خود مخاطب اور ان کے مابعد کے لوگ شامل ہیں جو ان مخاطبین کی مثل ہیں اور جَعَلَكُمْ قُلُوبًا (المائدة: ۲۱) میں مخاطب تو مراد ہی نہیں مگر اور ان کے پس ماندوں میں بھی بعض ہی مراد ہیں کیونکہ بنی اسرائیل اس خطاب کے وقت بادشاہ نہ تھے بلکہ اس خطاب کے بعد چالیس برس جنگل میں بھٹکتے پھرے ہلاک ہوئے اور اس نسل میں سوائے دو کے کسی کا پتا نہیں لگتا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بنی اسرائیل کو ارشاد ہوتا ہے حالانکہ وہ مرتکب نہیں۔

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَدَّبْحُونَ آبَاءَكُمْ

وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ (البقرة: ۵۰)۔ یاد کرو جب ہم نے بچایا تم کو فرعونوں سے تم کو برادکھ دیتے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے۔ اور فرماتا ہے۔
إِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ (البقرة: ۵۱)۔ اور جب فرق ڈال دیا ہم نے تمہارے لئے دریا میں اور پھر بچا لیا تم کو۔ پھر فرماتا ہے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعَجَلِ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (البقرة: ۵۲)۔ پھر بنا لیا تم نے نچھڑے کو معبود پیچھے اس کے اور تم ظالم ہو۔

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا (البقرة: ۵۹) اور جب کہا ہم نے، داخل ہو تم اس بستی میں پس کھاؤ تم اس سے۔ وَإِذْ قُلْنَا يَا مُوسَى إِنَّ نَبِيَّكَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا (البقرة: ۶۲) اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، صبر نہ کریں گے ایک طعام پر پس دعا مانگ ہمارے لئے۔

اور کثرت سے یہ طرز قرآن مجید میں ہے کہ مخاطب کوئی ہوتا ہے اور مراد گاہے وہی اور گاہے اس کا مثل ہوتا ہے۔ اسی طرح ضمیر غائب میں کبھی خود مرجع مراد ہوتا ہے اور گاہے اس کا مثل۔ نحو میں أَخَذْتُ الدَّرْهَمَ وَنِصْفَهُ کی مثال دیتے ہیں کیونکہ اس سے منشاء عرب میں ڈیڑھ درہم ہوتا ہے نہ ایک درہم اور قرآن کریم کی بہت جگہ میں سے ایک جگہ لکھتا ہوں وَمَا يَعْمُرُ مِنَ الْمُعَمَّرِ وَلَا يَنْقُصُ مِنَ عُمُرِهِ (فاطر: ۱۲) اور نہیں عمر دیا جاتا بڑا بوڑھا اور نہ کچھ کم کیا جاتا ہے بوڑھے کی مثل اور کم عمر کی عمر سے۔ اس آیت میں عُمُرِهِ کی ضمیر مُعَمَّرِ کی طرف تو جانا نہیں سکتی اس لئے مُعَمَّرِ کی مثل اور انسان مراد ہے۔

ضمیر متکلم میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے چند مثالیں سن لو۔ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قَاتَلْنَا هَهُنَا (ال عمران: ۱۵۵) ترجمہ: اگر اس حکومت میں ہمارا تعلق و دخل ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ اب یہاں ایک مسلمان غور کرے کہ قَاتَلْنَا کہنے والے کیا مقتول اور جنگ احد کے شہید مراد ہیں یا ان کے زندہ بھائی بند مراد ہیں۔

ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (القدر: ۲)۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو تعظیماً جس طرح ہو قرآن کریم کا منزل بیان فرماتا ہے۔ پھر اپنے خادم کو فرماتا ہے۔ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ (الشعراء: ۱۹۳)۔ اس قرآن کو روح الامین نے نازل کیا ہے۔ بلکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا جبرائیل کی نسبت فرماتا ہے۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (الحاقة: ۴۱) یہ قرآن رسول کریم کا قول ہے۔

اسماء ظاہر میں بھی جب وہ فاعل واقع ہوں ایسا ہی قاعدہ قرآن کریم میں پایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے۔

۱۔ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا (الزمر: ۴۳)۔ اللہ تعالیٰ روح کو قبض کرتا ہے موت کے وقت اور پھر فرماتا ہے۔

۲۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ (السجدة: ۱۲)۔ ملک الموت جو تم پر وکیل ہے وہ تمہاری روح کو قبض کرتا ہے اور پھر فرماتا ہے۔

۳۔ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ (النساء: ۹۸)۔ ان ظالموں کی روح کو ملائکہ قبض کرتے ہیں۔ ان آیات کریمہ میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ہی کو متوفی فرمایا ہے اور پھر ملک الموت کو اور پھر اور اور ملائکہ کو۔

اب تمام اہل اسلام کو جو قرآن کریم پر ایمان لائے اور لاتے ہیں۔ ان آیات کا یاد دلانا مفید سمجھ کر لکھتا ہوں کہ جب مخاطبہ میں مخاطب کی اولاد، مخاطب کے جانشین اور اس کے مماثل داخل ہو سکتے ہیں تو احمد بیگ کی لڑکی یا اس لڑکی کی لڑکی، کیا داخل نہیں ہو سکتی اور کیا آپ کے علم فرائض میں بنات البنات کو حکم بنات نہیں مل سکتا؟ اور کیا مرزا کی اولاد مرزا کی عصبہ نہیں میں نے بارہا عزیز میاں محمود کو کہا کہ اگر حضرت کی وفات ہو جاوے اور یہ لڑکی نکاح میں نہ آوے تو میری عقیدت میں تزلزل نہیں آ سکتا پھر یہی وجہ بیان کی والحمد للہ رب العالمین۔ اسی طرح مبارک احمد کے بدلہ میں اگر اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا کرے جس کا ہم کو یقین ہے کیونکہ اللہ ورسول کا ہم سے وعدہ ہے کہ اگر ہر ایک ہم سے اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ۔ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ فِيْ مُصِيبَتِيْ

وَ اٰخْلَفُ لِسِيْ خَيْرًا مِّنْهَا دَلَّ سَے پڑھے تو اسے نعم البدل عطا ہوتا ہے۔ پس ہم نے ایمان سے اس کو پڑھا اور جس دن پانچواں مبارک احمد کا بدلہ دنیا میں آیا اور علم فرائض کے موافق ولایت ابن حکم الامین موجود ہے تو آپ لوگ کیا کریں گے۔ پس یہ تمام پیشگوئیاں اگر بظاہر منسوخ ہوں تو ہمیں حرج نہیں اور اگر اپنے شرعی رنگ میں اللہ تعالیٰ سے پوری ہوئیں اور ہوں گی تو تم کیسے خطرہ میں ہو اس لئے ہم بہر حال جیت اور نفع میں رہے۔ مرزا صاحب کی اولاد میں چھ موجود ہیں وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ پس ان میں سے ایک بھی اولوالعزم ہو یا ان کی اولاد سے وہ عمانوئیل عظیم الشان ولد ظہور پذیر ہوا تو اس وقت آپ خود اور آپ کی اولاد دنیا کو کیا منہ دکھائے گی۔ اگر تم مر گئے تو تم کو کیا کہیں گے۔

مولوی ثناء اللہ نے رنگارنگ کی احتیاطوں سے تو کام لیا ہے اور اخبار وکیل نے بھی کار سپاؤنٹ میں ہماری نسبت تائیدی فقروں کے لکھنے سے دریغ نہیں کیا اور گو جرانوالہ کے شریف الطبع خالصہ نام نے جو شرافت کا نمونہ دکھایا اور اسی طرح ریاض لکھنؤ کے ایڈیٹر نے جو شرافت بھرے کالم سے کام لیا ہے۔ اس کے ہم سب احمدی شکر گزار ہیں اور ایڈیٹر مسلم کرائیکل کلکتہ کی تار کا خصوصیت سے شکریہ کرتے ہوئے۔ جزاہ اللہ احسن الجزاء کہتا ہوں۔

بعض جگہ دیسی عیسائیوں نے خوشیوں کے نعرے مارے اور جلسے بھی کہتے ہیں کیے مگر وہ غالباً معذور ہیں کہ اگر ایسا نہ کریں تو اپنی خوش اعتقادی کا اور کیا ثبوت دیں۔ ان کی کتاب مقدس نیوٹنمنٹ حلت و حرمت سے ساکت ہے۔ احکام شراعی کی پابندی سے پولیس نے روک دیا تو اپنے اخلاص و نیکی کا اب اور ثبوت کیا دیں، ورنہ وہ پہلی انجیل میں ہی دیکھ سکتے تھے کہ یسوع کا مرنا کیسا ہوا۔ بارہ وار شان تخت سے ایک نے پکڑوایا اور پتھر نے اپنے مقتدا پر لعنت کا پتھر پھینکا اور تتر بتر ہو گئے مگر آخر ان کے نزدیک وہ کامیاب ہوا تو یہاں جو نمونہ ان لوگوں نے دیکھا کیا اس سے ایک عاقبت اندیش عقلمند کچھ اندازہ نہیں لگا سکتا۔

کم عمری کا اعتراض ہمارے زیر نظر ہے۔ مگر اس ملک پنجاب میں خاص گاؤں میں جو افراتفری سکھوں کے عہد میں آئی ہے اس سے اور جو خاندانوں اور شرفاء میں تکالیف پڑی اور ان کا ذکر حضرت مہدیؑ نے اپنی تصانیف میں بھی مفصل فرمایا ہے ایسے وقتوں میں گاؤں کے لوگوں میں

تاریخ تولد کا پتا لگنا ایک مشکل کام ضرور ہے اور الہی مصلحت بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ہے۔ تا دشمن ذرا ٹھٹھا کر لے اسی لئے ہمیشہ حضرت مرزا صاحب نے تخمیناً سے اس معاملہ میں کام لیا ہے۔ انظہاروں میں بھی آخر تخمیناً ہی سے کام لینا پڑا اس واسطے کسی قدر اختلاف ہوا۔ نصرة الحق کے صفحہ ۹۷ میں ارقام فرماتے ہیں اور جو ظاہر الفاظ وحی کے وعدہ کے متعلق ہیں وہ تو چوہتر اور چھبیس کے اندر اندر عمر کی تعیین کرتے ہیں اور صفحہ ۱۹۳ میں ارقام فرمایا ہے عمر کا اصل اندازہ تو خدا کو معلوم ہے مگر جہاں تک مجھے معلوم ہے اب اس وقت تک جو ۱۳۲۳ھ میری عمر ستر کے قریب ہے۔ واللہ اعلم۔ اس کو ایک عقلمند غور سے دیکھے۔

اب میں جماعت احمدیہ کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ تحمل و بردباری و عاقبت اندیشی اور تقویٰ و طہارت سے کام لیں اور دعاؤں میں لگے رہیں ابتداءً دشمن سے مقابلہ نہ کریں کیونکہ اسلام دفاعی مقابلہ کی اجازت دیتا ہے۔ پس جب دشمن مخالفانہ بات کرے تو اس وقت جناب الہی میں تضرع سے دعا کر کے جواب دیں اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی جلد تمہارے لئے تائیدی راہیں کھولنے والا ہے۔

والسلام

نور دین

(ریویو آف ریپبلیکنز بابت ماہ جون و جولائی ۱۹۰۸ء صفحہ ۲۵ تا ۲۸۰)



اطاعت اور وحدت

﴿طلباء مدرسہ احمدیہ کو خطاب فرمودہ ستمبر ۱۹۰۸ء﴾

حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ بروح القدس نے اپنے معمولی درس قرآن مجید کے علاوہ ارادہ فرمایا ہے کہ وقتاً فوقتاً طلباء مدرسہ کو خصوصیت سے ہفتہ میں ایک یا دو مرتبہ بعد مغرب خطاب کریں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تحریک میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوئی ہے۔ ورنہ ہر روز آپ وعظ فرماتے ہی ہیں۔ طلباء مدرسہ کو یہ خصوصیت اور امتیاز قابل ناز ہے کہ ان کے امام نے ان کے لئے اپنے گرامی اوقات میں سے کچھ حصہ مخصوص کیا۔ جو حضرت جیۃ اللہ مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زندگی میں انہیں حاصل نہ تھا۔ اس سے ان والدین کو کیسی خوشی ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو مدرسہ تعلیم الاسلام میں بھیجا ہے مدرسہ کی یہ خصوصیت باعث فخر ہے۔

ان دنوں جبکہ طلباء سے بعض پولیٹیکل لیڈر نہایت خطرناک کام لے رہے ہیں اور ان کی آتشیں تقریروں نے ناعاقبت اندیش نوجوانوں کے دلوں کو پھونک ڈالا ہے اور وہ اخلاق اور حقوق العباد کی کچھ بھی پرواہ نہ کر کے سوراخیہ کی خواہش کی گونج اپنے دماغ میں سنتے ہیں اور لبرٹی لبرٹی کے نعرے مارتے ہیں۔ یہ بہت ہی ضروری پہلو ہے جو ہمارے امام کے خلیفہ (ایدہ اللہ بنصرہ) نے اختیار کیا ہے۔ اس مقام پر یہ ظاہر کرنا ضروری ہے کہ جس طرح پر ہمارے سید و مولا امام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے گورنمنٹ کی وفاداری کی تعلیم اپنے اصول میں رکھی ہوئی تھی۔ اسی طرح پر ہمارے خلیفۃ المسیح نے اس کو ضروریات دین میں سے یقین کیا ہے چنانچہ اسی اشاعت میں جو اعلان شائع کیا گیا ہے وہ اس امر کو بخوبی ظاہر کرتا ہے۔ غرض حضرت خلیفۃ المسیح نے طلباء اور مدرسہ کو خصوصیت سے ہفتہ میں دو مرتبہ تلقین کے لئے وقت دینا پسند کیا ہے۔ گزشتہ ہفتہ میں آپ نے دو مرتبہ جو تقریر کی اس کا خلاصہ میرے اپنے الفاظ میں درج ذیل ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ نہایت توجہ سے پڑھا جاوے گا۔ (ایڈیٹر)

پہلی تقریر

ابتداً آپ نے اپنے تعلقات کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے مجھے مخلوق سے بے نیاز کر دیا ہے۔ میری حاجتوں اور ضرورتوں کا وہ خود کفیل ہے اور ذمہ وار ہے اور ایسے طریق پر میری مدد کرتا ہے کہ دوسرے سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اس سے تم لوگ سمجھ سکتے ہو کہ میرا تمہیں نصیحت کرنا محض خدا کی رضا کے لئے ہے اور نیز اسی ذمہ داری کی وجہ سے جو مجھ پر تم لوگوں نے آپ ہی رکھ دی ہے۔ بہر حال میں یہ ظاہر کرتا ہوں کہ میں محض خدا تعالیٰ کی رضا کے لئے اور اس کی مخلوق پر شفقت کی غرض سے تمہاری بھلائی کے لئے کہتا ہوں جو کچھ کہتا ہوں۔

آج کل تم دیکھتے ہو کہ بعض ناعاقبت اندیش لوگوں نے طالب علموں سے کس کس قسم کے خطرناک کام لئے ہیں۔ وہ طالب علم یا ان کے وہ لیڈر اور سرپرست اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے اس کی مخلوق پر شفقت کی تعلیم ان کو دی گئی ہوتی تو اس قسم کی کمینہ اور پاجبی پن کی حرکات ان سے سرزد نہ ہوتیں جن کو وہ اپنے اور اہل ملک کے لئے مفید اور بہتر یقین کرتے ہیں۔ یہ امور ملک کی بہتری کی بجائے اس کے لئے سخت مضر اور نقصان رساں ہیں۔ ایسی حرکات محض اس لئے ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں پر عمل نہیں۔ میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ اس قسم کی شرارتوں سے بالکل الگ اور بیزار رہنا چاہے۔ اسلام فرمانبرداری کا نام ہے اور حاکم وقت کی اطاعت ضروری ہے۔ اس کے لئے ہمارا امام ہمیشہ یہی تعلیم دیتا رہا ہے۔

اس کے بعد تمہیں یاد رکھنا چاہئے کہ تمہارا فرض ہے کہ تم سچے وفادار اور سچے مسلمان بنو۔ قرآن مجید نے دو بچوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک حضرت اسماعیلؑ کا، دوسرے حضرت یوسفؑ کا۔ حضرت اسماعیلؑ ایک نوجوان تھے۔ ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رویا میں دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کرتے ہیں۔ اس خواب کا اظہار انہوں نے اسماعیلؑ سے کیا۔ انہوں نے ان کو کیا کہا۔ اے میرے باپ! جو کچھ آپ کو حکم ملا ہے جلد کرو۔ آپ مجھے انشاء اللہ صابر پائیں گے۔ خدا تعالیٰ کی رضا اور باپ کی اطاعت میں سر رکھ دیا اور یہی وفاداری اور فرمانبرداری ہے۔

حضرت یوسفؑ نے اپنی عقّت اور طہارت کا جو نمونہ دکھایا وہ ایک ظاہر امر ہے۔ پس ان دو بچوں کے ذکر سے تمہیں خدا تعالیٰ کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت اور اولوالامر کی اطاعت اور وفاداری کا سبق لینا چاہئے اور اس کے ساتھ ہی عقّت اور طہارت کی زندگی بسر کرنے کے لئے خدا تعالیٰ کی توفیق کو مانگنا چاہئے۔

دعا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اس کو کبھی ہاتھ سے نہ دو۔ یہ آپ کی پہلی تقریر کا خلاصہ ہے۔

دوسری تقریر

دوسری تقریر میں آپ نے اس امر پر زور دیا کہ وحدت پیدا کرنی چاہئے۔ اولاً آپ نے نظارہ عالم سے دکھایا کہ دنیا میں اختلاف موجود ہے لیکن باوجود اختلاف کے پھر بھی ایک اتحاد ہے اگر اس اتحاد سے کام نہ لیا جاوے تو یہ سارا کام بگڑ جاوے۔ اس موقع پر آپ نے مختلف مثالوں کے ذریعہ سے صداقت کو بتایا۔

پھر طلباء کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارے مدرسوں میں رسہ کا ایک کھیل ہوتا ہے۔ اس کی تعلیم قرآن مجید کی ایک آیت سے ملتی ہے۔ **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا** (ال عمران: ۱۰۴)۔ یہ رسہ جو مدرسوں میں ورزش کے لئے رکھا جاتا ہے جب تک متحد طاقت سے اسے ایک جماعت نہ کھینچے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح پر اس وقت ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کے حبل کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اسلام پر سخت حملے ہو رہے ہیں۔ فلاسفر اپنے رنگ میں، حکیم اپنے طرز پر اور طبابت والے اپنے طریق پر، عیسائی، آریہ، برہمن اور مختلف فرقوں اور مذاہب کے لوگ جدا جدا چاہتے ہیں کہ وہ اس پاک تعلیم کا نام و نشان مٹادیں۔ بیرونی حملہ آور ہی نہیں اندرونی لوگ بھی بگڑے ہوئے ہیں ان کی علمی اور عملی طاقتیں کمزور ہو چکی ہیں۔ ایسی حالت میں سب کا فرض ہے کہ ہم عملی طور پر اس رسن کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ پس وحدت پیدا کرو اور عملی طور پر۔

(الحکم ۱۸ ستمبر ۱۹۰۸ء۔ صفحہ ۶، ۷)

کلمہ شہادت کے دونوں حصوں کی اغراض

﴿ تقریر فرمودہ ۲۶ دسمبر ۱۹۰۸ء بعد نماز ظہر و عصر ﴾

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

یہ وہ کلمہ ہے جس کو ہماری
زبان میں کلمہ شہادت کہتے

ہیں۔ اس کے دو حصے ہیں ایک حصہ میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اکیلا معبود ہے کوئی اس کا شریک نہیں نہ اس کی ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں۔ دوسرے حصہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اسی کے رسول ہیں۔ اس کلمہ شہادت کے پہلے حصہ کے اظہار اور تعلیم کے لئے سلسلہ کائنات میں انبیاء و رسل آتے رہے اور ان کے بعد ان کے خلفاء و جانشین ہوتے رہے اور وہ یہی ہدایت اور تعلیم دیتے رہے۔ لا الہ الا اللہ ان سب کی ایک ہی غرض رہی اور ہمیشہ یہی غرض رہی کہ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں اور سمجھیں اور یقین کریں۔ ایسا ہی ہوتا رہا اور ہوتا آیا مگر ایک زمانہ گزرنے کے بعد ان ہادیوں کو جو یہ تعلیم لے کر آئے تھے ان کے ماننے والوں نے غلطی سے ہادیوں کو معبود بنا لیا اور اس طرح پر وہ غرض جو ان کی تعلیم اور بعثت کی تھی فوت ہو گئی اور لا الہ الا اللہ کی بجائے شرک پھیل گیا۔ اس غلطی اور مصیبت سے نجات دینے کے لئے اور توحید الہیہ کی تکمیل کے لئے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ نے اس غلطی کو جو مختلف ہادیوں کو معبود بنانے کے متعلق دنیا نے کھائی اس طرح پر ہمیشہ کے لئے دور کر دیا کیونکہ کلمہ شہادت کا دوسرا جزو اشہد ان محمد عبده ورسوله قائم کر دیا۔ پس یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص فضیلت ہے کہ آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تکمیل کر دی اور وہی اس کے مستحق تھے۔

تمام قرآن کریم کو غور سے دیکھو گے تو اصل منشاء لا الہ الا اللہ ہی کا قائم کرنا ہے اور تمام سلسلہ نبوت و رسالت اسی مقصد کے لئے قائم ہوا۔ اور اب اس سلسلہ کی بھی اس لئے ضرورت ہوئی

کہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم سے لوگ ناواقف ہو گئے تھے۔ اس کے معنی میں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو درمیان میں بناؤں گا۔ فی الحال میں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بیج کی طرح کس طرح میرے دل میں آیا اور پھر کامل استقلال اس سے کس طرح پیدا کیا۔ یہ میں آپ ہی تمہیں سناتا ہوں ممکن ہے تم میں سے کسی کو فائدہ ہو اور کوئی اپنی اولاد کی تربیت کے لئے مفید سبق حاصل کرے۔

امیر المؤمنین کی تربیت: پہلے پہل میری تربیت کیونکر ہوئی اور لا الہ الا اللہ کا اثر مجھ

پر کیسے پڑا؟ تم یہ سن کر تعجب کرو گے کہ یہ اثر مجھ پر ماں ہی کے

پیٹ میں پڑا۔ یہ نکتہ اب علم طب نے مجھ پر کھولا ہے کیونکہ یہ ثابت شدہ امر ہے کہ والدہ کے خیالات کا اثر پیٹ میں بچہ پر پڑتا ہے بلکہ ان خیالات کا ذخیرہ ایک سال پہلے سے جمع ہوتا ہے اور پھر ان کا اثر بچہ قبول کرتا ہے۔ میری ماں پڑھی ہوئی تھی اور اچھی پڑھی ہوئی تھی۔ قرآن کریم کو خوب سمجھتی اور سمجھاتی تھی۔ صبح سے شام تک اسی کا شغل رکھتی۔ پس ان کے اس پاک شغل نے حمل کے اندر ہی مجھے قرآن مجید کا اثر پہنچایا اور اس طرح پر لا الہ الا اللہ کی تخم ریزی میرے اندر ہوئی۔ اس کہانی کے سنانے سے میری غرض کیا ہے؟ یہ کہ تم میں سے جو والدین ہیں وہ اپنے خیالات میں پاکیزگی پیدا کریں تاکہ بچے پاکیزہ خیالات کا اثر لے کر پیدا ہوں اور جو ابھی شادی شدہ نہیں وہ اور ان کے متولی اور سرپرست ان کے لئے نیک عورتیں بیانے کی کوشش کریں۔

نکاح کی عام اغراض: حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ نکاح کرتے وقت کبھی تو

اعلیٰ درجہ کی خوبصورتی کا لحاظ کرتے ہیں اور کبھی مال اور جاہ و جلال

تلاش کرتے ہیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہدایت کی ہے وہ یہ ہے۔ علیٹ بذات الدین (صحیح مسلم کتاب الرضاع باب استحباب نکاح ذات الدین) کیا معنی تم دیندار عورت کی جستجو کرو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کیسی وسیع اور صاف ہے۔ طبی تحقیقات نے آج یہ نکتہ بتایا کہ ایک سال پہلے کے خیالات کا اثر بچہ پر پڑتا ہے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرہ سو سال پہلے نکاح کی غرض و غایت بتاتے ہوئے اس اصل کو ملحوظ فرمایا۔ بہت سی خوبصورتی، مال والوں اور اعلیٰ جاہ و جلال والوں کی تلاش اگرچہ کسی حد تک مفید ہوتی ہے لیکن

ایک دیندار ماں کے ذریعہ جو پاک اثر ماں کا اولاد پر پڑتا ہے وہ کسی دوسری صورت سے ممکن نہیں۔ میں نے اپنی ماں سے بہت فائدہ اٹھایا اور میں اس کے لئے بڑی بڑی دعائیں کرتا ہوں اور دل سے چاہتا ہوں کہ ہماری اولاد کی مائیں ایسی ہی ہوں۔

میں اس امر کو بھی تحدیث بالنعمة کے طور پر ہی ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری ماں کو ایک جلال والی قوم میں سے بنایا تھا وہ اعوان قوم سے تھیں۔ یہ بھی اس کے فضل کی بات ہے لیکن جو بات مجھے خوش رکھتی ہے وہ یہ کہ میں نے گویا اس کے پیٹ میں قرآن کا سبق سنایا پہلا بیج تھا۔ لا الہ الا اللہ کا جس نے باپ کی طرف سے آکر ماں کے پیٹ میں نشوونما پایا۔

تر بیت کا دوسرا مرحلہ: اس کے بعد جب میں پیدا ہوا تو ماں کے دودھ کے ساتھ قرآن مجید کی پاک تعلیمات کے اثر کو پایا اور اس کی پیاری گود میں قرآن مجید

کو سنا۔ دودھ پینے کا زمانہ ختم ہوا اور جہاں تک مجھے ہوش ہے اور دودھ چھڑانے کا مجھے ہوش ہے۔ مجھے خوب یاد ہے اس کے بعد میری تربیت کا ایک اور سلسلہ شروع ہوا میری ایک بھانج صاحبہ تھیں وہ بگہ والے مشہور خاندان میں سے تھیں میں ان کی تربیت کے نیچے آیا ان کی گود میں جو آواز مجھے خوش کرتی اور سنائی دیتی تھی وہ انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو کی آواز تھی۔ گویا باہر آکر لا الہ الا اللہ کا نشوونما اس طرح پر ہوا۔

تر بیت کا تیسرا مرحلہ: پھر جب میں پڑھنے لگا اور میرے بھائی سلطان احمد صاحب مرحوم نے میری تعلیم عربی کی طرف توجہ کی تو جناب الہی کے انعامات

میں سے ایک عجیب واقعہ پیش آیا اور وہ اس طرح پر ہے کہ اس وقت یاغستان کے مجاہدین کے لئے بنگال سے بہت سا روپیہ جاتا تھا اور وہ لوگ مخفی جیلوں سے انہیں روپیہ پہنچاتے تھے۔ کلکتہ کے ایک تاجر کتب جو روپیہ لے جایا کرتے تھے ہمارے ہاں اترے۔ انہوں نے ترجمہ قرآن کریم کی طرف یایوں کہنا چاہئے کہ اس گراں بہا جو اہرات کی کان کی طرف مجھے متوجہ کیا جس کے باعث میں اس بڑھاپے میں بھی نہایت شادمانہ زندگی بسر کرتا ہوں۔

مجھے انہوں نے کوئی چیز پڑھتے دیکھا تو میرے بھائی کو ہدایت کی کہ اس کو قرآن مجید پڑھاؤ

اور ایک نہایت خوشخط پنج سورہ جس کے ابتداء میں **إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ** (الواقعة: ۲) کی سورۃ معہ ترجمہ تھی دیا اور اس طرح پر میں قرآن مجید کے ترجمہ کی طرف متوجہ کیا گیا یہ خدا تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہوا۔ والحمد لله على ذلك۔

میں نے یہ کہانی نہیں سنائی بلکہ میرا مقصود اس سے یہ ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ والدین کا کیا فرض ہے، مائیں کیسی ہونی چاہئیں، بھائی اور بھادھیں کیسی ہوں؟ دوسرے رشتہ دار کیسے اور کن لوگوں کے ساتھ آمد و رفت کے تعلقات ہوں اگر یہ سب نیک اور خدا جُو ہوں تو جو بچہ ان کی تربیت کے نیچے رہے گا خدا تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے ضائع نہیں ہوگا۔ والد کی طرف سے جو الہی فضل مجھ پر ہوا اس کا ذکر پھر کسی وقت کروں گا۔

تربیت کا چوتھا مرحلہ: پھر میرے دوست میرے استاد تھے جو اس لا الہ الا اللہ کے

نشوونما کا موجب ہوئے ان ذریعوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ

ہمارے شہر میں دو واعظ آیا کرتے تھے ایک کو ہاٹ کے علاقہ سے محمد جی نام کے تھے اور دوسرے پاس ہی کے علاقہ سے آیا کرتے تھے ان کا نام غلام محی الدین تھا ان کے وعظ سننے کا مجھے بہت شوق تھا۔ ہمارے اس زمانہ کے دوستوں میں سے..... ایک حکیم فضل الدین اس وقت دم نقد موجود ہیں مجھے اور ان کو وہ وقت خوب یاد ہے جب ہم ان کے وعظوں کو نہایت شوق اور غور سے سنا کرتے تھے اور ان سے تمتع حاصل کرتے اور اس طرح پر لا الہ الا اللہ میرے دل پر خوب بیٹھ گیا اور پھر اس طرح پر ترقی کا سلسلہ شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب کی محبت میرے دل میں ڈال دی اور وہ مشارق الانوار تھی، اس کتاب کا اردو میں ترجمہ ہو چکا تھا اور مجھ کو اردو زبان سے بہت رغبت تھی اور میں اس میں بہت دلچسپی لیتا تھا اس لئے اس کتاب کو میں نے بڑے شوق سے پڑھا اور نہ صرف پڑھا بلکہ اس زمانہ میں مجھے اس کتاب کے مضامین کی اشاعت کا ایسا جوش پیدا ہوا کہ میں نے منشی مہدی خان صاحب مرحوم (جو ہمارے دوست محمد نواب خان صاحب کے ماموں تھے) یہ ساری کتاب مختلف جیلوں سے سنادی۔ شرک سے مجھے پہلے ہی بڑی نفرت تھی مگر اس کتاب نے بڑا نفع دیا۔

شُرک کیونکر پیدا ہوتا ہے: جب دنیا میں مختلف قسم کے حوادث اور واقعات پیش آتے ہیں

تو کمزور کم عقل لوگ شرک میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ندیوں میں غرق ہوئے اور ان کے طوفانوں سے تباہ اور ہلاک ہوئے تو جھٹ ان کی پرستش شروع کر دی۔ پہاڑ گرے اور کہیں آتش خیز پہاڑوں کے شعلے دیکھے۔ جھٹ ان کی پرستش کرنے لگے۔ چونکہ ہندوستان میں دھوپ پڑتی ہے اور اس سے آرام کے لئے سایہ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس دھوپ سے بچانے اور آرام دینے میں بڑا درخت بہت ہی مفید ہے اس لئے اس کی پرستش اور پرورش کی طرف خاص توجہ انہوں نے کی۔ غرض ہندوستان کی مشرک قوموں کے معبودوں کی حقیقت خوف اور امید کے اندر پوشیدہ ہے اور شرک پیدا بھی اسی طرح ہوتا ہے اور انہوں نے جس چیز کو مفید سمجھایا اسے اپنے لئے مضر پایا جھٹ اس کو دیوتا اور معبود بنا لیا۔

تر بیت کا پانچواں مرحلہ: میں نے ان امور پر غور کیا اور اپنے آپ کو محتاج پایا اور دیکھا کہ مضر اشیاء کی تکلیف سے بچنے کی ضرورت ہے اور مفید سے فائدہ اٹھانے کی حاجت مگر یہ چیزیں بجائے خود کچھ ہستی نہیں رکھتی ہیں۔

حقیقی سکھ اور دکھ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے نیچے ہے اور وہی تمام طاقتوں کا مالک ہے اس سے میرے دل میں ایک اور جوش پیدا ہوا اور اس لا الہ الا اللہ کے وظیفہ نے ایک اور سیڑھی عطا کی جو دعا کی سیڑھی ہے اور میں بڑے یقین کے ساتھ اس نکتہ پر پہنچ گیا کہ ایک ہی ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے پھر کیوں اسی کے سامنے اپنے مطالب کو پیش نہ کروں۔ بڑے زور کے ساتھ یہ تحریک میرے دل میں آئی کہ اسی سے مانگنا چاہئے جس چیز کی حاجت ہو۔ اس کے بعد ایک اور کتاب نے مجھے بہت مدد دی اور اگر میں اس کا نام نہ لوں گا تو یہ بڑی بھاری ناشکری ہوگی۔ اس کا نام تقویۃ الایمان کا حصہ اول ہے۔ پھر تیسری کتاب رفاہ المسلمین نے میری ایمانی کیفیت کی آپاشی کی اور لا الہ الا اللہ پر میرا ایمان بہت ہی قوی ہو گیا۔ یہ فضل الہی تھا۔ الحمد للہ علی ذلک۔ جب دعا کے لئے میرے دل میں جوش پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ دعا مانگتے مانگتے اس میں توجہ اور عقد ہمت پیدا ہونے لگا اور اسی حالت میں مجھے ایک مطلب پیش آیا۔ میں نے استاد سے عرض کیا کہ اس

کے حل کے لئے کوئی تدبیر بتاؤ انہوں نے کہا کہ اس کا عمل مجھے یاد نہیں یہ سن کر مجھے بہت بڑا رنج ہوا۔
دعا کا تجربہ: اور رنج کے ساتھ ہی یہ جوش بڑھا اور میرے دل میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی مشکل امر نہیں اور تمام مشکلات کی کلید تو دعا ہے آؤ دعا کے ساتھ عقد ہمت

اور استقلال سے کام لیں۔ اس تحریک کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھ کر اسے پکارنے پر آمادہ ہوا اور عقد ہمت کے ساتھ میں نے توجہ شروع کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عشاء کے بعد ہی میرا وہ مطلب استاد کے سامنے حاصل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میرے استاد کے دل میں آیا کہ اسے کوئی عمل آتا ہے۔ ورنہ یہ سخت مشکل مطلب تھا اور یہ حل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کرشمہ قدرت کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ ہی سچ ہے اور دعا اور عقد ہمت توجہ مشکلات کے لئے مشکل کشا کلید ہے۔

یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان بڑھ گیا اور دل میں ایک اور تحریک اور جوش اٹھا کہ ایسے قادر اور دعاؤں کے سننے والے خدا کو راضی کرنا

چاہیے اور پھر اسی غرض کے لئے دعاؤں میں بھی اور جوش پیدا ہوا اور سفر کا مجھے اتفاق ہوا۔ میں سفر میں بھی بڑی بڑی دعائیں کرتا اور جب کسی گاؤں کو دیکھتا تو اسے دیکھتے ہی یہ دعا پڑھتا۔

کسی گاؤں یا شہر میں داخل ہونے کی دعا: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَمَا

اَظْلَمْنَ وَ رَبَّ الْاَرْضِیْنَ السَّبْعِ وَمَا اَقْلَمْنَ وَ رَبَّ الشَّیْطٰنِیْنَ وَمَا اَضَلَّلْنَ وَ رَبَّ الرِّیَاحِ
 وَمَا ذَرِیْنَ اِنَّا نَسْأَلُكَ خَیْرَ هٰذِهِ الْقَرْیَةِ وَ خَیْرَ اَهْلِهَا وَ خَیْرَ مَا فِیْهَا وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ
 شَرِّ هٰذِهِ الْقَرْیَةِ وَ شَرِّ اَهْلِهَا وَ شَرِّ مَا فِیْهَا (المستدرک کتاب الجہاد) . اللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا حَیَاہَا
 وَ اَعِزَّنَا مِنْ وِبَاہَا اللّٰهُمَّ حَبِیْبِنَا اِلٰی اَهْلِهَا وَ حَبِیْبَ صَالِحِیْ اَصْلٰہَا الْیَنَا۔

(السلسلۃ الضعیفۃ حدیث نمبر ۶۰۹۴)

ترجمہ:- اے سات آسمانوں کے رب اور ہر ایک چیز کے جس پر وہ سایہ کرتے ہیں اور ساتوں زمینوں کے رب اور اس چیز کے جس کو وہ اٹھاتی ہیں اور رب شیطان کے اور ان کے جن کو وہ بہکاتے ہیں اور رب ہواؤں کے اور اس چیز کے جس کو وہ بکھیرتے ہیں بے شک ہم مانگتے ہیں تجھ سے بھلائی

اس بستی کی اور اس کے رہنے والوں کی اور ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس کی اور اس کے رہنے والوں کی بدی سے اور اس چیز کی بدی سے جو اس میں ہے۔ اے اللہ عطاء کر ہمیں یہاں کی آرام والی زندگی اور بچالے ہمیں یہاں کی وباء سے۔ اے اللہ محبوب بنا دے ہمیں ان لوگوں میں اور ہمیں محبت دے اس بستی کے نیک لوگوں کی۔

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے آسمانوں اور زمینوں کے رب تو شیاطین اور ہواؤں کا بھی رب ہے میں اس شہر میں جانا چاہتا ہوں۔ اس کی چیزوں سے متمتع کر اور اس کے شر سے محفوظ رکھ یہاں کی حیات طیبہ سے متمتع کر اور وباؤں سے بچا۔ میں اس شہر والوں کی نظر میں محبوب ہو جاؤں مگر میں کسی کو اپنا محبوب نہ بناؤں مگر صرف اسی کو جس سے تو راضی ہو۔

یہ ایک احسان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس نے یہ دعا سکھائی۔ میں اس دعا کو ان کی صداقت کا بہت بڑا ثبوت یقین کرتا ہوں یہ ایک وجدانی ثبوت ہے۔ میں نے اس دعا سے عظیم الشان فائدہ اٹھایا۔ یمن میں، حجاز میں، ہندوستان میں، میں دیکھتا ہوں کہ میرے بچپن کے دوست اب تک مجھے ویسے ہی پیارے ہیں اور لوگ علی العموم مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ مجھے ان دعاؤں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یاد آئے۔ جنہوں نے دعا کی تھی۔ رَبِّ اِنِّی لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ خَیْرِ فَقِیْرٌ (الفصص: ۲۵) یعنی اے میرے رب جو کچھ تو مجھ پر نازل کرے میں اس کی احتیاج رکھتا ہوں۔ جب میں یہاں تک پہنچا تو اور بھی ترقی کی یہ تو ایک لمبی کہانی ہے اس لئے میں اس کا بہت حصہ قطع کرتا ہوں۔

تر بیت کا ساتواں مرحلہ: اسی سلسلہ حالات میں میرے دل میں ایک منصوبہ پیدا ہوا اور وہ یہ کہ جب بعض دوستوں سے مجھے سخت محبت تھی میں انہیں

راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو بعض بجائے راضی ہونے کے الٹے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میرے ایسے ہی ایک دوست آئے جن سے مجھے بڑی محبت تھی۔ وہ چائے پینے کے عادی تھے۔ میں نے بڑی محبت سے ان کے لئے چائے تیار کرائی اور ان سے نہایت خوشی کے ساتھ ذکر کیا کہ میں نے آپ کے لئے چائے پکوائی ہے یہ سن کر وہ بہت ناراض ہوئے اور یہ کہہ کر چل

دیئے کہ چائے تو ہم چوہڑے کو بھی پلا دیتے ہیں یہ مجھ پر بڑا احسان جتا ہے۔ اس سے پیشتر کہ چائے تیار ہوتی وہ چل دیئے۔ اس سے مجھے عظیم الشان فائدہ ہوا اور مجھ پر عجیب نکتہ کھلا کہ جب ہم انسان ہو کے دوسرے انسان کی رضامندی کی راہ معلوم نہیں کر سکتے کیونکہ اس دوست کے لئے کچھ خرچ بھی ہوا اور وہ ناراض بھی ہوئے تو پھر انسان کے پیدا کرنے والے کی رضامندی کی راہ اپنے خیال اور تجویز سے کیوں کر معلوم کر سکتے ہیں؟ وہ جو علیٰ کل شئیء محیط ہے اس کی رضامندی کی راہیں بدوں اس کے علم دینے کے کیوں کر معلوم ہوں جبکہ ہم محاط ہیں۔ میرا وہ دوست اب تک جیتا ہے مگر سیدھا نہیں ہوا۔ تاہم میں اس کی عزت کرتا ہوں کہ اس نے مجھے عجیب سبق دیا اور جب کبھی وہ مجھے ملتا ہے تو میں اسے کہا کرتا ہوں کہ استاد تو راضی ہے۔ اس لئے کہ مجھے اس کے ذریعہ سے ایک علم پیدا ہوا۔ مجھے اس عجیب نکتہ نے نہایت مشکلات میں ڈال دیا کیوں کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا تھا اور میں نے دیکھا کہ میں ایک اپنے جیسے انسان کو بھی راضی نہ کر سکا۔ تب میں نے دعا میں اور ترقی کی کہ اے مولیٰ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں اور مجھے اس کا علم نہیں کہ کن راہوں سے تجھے راضی کر سکتا ہوں۔ اس لئے تو آپ مجھے وہ راہ بتا دے۔ پس میں رات دن اسی فکر میں رہتا۔

مگر ساتھ ہی خیال آیا کہ وہ تو رب العالمین ہے مجھے اس تہذیب کا آٹھواں مرحلہ:

کے راضی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اسی سوال کے پیدا ہونے پر اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھایا کہ دم بدم حالت تبدیل ہو رہی ہے اور آج جو تیری ضرورتیں ہیں کل وہ تجھ سے الگ ہوں گی۔ تیرے یا رو آشنا تجھ سے جدا ہوں گے اس لئے پھر طبیعت میں یہ جوش پیدا ہوا کہ اے میرے مولیٰ مجھے ایسے سامان دے کہ کبھی جدا نہ ہو۔ یہ سمجھ رکھو کہ یہ بات بڑی مضبوطی سے میرے دل میں پیدا ہوئی کہ آج جس چیز کی مجھے حاجت ہے۔ ایک برس کے بعد شاید نہ رہے۔ بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ابھی بڑے جوش سے مٹھائی مانگتے تھے اور ابھی کوئی کھیل مانگتے ہیں۔ پھر اس پر بھی بس نہیں خواہشوں اور حاجتوں کا دائرہ دم بدم وسیع ہوتا جاتا ہے۔ ابھی عید آئی ہے نئے کپڑے چاہئیں۔ غرض انسان کی حاجتیں جدید پیش آتی رہتی ہیں اور وہ تھوڑی دیر کے لئے کافی نہیں ہو سکتی

ہیں بڑی حاجتوں کو پورا کرنے والی ماں ہے اور بچہ اس کی گود کو بڑی آرام کی چیز سمجھتا ہے مگر جب یہ بچپن کی حالت جوانی سے بدل جاتی ہے تو اس وقت وہ ماں کی بغل میں نہیں سو سکتا بلکہ اس کی سکینت اور آرام کے لئے کسی اور کی حاجت ہے۔ غرض جب غور کر کے دیکھا تو انسان کو حواج کا محتاج پایا۔ پھر ضرورتوں تک ہی سلسلہ محدود نہیں رہتا بلکہ ایک اور مشکل آتی ہے اور وہ یہ کہ بعض اوقات بڑی خواہشوں اور آرزوں کے بعد بیٹا پیدا ہوتا ہے مگر مر جاتا ہے اور پھر انسان نہایت حیران اور رنجیدہ خاطر ہوتا ہے۔ میرے نو بچے مر گئے اور ایک بیوی بچوں کے ایسے صدمے سے قریباً نیم پاگل ہو گئی تھی اس کے تین بیٹے اور دو بیٹیاں مریں۔ ان مصائب اور مشکلات نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی محبت کے قابل ہے اور فی الحقیقت لا الہ الا اللہ کا مصداق اللہ ہی اس قابل ہے کہ اسے اپنا یار و آشنا یقین کیا جاوے اس سے پھر اس کی رضا کی خواہش میں جوش پیدا ہو۔

تر بیت کا نواں مرحلہ: تم میں سب نہ سہی اکثر جانتے ہیں کہ میں کتابوں کا بہت شائق

ہوں اور بہت پڑھتا رہتا ہوں۔ ایک دفعہ میں نے ایک کتاب میں دیکھا کہ انسان فلاں مقام و موقع پر پہنچے تو وہاں کوئی ایک دعا مانگے تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ میں نے سوچا کہ ہر آن نئی حاجتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک دعا مانگ کر کیا ہوگا؟ ممکن ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ حاجت ہی نہ رہے کیونکہ ساری حاجتیں تو آنی ہوتی ہیں اور وقتی حالات کے ماتحت ہوتی ہیں سب سے بڑی نعمت وصال محبوب ہے لیکن اگر عقل جاتی رہے یا شکل بھونڈی ہو جاوے تو پھر وہ نعمت دکھ سے بدل جاوے گی۔ پس میں نے اپنے آپ کو عجیب مشکلات میں پایا۔ دل چاہتا تھا کہ اس دعا کو جو اس مقام پر قبول ہونے والی ہے ضائع نہ کروں اور دوسری طرف یہ سوچتا تھا کہ ہر وقت نئی حالت میں ہوں اور حاجتیں ترقی کرتی ہیں۔ پھر دعا ہی کے ذریعہ اس مشکل کو حل کیا اور خدا تعالیٰ سے ہی چاہا کہ ایسی دعا تعلیم کر جو میری ساری حاجتوں پر حاوی ہو۔ پس میرے دل میں یہ جامع دعا ڈالی گئی کہ: مضطر ہو کر جو کچھ حضور سے مانگا کروں وہ قبول کر لیا کرو۔

قرآن مجید سے تعلق: اس کا نتیجہ یہ دیکھا کہ سب دعائیں اسی میں آگئیں اور جب میں نے مضطر ہو کر اپنے رب سے کچھ مانگا وہ مجھے ملا۔ ادھر میں نے

قرآن کریم میں قبولیت دعا کے اسرار میں اضطراب کو پڑھا۔ جس سے قرآن کریم کی محبت میں ترقی ہوئی۔ یہ پہلا وقت تھا کہ قرآن کریم سے اس طرح پر تعلق ہوا۔ اس وقت مجھے سمجھ آ گیا کہ قرآن کریم ہی تمام الہی رضامندیوں کی راہوں کا مجموعہ ہے۔ چنانچہ خود قرآن مجید فرماتا ہے **أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ (العنكبوت: ۵۲)** (اکیسویں سپارہ کے ابتداء میں) جس کا خلاصہ یہی ہے کہ کیا قرآن مجید کافی نہیں ہے۔ اس نے معاً اور اثر پیدا کیا اور میری ساری توجہ قرآن مجید کی طرف پھر گئی۔

لکھنؤ میں شیعوں پر اتمام حجت: میں لکھنؤ میں پڑھتا تھا۔ ایک مرتبہ بعض لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ حضرت عمرؓ نے حسبنا کتاب اللہ

(صحیح بخاری کتاب المرضی قول المريض قوموا عنی) کیوں کہا؟ میں نے انہیں کہا کہ انہوں نے ٹھیک کہا کیونکہ قرآن مجید خود یہی کہتا ہے۔ تب میں نے وہی آیت **أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ (العنكبوت: ۵۲)** پڑھی اور وہ خاموش ہو گئے۔ اس واقعہ نے مجھے اور بھی لطف دیا اور میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ مخالفین پر خواہ وہ اندرونی ہوں یا بیرونی قرآن مجید ہی کے ذریعہ کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔

قرآن کریم کو ایک اور غرض سے پڑھا: اس خیال کے ساتھ قرآن مجید سے اور بھی تعلق بڑھا۔ پہلے اس کو خدا تعالیٰ کی رضا

کی راہوں کے معلوم کرنے کے لئے پڑھا تھا۔ تو اب مخالفین پر اتمام حجت کی خاطر پڑھنے لگا اور اس طرز سے جب میں نے اس کو پڑھا اور مختلف مذاہب پر نظر کی تو قرآن مجید کے ذریعہ ہی ان سب پر کامیاب ہونے کے لئے گرجے سمجھائے گئے یا سمجھ میں آ گئے اور پھر میں نے اپنی زندگی میں ان اصولوں کو آزما یا اور بالکل صحیح پایا۔ یہ ایک لمبا سلسلہ ہے اور ذاتی باتیں ہیں کہ کس کس طرح پر میں نے قرآن مجید کے ذریعہ مخالفین کو نیچا دکھایا۔ بہر حال تم اتنا سمجھ لو کہ اس راہ سے بھی کم از کم مجھے قرآن مجید کے ساتھ محبت بڑھ گئی۔ اس محبت کے بڑھتے ہی میں نے اپنی دعاؤں کے نتیجہ پر نظر ثانی کی کہ قرآن کریم کے خلاف تو نہیں ہیں۔

امیر المؤمنین کی دعا کا ابتدا: میری دعاؤں کا ابتداء ہوتا ہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِیْ

لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُوَلَدْ وَلَمْ یُکُنْ لَّهٗ کُفُوًا اَحَدٌ۔ (المستدرک علی الصحیحین للحاکم، کتاب الدعاء، والتکبیر، والتہلیل) اس دعا میں تو بہت لفظ ہیں مگر میں اس وقت کے حسب حال اور تمہارے ساتھ خطاب کے موافق جس لفظ سے دل بستگی ہے اس کی تشریح کروں گا اور وہ لفظ صمد ہے۔

اللہ نے ہم کو محتاج پیدا کیا ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ یہ صمد کے معنی ہیں۔ اس نام نے عجیب نکتہ معرفت میرے دل میں پیدا کیا کہ تم فقراء ہو۔ جب یہ بات دل میں آئی تو میں نے دیکھا کہ اللہ جلّ شانہ کے جو اسماء صفات ہیں وہ مخلوق کے لئے بھی رکھے گئے ہیں مثلاً وہ سمیع بصیر ہے۔

صفات الہیہ پر غور: تو مخلوق پر بھی یہ لفظ بولے گئے اس کا نام رؤف الرحیم ہے تو اس کے رسول کو بھی رؤف الرحیم کہہ دیا۔ غرض صفات الہیہ پر غور

کرتے کرتے عجیب تماشا گاہ مجھے نظر آیا اور میں نے دیکھا کہ کس طرح پر اللہ تعالیٰ کی صفات کی جلوہ گری مخلوق پر ہوتی ہے۔ اس پر غور کرتے کرتے میں اس نکتہ پر پہنچا کہ جب میں صمدیت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوں اور اس کے صفات کا پر تو انسان پر بھی پڑتا ہے۔ تو اسی صمدیت کے مظہر ہونے کی وجہ سے بعض میرے بھی محتاج ہیں اور بعض کا میں بھی محتاج ہوں اس فکر نے

مجھے شفقت علی خلق اللہ کی تعلیم دی اور یہ تعلیم گویا لفظ صمد کے ذریعہ ملی کیونکہ میں نے سمجھ لیا کہ جب صمد کے مظہر میں تو

کریم رحیم کے بھی مظہر ہیں۔ پھر ایک طرف اپنی محتاجی کو دیکھا کہ ایک چوہڑی تک کا محتاج ہوں اور وہ مجھ سے روپیہ لینے کی محتاج ہے۔ پھر معاً دھوبی کو دیکھا وہ قیمت کا محتاج ہے۔ میں کپڑے کی صفائی کا۔ اس طرح پر ایک وسیع سلسلہ میرے سامنے آیا کہ مخلوق میں سے ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ اس لئے میں نے عامۃ الناس کی ہمدردی کے لئے علم طب کو مناسب حال سمجھ کر سیکھا۔ اس سلسلہ احتیاج کو میں نے پھر قرآن شریف میں دیکھا تو یہ آیت نظر آئی۔ رَبَّنَا اسْتَمِعْ بَعْضًا مِّنْ بَعْضٍ (الانعام: ۱۲۹)۔

غرض ایک نیا شوق اور نیا خیال پیدا ہوا۔ یہ شفقت علی خلق اللہ کا خیال تھا اور اس کے ساتھ یہ سمجھ میں آیا کہ اس آیت کے لحاظ سے انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے۔

اجتماع کی خواہش: اور یہ حاجتیں تب ہی پوری ہو سکتی ہیں کہ اجتماع ہو۔ پس صمدیت نے

مجھے طب اور اجتماع کی طرف متوجہ کیا اور میں دیکھتا تھا کہ شروع سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اولاً ماں کی گود میں رہے پھر حاجتیں اور پیدا ہوئیں تو اس گود کو چھوڑ دیا انہوں نے کئی بار کہا کہ نور! تو اب گود میں نہیں آتا۔ میں کہہ دیتا کہ اب اس کا وقت نہیں۔ پھر بھاج کی گود میں رہ کر ایک فیضان اٹھایا۔ پھر اسے چھوڑا تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ایک میاں جی سے قاعدہ پڑھتے ہیں۔ پھر دوسرے سے کچھ اور تیسرے سے اور غرض دیکھا کہ اجتماع کرتے آئے اور وقتی ضرورتوں کے موافق چھوڑتے آئے۔ یہ عجیب تماشا تھا۔ پھر جوان ہوئے اور اس حالت کے ماتحت خیال آیا کہ کوئی ساتھ ہو۔

شادی کی ضرورت اور عمر: چنانچہ تیس سال سے متجاوز ہو کر میں نے شادی کی اور پھر اس نکاح سے میں نے بہت ہی فائدہ اٹھایا اور قرآن مجید کی اس

اصل کو پایا۔ لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الزّوم: ۲۲)۔ اس تعلق نے پھر ایک اور نیا اجتماع شروع کیا وہ اولاد سے تمنع تھا مگر میں نے اس سے پہلے دیکھا کہ فی الواقعہ سکون اور نمکساری میں نے اسی رشتہ میں۔۔۔۔۔ پائی تو مجھے یقین ہوا کہ خدا تعالیٰ کی کتاب نے اس رشتہ کی غرض و غایت جو بیان کی ہے وہ بہت ہی درست ہے اور یہ خالق فطرت کا کلام ہے۔ غرض ان تعلقات میں ایک لمبا سلسلہ چلتا ہے۔ اولاد ہوئی اور اولاد ہو کر مری تو مشکلات کا ایک نیا سلسلہ نظر آیا اور بعض وقت تو عجیب عجیب کیفیت ہوئی۔

غم میں تسلی کا نور: بلکہ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ میں ایک نماز میں امام تھا اور قلب پر بعض دکھوں کا اثر تھا۔ اس لئے شرح صدر سے الحمد للہ کہنے میں قلب نے

مضانقہ کیا کہ جب یہ حالت ہے تو الحمد کیسی؟ مگر میں قربان جاؤں قرآن کریم پر اور اس کے لانے والے پر کہ بجلی کی طرح میرے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ ہم مصائب

پرانا اللہ کہنے والوں کو انعام دیتے ہیں اس لئے الحمد ہی کا موقع ہے جب سب کچھ خدا ہی کا ہے اور تجھے اس غم و ہم کے بدلہ اسے بہتر دینے کا وعدہ کرتا ہے تو الحمد کا خوب موقع ہے۔ اس طرف سے ایک پھوٹی کوڑی بھی جاوے تو ادھر سے خزانہ ملتا ہے۔

ہر بلائین قوم را حق دادہ است
زیر آن گنج کرم بہادہ است

اس سے مجھے اتنا ہی فائدہ نہیں ہوا کہ
اخلاقی تربیت اور ایک قرآنی رکوع کا حل:

فائدہ یہ ہوا کہ جب سب کے سب محتاج ہیں اور ایک دوسرے سے وابستہ ہیں یہاں تک کہ چوہڑی نہ ہو یا حجام یا دھوبی نہ ہو تو سخت مشکلات پیش آئیں۔ میرے گھر میں یہ جھگڑا ہی ہوا کرتا ہے کہ چوہڑی کو دو دفعہ آنا چاہئے یا تین دفعہ۔ بہر حال میں نے ان ضرورتوں کے سلسلہ پر غور کیا تو سورۃ حجرات کا یہ رکوع حل ہو گیا۔ لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ (الحجرات: ۱۲)

کیا معنی جب تم ایک دوسرے کے محتاج ہو تو پھر ایک دوسرے کو ہنسی ٹھٹھا کیوں کرتے ہو۔ کوئی عورت کسی عورت سے اور کوئی مرد کسی مرد سے ٹھٹھا نہ کرے ممکن ہے کہ وہ جسے تم نے ہنسی کی تم سے بہتر ہو جائے۔ یہ سچ ہے کہ یہ سب چیزیں ایک پہلو سے مفید ہیں اور ایک پہلو سے مضر بھی یا طیب بھی اور خبیث بھی۔ برسات میں ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے اسے عربی میں جعل کہتے ہیں اس کیڑے کا کام یہ ہے کہ وہ گندگی کی گولیاں بنایا کرتا ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ آٹھ پہر کے اندر اسے مٹی کر دیتا ہے مگر مشک یا گلاب سے مر جاتا ہے۔

اس سے مجھے خیال پیدا ہوا کہ دنیا میں مختلف اشیاء ہیں اور ہر ایک
تربیت کا دو سوال مرحلہ:

اپنی ذات میں خوبیاں رکھتی ہے چوہڑی نہ ہو تو کیا خرابیاں پیدا ہوں اسی سے قیاس کر لو مگر انسان کو چاہئے کہ اس کی خوبیوں کا متوالا رہے اور نقصوں کی پروا نہ کرے۔ پس صمد کے لفظ نے تو یہ فائدہ دیا کہ جب ہم صمدیت کے مظہر ہیں تو ایک دوسرے سے فائدہ

اٹھائیں اور ادھر طب نے یہ فائدہ دیا کہ کوئی چیز نہ دیکھی جو مفید نہ ہو۔ معمولی چیزیں جن کو انسان نہایت بے پروائی سے دیکھتا ہے ایسی مفید ہوتی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ایر نے یعنی جنگلی گوبر کی راکھ کو میں نے بعض امراض میں ایسا مفید دیکھا کہ ہزاروں روپیہ بھی اس کے بدلہ میں خرچ کریں تو کم ہے۔ غرض اس طرح پر اجتماع کا شوق بڑھتا گیا اور طب نے اس میں مدد دی کیونکہ طب تب چلے کہ وضع سے لے کر شریف اور امیر سے لے کر غریب تک ہمارے ہاں جمع ہوں۔ پھر نباتات اور حیوانات تک سے پیار کرو جب اس لمبے سلسلے پر میں نے غور کی تو میرے اندر ایک عجیب اضطراب پیدا ہوا اور میں نے اپنی وسیع ذمہ داری کو سوچا۔ یکا یک میری حالت متغیر ہو گئی اور فکر نے میرے دل پر غلبہ کیا اور میں نے مخلوقات کے ایک وسیع دائرہ میں اپنے آپ کو پایا اور میں گھبرا گیا کہ میرے فرائض بہت بڑے ہیں اور میں ایک ناتواں ہستی۔

فیضان الہی نے کس طرح دعا کی تحریک کی:
انہیں خیالات میں حضرت اقدس کے زمانہ میں، میں ایک دن التحیات کے

اندر دعا کر رہا تھا کہ یکا یک میری توجہ مثنوی کی طوطی کی حکایت کی طرف پھر گئی اور وہ یہ ہے کہ ایک امیر تاجر نے ہندوستان کے سفر کا ارادہ کیا اور اپنے متعلقین اور دوستوں سے کہا تم اپنی اپنی فرمائشیں مجھے بتادو۔ چنانچہ انہوں نے بتائیں۔ اس کا ایک طوطا بھی تھا۔ اس سے بھی پوچھا اس نے کہا اور کوئی فرمائش نہیں مگر ایک بڑے درخت پر طوطوں کا ایک جھنڈ ملے گا وہ میرے بھائی ہیں تم ان کو میرا سلام پہنچا دینا۔ غرض جب وہ تاجر اس مقام پر آیا تو اس نے طوطوں کے ایک جھنڈ کو دیکھ کر اپنے طوطے کا سلام دیا تو ایک طوطا پھڑ پھڑاتا ہوا نیچے گر پڑا۔ تاجر کو یہ دیکھ کر صدمہ تو ہوا مگر وہ مجبور تھا اسے کیا خبر تھی کہ اس کا انجام یہ ہوگا۔ غرض جب سوداگر واپس گیا تو اس نے جہاں اپنے دوستوں اور متعلقین کو ان کی فرمائشیں دیں۔ وہاں اس نے اپنے طوطے کو وہ قصہ اس کے سلام کا بھی سنایا کہ میں نے سلام کہا اس کا نتیجہ یہ ہوا جو نبی اس طوطے نے یہ واقعہ سنا وہ پھڑ پھڑایا اور تڑپ کر گر پڑا۔ تاجر کو یہ دیکھ کر اور بھی صدمہ ہوا کہ اس کی بھی جان گئی۔ اس نے بہر حال اسے پنجرہ سے نکال کر پھینک دیا تب وہ طوطا فوراً ڈر درخت پر جا بیٹھا اور اس نے تاجر کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے سلام

دے کر اپنے دوستوں سے اس قفس سے رہائی کی تدبیر پوچھی تھی اور انہوں نے جواب دیا ہے کہ جب تک موت اپنے پروردار نہ ہونجات نہیں ملتی۔ پس یہ میری رہائی اور اس کا علاج اور گرتھا۔ سنو! یہ نکتہ میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے کہ نفس کے پنجہ سے نجات چاہتے ہو تو موت اختیار کرو۔ یہ طوطی کا قصہ ہنسی نہیں مثنوی میں موجود ہے جس کو اہل اللہ پڑھتے ہیں۔ غرض التحیات میں جب مجھے اس قصہ کی طرف توجہ ہوئی تو میں نے تمام انبیاء اور رسل و اولیاء ملائکہ کو مخاطب کر کے کہا اے طوطیانِ قدس تم پر سلام مجھے بھی نجات کی کوئی راہ بتا دو۔ اس وقت مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں اس کو ضبط نہ کر سکا۔ طوطی کا استعارہ احادیث سے ثابت ہے کہ شہدائے سبز پرندوں کے جوف میں عرش کے نیچے لٹکتے ہیں۔

امامت اور اخوت کی روح کیسے پیدا ہوئی: اس پر ایک زبردست تحریک میرے دل میں پیدا ہوئی جس کا نتیجہ وہ کارڈ

تھے جو میں نے چھپوا کر بعض دوستوں کو بھیجے اور بھیجنے سے پہلے میں نے وہ کارڈ ان کو (حضرت صاحبزادہ بشیر الدین محمود احمد صاحب سلمہ ربہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جو پاس ہی کرسی پر بیٹھے تھے) دیا کہ حضرت صاحب کو دکھا لو یہ اس تحریک میں شریک تھے اور انہوں نے دکھایا اور حضرت نے اسے بہت ہی پسند فرمایا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ جب چودہ سو (۱۴۰۰) آدمیوں کی ایک جماعت ہو جاوے گی تو میں حضرت کے حضور پیش کروں گا کہ ہم پر وہ فیضان نازل ہو جو اجتماع پر موقوف ہے۔ یہ ایک تحریک تھی اور خدا تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ میں اس کے نتائج سے محض بے خبر تھا مگر مولیٰ کریم میرے دل کی حالت کو دیکھتا تھا۔ ابھی وہ موقع مجھے ملا نہیں تھا کہ خدا تعالیٰ نے یہ صورت پیدا کر دی جو تم دیکھتے ہو۔ یہ خدا تعالیٰ کے وہ عجائبات ہیں وہ جن کو انسان نہیں سمجھ سکتا۔ غرض میں چاہتا تھا کہ چودہ سو احباب ہوں یہاں کئی چودہ سو مل گئے۔ بغیر کسی کوشش اور محنت کے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے، دیتا ہے۔

حضرت مولوی نور الدین بحیثیت امیر المؤمنین: اب میں تم میں اس حیثیت سے کھڑا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے

تم ہی میں سے تمہارا امیر بنا دیا۔ اب معاً سوال ہوتا ہے کہ تم تو ملہم نہیں کسی امر کے مدعی نہیں تم ہمیں سناؤ گے تو کیا سناؤ گے؟ یہ سوال علی العموم پیدا ہو سکتے ہیں۔

ازالہ و ہم: ہم کس طرح سنیں وہ تو مسیح تھے مہدی تھے، کرشن تھے، امام تھے، خدا تعالیٰ کا کلام ان پر اترتا تھا، وہ تو چلے گئے۔ یہ توکل ہمارے جیسا ایک مرید تھا شیخ کس طرح

بن گیا۔ اگر اس کی سنیں تو کیوں سنیں اور وہ ہمیں سنائے گا کیا؟ کیا مسیح و مہدی ہمارے لئے کیا کم چھوڑ گئے تھے۔ اسی کے قریب تو کتابیں ہی لکھ گئے ہیں کیا وہ ہمارے لئے کافی نہیں؟ یہ سوال بڑے نا عاقبت اندیش لوگوں کا ہے جو خدا تعالیٰ کی سنت کا علم نہیں رکھتے اس لئے انہیں سمجھ نہیں۔ یاد رکھو یہ سلسلہ میری پہلی تربیت کا نتیجہ ہو گیا اگر اس قسم کے سوالات کو کوئی وقعت دی جاوے تو پھر تمام انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ ہی باطل ہو جاوے۔

مثلاً آدم علیہ السلام کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا** (البقرة: ۳۲)۔ اب آدم کے بیٹے کہتے کہ ابراہیم اور نوح کون ہیں ہم کیوں ان کی سنیں اور مانیں ابا جان کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سنا دیا وہ تو ایسے تھے کہ **فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ** (الحجر: ۳۱) پھر یہ کون ہیں؟ یہ تو واقعہ گزشتہ ہے دم نقد سنا تا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع جمیع کمالات جن کی نسبت میرا عقاد ہے کہ وہ خاتم العلماء، خاتم النبیین، خاتم الرسل، خاتم الحکام، خاتم الاولیاء بلکہ خاتم انسانیت بھی وہی ہیں۔ غرض سب ان کے نیچے ہیں یہ مضمون بہت بڑا ہے اور اس وقت میں اس پر تفصیل کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ خلاصہ یہ کہ وہ سچ اور برحق کل کمالات انسانہ کا جامع ہے۔ اب اگر آپ کے بعد کوئی ابو بکرؓ کی خلافت کو نہیں مانتا تو اس کے متعلق خدائی فیصلہ یہ ہے **مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ** (النور: ۵۶) خلافت کے منکر کا نام خدا تعالیٰ کی کتاب میں فاسق رکھا ہے اور ادھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو میرے خلاف ہے اسے قتل کرو۔

خلافت کی ضرورت: خلافت کی ضرورت اصل بات یہ ہے کہ نئے نئے دشمن پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ پس ان کے مقابلہ کے لئے نئے خلیفوں کی بھی ضرورت ہوتی

رہتی ہے۔ اسی بنا پر قرآن مجید نے فرمایا: **مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ فَيُحَدِّثُوا إِلَّا أَسْمَعُوهُ**

وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَأِهْيَئَةَ قُلُوبِهِمْ (الانبیاء: ۴۳)۔ اس آیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی ذکر آتا ہے اور اس وقت لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے۔ پس ایسے وقت میں **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا** (ال عمران: ۱۰۴) خدا تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے اعتراضات اور سوالات کی راہ کو اختیار کرنا نہیں چاہئے کیونکہ وہ خطرناک راہ ہے۔

خدا تعالیٰ کا فیضان جماعت پر نازل ہوتا ہے
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا
 میں نے مدرسہ میں رسہ کی ایک کھیل دیکھی ہے

کچھ لڑکے اس کے ایک طرف ہوتے ہیں اور کچھ دوسری طرف۔ پس جس طرف کے متفق ہو کر پورا زور لگاتے ہیں وہ دوسروں سے جیت لے جاتے ہیں اور جس طرف کوئی کمزوری ظاہر کرے اور پورے اتفاق سے کام نہ کریں تو وہ ہار جاتے ہیں۔ اس کھیل کو دیکھ کر مجھے قرآن مجید کی ایک آیت حل ہو گئی اور وہ یہ ہے **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا**۔ خدا تعالیٰ مسلمان کو کہتا ہے کہ تم سب مل کر اس رسہ کو کھینچو دشمن دوسری طرف سے اس کو کھینچ رہا ہے اب اگر تم سست ہو کر بیٹھ رہو اور یہ سمجھ لو کہ اس سے پہلے ہم فتح پا چکے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن رسہ لے جاوے گا مگر تم بتاؤ کہ کیا ہمارے اعداء سب مٹ گئے جب یہ بات نہیں ہے تو پھر اعداء کی مدافعت کی کیوں ضرورت ہے۔ یہ سچ ہے کہ مسیح حجت بالغہ عیسائیوں پر ختم کر گئے ہیں آریوں اور برہمنوں پر بھی حجت پوری کی مگر کیا آریہ، برہمن اور عیسائی مر گئے؟ کیا ان کی طرف سے اسلام پر بدستور حملے نہیں ہوتے؟ پھر جب ان کی طرف سے اسی طرح پر حملے ہو رہے ہیں تو تم خدا سے باغی ہو کر کیوں کہتے ہو کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ میرے نزدیک اس رسہ کو اب پہلے سے زیادہ زور اور طاقت اور اتفاق سے مل کر کھینچنے کی ضرورت ہے اس لئے کہ ان سپاہیوں میں سے ایک جو سب سے زیادہ طاقتور اور گویا بطور جڑھ کے تھا ہم میں سے جاتا رہا اور اس وجہ سے دشمن کا حوصلہ بڑھ گیا ہے۔ پس اسی صورت میں زیادہ زور لگانے کی حاجت ہے۔ پس یہ کہنا کہ اب قادیان میں ہوتا کیا ہے؟ کیا کوئی تصنیف کرے گا اور کیا کہے گا؟

اس قسم کے اعتراضوں سے بچنا چاہئے کیونکہ یہ اعتراض پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور

ابوبکر رضی اللہ عنہ پر پڑتا ہے اگر ابوبکرؓ کو نہیں مانتا تو پھر یوں کہو کہ محمدؐ اور علی رضی اللہ عنہ پر پڑتا ہے۔ جب علیؓ پر ایمان لا چکے تو اب مہدی کے کیوں منتظر ہیں۔ غرض ایسے اعتراضوں سے بچنا چاہئے۔

ضرورت اجتماع: اس وقت ضرورت ہے اجتماع کی پھر کیا یہ اجتماع ایک ہی وقت کے لئے کافی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں اس کی ہمیشہ ضرورت ہے دیکھو لا الہ الا اللہ

کے لئے بھی پانچ وقت کی نماز کی ضرورت ہے پھر کہہ سکتے ہیں کہ صبح کو جو اکٹھے ہوئے تھے تو ظہر عصر اور مغرب اور عشاء کو اجتماع ضرورت ہے؟ پھر ہر جمعہ کو اکٹھے ہونے کی کیوں ضرورت ہے؟ پھر عیدیں کیوں جمع کرتی ہیں؟ پھر حج کیوں جمع کرتا ہے۔ یہ ایک نیا سوال اسی طرح پر ایک وقت کی روٹی کھالی تو پھر دوسرے وقت کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح پر یہ سلسلہ سوالات کا قابل غور ہے۔ میں یہ اس لئے بیان کرتا ہوں تاکہ تم سمجھو کہ اجتماع کی ہر وقت ضرورت ہے یہ مت سمجھو کہ ایک ممبر جو ضرورتاً چلا گیا ہے جیسا کہ ہمارا امام چلا گیا ہے تو اس سے ہمیں کم حوصلہ..... ہونا چاہئے۔ ایسا نہ ہو ہمت ہارنی نہیں چاہئے اگر ایسا کرو گے تو رسہ کوئی اور لے جائے گا۔ پس ہمیں امام کے چلے جانے کے بعد بھی اسی طرح وحدت، اتفاق، اجتماع اور پر جوش روح کی ضرورت ہے۔

یہ اجتماع کیوں ہے؟ بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک اجتماع کی ضرورت محسوس ہوئی اب میرے سامنے ایک اجتماع ہے میں پوچھتا ہوں کہ یہ اجتماع کیوں ہے؟

تمہارے اکٹھے ہونے کی کیا غرض ہے؟ میں تو تمہارے پاس نہیں گیا تم جو یہاں آئے ہو اور روپیہ خرچ کر کے آئے ہو تم نے سوچ ہی لیا ہو گا کہ کیوں آتے ہو؟ سردی کا موسم ہے گھروں میں بیماریاں ہیں تھوڑی سی ہو لگتی ہے کھانسی ہو جاتی ہے ایسی حالت میں جو اس سفر کو تم نے اختیار کیا ہے اس کی غرض کو تم ہی سمجھتے ہو۔ کیا یہ مطلب ہے کہ آؤ تو مجھے بھی روپیہ دے جاؤ یہ بھی ایک سوال ہے۔ پھر میں پوچھتا ہوں کہ تمہارے کیا اغراض ہیں۔ تم نے جو تکلیف اٹھائی ہے کیوں؟ میں تو نہیں جانتا کہ تمہیں دال ملتی ہے یا کیا مگر گھر میں ممکن ہے کباب ملتے ہوں۔ یہاں سونے کے لئے کسیر اور پرالی ہے اور گھر پر پانگ اور گرم بسترے ہیں۔ رات کو اگر کسی کو احتلام ہو جائے تو شاید گرم پانی ملے یا نہ ملے۔ میں تمہارے اغراض کو کوئی معلوم نہیں کر سکتا۔ میرے ایک دوست نے لکھا ہے کہ اس لئے

کثرت سے جمع ہونا چاہئے تاکہ لوگ ہنسیں نہیں میرے دل میں یہ خیال نہیں کیونکہ یہ ریا ہے سمعۃ ہے معلوم نہیں اگلے سال ہم ہوں یا نہ ہوں اس لئے میں کھول کر کہتا ہوں کہ میری غرض یہاں تک نہیں۔ لعنت ہے اگر میرے دل میں مخالفوں سے ذرا بھی خیال ہو۔ وہ کہتے ہیں کیا ہیں ہاں یہ سچ ہے کہ اجتماع ضروری ہے اور یہ ایسا ضروری ہے کہ اس کے بدوں کام نہیں چلتا۔ تم بھی ایک اجتماع کرتے ہو اور اس کے نتائج سے واقف ہو مگر یہ اجتماع کیوں ہوا۔ اس کے کیا اغراض ہیں؟ میرے اور دوست بھی یہاں ہیں۔ میں نہیں جانتا ان کے اغراض کیا ہیں اور وہ اس اجتماع کی کیا غرض قرار دیتے ہیں ہمارے اخبار کے ایڈیٹر ہیں میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے اس کی کیا وجہ سمجھی ہے؟ غرض ہر شخص اپنی نسبت خوب سمجھ سکتا ہے اور دوسروں کی بابت وہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے اس کی کیا وجہ سمجھی ہے۔ میں اپنے اغراض جانتا ہوں کہ یہاں کیوں آیا؟ اس لئے میں ان کو یہی بیان کرتا ہوں؟

اول میں قادیان کیوں آیا: مختصر الفاظ میں یہ سمجھ لو کہ مجھے لا الہ الا اللہ کی تکمیل کی خواہش لائی تھی۔ میں یہاں قرآن سمجھنے کے لئے آیا تھا اور

یہی میری غذا ہے۔ یہ غذا اگر آٹھ پہر میں استعمال نہ کروں تو میں مر جاؤں۔ پس یہی میری خواہش اور غرض تھی اور اس کے سوا مجھے کوئی مطلب نہ تھا اور تم غور کر سکتے ہو کہ کوئی اور غرض ہو بھی نہیں سکتی۔ جو کسب میں جانتا ہوں وہ شہروں میں رہ کر زیادہ میرے لئے نفع مند ہو سکتا ہے اگر میری غرض اس سے بھی روپیہ کمانا ہوتا میرا لڑکا اتنا بڑا نہیں جو اپنے لئے خرچ کر سکے۔ میں اس کی تعلیم کے لئے خود روپیہ دیتا ہوں۔ وہ جو کپڑا پہننے کی خواہش کرے میرے پاس خدا کے فضل سے وقعت اور توفیق ہے کہ میں اس کے لئے مہیا کروں۔ پھر جب یہ حالت ہے تو میں اپنے رب پر بدظنی کر سکتا ہوں کہ جہاں اس نے اس قدر عرصہ تک مجھے اور میرے متعلقین کی ضرورتوں کے واسطے مجھے بہتر سے بہتر سامان دیتا ہے وہ آئندہ نہ دے گا؟ میرے جیسا انسان جس نے خدا کے فضلوں کو عجیب طور پر محسوس کیا ہو جس نے جنگلوں اور بیابانوں میں اس کی قدرت کے کرشموں کو اپنے لئے دیکھا ہو یہ وہم بھی نہیں کر سکتا اور پھر عمر کے اس حصہ میں جب کہ ستر برس سے متجاوز ہو گئی ہے اور وہ بہت ہے

اور باقی تھوڑی رہ گئی ہے۔ غرض مجھے یہاں جو چیز ملی لا الہ الا اللہ کی تکمیل اور قرآن کریم کا فہم تھا جس کو میں حاصل کرنا چاہتا تھا اور جس کے لئے میرے اندر تڑپ تھی۔

اس کہانی کا مقصد: یہاں تک جو کچھ میں نے تمہیں سنایا بظاہر وہ ایک کہانی ہے مگر میں نے اس نیت سے اسے بیان نہیں کیا بلکہ میری غرض اس سے یہ تھی کہ تمہیں

معلوم ہو کہ اول لا الہ الا اللہ پر پکے رہو اس کے لئے پھر دعا ایک ذریعہ ہے اور بڑا ذریعہ ہے پھر ہمت اور استقلال سے کام لو اور چہارم قرآن شریف سے محبت کرو اور اس کے سمجھنے کی کوشش کرو تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کی کیا راہیں ہیں؟ اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جاوے تو سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے اور یہی انسان کی اصل غرض ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرے۔

سאלک کے حالات: جب انسان ان راہوں کی تلاش اور طلب میں ہوتا ہے تو وہ سالک کہلاتا ہے۔ حضرت سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ سالک پر

کئی زمانہ گزرتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ اسے حکم ہوتا ہے کہ کچھ مت مانگو اور ایک وقت آتا ہے کہ مانگو اور فلاں آدمی سے مانگو۔ ادھر فرشتہ اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ اسے ذلیل کر کے نکال دو۔ یہ حالت ایک خاص وقت ہوتی ہے اور وہ وہ وقت آتا ہے جبکہ کثرتِ ذکر کی وجہ سے وہ اللہ کا بندہ اپنے اندر کبریائی کو محسوس کرتا ہے۔ اس وقت ان کی اصلاح اور ترقی مدارج کی یہ راہ ہے کہ ان کے لئے مانگنے کا حکم ہوتا ہے اور ادھر مخلوق کو حکم ہوتا ہے کہ اسے جھڑک کر نکال دو۔ جب ایسی حالت ہوتی ہے اس کی امید اللہ تعالیٰ پر وسیع ہو جاتی ہے اور وہ پھر اسی طرف آتا ہے پھر ایک وقت حکم ہوتا ہے کہ قرضہ مانگو اور کہیں حکم ہوتا ہے کہ مت دو۔ وہ کہہ دیتا ہے تم تو نکلے آدمی ہو تم کو دے کر کس سے لینا ہے۔ ایسی حالتیں آتی رہتیں ہیں اور یہ سب اصلاح کے مدارج ہیں پھر ایک وقت ان پر آتا ہے کہ مخلوق سے بالکل بے نیاز ہو جاتے ہیں اور کسی کی پرواہ بھی نہیں کرتے اس لئے لکھا ہے کہ صوفی اپنے حالات اور واقعات کو ظاہر نہ کرے۔

اپنی حالت: مگر میں بحمد اللہ اس ستر سے متجاوز ہوں اور میں اپنے پچھلے دراز تجربہ پر یقین کر کے کہہ سکتا ہوں کہ میری آمدنی میرا کھانا میرا پینا پہننا اور رہنے کے لئے مکان

کا ملنا اور میرے شوقوں کا پورا کرنا یہ ایک مخفی راز ہے جس کو کوئی نہیں سمجھ سکا۔ مجھے نہ قرض کی ضرورت نہ سوال کی حاجت نہ چور کا ڈر نہ دھوکا باز کا خوف۔ میں اس مخفی راز کو ہرگز ظاہر نہ کرتا کیونکہ صوفیوں نے منع کیا ہے مگر میں قرآن شریف کے حکم کو مقدم کرتا ہوں وہ حکم دیتا ہے۔

أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (الضحیٰ: ۱۲)۔

چندہ کیوں لیا جاتا ہے: یہاں قادیان میں چندے آتے ہیں مگر میں ان میں سے اپنے لئے ایک کوڑی کا بھی روادار نہیں ہوں بلکہ جن اغراض کے لئے وہ

چندے آتے ہیں میں خود ان اغراض میں چندہ دینے والوں میں حصہ لیتا ہوں۔ یہاں ایک عمارت کی ضرورت ہے میں نے اس میں چھ سو روپیہ کا وعدہ کیا ہے ابھی مجھ سے ایک امر کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے لئے میں ایک ہزار کا وعدہ کر کے آیا ہوں اور یہ میں اسی روز سے لینے والا ہوں جس سے پہلے کام چلتا ہوں آگے میں باہر بیٹھتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ میں طب کرتا ہوں اب تم دیکھتے ہو کہ میں باہر کم آتا ہوں بلکہ دن بھر تمہارے لئے کام کرتا ہوں میں اس کا کوئی اجر تم سے نہیں چاہتا۔

لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا (الشوریٰ: ۲۳)۔

ہاں جس طرح پر خدا غنی ہے اور اس کا رسول بھی محتاج نہیں باوجود اس کے کہ وہ فرماتا ہے

لَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ (محمد: ۳۷) اور اس کا رسول لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا کا اعلان دینے کے پھر بھی صدقہ اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں نہ خدا محتاج ہے نہ محمد رسول اللہ محتاج ہے مگر دونوں کہتے ہیں کہ دو۔ اس مانگنے سے ان کی غرض کیا ہے؟ یہ کہ تمہیں کچھ دلائیں اسی طرح پر اگر میں کچھ مانگتا ہوں تو اسی لئے کہ تمہیں کچھ اور ملے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُنَّ ذَاللَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا (البقرة: ۲۴۶) یعنی جو شخص اللہ کے لئے اپنے مال کو الگ کرتا ہے ہم اس کے اموال کو بڑھا دیتے ہیں غور تو کرو کہ حضرت ابو بکرؓ نے اللہ تعالیٰ کے لئے چھوڑا کیا؟ اور لیا کیا؟ صدیقی شیخ کیا مزے اڑاتے ہیں۔ حضرت علیؓ نے چھوڑا کیا اور پھر پایا کیا؟ اب تک بھی دیکھ لو کہ ان کی اولاد کس مزے میں ہے سادات کتنے ہی فسق و فجور میں مبتلا ہوں مگر لوگ ان کی عزت کرتے ہیں اور نذریں دیتے ہیں مگر یہ چندے جو تم دیتے ہو یا میرے ہاتھ میں دیتے ہو میں انہیں اپنے لئے نہیں لیتا۔

میرے ہاتھ میں آیا اور میں نے دیانت کے ساتھ اسے دوسری جگہ پہنچا دیا مگر ایک نے کل اور دو نے آج کہا کہ ہم تخصیص کرتے ہیں اور الحاح سے کہا تو میں نے یہ سمجھ کر کہ خدا دلاتا ہے لیا یا میرا لباس ہے میں بنانا نہیں چاہتا بعض دوستوں نے ایسا کیا ہے کہ کوئی کپڑا انہوں نے بھیج دیا تو میں نے انکار نہیں کیا یہی کوٹ ہے جو ایک عزیز نے دیا ہے اور مجھ سے خواہش کی کہ آج ہی پہن لو یا پھل آتا ہے تو میں اس کے لینے میں مضائقہ نہیں کرتا۔

غرض چندوں کے متعلق بڑے بڑے عجائبات ہیں اور یہ چندے انبیاء کے ساتھ بھی رہے اولیاء کے ساتھ بھی رہے ہمارے امام کے ساتھ بھی اور ہمارے ساتھ بھی وابستہ ہیں اور ہمارے بعد بھی رہیں گے۔ پھر چندہ دینے والوں کو بھی بعض اوقات مشکلات آتی ہیں ہمارے دوستوں خاص دوستوں ہاں لنگوٹے دوستوں میں سے ایک حکیم فضل الدین ہیں۔ انہوں نے ہزاروں روپیہ کی جائیداد دے دی ہے مگر بھائیوں اور ان کے رشتہ داروں کے خیال میں آیا کہ یہ سب کچھ مال بٹورنے کے لئے چالاکی کی حالانکہ اتنا نہیں سوچا کہ وہ مال لے کہاں جاوے گا اس کی نہ جوانی کی عمر ہے نہ اولاد ہے نہ کوئی حقیقی بھائی اور ماؤں سے بھائی ہیں ان کو بھی یہی شبہ ہے پہلے وہ نیک سمجھتے تھے۔ مگر یہ تو بُرا آدمی ہے اس قسم کے مشکلات بھی آجاتے ہیں مگر جو محض خدا کے لئے دیتے ہیں ان کو ان باتوں کی کیا پرواہ؟

تم اپنے چندوں کی نسبت مطمئن رہو کہ وہ جس غرض کے لئے آتے ہیں اسی پر خرچ ہوتے ہیں یاد رکھو ان کی نسبت کسی قسم کی بدلفی نیک نتیجہ نہیں دے سکتی۔ میں نے اپنا حال تو تمہیں بتا دیا کہ تمہارا پھل شربنی یا لباس تو میں لے لیتا ہوں مگر روپیہ کے لئے نہ نمبردار بنا اور نہ اس غرض کے لئے تم سے بیعت لی اور نہ میں نے یہ سمجھا ہے کہ تم اس غرض کے لئے جمع ہوئے ہو اور نہ میں اس مقصد کے لئے کھڑا ہوا۔ میں نے یا میرے دوستوں نے اگر کہا تو وہ اس قسم کی بات ہوگی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے باوجود غنی ہونے کے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے یا حضرت امام دیتے تھے میں بھی اسی طرح تمہیں دلانے کے لئے کہتا ہوں۔

مالی مشکلات اور اعتراضات: اموال کے جمع ہونے پر بھی مشکلات پڑتے ہیں میں انجمن حمایت اسلام کو اچھا سمجھتا ہوں اور وہ غنیمت ہے مگر

اس پر بھی حملے ہوتے ہیں اور مالی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ علی گڑھ میں ایک ہندو مال کھا گیا اور بڑے مشکلات پیدا ہوئے یہ کچھ ان ہی پر موقوف نہیں۔ ہر ایک انجمن میں ایسے مشکلات پیدا ہوتے ہیں مگر میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اس دکھ میں نہ پڑنا اگر ہم تم سے شرارت کے ساتھ مال لیں گے تو ہمارے سزا دینے کے لئے تمہارا اللہ کافی ہے۔ تم یہ کہو کہ مومن تھے کہ ہم نے دھوکا کھایا شکایت کی راہ ٹھیک نہیں اس سے پہلے ایسی قومیں گزری ہیں جنہوں نے اس راہ کو اختیار کر کے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اول عیسائی ہیں وہ اپنے مذہب کی کوئی خوبی نہیں بتا سکتے انہوں نے نبیوں پر معائب دہی کا دروازہ کھولا ہوا ہے کریں کیا؟ کفارہ کا مسئلہ بدوں اس کے چل سکتا ہی نہیں اور مذہب میں کوئی خوبی نہیں۔ پھر ان کے شاگرد شیعہ ہیں وہ صحابہ کی بدیوں کے بیان کرنے پر لگے رہتے ہیں اور کوئی عیب کی بات ہو صحابہ پر لگا دینے میں دلیر ہیں یہ تو وہ پرانی قومیں ہیں تیسری قوم اب پیدا ہوئی ہے۔ یہ آریہ کی قوم ہے ان کا بھی یہی پیشہ ہے کہ دوسرے کی بدیاں بیان کر دینے میں دلیر ہیں اور اپنی کوئی خوبی نہیں رکھتے۔ اس لئے انہوں نے مجبور ہو کر یہی سوچا کہ معائب کا دروازہ کھول دیں۔ خدا تعالیٰ کی نسبت تو ان کا یہی عقیدہ کہ وہ کسی چیز کو بلا مادہ پیدا ہی نہیں کر سکتا اور اخلاقی قول یہ کہ حقوق العباد میں یہ تجویز کیا کہ اگر کسی کے اولاد نہ ہو تو وہ عورت کسی اور سے ہم بستر ہو کر اولاد لے لے اور اس کا نام انہوں نے نیوگ رکھا۔ اب جس قوم کی یہ حالت ہو وہ دوسروں کے معائب بیان نہ کرے تو کیا کرے؟

چوتھے ہمارے مخالف مسلمان ہیں ایک لڑکا مجھے لکھتا ہے کہ لنگر خانہ کا خرچ ہی کیا ہے؟ اس میں ہوتا ہی کیا ہے؟ تم اعلیٰ درجہ کا لباس پہنتے ہو تم فلاں غلطی کرتے ہو یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوگ کیوں ایسی غلطی کرتے ہیں جس کا نتیجہ نیک نہیں۔

عیسائیوں نے اس راہ پر قدم مارا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول کرنے سے رہ گئے شیعوں نے قدم مارا وہ سچائیوں کے لینے سے رہ گئے آریوں نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا جو تم ان کی راہ اختیار کرتے ہو۔

پس تم اس راہ سے بچتے رہو تم نے اگر دھوکا سے مال دے دیا اور ہم نے فریب سے لیا تو اس کا وبال ہماری جان پر ہے تو پھر تم کیوں ہمارا معاملہ اللہ پر نہیں رکھتے؟

ہمارے لباس پر حضرت صاحب کے لباس پر جو اعتراض کرتے ہیں وہ ناواقف ہیں اسی شہر میں ایک ہندو نے مجھے کہا کہ حضرت صاحب بادل روغن کا پلاؤ کھاتے ہیں۔ میں نے اس کو یہی جواب دیا کہ ہمارے مذہب میں حلال ہے۔

سید عبدالقادر گیلانی نے ایک مرتبہ پانچ سو پونڈ کا صافہ پہنا ہوا تھا کسی نے اعتراض کیا کہ ایسا گراں قیمت تو عباسی خلیفہ نے بھی نہیں پہنا ہوا تو آپ نے جواب دیا کہ خدا کہتا ہے پہن لو ہم نے پہن لیا۔

غرض طعن کا دروازہ کھولنا نالائق آدمیوں کا کام ہے اس سے بچو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اتنی باتیں جو کبھی ہیں یہ بھی لینے کا ایک طریق ہے اور ایسے نیک دل بھی ہیں جو یہ یقین کرتے ہیں جو کچھ کہا ہے وہ دل سے کہا ہے۔ جماعت میں اس قسم کے سوال پیدا ہو جاتے ہیں اب کثرت کس طرف ہو اور قلت کس طرف میں نہیں کہہ سکتا۔ ہاں میں نے جو کچھ کہا ہے درد دل سے کہا ہے اب اپنے خیال کے موافق جو کچھ کسی کا جی چاہے سمجھ لے **كَلَّا لَتَمُدَّهُنَّ هُوَلَاءُ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءِ رَبِّكَ مَحْظُورًا** (بنی اسرائیل: ۲۱)۔ چندے تو ضرور دینے پڑیں گے دل سے دو گے بہتر بدلہ ملے گا ریا اور لحاظ سے دو گے تو کچھ بھی فائدہ نہیں۔ غرض میں نے تمہیں بہت کچھ سکھ کی باتیں سنائی ہیں لا الہ الا اللہ پر پکے رہو دعا عقد ہمت اور استقلال سے کام لو خدا تعالیٰ کی رضا کی کوشش کرو اور اس کی راہ معلوم کرنے کی ایک ہی تجویز ہے کہ قرآن مجید کو سمجھو۔

خدا تعالیٰ کیسے کیسے لوگوں سے عجیب بات کھلو الیتا ہے کوزن گزٹ ایک اخبار دہلی سے نکلتا ہے اس نے جہاں حضرت صاحب کی وفات کا ذکر کیا وہاں یہ بھی لکھا کہ اب مرزا نیوں کے پاس رہ ہی کیا گیا ہے ان کا سرکٹ چکا ہے اب جو شخص ان کا امام بنا ہے اس سے اور تو کچھ نہ ہوگا وہ قرآن سنایا کرے گا۔ میں نے اس فقرہ کو پڑھ کر سجدہ شکر کیا اور کرتا ہوں خدا کرے کہ تم قرآن ہی سنو اور میں قرآن ہی سناؤں۔ یہ اس نے بہت ہی عمدہ بات

کہی ہے جو دشمن کے منہ سے نکلی ہے۔ میں جو بات تمہیں سنانی چاہتا ہوں وہ یہی قرآن مجید ہے۔ اب معلوم نہیں کتنا عرصہ ان باتوں میں نکل گیا۔ اب میں تمہیں اسی قرآن کی چند آیتیں سناتا ہوں مگر میں پڑھتا ہوں کہ میں لا الہ الا اللہ کو مانتا ہوں محمد رسول اللہ کو خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل یقین کرتا ہوں بلکہ خاتم الانسان مانتا ہوں۔ ان دونوں پر یقین کے بعد دعا کا پھر عقد ہمت اور استقلال کا پھر قرآن کا فضل مجھے ملا ہے۔ یہ اصل منشا ہے پروگرام میں لکھا ہے کہ ایک گھنٹہ بیان کروں اور آوازیں آئیں کہ نہیں جب تک حضور چاہیں بیان کریں مگر میں یوم اور بعض یوم کے تحت میں اس گھنٹہ کو بھی رکھ لیتا ہوں اور تمہیں قرآن سناتا ہوں۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَّٰ عَلَيْهِمْ حَقًّا فِي التَّوْبَةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۚ التَّائِبُونَ الْعَبْدُونَ الْحَمِيدُونَ السَّاجِدُونَ لِلرَّكْعُونَ السَّجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (التوبة: ۱۱۱، ۱۱۲)

یہ گیارہویں س پارے کی تھوڑی سی آیتیں ہیں جو میں تمہیں سنانی چاہتا ہوں۔ میں درد دل سے ہاں سچے درد دل سے سناتا ہوں تم درد مند دل لے کر سنو۔

امیر المؤمنین کی دعا قوم کے لئے: میں تمہارے لئے کس کس قسم کی دعائیں کرتا ہوں اگر دشمن کو بھی علم ہو تو وہ حیران ہو جاوے۔ ان دعاؤں

میں سے ایک کے چند فقرے تمہیں سناتا ہوں تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ میں تمہارے لئے کیا چاہتا ہوں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ترقی دے اس نے تم کو جو سچائی عطا کی ہے اس کی قدر تمہیں سکھائے تاکہ تم اس کا شکر کر سکو۔ وہ تمہیں اس سچائی پر قائم رہنے کی توفیق دے اور استقامت بخشنے تم دین کے خادم بنو، روح القدس سے موید ہو اور امراض جسمانیہ اور روحانیہ آفات سماویہ اور ارضیہ اور ہر قسم کے فتن سے بچ جاؤ۔ تم مظفر و منصور ہو جاؤ اور اسلام کی سچائی کے مظہر اور نمونہ ٹھہرو۔

یہ دعائیں میں درِ دل سے کرتا ہوں اور اسی نے یہ درد مجھے دیا ہے جس نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ اس لئے میں اپنے لئے بھی اس مقام کی ذمہ داریوں اور مشکلات کو دیکھ کر ابنِ عمر ان کی طرح دعا کرتا ہوں۔ اللہ علیہ وسلم

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلِلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي (طہ: ۲۶ تا ۲۹)

یعنی اے میرے مربی میرے سینہ کو کھول دے اور میرے لئے میرے فرض منصبی کو آسان کر دے میری زبان کو گویائی عطا فرماتا کہ میری باتیں سننے والے میرے کلام کو سمجھ سکیں۔

وزراء: پھر میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ میرے بھی وزراء ہوں۔ جو میرے بازو کو قوی کریں اور میرے بوجھ کو ہلکا کریں ان کی غرض اور مقصود اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے وہ مومن ہوں مخلص ہوں، محسن ہوں۔ ان کے ہر کام میں ہر حرکت و سکون میں اللہ ہی کی رضاء اصل منشاء ہو وہ دنیا اور اس کی خیالی عزتوں اور بڑائیوں سے اپنے نفس کو پاک کرنے کی توفیق پائیں عاجزی اور فروتنی سے دین کی خدمت کرنے والے ہوں۔

واعظانِ سلسلہ: پھر میں چاہتا ہوں اور ویسے چاہتا ہوں کہ تم میں واعظ ہوں اس خواہش کے لئے تڑپتا ہوں روتا ہوں یہ واعظ جلوہ بر محراب و منبر می کنند کے مصداق نہ ہوں

بلکہ یہ کہ ان میں اخلاص کامل ہو وہ فی الحقیقت يَدْخُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (ال عمران: ۱۰۵) وہ نرے قوال ہی نہ ہوں بلکہ عملی رنگ میں واعظ ہوں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی حقیقی راہ کا علم ہو اور اللہ ہی کی رضا کے لئے کام کرنے والے ہوں سست نہ ہوں صابر اور جفاکش ہوں ایسے لوگ جب خشية اللہ سے کام کریں گے تو میں خدا تعالیٰ کے فضل سے یقین کر سکتا ہوں کہ دنیا کے لئے ایسے وجود بابرکت ہوں گے۔ یہ میری خواہشیں ہیں اور میں اپنے رب پر یقین رکھتا ہوں کہ چونکہ یہ اسی کے لئے ہے وہ جب چاہے گا ان کو پورا کر دے گا۔ اب اس کے بعد ان آیات کا مطلب تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔

ان آیات اللہ میں اول اللہ کا لفظ آیا ہے اللہ کے معنی ہیں تمام کاملہ صفات سے موصوف اور تمام بدیوں سے منزہ ذات اور حقیقی معبود جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ اس نام پر قربان ہو جاؤں گی

چاہتا ہے کہ اس کی تفصیل بہت کھول کر سناؤں مگر اس وقت اتنے ہی پریس کرتا ہوں پھر اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اور صحت اور وقت میسر آیا تو سناؤں گا۔ غرض اس اللہ نے لیا ہے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو (اس سے معلوم ہوا کہ اب مومن نہ اپنی جانوں کے مالک ہیں نہ مالوں کے) مگر اللہ کے لینے سے یہ مال و جان ضائع نہیں ہوتے بلکہ ہمارے حضور موجود ہیں مَا عِنْدَكُمْ يَنْقُذُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ (النحل: ۹۷) نے جو اس جان اور مال کو لیا کس چیز کے بدلے بِأَنَّ لَهُمُ الْحِسَّةَ (التوبة: ۱۱۱) اس غرض کے لئے کہ تمہیں جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچادیں۔ لڑو، مرو اللہ کی راہ میں کیونکہ اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرنے والوں کے لئے جنت ہے یہ وعدہ ہے جو تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی اور قرآن شریف میں بھی۔ پس جو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عہد کو ایفا کرے گا اس کو بشارت ہو یہ خوشی کی خبر سن لو کہ یہ عجیب بیج ہوئی ہے میں نے اللہ کے لفظ کے متعلق وقت صحت اور توفیق ملنے پر کچھ اور بیان کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اب دوسرا لفظ مومنین ہے۔ میں نے جہاں تک غور کیا ہے قرآن شریف اور احادیث سے ۷۰ (ستر) کے قریب ایمان کے شعبے ثابت ہوتے ہیں۔

ایمان کے شعبے: قرآن مجید کے پارہ ۲۶/۱۴ میں آیا ہے۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ

اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ
وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (الحجرات: ۱۲)۔ اس آیت میں پانچ باتیں ایمان کی بتائی ہیں۔
(۱) اللہ پر ایمان لانا۔ (۲) اس کے رسول پر ایمان لانا۔ (۳) ان کے احکام میں شبہ نہ کرنا
(۴) مالوں کے ساتھ کوشش کرنا۔ (۵) اپنی جان سے کوشش کرنا۔

پھر فرمایا فَاَوْلٰىا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحْكَمُوْكَ فَيَمَاشَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ
حَرَآجًا مَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا (النساء: ۶۲) یعنی مومن ہوتا ہی نہیں جب تک محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر امر دین میں حکم نہ بنائے اور پھر یہی نہیں کہ حکم بنالے بلکہ جو فیصلہ
وہ کرے۔ اس فیصلہ کو شرح صدر سے قبول کرے اور دل سے مان لے اور اس محبوب کے سامنے سر
تسلیم خم رکھے۔ (۶) گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنانا۔ (۷) اور آپ کے فیصلہ کو شرح
صدر سے مان لینا۔

پھر فرمایا:۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهُ عَلٰى

أَمْرِ جَامِعٍ لَمْ يَدْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ (النور: ۶۳) اس آیت میں مومنین کی یہ صفت بتائی ہے (۸) کہ جب وہ کسی امر دین میں رسول اللہ اور اس کے جانشینوں کے ساتھ جمع ہوں اور جب تک وہاں سے اجازت نہ ہو وہاں سے اٹھیں نہیں۔

پھر (۱۰،۹) آیات الہی سنتے ہی فرمانبرداری کے لئے کامل طور پر جھک جانا، تسبیح اور تحمید کے لئے ہوشیار رہنا (بعض اس کے معنی الحمد پڑھنا بھی کرتے ہیں) اور تکبر نہ کرنا۔ چنانچہ فرمایا: **إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (السجدة: ۱۶)۔**

پھر (۱۳،۱۲،۱۱) خواب راحت کے وقت اٹھ کر یاد الہی میں مصروف ہونا۔ خوف اور طمع پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا۔ خدا تعالیٰ کے دیئے ہوئے سے خرچ کرنا چنانچہ فرمایا: **تَتَجَالَىٰ جُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (السجدة: ۱۷)۔**

پھر (۱۴) اللہ اور رسول کے فیصلہ کے بعد اپنے پسند کردہ فیصلہ سے الگ ہو جانا مگر کان لیمومنین وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذْ قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ (الاحزاب: ۳۷) پھر (۱۶ اور ۱۵) جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاوے تو بدوں عذر کے سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا (النور: ۵۲)۔

پھر (۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱) اللہ تعالیٰ کی اس کتاب قرآن مجید پر ایمان لانا۔ تمام ان کتابوں پر ایمان لانا، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، یوم آخرتہ پر ایمان لانا جیسا کہ فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (النساء: ۱۳۷)۔**

پھر (۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵) اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری، اللہ کے رسول کی فرمانبرداری، اولوالامر کی فرمانبرداری اور اگر ان کا حکم خلاف ہو تو اللہ اور رسول کے حکم کو مقدم کرنا **أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء: ۶۰)۔**

اس آیت میں دو لفظوں کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں جو آج کل کی بیماریوں کے لحاظ سے بہت ہی

ضروری ہے۔ یاد رکھو کہ کتاب اللہ کے علاوہ رسول کریم کی فرمانبرداری کی بھی ضرورت ہے اور بدوں اس کے ایمان کی تکمیل ہوتی ہی نہیں۔ اسی لئے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (الاحزاب: ۲۲)۔

ایک قوم ہے جو کہتی ہے کہ رسول اللہ کی فرمانبرداری کی ضرورت نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اَطِيعُوا الرَّسُولَ سے مراد قرآن ہے۔ یہ دجال کی ایک قسم ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ اس سے شرک لازم آتا ہے۔ میں انہیں سورۃ نوح کی ایک آیت سناتا ہوں۔ اِنِّیْ لَکُمْ نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ۝ اِنْ اِغْبَدُوا اللّٰهَ وَاتَّقَوْهُ وَاَطِيعُوْنَ ۝ (نوح: ۳، ۴)۔ پس اگر اطاعت الرسول سے شرک لازم آتا ہے تو پھر اس کی بنا نوح نے ڈالی۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اصل یہی ہے کہ رسول کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت ہے۔ چنانچہ فرمایا مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللّٰهَ (النساء: ۸۱)۔

اولو الامر سے مراد حاکم ہے۔ حکام کی فرمانبرداری کی تعلیم اسلام نے دی ہے اور اس کو داخل شعب ایمان کیا ہے۔ ہم طوائف المملو کی میں بھی رہ چکے ہیں۔ جب ہم مکہ میں تھے۔ پھر حبشہ کی طرف جب ہجرت ہوئی تو عیسائی سلطنت کے نیچے رہے۔ جمہوری سلطنت میں بھی رہے کیونکہ مدینہ میں جمہوری حکومت ہی تھی۔ پس ہمیں کسی حکومت کے ماتحت رہنے میں کوئی بھی مشکل نہیں۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ سچے دل سے حاکم وقت کی اطاعت کریں۔ میرے دل میں اس کے لئے درد ہے۔ حکام کے مطیع اور فرمانبردار رہو۔ بلکہ میرا تو یہ جوش ہے کہ سپاہی ہونمبردار ہو اس کی بھی اطاعت کرو۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم گورنمنٹ کے سچے فرمانبردار بنو اور کسی ایسے منصوبے میں شریک نہ ہو جو اولو الامر کے خلاف ہو جیسا کہ اب تک تم نے اپنے طرز عمل سے دکھایا ہے آئندہ اور بھی مضبوطی سے اس پر عمل کرو۔ اسلام کی یہی ہدایت ہے۔ قرآن کریم نے یہی تعلیم دی۔ صحابہ کا نمونہ موجود ہے۔ ہمارا امام اس کی تاکید کرتا آیا اور اس نے متعدد کتابوں میں اس امر پر بحث کی اور تم نے اس کے منہ سے سنا اور میں بھی تمہیں وہی کہتا ہوں جو تم پہلے سن چکے ہو۔ غرض اولو الامر کی اطاعت کرو۔

پھر (۲۶) یہود اور نصاریٰ کو اپنے دل کا متصرف دوست نہ بنانا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (المائدة: ۵۲)

پھر (۲۷) مخالف یہود و نصاریٰ کو جو ہمارے مذہب پر چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ ان کا قرب نہ کرنا یا انہیں اہل ذمہ نہ بنانا۔ اَمَّنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلِعِبَابٍ مِّنَ الَّذِينَ اٰتَوٰا اَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (المائدة: ۵۸)۔

پھر (۲۸) جو اللہ اور رسول کے مقابلہ کرے اس کے ساتھ پیار نہ کرنا۔ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ (المجادلة: ۲۳)۔

(۲۹) اللہ کے ساتھ ہمیشہ محبت کو بڑھائے رکھنا۔ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ (البقرة: ۱۷۶)

(۳۰) جہاں دینی مشکلات پیش آئیں جماعت ہو یا ملک یا فعل اسے ترک کرنا یعنی وہاں سے ہجرت کرنا۔

(۳۱) اللہ کی راہ میں کوشش کرنا۔ (۳۲، ۳۳) ہجرت کرنے والوں کے لئے جگہ بنانا اور جگہ بنانے کی کوشش کرنا۔ (۳۴) مہاجرین کو ہرقسم کی مدد دینے کے لئے تیار رہنا۔ چنانچہ فرمایا سورۃ انفال رکوع ۶ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَاجْهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ (الانفال: ۷۳) سے آخر سورۃ تک۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن وہی ہوتے ہیں کہ جو مہاجرین کو جگہ دیتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ مہاجرین کی نصرت اور ان کو جگہ دینا ایمان کی تکمیل کے لئے ضروری ہے اور نصرت دینا مومن کی شان ہے۔

(۳۵) مسلمانوں کے ساتھ برادرانہ سلوک سے پیش آنا۔ چنانچہ فرمایا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ (الحجرات: ۱۱)۔

(۳۶) کوئی غلطی سے بیاج کا معاملہ ہو جاوے تو اسے ترک کر دینا۔ ذُرُّوْا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (البقرة: ۲۷۹)۔

(۳۷) سست نہ ہونا۔ (۳۸) بہت غمگین نہ ہونا۔ وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمْ اَلَا غُلُوْمٌ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (ال عمران: ۱۴۰)۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سست نہ ہو اور غم نہ کھاؤ کیونکہ یہ دونوں باتیں مومن کی شان سے بعید ہیں۔ مجھے بہت دکھ پہنچتا ہے جب کہ ایک مومن گھبرا جاوے

اور غم سے نڈھال ہو کہ اس کی بیوی یا بچہ مر گیا ہے کیونکہ ہمارے پاس تو اس سے بہت بڑھ کر چیز ہے جبکہ کوئی معمولی حاکم کسی کے ساتھ ہو تو وہ نہیں گھبراتا۔ لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے اِنَّهُ الْاَعْلٰوْنَ پھر گھبرائے کیوں ہو؟ میں نے بعض آدمیوں کو ایسے موقع پر نصیحت کی ہے۔ چونکہ انسان کی عادت ہے کہ وہ ملزم نہیں ہوتے۔ اس لئے میں نے دیکھا ہے کہ ایسے موقع پر بہت سی آیات پڑھ دیتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ حضرت یعقوبؑ روتے رہے اور اندھے ہو گئے مگر یہ بات غلط ہے۔ قرآن شریف میں تو صرف اتنا ہے۔ **وَ اَيُّصَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحَزَنِ** (یوسف: ۸۵) اور اس کے معنی ہیں۔ آنکھیں ڈبڈبائیں۔ غرض حزن کا حکم نہیں۔ ہاں فطرتاً بے شک ہوتا ہے۔ پھر مومن کو کسی کی جدائی کیوں اتنا غم میں ڈالے جب کہ خدا فرماتا ہے۔ **وَ اِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كِلٰٓمَيْنِ سَعْتًا** (النساء: ۱۳۱)۔

(۳۹ لغات ۴۴) اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر وقت سعی فی الدین کے لئے تیار رہنا۔ ظاہری اور باطنی فرمانبرداری میں کسی دوسرے کو خدا کا مقابل خیال میں نہ لانا۔ ناپنے میں، تو لنے میں عام طور پر بھی کسی شخص کے نقصان کا روادار نہ ہونا۔ کسی قسم کی شرارت کو دنیا میں نہ پھیلانا۔ (الاعراف: ۸۶)

(۴۵ لغات ۴۹) جن کا باہم بگاڑ ہو ان میں صلح کرانا۔ ایمان میں ترقی کرنا۔ خدا تعالیٰ کا نام درمیان آ جاوے تو خدا تعالیٰ کے نام کی عظمت سے دل میں دھڑکا پیدا کرنا۔ توکل کرنا۔ نماز کو ٹھیک درست کرنا۔ خدا نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کے لئے تیار رہنا (سورۃ انفال کے شروع میں ۵ آیتیں)

وَ اَصْلِحْ وَاذَاتَ بَيْنِكُمْ (الانفال: ۲) کا خصوصیت سے اقرار بیعت میں تم سے وعدہ لیا ہے۔ پس اس کو یاد رکھو۔

یہ باتیں ہیں جو ایمان کے شعبے سکھاتی ہیں۔ اگر یہ خطبہ خدا کے فضل سے تمہیں لکھا ہوا مل گیا (الحمد لله کہ حضرت خلیفۃ المسیح سلمہ اللہ تعالیٰ کی یہ خواہش میرے قلم سے پوری ہوئی۔ ثم الحمد لله علی ذالک۔ ایڈیٹر) تو پھر کوشش کرو کہ یہ باتیں تم میں پیدا ہوں تاکہ تم مومن کامل بن جاؤ۔ ممکن ہے کہ بعض باتیں رہ بھی گئی ہوں تاہم میرا خیال ہے کہ بہت سی آگئی ہیں۔ پھر

حدیث میں بھی ایمان کے شعبوں کا ذکر ہوا۔

ان میں سے (۵۰) قدر خیر و شر کا ماننا بھی ہے۔ اس کا اصل قرآن مجید میں موجود ہے،

خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا (الفرقان: ۳)۔ خلق خیر و شر اسی سے نکلا ہے اور اسی کا نام تقدیر ہے۔ اسی مسئلہ تقدیر پر ساری بلند پروازیاں اور کوششیں موقوف ہیں۔ فلاسفوں کے فلسفہ کا اعلیٰ مقام یہی ہے اور تمدن کی جڑ یہی ہے جو مسئلہ تقدیر نہیں مانتا وہ انسان نہیں؟ تقدیر کے معنی اندازہ کرنے کے ہیں اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے آنکھ کا کام دیکھنا ہے اور کان کا کام سننا۔ اب ان سے یہی کام لیا جائے گا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے توئی دیئے ہیں۔ ایک وہ جن پر اس کا کوئی دخل و تصرف نہیں جیسے اس کے اندر خون بن رہا ہے۔ ہڈیاں بن رہی ہیں وغیرہ۔ اب ان پر کوئی حکم شریعت کا نہیں۔ زبان ہے۔ وہ مختلف قسم کے ذائقوں کو بتاتی ہے اور اگر اس کی ہزار منت کی جاوے کہ تو میٹھے کو کھٹا کہہ دے وہ کبھی نہیں کہے گی ایسا نہ کرنے پر کوئی سزا نہیں لیکن دوسری طرف اگر زبان سے خواہ کفر کا کام لیا جاوے۔ خواہ ایمان کا وہ اطاعت کے لئے تیار ہے۔ اسی پر قیاس کر کے اس مسئلہ کی حقیقت سمجھ میں آجاتی ہے مگر مسلمانوں کا عجیب حال ہے۔ ہر چہ گیردِ علتی علتی علت شود۔

اگلے زمانہ میں آدمی تو تھوڑے تھے اور جنگ کے لئے آج کل کی سی ایجادات نہ ہوئی تھیں۔ اس لئے لڑائی کا یہ طریق تھا کہ فریقین میں سے سب سے بڑے پہلوان نکلتے اور اس کی کشتی ہوتی جو ہارتا اس کی شکست اس فریق کی شکست ہوتی جس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا۔ اب نہ اس قسم کی جنگیں ہیں نہ اس کی ضرورت۔ مگر مسلمان ہیں کہ برابر کشتیاں لڑتے جاتے ہیں اور ہزاروں روپیہ آئے دن ان کشتیوں پر مسلمانوں کا تباہ ہوتا ہے۔ اسی طرح پر بارود سے ہزاروں کام لئے جاتے تھے۔ اب وہ اصل غرض جاتی رہی اور اس کی جگہ شب برات رہ گئی جس کا نتیجہ بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ آپ جلیں اور دوسروں کو جلائیں اور پھر یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہمیں اس قسم کے مشقوں کی ضرورت بھی نہیں جو بارود کے ذریعہ کی جاتی تھیں۔ اسی طرح ہوا کے عجائبات کے تجارت کے لئے پتنگ وغیرہ چڑھاتے تھے اور ان سے عمدہ عمدہ کام لئے جاتے تھے۔ مگر وہ غرض تو جاتی رہی۔ مسلمانوں کو ایک شغل مل گیا اور آئے دن کوٹھوں سے گر کر مرتے ہیں۔ اسی طرح پر مسئلہ تقدیر کا حال ہے ہر کام کے مراتب ہیں

چیوٹی کاٹے اس کا نقصان ایک اندازہ رکھتا ہے۔ سانپ کاٹے اس کا مرتبہ جدا ہے۔ نیکیاں ہیں ان کے مراتب الگ ہیں۔ فرائض ۲۰، ۱۷ کے مراتب الگ ہیں۔ نوافل الگ ہیں۔ روزہ ایک مہینہ کے سال بھر اور حج ایک مرتبہ ان کے مراتب جدا ہیں۔ وتروں کے متعلق اختلاف ہے۔ ان سے نیچے یہی نوافل ہیں۔ رمضان کے روزوں کے سوا اور بھی نفل روزے ہیں جو ملا کر چار مہینے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ پس ہر کام کا ایک پھل اور نتیجہ ہے اور یہی تقدیر ہے۔ اگر سست ہو گے تو تم کو وہی نتائج ملیں گے جو سستوں کے ہیں اور اگر چستی اور ہوشیاری سے کام لو گے تو تم کو وہی نتائج ملیں گے جو چستوں کے لئے مقرر ہیں۔ میری ماں نے اللہ تعالیٰ اس پر بہت بہت فضل کرے۔ مجھے بہت سے مسائل پنجابی زبان میں سکھا دیئے تھے۔ میں ان کو اصول کی طرح یاد رکھتا ہوں۔ ان میں سے مسئلہ تقدیر کے معنی بھی ہیں اور وہ مجھے اب تک یاد ہیں

اتے ہر شے دا اندازہ چاہے بدتے چاہے نیک اللہ تعالیٰ تمہیں مقرر ہے

جیسا کوئی کرے گا ویسا ہی بھرے گا جو آگ کھائے گا انگارے بگے گا

نیکی کرو گے تو نیک نتیجہ ہوگا۔ بدی کرو گے بد نتیجہ ہوگا۔ پھر (۵۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں باپ اور تمام عزیزوں سے بڑھ کر محبت کرنا۔ (۵۲) دوسروں کا ایسا خیر خواہ ہو جیسا کہ اپنا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو کچھ روپیہ بھجتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں کہ جہاں چاہو خرچ کر دو۔ اس کے لئے پھر مجھے بہت ہی سوچنا پڑتا ہے۔ غرض مومن وہ ہے جو اپنے لئے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لئے چاہے۔ (۵۳) نمازوں کو قائم کرے۔ (۵۴) روزے رکھے۔ (۵۵) زکوٰۃ دے۔ (۵۶) استطاعت ہو تو حج کرے (۵۷) پھر مومن وہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ امن میں ہوں (۵۸) مومن زانی، شرابی، چور نہیں ہوتا۔ (۵۹) راستے کے دکھوں کو دور کرنا۔ یہ مومن کا کام ہے اس سے راستوں کی درستی اور صفائی بھی مراد ہے اور یہ بھی کہ کسی مومن مسلمان کے مقصد میں کوئی روک واقع ہو تو اسے ہٹا دینا۔ (۶۰) حیا کرنا مومن کا کام ہے۔ (۶۱) حُبِّ لِلّٰہ یعنی اللہ ہی کے لئے کسی سے محبت کرے۔ (۶۲) بُغْضُ لِلّٰہ کسی سے رنج ہو تو اللہ تعالیٰ کے لئے ہو۔ اپنے نفس کی خاطر نہ ہو۔ (۶۳) زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ (۶۴) دے تو اللہ کے لئے نہ دے تو اللہ

کے لئے (۶۵) انصار سے محبت کرنا (۶۶) کشادہ پیشانی سے پیش آنا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قوم آئی اور اس نے عرض کیا کہ ہمیں ایمان کا مسئلہ بتادو۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان ۲۰ چیز کا نام ہے۔

اللہ پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، رسل پر، جزا و سزا پر ایمان لاؤ۔ ان کو عام مسلمان سمجھتے ہیں مگر ملائکہ پر ایمان لانے کی کیا حقیقت ہے اور میں نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا۔ یہ تمہیں بتاتا ہوں:-

انسان کے اندر ہر وقت دو محرک کام کرتے ہیں۔ ایک کا نام مِلَلْت ہے اور دوسرے کا نام شیطان ہے۔ مِلَلْت نیکی کی تحریک کرتا ہے اور شیطان بدی کی۔ جب مِلَلْت نیکی کی تحریک کرتا ہے تو جو شخص اس تحریک پر عمل کرتا ہے وہ گویا ملائکہ پر ایمان لاتا ہے۔ اگر اس تحریک پر توقف کرتا ہے تو سنت اللہیہ ہے **يَحْوُلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ** (الانفال: ۲۵) لیکن جب وہ اس تحریک پر عمل کرتا ہے تو اس فرشتہ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اس سے تعلق پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے ملائکہ جو اس سے، مِلَلْت سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اس انسان سے تعلق پیدا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ پھر قسم قسم کے ملائکہ اس سے مصافحہ کر لیتے ہیں اور ہر حال میں اس کے موید رہتے ہیں۔ پس نیکی کی تحریک پر عمل درآمد کرنا ایمان بالملائکہ ہے۔

پھر ایمان بالکتاب اور ایمان بالرسول کی حقیقت تو بہت سنی ہے مگر میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں جو ایمان بالرسول کے متعلق ہے۔ ایک مرتبہ ایک معزز دوست نے مجھے تحریک کی کہ فلاں شخص تم سے ملنا چاہتا ہے مگر وہ کسی وجہ سے قادیان میں نہیں آسکتا۔ اس لئے تو اسے خود مل۔ میں اگر چہ جانتا تھا کہ وہ مانے گا تو نہیں۔ مگر میں نے یہ سمجھ لیا کہ حجت ہی پوری ہو جائے گی۔ اس لئے میں گیا۔ اس نے میری تو بہت خاطر مدارات کی مگر مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ علماء کی تحقیر کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ ملائوں کی باتوں کو تو آپ جانے دیں۔ یہ بتائیے کہ رسولوں کے ماننے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ تم کس مذہب کے ہو اور تمہارے نزدیک ایمان کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں! میں اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہوں اور اسی کو ضروری سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ مطلب تم نے کہاں سے سنا۔ اس نے کہا قرآن مجید میں لکھا ہے۔ **يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ** (ال عمران: ۱۱۵)۔ میں نے کہا کہ اور دلیل

تو نہ دوگے۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ اس پر میں نے کہا کہ جس کتاب کا تم حوالہ دیتے ہو۔ اس میں یہ بھی لکھا ہے **أَفْتَوْا مَن بَعْضَ الْكُتُبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ (البقرة: ۸۶)**۔ بتاؤ کہ تم سارے قرآن کو مانتے ہو یا اس کے بعض کو۔ اس نے جواب دیا۔ نہیں میں تو سارے ہی کو مانتا ہوں۔ اس پر میں نے اسے کہا کہ پھر اس میں لکھا ہوا ہے۔ **إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ وَرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا (النساء: ۱۵۱)**۔

اس آیت سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ کو مانتے ہیں اور رسولوں کو نہیں مانتے وہی پکے کافر ہیں۔ پس یہ آیت تو تیرے پکے کافر ہونے کی دلیل ہے۔ اس کو سن کر کہا کہ میں اب رسولوں پر ایمان لاتا ہوں اور اس نے سمجھ لیا کہ رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔

پھر میں نے کہا کہ اسی پر بس نہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور آیت بھی ہے۔ **وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (المؤمنون: ۱۰)** یعنی جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔

غرض پانچ عقائد ہیں جو مذکور ہوئے (۱) لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ (۲) نماز (جو ابھی پڑھی ہے) (۳) روزہ (۴) زکوٰۃ (۵) حج (حج مکہ کا ہوتا ہے)۔ زکوٰۃ ۵۲ تولہ چاندی میں سوا ایک تولہ ساڑھے سات تولہ سونا میں ڈھائی ماشہ۔ تب اس نے کہا کہ یا رسول اللہ پانچ اور ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں (۱) الصبر علی البلاء۔ (۲) والشکر علی الرخاء۔ (۳) والرضاء بالقضاء۔ (۴) والصدق عند العلاء۔ (۵) وترک الشماتۃ الاعداء۔ اس پر پانچ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں الذین یتقون۔ ہر کام میں دیکھ لو کہ اللہ توبہ کہتے ہیں ترک کو۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسری نیکیوں کے ترک کو توبہ نہیں کہتے بلکہ توبہ کہتے ہیں ترک قبیح کو اور یہ فعل ترک علم سے پیدا ہوتا ہے یعنی اس فعل کی قباحت کا علم ہونا چاہئے۔ اس کو ذنب کا علم بھی کہتے ہیں۔ ذنب کی عجیب در عجیب شائیں ہیں۔ ایک عورت یہاں آئی اس نے کہا کہ تو ہمیشہ وعظموں میں کہتا رہتا ہے کہ مصیبت گناہ سے آتی ہے۔ مگر میں نے خدا کا کوئی گناہ نہیں کیا۔ مجھے

پھر کیوں مصیبت آتی ہے۔ وہ میری عزیز رشتہ دار تھی۔ میں نے کہا کہ تمہارے میاں کہاں رہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ تو باہر دور سفر میں ہیں۔ پھر پوچھا کہ انہوں نے کوئی خط تو نہیں بھیجا۔ بولی ہاں! اس پر میں نے کہا کہ تم خود تو پڑھ نہیں سکتی ہو کیا کیا کرتی ہو؟ جواب دیا کہ برقعہ لے کر کسی پڑھے ہوئے کے پاس جا کر پڑھالاتی ہوں اور جو کچھ وہ اس میں وہ حکم کرتے ہیں اس کی تعمیل کر دیتی ہوں۔ میں نے اس کو کہا کہ خط کے پڑھانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے۔ جب آیا لے کر رکھ دیا اس نے کہا کہ یہ تو بری بات ہے۔ ایسا گناہ میں تو کر نہیں سکتی۔ خاوند مجازی خدا ہوتا ہے۔ اس کے حکم کو نہ مان کر گناہ کروں۔ اس پر میں نے اس کو متنبہ کیا کہ حقیقی خدا کی بھی ایک چٹھی آئی ہے۔ اس کا نام قرآن مجید ہے اور چٹھی رساں جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہا قربان جاؤں وہ تو نبی رسول ہیں۔ ان کا تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ پھر اس چٹھی کی کیا قدر کی؟ اس کا تو ایک کلمہ بھی نہ پڑھا اور نہ کسی سے سنا۔ اس سے بڑھ کر گناہ کیا ہوگا؟ تم تو سارے گناہ کی جامع ہو گئی۔ اس پر وہ بہت ہی نادوم ہوئی۔ یہ کہانی میں نے ہنسی کے لئے نہیں سنائی۔ بلکہ اس لئے سنائی ہے کہ علم ذنب کے لئے ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھو یا سنو اور دل لگا کر پڑھو اور سنو۔ میں سچ کہتا ہوں کہ ذنب کا پتہ لگ سکتا ہی نہیں جب تک قرآن کا علم نہ ہو۔ جب تک علم نہیں ہوتا انسان گناہوں پر دلیر ہوتا ہے۔ لیکن جب اسے علم ہو جاتا ہے تب اسے گناہوں سے حجاب پیدا ہو جاتا ہے اور اس سے تحریک ہوتی ہے کہ وہ گناہ چھوٹ جاویں۔ اس سے پھر ندامت پیدا ہوتی ہے اور ماضی کے لئے افسوس کرتا ہے اور حال میں ترک اور آئندہ کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ توبہ ہے۔ پس تَوْبًا

إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ (النور: ۳۲)۔

اس میں سب شامل ہیں اولیاء اور انبیاء بھی۔ ان کی توبہ اور ان کے ذنوب کی حقیقت ہی اور ہوتی ہے۔ میں تم کو ایک بڑے فکر کی بات سناتا ہوں۔ انسان کو ایک بڑی لڑائی کے لئے تیار ہونا چاہئے جو ترک معاصی کی لڑائی ہے۔ پہلے پہل جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ خدا شناسی کو کیا جانتا ہے۔ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا (النحل: ۷۹)۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ تمہیں دودھ پینا نہیں آتا تھا۔ بلکہ یہ کہ تم نیکی بدی کی حقیقت سے محض نا آشنا اور نا واقف تھے۔

صرف دودھ پینے کا خیال تھا جو ایک قسم کی خود غرضی تھی جس میں دوسرا شریک نہیں۔ ننگ دھڑنگ موجود تھے۔ پہلے پہل کھانے پینے کا علم ہوا اور اس سے معرفت بلند نہ تھی۔ یہ بہیمیت تھی۔ اس سے ذرا ترقی ہوئی تو غضب پیدا ہوا۔ ماں نے دودھ دینے میں ذرا دیر کی۔ لگے چلانے اور چیخنے۔ اس کے بعد شہوت آتی ہے۔ اٹھارہ سال کی عمر میں اخلاق پہنچاؤے تو اخلاق فاضلہ کی راہ پیدا ہووے تو ہووے۔ بحالیکہ دشمن پہلے سے موجود ہے۔ کیسا مقابلہ ہے؟

جلق سے نفرت: عمر کے اس حصہ میں بڑے بڑے مشکلات پیش آتے ہیں۔ میں تو خدا تعالیٰ کے بڑے ہی فضل اپنے ساتھ پاتا ہوں۔ میرے سامنے ایک مرتبہ ایک طالب علم نے جلق لگایا تو مجھے متلی ہو گئی۔ اس کے بعد اس کے ساتھ میں نے روٹی کھانا بھی چھوڑ دیا اور اس طرح پر اللہ تعالیٰ نے اس بلا سے جو عام ہے مجھے نفرت دلائی۔ ایسی حالت میں انسان ملکیت کے مقام تو سمجھتا ہے۔ کیا ہے؟ میں بہت کم شعر پڑھتا ہوں۔ یا قریباً نہیں پڑھتا۔ مگر یہاں ایک شعر یاد آ گیا۔

فلا تحسبن هنداً لها الغدر وجدھا سبجیة نفس کل غانیة هند'

ہر ایک انسان غور کرے کہ کیسے مشکلات میں پھنسا ہوا ہے۔ اس کا نفس اس کا مطلوب اور محبوب ہے۔ پھر دوسرے معشوقوں کی بے وفائی کا کیا ذکر؟ فارسی اردو کے تو دیوان معشوقوں کی بے وفائی میں بھرے پڑے ہیں۔ مگر کاش! پڑھنے والے اپنے نفس کی غداری پر ہی غور کرتے تا انہیں معلوم ہوتا کہ وہ کس راہ پر چل رہے ہیں۔ غرض مومن حمد الہی کرتے ہیں۔ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر لکھا ہے۔ عابدون۔

عبادت کیا ہے؟ عبادت کہتے ہیں۔ تعظیم لامر اللہ کو جس میں ریا اور سمعہ نہ ہو۔ درد دل کا اظہار ہو۔ نماز کیسی عبادت ہے؟ ہر عبادت کے دوران میں دوسری عبادت بھی ہو سکتی ہے۔ روزہ میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ مگر نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی حالت میں دوسری عبادت نہیں ہو سکتی۔ نماز مومن کا معراج ہے۔ یہ عبادت کی راہ ہے۔

حامد ہو۔ خدا کے فضل پر راضی ہو جاوے۔ اس کے متعلق ایک مرتبہ میں نے سنایا تھا کہ طبیعت میں الحمد پڑھتے ہوئے روک پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ ہم بہتر بدلہ دیتے ہیں۔ تب میں نے زور سے الحمد پڑھا۔

پھر مومنین کی صفات میں فرمایا۔ المسائحون۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ گھروں میں بیٹھ کر عبادت کرنا۔ دوم ملکوں میں پھر کر تبلیغ کرنا۔ اور بدوں کے برے انجام اور نیکیوں کی کامیابی سے عبرت حاصل کرنا۔

پھر تم رکوع سجود کرنے والے بن جاؤ اور نہ صرف خود نیکیاں کرو بھلائیوں کی فہرست:

بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہو۔ امر بالمعروف میں کیا کچھ واقع ہے۔ لمبا مضمون ہے مگر میں بھلائیوں کی ایک مختصر سی فہرست بتاتا ہوں۔ مجھے حیاتی کی کیا خبر ہے یہ مجمع میری زندگی میں ہو یا نہ ہو۔ مجھے کچھ کہنے کا موقع ملے یا نہ ملے اس لئے سناتا ہوں۔

اول۔ اللہ پر ایمان ہو، دوم بدیوں اور رسوائیوں سے بچنا۔ میں ایک پیشہ طبابت کا رکھتا ہوں جس کے ذریعہ مجھے معلوم ہوا کہ صرف ایک بدی نے دنیا کو کس قدر نقصان پہنچایا ہے۔ کالجوں اور سکولوں سے بچانوںے فیصد ایسے خطوط آتے ہیں جو شہوت کے برے خمیازہ کو ظاہر کرتے ہیں۔ پس عفت اختیار کرو۔ عفت سے صحت جسم ہوتی ہے اور انسان فضولیوں سے بچ جاتا ہے اور پھر سخاوت اور حلم پیدا ہوتا ہے۔ (۳) پھر ایک معروف وقار ہے۔ انسان اپنے آپ کو بیہودہ باتوں سے بچائے اور فحش نہ بولے۔ خصوصاً مجلسوں میں بیہودہ حرکات نہ کرے۔ لوگوں کی عیب چینی میں نہ لگا رہے۔ جلدی جواب نہ دے۔ ٹھٹھا نہ کرے۔ رزیلوں سے صحبت نہ کرے۔ مادر پدر آزاد نہ ہو جاوے۔ بہت سے نوجوانوں چھوٹی عمر کے لڑکوں اور عورتوں نمبر ۹ اور ۱۰ کے بدمعاشوں کی صحبت سے بچے۔ (۴) پھر ایک حیاء ہوتا ہے۔ حیا کلام میں بھی ہوتا ہے۔ آنکھ میں بھی۔ جاہل کندہ نائراش کا نام حیاء نہیں (۵) تواضع ہر ایک کی۔ اہل علم و فضل کی خصوصاً (۶) وفا تعظیم لامر اللہ۔ شفقت علی خلق اللہ۔ (۷) حرص چھوڑ دے اور سستی نہ کرے (۸) قسم قسم کی مصیبتوں پر صبر اور بدیوں سے بچتا رہے۔ یہ اصول ہیں معروف کے ایسا ہی شہوت پر، غضب پر، بزدلی پر غلبہ اختیار کرے۔

منکر کیا ہے؟ منکر میں ہر قسم کا کفر، فسق، فجور داخل ہے۔ اس فسق و فجور سے کئی خاندان تباہ ہو گئے اور قطع نسل، عزت و آبرو کا جاتے رہنا۔ مال، حیا اور جمال کا جاتے رہنا یہی اس کے نتائج ہیں۔ تکبر سے بھی بچنا چاہئے۔ تکبر انسان کو حقائق کے قبول کرنے سے محروم کر دیتا ہے اور لکھنے پڑھنے سے بھی رہ جاتا ہے۔ خصوصاً فیما لا یعنی یعنی یہودہ باتوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہئے۔ ان دکھوں میں بڑا دکھ شہوت اور غضب کا دکھ ہے۔ ان کے کم کرنے کے لئے ہمارے ایک کتاب پڑھ کر مجھے پوچھا ہے کہ لوگ بتاتے ہیں کہ شہوت اچھی نہیں۔ مگر یہ نہیں بتاتے کہ یہ عادت کیوں کر نکل جاتی ہے۔ اس نے تحریک کی ہے۔

شہوت کا علاج: اس لئے میں تم سب کو بتاتا ہوں۔ وہ بھی یہاں بیٹھا ہے۔ شہوت فی نفسہ بری چیز نہیں ہے مگر جب وہ حدود اللہ کے خلاف ہو تو خطرناک ہے۔ بہر حال

اس کے غلبہ کا علاج ہے اور مفصلہ ذیل تدبیریں مفید ثابت ہوئی ہیں:-

اول۔ میں اپنے فن سے شروع کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آتشک اور سوزاک کے کیا نتیجے ہیں۔ ان میں پھنسے ہوئے کیسے دکھی ہیں۔ پاگل ہو جاتے ہیں۔ اندھے، کوڑھی اور نامردی کی تو جڑ ہے یہ بدذاتیوں ہیں۔ ان کے مطالعہ سے فائدہ ہوتا ہے۔

دوم۔ ان کے مرتکب کی اولاد گل جاتی اور عورتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔

سوم۔ شریف اور رئیسوں کے پاس آمد و رفت رکھے۔ وہ لُچوں کو کبھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔

چہارم۔ دیکھے کہ عام بدکاروں اور خلیج الرسن لوگوں کو عام طور پر لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور پولیس ان کی نگرانی کرتی ہے۔

پنجم۔ اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرے اور اچھے لوگوں کی تصانیف کو پڑھے۔

لطیف نکتہ: میرے ایک دوست شاہ جی عبدالرزاق تھے۔ میں عموماً ان کے پاس جایا کرتا تھا مگر

ایک دفعہ کئی دن ان کے پاس نہیں گیا۔ پھر جو میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ نور الدین اتنے دن کیوں نہیں آئے۔ میں نے عرض کیا کہ سستی ہوئی۔ اس پر فرمایا کہ کبھی قصاب

کی دکان پر گئے ہو۔ وہاں، وہاں کچھ دیکھا ہے۔ پہلے مجھے ان کی بات سمجھ میں نہ آئی۔ آخر انہوں نے سمجھایا کہ قضائی جب گوشت کا ٹٹا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد دونوں چھریوں کو باہم رگڑتا ہے۔ اس سے اس کی غرض بظاہر کچھ معلوم نہیں ہوتی۔ مگر ایسا کرنے سے وہ چھریاں درست رہتی ہیں۔ اسی طرح پر انسان کا حال ہے۔ وہ ایک دوسرے انسان کی صحبت سے اس زنگ کو دور کر لیتا ہے جو اس کے قلب پر آجاتا ہے۔ اس لئے میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ کیسا عمدہ نکتہ معرفت ہے جو انہوں نے بتایا ہے۔ بعض وقت انسان کے اندر دکھ ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کی صحبت سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھو کہ رؤساء خواہ کتنے ہی برے ارتکاب کریں مگر بد معاش حرام زادوں کو کبھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ یہ بہت بڑا مضمون ہے۔ اس لئے اس پر زیادہ نہیں کہتا۔

ششم۔ واعظوں کے وعظ اور صلحاء کی کتابوں سے فائدہ ہوتا ہے۔

ہفتم۔ کھانے، پینے، پہننے میں بانکا پن اختیار نہیں کرنا چاہئے۔ جوڑکے بانکے لباس پہننے ہیں۔ انہیں چار خطرناک عادتیں اختیار کرنی پڑتی ہیں۔

حکایت بر سبیل تذکرہ:

ہمارے بھیرہ میں ایک کنجی جوانی نام رہتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا یہ پیشہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک لُچا آدمی محلہ میں سے گزر جاوے تو ناگوار معلوم ہوتا ہے۔ مگر تمہیں کوئی حس نہیں۔ اس نے کہا۔ قربان جاؤں جو لوگ خوش خوراک ہوں، خوش پوشاک ہوں اور اس پرست ہوں اگر وہ کنج نہ بنے تو کیا کرے۔ میں نے کہا۔ خوب است۔

یہ نکتہ بچپن میں ہم نے اس سے سنا۔ یہ گویا ایک مصرعہ تھا۔ اب دوسرا مصرعہ مشنری کمپونڈوں کی صورت میں معلوم ہوا کہ جو لوگ محنت کے عادی نہیں اور اچھا کھانا پہننا چاہتے ہیں۔ سست اور خلج الرسن ہیں۔ وہ اتنا ہی غنیمت سمجھ لیتے ہیں کہ مشن کمپونڈوں میں روٹی ہی مل جاتی ہے۔ غرض جو لوگ کھانے پینے اور پہننے میں تو غل کرتے ہیں۔ آخر بڑی ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر خدا پر ناراض ہوتے ہیں کہ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ کبھی ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں اور پھر دوستوں پر ناراض ہوتے ہیں کہ کیوں قرضے نہیں دیتے؟ یہ خوب یاد رکھو کہ جو لوگ عمدہ کھانے پہننے اور عمدہ لباس کی فکر

میں رہتے ہیں۔ وہ بڑے کام نہیں کر سکتے۔ وہ ان باتوں کو اپنی عزت سمجھتے ہیں مگر میں انہیں ذلیل سمجھتا ہوں۔ اس سے میری مراد یہ نہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دے تو بیشک وہ عمدہ کھائے، عمدہ پہنے مگر ان امور میں تو عمل نہ کرے اور ان باتوں کو مقصود بالذات نہ بنالے۔

ہشتم۔ رزیل قوم سے بھی بچتا رہے۔ کیونکہ اگر انہیں دو چار جوتے بھی لگ جاویں تو پرواہ نہیں ہوتی۔

نہم۔ ایک نے کہا ہے کہ موت کو یاد رکھو۔

دہم۔ ایک نے لکھا ہے کہ شغل میں رہو۔ میں جب تک آنکھیں نیند سے گرا نہ دیں، مشغول رہتا ہوں۔

یازدہم۔ نشہ اور راگ سے بچے۔

دوازدهم۔ اپنی کمزوری اور خدا تعالیٰ کی گرفت سے ڈرے۔ ان چیزوں کے مطالعہ سے میں سمجھتا ہوں شہوت کا علاج ہوتا ہے۔ مجھ پر وہ زمانہ گزرا ہے اور میں اس میں صاحب تجربہ ہوں۔ غضب کے لئے بھی یہی علاج ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہے۔ اول۔ اللہ کی صفت **مُحَرِّجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ** (البقرة: ۷۳) پر ایمان ہو۔ اس صفت پر ایمان سب گناہوں سے بچنے کے لئے مفید ہے۔ جب ایمان ہوگا کہ چھپ کے چوری کروں گا تو ظاہر ہو جائے گی۔ اسی طرح دوسرے گناہوں پر قیاس کرو۔ (۲) پھر یہ مطالعہ کرے کہ خدا تعالیٰ مجھے بھی پکڑ سکتا ہے۔ (۳) پھر یہ سمجھے کہ میں اگر اس بدکاری کا مرتکب ہوتا تو لوگ کیا مطالعہ کرتے۔ (۴) مسکرات کا ترک کرے۔ (۵) سپاہیوں سے کم تعلق رکھے۔ (۶) انجام کو سوچے۔ (۷) طبیعات کو پڑھے۔ (۸) اخلاق پڑھے۔ (۹) سیاست کی کتابوں کا مطالعہ کرے۔ (۱۰) صوفیوں کی تصنیفات بھی پڑھے۔ یہ مفید ہیں۔

اب ایک حرف رہ گیا۔ والـحافظون لحدود اللہ۔ یہ بھی اپنی ذات میں بڑا بھاری مضمون ہے۔ عقائد میں (جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے) غلو نہ کرے۔ وہ کیا ہے۔ جیسا کہ نصاریٰ نے کیا۔ دَعَا مَا ادْعَتَهُ النَّصَارَىٰ فِي نَبِيِّهِمْ۔ اسی بدعت کا نام غلو ہے۔ اس لئے قرآن مجید نے ہدایت کی ہے۔ لَا تَعْلَمُوا فِي دِينِكُمْ (النساء: ۱۷۲)۔

میں نے اسی وجہ سے اپنے امام کی قبر کو پریشان نہیں بننے دیا کہ تم غلو نہ کرو۔ تم جاننے ہو کہ پہلے مسیح کے سبب سے فتنہ ہوا ہے۔ پس اس سے عبرت پکڑو۔ میں پھر تمہیں کہتا ہوں کہ تم غلو نہ کرنا۔ غلو عقائد میں بھی بُرا ہے۔

میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ علم بڑی دولت ہے۔ علم کا مزہ ان پڑھ نہیں جانتے مگر ان پڑھوں کے سارے مزوں کو پڑھے ہوؤں نے دیکھا ہے۔ ہم نے تین شادیاں کیں۔ رؤساء کے پاس رہے ہیں۔ حکومت کا مزہ دیکھا ہے۔ دولت کو کمایا ہے۔ میرے ایک دوست تھے مولوی عبدالکریم مرحوم۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نور الدین جو اٹھتا ہے۔ انہوں نے حضرت صاحب کی خدمت میں یہ خواب بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ نور الدین کی بابت معلوم نہیں کہ وہ لے گا یا دے گا یعنی اس کے رزق کا معاملہ انسانی فہم سے بڑھ کر ہے۔ اسی طرح ایک ہندو نے مجھے کہا کہ تمہارے پاس بہت سا روپیہ ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں ہے تو سہی۔ مگر کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ روپیہ بینک میں ہو تو منی آرڈر کے ذریعہ آنا چاہئے۔ یہ ایسا علم ہے کہ کسی کو پتا نہیں لگ سکتا۔ خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ خاص فضل کیا ہے کہ وہ خود مجھے دیتا ہے اور جتنا میں چاہتا ہوں یا مجھے مطلوب ہوتا ہے دیتا ہے۔

علم عجیب چیز ہے مگر اس میں ایک تو سخت تعقیر کرتے ہیں۔ جس کو کہتے ہیں کہ ہندی کی چندی نکالتے ہیں تاکہ وہ محیط ہو جاویں۔ یہ سخت مضر ہے کیونکہ محیط ہونا تو صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس زمانہ میں یہی کوشش کی جاتی ہے اور اسی وجہ سے عربی دانوں کی بڑی تحقیر کی جاتی ہے جو میں سخت ناپسند کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لِمَ تَحَابُّونَ (ال عمران: ۶۶) عربی کی طرف تم کو خود بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ اس لئے کہ تمہارے دین کی کتاب جو خدا تعالیٰ کی کتاب ہے۔ وہ عربی میں ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس زبان کو اپنا کلام نازل کرنے کے لئے پسند کیا۔ پس ایسا نہ ہو کہ اس زبان کے جاننے والوں کی تحقیر کا وبال پڑے۔ غرض علم میں تعقیر کی بھی حاجت ہے تو اس کے لئے ضرورت ہے انتخاب کتب کی اور پھر ضرورت ہے انتخاب معلمین کی اور پھر ضرورت ہے عمل کی۔ اس سے معرفت پیدا ہوتی ہے۔ وہ علم جس کے ساتھ عمل نہیں بیکار ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ آج کل کے علماء (الامام اللہ) مال کے دینے کی لوگوں کو تو سناتے ہیں۔ مگر خود خرچ نہیں کرتے۔ مگر خدا کا فضل ہے

کہ تم کو سنانے والا ایسا نہیں۔ اس نے اگر چندہ کا ذکر کیا ہے۔ تو سولہ سو اپنے چندہ کا پہلے فیصلہ کر لیا ہے۔ عبادت میں بھی تو غلو نہ ہو اور وہ یہ ہے کہ رہبانیت اختیار نہ کرے۔ یا ہمیشہ روزے ہی رکھے۔ اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمیشہ مد نظر رہنا چاہئے۔ معاملات اور عادات میں تکلف کو چھوڑ دے۔ میں لکھنؤ میں پڑھتا رہا ہوں اور تکلف کی حقیقت سے خوب واقف ہوں کہ زبان، خوراک، کلام، لباس میں کیسا تکلف تھا۔ دلی اور لکھنؤ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں دلی میں پڑھا نہیں ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ نذیر حسین سے کچھ پڑھوں اور کئی بار قصد کیا مگر موقع ہی نہ ملا اور اس کی حکمت مجھ پر اب کھلی۔ جب اس نے حضرت صاحب پر کفر کا فتویٰ دیا۔ اور دلی کے قدام میں سے میں نے شاہ ولی اللہ صاحب، حضرت محمد اسماعیل صاحب، حضرت شاہ عبدالغنی صاحب اور حضرت غلام علی صاحب رحمہم اللہ سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔

پھر طہارت و نجاست میں لوگ سو اس کرتے ہیں۔ اخلاق میں عجز و کسل سے کام لیتے ہیں۔ یہ مفید نہیں۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو وارث نبی کریم کا فرمایا ہے۔ مگر ان کی جو عزت کی جاتی ہے وہ تم جانتے ہو۔ اس لئے کہ انہوں نے علم کا اصل منشا چھوڑ دیا اور لا الہ الا اللہ کے مفہوم سے دور جا پڑے۔ الفاظ کو یاد کرتے ہیں اور معانی کو چھوڑتے ہیں۔ میرا ایک نہایت پرانا مخلص دوست ہے۔ اس نے ایک مرتبہ دعا کی۔ اس کے پاس سورہ پو بیہ جمع ہو گیا۔ پھر دعا کی کہ سورہ پو بیہ جمع نہ ہو۔ اس کا بیٹا ہے۔ اس نے کبھی اس دعا کی قدر نہیں کی۔ اس کا سر کیا ہے؟ وہ مزہ جو خدا کو راضی کرنے کا ہے اس نے نہیں پایا۔

علماء کی تو یہ حالت ہے۔ صلحاء میں صرف دعوے ہیں۔ کافيوں کے عجیب عجیب الفاظ یاد کر رکھے ہیں مگر منشاء الہی سے دور ہیں جو قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا (الشَّمْسُ ۱۰) میں مذکور ہے۔ اس طرح پر ان کی حالت بھی بگڑی ہوئی ہے۔

لوگ لیکچروں میں عموماً تین باتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ مشاقی سے الفاظ جمع کرتے ہیں اور کبھی ہنسا دیتے ہیں اور کبھی رُلا دیتے ہیں۔ سو میں اگر اس کے ماتحت اپنا لیکچر رکھتا تو مجھے بہت سے الفاظ یاد ہیں اگرچہ میں نے ان کو لیکچر دینے کے لئے کبھی یاد نہیں کیا۔ تاہم مجھے یاد ہیں اور میں اس

طرز پر حضرت صاحب کی وفات کا واقعہ بیان کرتا تو میں نے چونکہ مرثیہ کی بہت سی کتابیں پڑھیں اور میں ان طریقوں کو جانتا ہوں اور خنساء کا دیوان میں نے پڑھا ہے۔ میں تمہیں رُلادیتا مگر میں جانتا ہوں اس سے کچھ فائدہ نہیں۔ وہ بات جو خدا کو پسند ہے وہ کچھ اور ہے۔ خدا تعالیٰ کو ایک گریہ پسند ہے مگر وہ الفاظ سے پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی راہیں اور ہیں۔

اور علاوہ بریں میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے کام کسی کے بقا اور عدم بقا پر موقوف نہیں۔ وہ ایک شخص کو نبوت دے کر بھیجتا ہے۔ پھر جبکہ اس کے علم میں وہ کام ختم کر چکتا ہے۔ تو اسے واپس بلا لیا جاتا ہے۔ بعض انسان ان کے واپس بلانے سے ابتلا میں پڑتے ہیں اور وہ اپنی جگہ اس کو قبل از وقت سمجھتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت عمرؓ جیسا انسان بھی کہتا ہے کہ ابھی وفات نہیں ہوئی کیونکہ ان کے نزدیک ابھی بہت سے کام باقی تھے۔ مگر خدا تعالیٰ اپنے کام کو خوب جانتا ہے۔

غرض میں نے اپنے اس لیکچر میں کسی ترتیب کو مد نظر نہیں رکھا۔ دوسرا مقصد خطبوں میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے اغراض کو بیان کیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب بھان متی کا تماشا ہوتا ہے تو آخر میں وہ کہتا ہے کہ ایک اور بڑا کھیل باقی ہے مگر میں اس کو دکھاؤں گا۔ جب کچھ پیسے جمع ہو جائیں مگر خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر ظاہر کرتا ہوں کہ میں اپنی کوئی غرض تم سے نہیں رکھتا کہ تم سے روپیہ لے کر جیب میں ڈال لوں۔ جس مولیٰ نے مجھے ایسی عجیب آنکھ، ناک، کان، زبان اور دوسرے اعضاء دیئے۔

پھر اس نے مجھے معزز قوم میں پیدا کیا۔ ماں بھی معزز قوم سے تھی اور باپ بھی۔ یہ سب میرے مولیٰ نے اپنے فضل سے مجھے دیا۔ پھر علم دیا اور اس کتاب سے محبت دی جو اس کی کتاب اور اس کا کلام ہے۔ پھر اس کا فہم دیا اور اس کے متعلق سامان دیا۔ ہزاروں، لاکھوں کتابیں میری آنکھوں سے نکلیں اور خدا ہی کے فضل سے دماغ میں موجود ہیں۔ پھر جس خدا کے اتنے بڑے فضل مجھ پر ہیں وہ اس آخر عمر میں مجھے کسی کا محتاج کرے گا؟ کبھی نہیں اور کیا پھر میں خدا کے فضلوں کا ایسا تجربہ کار ہو کر اب

لعنت کی موت مرنا چاہتا ہوں کہ تم سے کچھ فریب سے حاصل کروں۔ نعوذ باللہ من ذالک

اس کے بعد اب میں دو غرضیں پیش کرتا ہوں۔ اول جو حقیقی غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاوے۔ ہر ایک چیز دو طرف حرکت کرتی ہے۔ ایک اوپر کو اور دوسری نیچے کو۔ جو لوگ پتنگ اڑاتے

ہیں پہلے تھوڑا سا زور لگاتے ہیں۔ جب وہ اوپر چڑھتے ہیں تو پھر اس زور سے چلتے ہیں کہ بعض وقت ان کا ضبط کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ اپنی طاقت سے اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے۔ دوسری حرکت نیچے کی ہوتی ہے۔ جیسے ڈول کو جب کنوئیں میں لٹکاتے ہیں تو چرخی اول آہستہ پھر ایسی تیز ہو جاتی ہے کہ ٹھہر نہیں سکتی۔ پس میں تمہیں ابھی ابتدائی حالت میں جو پتنگ چڑھانے کی ہوتی ہے زور لگانے کو کہتا ہوں۔ جب یہ اوپر چڑھے گا تو پھر تو اس کا ضبط بھی مشکل ہو جائے گا۔ جس طرح پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس وقت جو مٹھی بھر جو دے گا اس کا اجر اتنا بڑا ہے کہ آگے ایک قوم آئے جو اگر اُحد کے برابر بھی سونا دے گی تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔

میری جو غرضیں ہیں وہ سراسر تمہاری بہتری کے لئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم لوگ تعلیم حاصل کرو اور تعلیم سے میری غرض یہ ہے کہ حقائق سے آگاہی ہو اور پھر اس سے متمتع ہو جاؤ۔

حقیقتیں دو ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ سے محبت کرو۔ دوم علم کا ذوق ہو۔ اس کائنات کو دیکھ کر کس طرح پر عظمت الہی کے لئے جوش اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑا مضمون ہے اور یہ میرے دل میں آیا ہے۔ میں اس کو اعلیٰ درجہ کا مضمون سمجھتا ہوں۔ اگر موقع اور توفیق ملی تو بیان کروں گا۔ میں اسی کو اصل سمجھتا ہوں۔ یہ جو کچھ کہا ہے اس کی فرع ہے اور اسی میں سے نکلا ہے۔

مخلوق الہی کی بہتری کے وسائل سوچو اور ان پر عمل کرو۔ ہمت بلند رکھو اور اسی راہ پر قدم مارو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ تحمل سے حلم سے، شجاعت سے ترقی کرو۔

مسئلہ تعلیم: پھر یاد رکھو کہ تعلیم بڑی مشکلات کے نیچے ہے۔ ایک تعلیم ظاہری ہے۔ حکومت

حتی الوسع تعلیم میں دلچسپی لیتی ہے مگر تعلیمی راہ میں کچھ ایسے مشکلات آرہے ہیں کہ حکومت ہاتھ کھینچ رہی ہے۔ فیس دن بدن بڑھ رہی ہے اور تعلیمی ضروریات گراں ہو رہی ہیں۔ میرے زمانہ تعلیم میں ایک اعلیٰ سے اعلیٰ استاد پانچ روپیہ ماہوار پر آجاتا تھا مگر اب سو روپیہ میں بھی اعلیٰ ماسٹر کے ملنے میں دقت ہے۔ اسی طرح سے اور تمدن کی مشکلات نے بھی اس راہ کو مشکل بنایا ہے۔ مثلاً شادی وغنی کے معاملات کو ہی دیکھو کہ باوجود یہ کہ باپ کی جائیداد تقسیم در تقسیم ہو چکی ہے۔ مگر اولاد ہے کہ اب بھی ہزار بیگھ کی پیداوار ہونے والے اخراجات کو اب دو سو بیگھ کی آمدنی پر

بھی قائم رکھنا چاہتی ہے۔

غرض ظاہری تعلیم کی وہ حالت ہے۔ باطنی تعلیم کو بھی اسی پر قیاس کرو۔ تم لوگ کس قدر روپیہ خرچ کر کے یہاں آئے اور یہاں کے اخراجات الگ ہیں۔ غرض کیا تھی۔ ایک روحانی سبق کا حاصل کرنا۔ پھر جو چندے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں کہ سالانہ دو، ماہوار دو، یکمشت دو۔ غرض جس رنگ میں دیکھو گرانی بڑھ رہی ہے۔ شادیوں کے اخراجات بڑھ رہے ہیں۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم فکر کرو اور بہت فکر کرو۔ ظاہری تعلیم بھی ہمت بلند اور استقلال چاہتی ہے اور باطنی تعلیم بھی۔ میں تو اس وقت بھی اپنے ماں باپ کو دعا دیتا ہوں۔ وہ اس وقت بھی دو روپیہ یومیہ میری تعلیم کے لئے استاد کو دینا دو بھرنہ سمجھتا تھا اور وہ ایسی ہمت بلند رکھتے تھے کہ مدین چندن نام ایک ہندو تھا جو کوڑھی ہو گیا۔ وہ عالم آدمی تھا اس کو باہر جامن کی جھنگی میں رکھا گیا۔ میرے والد اس کے پاس گئے اور کہا کہ میں اپنی آمدنی کا نصف تمہیں دے دوں گا۔ میرے بچے کو پڑھاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ کوڑھی ہو جاوے گا۔ خوبصورت بچہ ہے۔ کیوں اس کی زندگی کو ہلاکت میں ڈالتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر مدین چند جتنا علم پڑھ کر کوڑھی ہو جاوے کچھ پرواہ نہیں۔ غرض وہ اولاد کی تعلیم اور تربیت کے لئے بڑے بلند حوصلہ تھے۔ میں کوئی جنازہ نہیں پڑھتا جس میں اپنے والدین کے لئے بڑی بڑی دعائیں نہیں کرتا۔ میں جب خیرات کرتا ہوں تو ان کے لئے بھی کرتا ہوں۔ اپنے بچوں کے لئے تم ایسے باپ بنو۔ وہ ایسے بلند ہمت تھے کہ اگر وہ اس زمانہ میں ہوتے اور انہیں خبر ہوتی کہ انگریزی عمدہ چیز ہے تو وہ مجھے امریکہ بھیج دیتے۔ پھر جب میں نے پڑھنے کا ارادہ کیا تو کہا کہ اول ماں کو خبر نہ دو اور دوسرے اتنی دور جاؤ کہ اگر ہم مرجاویں تو تمہیں خبر نہ ہو اور خبر ہو، تو جلد آنے سکو۔ میں بخاری پڑھتا تھا جب ان کی وفات کی خبر آئی۔ میں نے کہا۔ مولا کریم! میں یہ باغ وقف کرتا ہوں۔ غرض روحانی اور ظاہری تعلیم میں کوشش کرو۔ لوگ کہتے کہ بعض نے لڑکے بھیجے اور کوئی کمزوری دیکھ کر کہا۔ تعلیم اچھی نہیں ہے۔ یہ غلطی ہے۔ عام حالت دیکھنی چاہئے۔ تعلیم میری اس غرض کا ایک شعبہ ہے اور اس کے پورا کرنے کے لئے بلند حوصلگی اور روپیہ کی ضرورت ہے۔ اگر روپیہ نہیں تو دعا ہی کرو جو لوگ متمول ہیں وہ فیاضی سے کام لیں اور مستقل مزاج ہوں۔ اب

میں مختصر کرتا ہوں۔

میں نے بڑی محنتوں سے قرآن مجید سنانا چاہا مگر باوجود خرچ اموال مجھے اس قدر کثرت سے سننے والے نہ ملے۔ تاہم میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری ہمیشہ یہی سناتا رہا۔ یہاں تک خدا تعالیٰ نے یہ فضل کیا اور ایک کثیر جماعت سننے والوں کی پیدا کر دی۔ یہ اس کا فضل ہے۔ **وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (الفاطحة: ۵)** کے ذریعہ آتا ہے۔ پس تم میں سے ہر ایک اس کا مستحق ہے کہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرے۔ پس ایک غرض یہ ہوئی کہ تعلیم دلاؤ یا حاصل کرو یا روپیہ دو یا دعا کرو۔

دوسری بات یہ ہے کہ بچے سرائے اور قازان میں عربی کے مدارس کھل گئے ہیں اور مصر نے علم کا سمندر اگل دیا ہے۔ ادھر ندوۃ العلماء اسی فکر میں ہے۔ کانپور میں الہیات کا مدرسہ کھل چکا ہے۔ تم اس کی فکر کرو۔ میں نے اپنے امام سے ایک بات پوچھی کہ کالجوں میں دہریت پھیل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ہزار برس کے بعد آنے والے چاند کو دیکھ رہا ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ دہریہ بنتے ہیں بے دین بنتے ہیں مگر یہ تختی صاف ہو رہی ہے۔ تم اچھا نقش بٹھانے والے ہو گے تو بٹھاؤ گے۔ ہم جھوٹے نہیں اور آخر لوگ وہی مانیں گے جو ہم اس وقت منوانا چاہتے ہیں۔ اس لئے ان باتوں کی پرواہ نہ کرو۔

اس وقت بعض ناعاقبت اندیش کہتے ہیں کہ عربی سے کیا ہوتا ہے؟ انہیں عربی کی قدر نہیں۔ اس لئے کہ کالجی تعلیم نے انہیں کسی اور طرف پھینک دیا ہے۔ مجھ سے پوچھو کہ عربی سے کیا ہوتا ہے۔ عربی سے قرآن مجید آتا ہے۔ عربی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت آتی ہے اور آپ کی ہدایات کا علم آتا ہے۔ عربی سے حقیقی آثار صحابہ تابعین کے پہچانے جاتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ عربی پڑھے ہوئے ذلیل ہیں وہ بے وقوف خود ذلیل ہیں۔ انہیں کہو کہ تم نے علم نہیں پڑھا۔ مگر اب علماء کو ضرورت سمجھ میں آگئی ہے اور وہ باخبر ہو چلے ہیں۔ سجادہ نشینوں کو بھی اپنے تنزل کی خبر ہو گئی ہے اور وہ بھی اس فکر میں ہیں کہ کچھ علاج کریں۔ مگر تمہارا سجادہ نشین زمانے کے حالات سے خدا تعالیٰ کے فضل سے پہلے سے باخبر ہے۔ اس لئے میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ عربی پڑھنے میں کوشش کرو۔ جو تدبیر سمجھ میں آوے جو کوشش ہو سکے کرو۔ مگر کرو ضرور۔ پھر یاد رکھو کہ تعلیم کا اصل منشاء وحدت کا ہے۔ اگر تمہارے دلوں میں رنج اور کدورت ہوگی تو خدا کے مقبول نہیں ہو گے۔ اس کا

علاج صبر اور دعا ہے۔

غرض تعلیم حاصل کرنا تمہارا مقصود ہو۔ دعا سے ہو۔ تقریر سے ہو۔ خوش معاملگی سے ہو۔ تعلیم روحانی کی خاطر لنگر خانہ مہمان خانہ، تالیف، خط و کتابت، آنے جانے والوں کے لئے مروت کی راہ تھی۔ یہ لنگر تعلیم روحانی کا مدرسہ ہے۔ اب اس کے ذریعہ تعلیم ہوتی ہے یا نہیں۔ تم خود موجود ہو اور میرا آج کا بیان گواہ ہے۔ پھر ایک ذریعہ میگزین ہے۔ اس کے ساتھ تین مشکلات ہیں۔ ایک ہی مضمون لکھتا ہے۔ چھپواتا ہے اور شائع کرتا ہے۔ وہ انسان ہے خدا نہیں۔ اس سلسلہ میں ضرورت ہے کہ کوئی اور اس کے ساتھ شامل ہو۔ پھر لنگر کے ساتھ ضرورت پڑی کہ یتامی، مساکین اور مہاجر آویں۔ اس کے اندر ہی اندر ہائی سکول، الحکم و بدر کی ضرورت پڑ گئی۔ پھر ہمیں واعظوں کی ضرورت ہے۔ میں درِ دل سے کہتا ہوں کہ ایسے واعظوں کی ضرورت ہے جن کا منشاء خدا کو راضی کرنے کا ہو۔ ایسے واعظ دو طرح سے ہو سکتے ہیں۔ دعا سے یا نگرانی سے۔ آپ لوگ دور رہتے ہیں اور اس وجہ سے شاید ان مشکلات سے واقف نہ ہوں۔ مگر جو یہاں ہیں انہیں علم ہے۔ ایک نادان نے مجھ پر اعتراض کیا کہ حضرت صاحب ایسا لباس پہنتے ہیں یا بادام روغن کا پلاؤ کھاتے ہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ ہمارے ہاں حلال ہے اور حکم ہے **كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ الْبَقَرَةِ** (البقرہ: ۵۸)۔

شیعوں، آریوں کی طرح نکتہ چینوں کی طرف نہ جھکو بلکہ ہماری ضروریات اور اغراض میں ہمارے ساتھ ہو جاؤ۔ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ نیا کپڑا بناؤ تو پرانے یہاں بھیج دو۔ خواہ وہ پھٹا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ جو ٹاٹو ٹاٹا ہوا ہو یہاں بھیج دو۔ وہ کام آسکتا ہے۔ پھٹے اور دھلے ہوئے کپڑے عورتوں کے پوتروں ہی کے کام آسکتے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ مفید ہے۔ اگر تم اپنے بچے کی تعلیم کے لئے روپیہ خرچ کرتے ہو تو اس کے صدقے میں تھوڑا سا غریب اور مسکین بچوں کے لئے بھی دو۔

ان اغراض کے بعد ایک اور بات ہے۔ جانتے ہو میں نے امامت کا دعویٰ نہیں کیا مگر میرے خدا نے تمہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ تم میرے ہاتھ پر بک جاؤ۔ اس کا فضل ہے۔ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے سوال کیا کہ میں کون ہوں؟ وہ حیران ہوئے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ تم یہ جواب دو کہ تو مملہ کا باشندہ ہے۔ تیری قوم نے تجھے شہر سے نکالا۔ ہم نے تجھ کو اور

تیرے ساتھ والوں کو جگہ دی۔ ہم تیرے سینہ سپر ہوئے اور انصار۔ تم یہ جواب دے سکتے ہو۔ پھر انصار! تم یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہم پر ہوا کہ اللہ کا رسول ہمارے گھر میں آیا اور ہمارے گھر میں اللہ کی وحی آنے لگی۔

اسی طرح پر میں تم سے کہتا ہوں کہ میں کون ہوں؟ میں ایک انسان تم میں سے ایک ہوں۔ کون ہوں؟ جس نے اپنا وطن چھوڑا تھا۔ تم میں سے بھی بعض نے چھوڑا مگر مجھے حضرت امام نے فرمایا کہ وطن کا خیال نہ کرنا۔ میں نے نہیں کیا۔ گھر تک کی خبر نہیں لی۔ ایک بات بڑھ کر کی ہے کہ بیٹے کے لئے ایک پیسہ کا ورثہ نہیں چھوڑا۔ اس لئے کہ اس کے باپ کو مخفی راز سے ملا۔ اسے بھی ملے گا اور ضرور ملے گا یہ میرا یقین ہے۔ تم میں سے ایک ہوں۔ تم کہہ سکتے ہو کہ ہم نے تجھ کو نمبر دار کیا اور تیری بیعت کی ہے۔ مگر سچ یہ ہے اور تم بھی سمجھ سکتے ہو کہ میں لا الہ الا اللہ پر سچا ایمان لایا ہوں اور میں دنیا کی رضا کا طالب نہیں۔ اللہ کی رضا کا طالب ہوں کیونکہ میری ضرورتیں ہر آن نئی ہیں۔ پس اگر اس کی رضا کا طالب نہ بنوں تو پھر ایک دم ہی میں ہلاک ہو سکتا ہوں۔ اس نے آپ میری تربیت کی اور یہ بھی میری تربیت کا ایک پہلو ہے۔ پس تم اگر چاہو اور خدا تعالیٰ کا فضل تمہارے شامل حال ہو تو یوں سمجھ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمہیں ایسا شخص دیا جو تمہارے لئے ایک درد مند دل رکھتا ہے اور تڑپ تڑپ کر دعائیں کرتا ہے۔ دیکھو! یہ غلط ہے کہ تم نے میری بیعت کی۔ میرے مولیٰ نے تمہیں ادھر جھکا یا۔ تمہیں میری فرمانبرداری ضروری ہے۔ میں تمہارا سکھ چاہتا ہوں۔ جن دعاؤں کو میں نے کبھی نہیں کیا۔ تمہارے لئے کرتا ہوں۔ پھر آخر میں کہتا ہوں کہ صمد نام سے اجتماع کرو۔ ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کی بھلائی کے لئے دعا کریں کہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے لئے تیار ہو۔

اس کے بعد آپؐ نے مولوی حسن علی صاحب مرحوم کی کتاب تائید حق اور سید عبدالحی عرب کی کتاب اوامر و نواہی قرآن مجید کے لئے تحریک کی اور اب بھی جن لوگوں تک یہ تحریر پہنچے۔ ان کا فرض ہے کہ حضرت امامؑ کی حکم کی تعمیل کی خاطر ان کتابوں کو منگوائے۔ تائید حق کی قیمت ۲/۱۱ اور اوامر و نواہی کے ۹/۱ ہیں۔ (الحکم ۲۱ مارچ ۱۹۰۹ء صفحہ ۱ تا ۵۶)



فلسفہ حُب

﴿تقریر فرمودہ ۲۸ دسمبر ۱۹۰۸ء بعد نماز ظہر و عصر﴾

اشھد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشھد ان محمداً عبده و رسوله

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا (الجمعة: ۱۱)

اللہ جل شانہ کے عبادت میں قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے۔ میں نے پرسوں وعدہ کیا تھا کہ جو کچھ میں نے آج کہا ہے اس سے بڑھ کر کوئی بات کہنے کا ارادہ رکھتا ہوں اگر توفیق اور وقت اور فرصت ملے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے سبھی کچھ دے دیا ہے۔ اس لئے میں اس فضل کے شکر میں آج اپنا وعدہ کو پورا کرتا ہوں۔

اب تمہیں تعجب ہوگا کہ کیا کہا گیا تھا۔ بہتوں کو تحریریں پہنچ جاوے گی اور انہیں یاد آ جاوے گا جو کچھ کہا گیا تھا۔ بہتوں کو اب بھی یاد ہوگا۔ تاہم پھر میں آج یاد دلاتا ہوں۔ میں نے اپنی بچھلی تقریر کو لا الہ الا اللہ سے شروع کیا تھا۔

(حضرت خلیفۃ المسیح نے ابھی تقریر شروع ہی کی تھی کہ سامنے سے ایک سکھ پیش ہوا۔ اسے دیکھ کر حضرت نے فرمایا کہ اس کا ایک بھائی تھا۔ جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ وہ فوت ہو گیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس اپنے بھائی کو مرتے وقت کہہ گیا کہ نام دھاری سکھ ہو کر مسلمانوں سے نکل جائیو۔ اب یہ اسی دھن میں پھرتا ہے۔ یہ عبادت قدرت ہیں۔)

میں نے بتایا تھا کہ اول اول اللہ تعالیٰ کی توحید اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ پھر بتایا کہ اگر ماں باپ

اچھے ہوں اور صلحاء کا کنبہ ہو تو تربیت میں فائدہ پہنچتا ہے اور آئندہ زندگی پر اس کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ اسلام کی تعلیم کا خلاصہ ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب سمجھ کر اس پر استقامت اختیار کی جاوے

اور ہر وقت اس کی عظمت و جلال کا اظہار کرتے رہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی وحی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہی تھی۔ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي (العلق: ۲) یعنی تو اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے انسان کو ادنیٰ چیز سے پیدا کیا اور جو اکسرم ہے۔ اب دیکھو کہ انسان کو ایک ادنیٰ چیز سے پیدا کر کے کس اعلیٰ مقام پر پہنچایا۔ پس تو گویا اسی کا نام لئے جا۔ وہ قلم کے ذریعہ بھی انسان کو علم سکھاتا ہے۔ پھر دوسری وحی جو ہوئی وہ یہ تھی يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبِّكَ فَكَثِيرٌ (المدثر: ۲۲) اس میں بھی یہی ہدایت ہوئی کہ تو اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ ایسی عجیب اور کامل طور پر اس حکم کی تعمیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اب تک روئے زمین پر پانچوں وقت اللہ اکبر پکارا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ اس کے بعد جنت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ پھر حدود اللہ کا بیان کیا۔

اب عامی رنگ کا مسلمان کہہ سکتا ہے کہ اس کے سوا بڑھ کر کیا چیز ہے۔ مگر میں وہ اب پیش کرتا ہوں۔ اس لئے میں بہت ہی پسند کروں گا کہ چند منٹ تم اس کے سننے میں لگاؤ۔ کیا اس لئے کہ مضمون کیسا عجیب ہے؟ اور کیا اس لئے کہ کہنے والا کون ہے؟ کیا اس لئے کہ سننے والے کون ہیں۔ مضمون کیا ہے؟

الْحُبُّ: الْحُبُّ کیا چیز ہے؟ اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اِغْرُحْ ہوگی تو لا اله الا الله کی ضرورت ہوگی۔ اِغْرُحْ ہوگی تو انبیاء، اولیاء اور پاک کتاب کی بھی اتباع کریں گے۔ اگر یہ حُب نہ ہوگی تو پھر یہ اور رنگ کی ہوگی اور کفار کا اتباع کریں گے۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ حُب بڑی نعمت ہے۔

یہ ایک قوت ہے جو دل میں توجہ کی صورت میں پیدا ہوتی ہے اور جس کے دل میں

پیدا ہوتی ہے وہ اس توجہ کے ذریعہ لذت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ محبت وہ ہے جو توجہ کرتا ہے اور محبوب وہ ہوتا ہے جس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اب حب، محبت اور محبوب کے معنی سمجھ لو۔ جب تک یہ

کشش ہے جو دل سے اٹھتی ہے اور پھر اس کے ذریعہ شوق، توجہ، مال و زر اور دوسرے اسباب لذت کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے محبوب جیسا کہ میں نے بتایا ہے ملذذ چیز کا نام ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے لذت پیدا ہوگی اور محبت وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ بات پیدا ہو اور یہ کشش کی لہراٹھے۔ اب ہم لا الہ الا اللہ بھی کسی محبت کے جوش اور جذبہ سے کہتے ہیں۔ اگر یہ کوشش روح میں نہ ہوتی تو ہم کو لا الہ الا اللہ کی نہ تو توفیق ملتی اور نہ وہ ہمارے لئے باعث لذت ہوتا۔

حُب ہی ہوتی ہے جو انبیاء علیہم السلام کو انتھک کوششوں کے لئے تیار کرتی ہے اور پھر اسی حُب کا جوش ہوتا ہے جو ہم ان کی اطاعت کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ حُب ہی ہے جو انسان کو مومن پھر صدیق بناتی ہے اور ایسے صدیقوں کو انبیاء سے جا ملاتی ہے۔

حُب ہی ہے جو شہداء کو سربکف کر کے خدا تعالیٰ کی راہ میں لئے پھرتی ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے کہ اس نے ایک جنگ میں پوچھا کہ جنت کتنی دور ہے۔ وہ ایک کھجور کھا رہا تھا۔ جب اسے کہا گیا کہ ایک قدم تو وہ فوراً کھجور ہاتھ سے پھینک کر آگے بڑھا کہ اس کے کھانے میں دیر لگتی ہے۔ یہ جوش اور یہ کشش اسی حُب کا ایک کرشمہ تھا۔ اب جبکہ یہ معلوم ہو گیا کہ حُب کیا چیز ہے تو سوال ہوتا ہے کہ حُب پیدا کس طرح ہوتی ہے؟

حُب کے پیدا ہونے کی عجیب در عجیب راہیں ہیں مگر پانچ ایسی راہیں ہیں جو دوسرے علوم کے لئے

حُب پیدا کس طرح ہوتی ہے؟

بھی ہیں۔ اول، ایک حسین کو دیکھ کر دل میں ایک کشش اور توجہ پیدا ہوتی ہے۔ پھر یہ محبت بڑھتی ہے اور اس میں کچھ ایسا کیمیاوی اثر ہوتا ہے کہ پھر اس کے مقابلہ میں مال و دولت، عزت و آبرو، جان و جسم کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی جاتی ہے اور اس سے ایک عاشق دوسرا معشوق کہلاتا ہے اور عاشق اپنے معشوق پر سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہے اور قرآن کریم نے بھی اس قسم کی حُب کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف اور ایک بیوی کی حُب کا ذکر یا یوسف اور اس کی محبت کا واقعہ۔ ہر ملک اور ہر قوم میں اس کے نظائر موجود ہیں۔ یہ حُب آنکھ کے ذریعہ پیدا ہوئی۔ ہمارے ملک میں سوہنی مہینوال، ہیرا نچھا، مرزا صاحبان کے قصے عام طور پر مشہور ہیں۔ یہ تمام کرشمے حُب کے ہیں اور وہ آنکھ کے

ذریعہ متاثر ہوئی۔

پھر کچھ حُب اپنا اثر کان کے ذریعہ کرتی ہے۔ اس کے کرشمے یوں تو میں نے بہت دیکھے ہیں۔ مگر ایک کا ذکر کرتا ہوں۔ میں پنڈدادنخان میں مدرس تھا۔ ایک ہندو مدرس میرے ماتحت تھا۔ اس کو راگ کے ساتھ خطرناک حُب تھی۔ میں نے اس کو دیکھا کہ جہاں راگ کی آواز اس کے کان میں آئی۔ وہ سب کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا۔ یہاں تک کہ بعض خطرناک موقعوں پر جب کہ افسر سامنے موجود ہو۔ وہ آواز سنتے ہی سو کام چھوڑ کر بھی بھاگ جاتا اور کچھ پرواہ نہ کرتا۔

پھر میں نے دیکھا ہے کہ کھانے پینے یعنی ذائقہ کے متعلق ایک حُب ہے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو ہزاروں روپیہ کھانے پینے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ پھر کپڑے پہننے کی حُب ہے۔ پھر ایک اور حُب ہے جس کا نام شہوت ہے۔ اس حُب میں تو نخل کا نتیجہ ہر شہر میں دیکھا گیا ہے کہ بہت سے خاندانوں کا قطع نسل ہو گیا ہے۔ صرف ایک لذت کی حُب نے ہر ملک اور ہر شہر میں لاولد قومیں بنا دیں۔ میں چونکہ طبیب ہوں اور اس لذت کے انتہا کا علم رکھتا ہوں زیادہ سے زیادہ اوسط پچیس منٹ ہے۔ صرف اس پچیس منٹ کی خاطر میں نے دیکھا ہے کہ قطع نسل ہوئی ہے اور کئی خاندانوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ بہت سے اموال اور جائیدادیں تباہ ہو گئی ہیں جن پر لاکھوں آدمیوں کا گزارہ ہو سکتا تھا۔ یہ حُب عجیب عجیب راہوں سے آتی ہے۔ ہمارے شہر میں ایک لڑکے کو خود بدکاری کرانے کی حُب تھی اور وہ اس حد تک اس لذت کا غلام ہو چکا تھا کہ خواہ کوئی اس کی بیوی بھی لے جاوے۔ مگر اس کی اس حرص کو پورا کرے۔

کان، آنکھ، زبان اور شہوت کا ذکر تو ہولیا۔ مگر ان کے علاوہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ناک کے ذریعہ برباد ہوتے ہیں۔ ناک کے ساتھ دو امور وابستہ ہیں۔ ایک تو فطرتی ہے یعنی خوشبو، پچاس روپیہ تولو والا عطر گلاب استعمال کرنے والے بھی میں نے دیکھے ہیں۔ پھر یہی نہیں کہ صرف ان کو لگایا جاتا ہو بلکہ لگانے والے پہلے تو خود لگا لیتے اور پھر تمام متعلقین کو لگا دیتے۔ میں نے منع بھی کیا۔ مگر اس نے کہا کہ وہ چکنائی کی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لئے پہلے اوروں کو لگا دیا جاتا ہے تاکہ چکنائی کی تیز بو دور ہو جاوے۔

پھر ایک اور امر ناک کے متعلق ہے جس کو کہتے ہیں کہ اگر فلاں کام نہ کیا جائے تو ناک کٹتی ہے اور یہ رسوم اور رواج ہیں۔ اب تم نے دیکھ لیا کہ انسان اس حُب کے اندر کیا کچھ کرتا ہے اور آنکھ، کان، زبان، ناک اور شہوت کی حُب کے لئے کیا کرتا ہے۔ یہ تم نے سمجھ لیا کہ حُب کیا چیز ہے۔ وہ خواہش ہے لذت کی۔

حُب مُتَلَدِّذ ہے اور محبوب مُتَلَدِّذ ہے۔ ٹولنے کے متعلق بھی حُب ہے۔ اس کے لئے قسم قسم کے لباس بنا ہے اور پھر قسم قسم کی عورتوں کو چاہا گیا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ غریب سے غریب آدمی بھی شادیوں پر کس قدر خرچ کر دیتا ہے۔ پھر مہروں کو دیکھ لو کہ لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ مہر باندھتے ہیں۔ غرض یہ حُب ان پانچ حواسوں کے ذریعہ ظاہر ہوتی ہے۔ میں نے کبھی اس پر وعظ نہیں کیا۔ گویا اس مضمون پر کچھ کہنے کی یہ پہلی تاریخ ہے اور تمہارے لئے بھی یہ پہلا ہی دن ہوگا کہ حُب پر مضمون سنو۔ اس حُب پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں۔

ان پانچ حواسوں کے سوا ایک اور سلسلہ بھی حواس کا ہے۔ چنانچہ ایک اور حس ہے جو ان پانچوں کے اختلاط اور کیمیاوی اثر کا ایک نتیجہ سمجھنی چاہئے۔ اس کا نام حس مشترک ہے۔ جن لوگوں نے حواس کے فلسفہ پر بحث کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں پانچوں حواس جمع ہوں اور پھر ان سے الگ ہو کر جو چیز محفوظ رکھتی ہے اس کا نام خیال ہے اور اس سے پرے ایک اور باریک چیز ہے جس کو معانی کہتے ہیں۔ جیسے چوہا جب بلی کو دیکھتا ہے تو وہ فوراً دہل جاتا ہے۔ گویا اندر ہی اندر اسے ایک علم ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے نہیں چھوڑے گی اور وہ گھبرا جاتا ہے۔ دوسری طرف بلی کو وہ شعور ہوتا ہے کہ اب یہ بھاگ نہیں سکتا۔ وہ ایک جست کر کے اسے فوراً پکڑ لیتی ہے.... جب اپنے بچوں کو چوہے کا پکڑنا سکھاتی ہے تو عجیب عجیب تماشے کرتی ہے۔ وہ چوہے کو پکڑ کر بچے کے سامنے رکھ دیتی ہے پھر وہ پکڑتا ہے۔ پھر چھوڑ کر پکڑتا ہے۔ یہی حال شیروں اور بارہ سنگھوں کا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بارہ سنگھ شیر کی آواز سنتے ہی ڈر جاتا ہے اور اندر ہی اندر اس کی طاقت زائل ہو جاتی ہے۔ یہ کیا سر ہے۔ یہ ایک طاقت ہے جو اندر معنوں کو محفوظ رکھتی ہے۔ اسے حافظہ کہتے ہیں۔ پھر ایک اور قوت پیدا ہوتی ہے جو متفکرہ کہلاتی ہے۔ پھر دماغ میں ہزاروں قسم کی ایسی سلوٹیں اور پیچ در پیچ مقامات اور اعصاب کا

اتنا بڑا کارخانہ ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ آنکھ کی بناوٹ پر غور کریں تو یہ ایک اور ہی دنیا ہے۔ سبز دیکھنے کے لئے اور ہی ڈورے ہیں۔ سرخ دیکھنے کے لئے الگ۔ غرض مختلف رنگوں کے دیکھنے کے لئے مختلف اعصاب ہیں اور وہ سب کے سب ایک ہی وقت میں اپنا جدا جدا کام کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہمارے پاس علاج کے لئے آئے ہیں جو کوئی ایک رنگ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ غرض یہ بھی ایک بڑا سلسلہ ہے پھر دیکھو کہ ایک شخص تیز دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ راستہ میں کوئی ٹھوکر کا پتھر آتا ہے تو اس تیزی کے ساتھ پاؤں کے پٹھے کو حکم ہوتا ہے اور وہ فوراً اپنا پہلو بدل کر اس سے بچ کر نکل جاتا ہے۔ یہ محسوسات کا تماشا ہے۔

ربّانی فیض کا منبع: مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیضان آتے ہیں۔ ڈاکٹروں کی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی اور وہ نہیں جانتے کہ اس کا منبع کیا ہے؟ اس لئے

کہ ان کی نگاہ محسوسات سے آگے نہیں جاسکتی۔ ان علوم کے وارث اور عالم وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو انبیاء کہلاتے ہیں۔ پھر ان کے اتباع اور تعلیم سے تیار شدہ لوگ جو اولیاء اور متقی ہوتے ہیں۔ انہیں ان فیضانوں کا علم دیا جاتا ہے۔ جناب الہی کی طرف سے جو خبریں آتی ہیں۔ اس کے علوم بالکل الگ ہیں۔ انسان کے اندر دو قسم کے مرکز ہیں۔ ایک دماغ دوسرا دل۔ دماغ دنیوی علوم اور مادی محسوسات کا منبع کہنا چاہئے اور قلب آسمانی علوم کا مرکز ہے۔

قرآن شریف کی غرض اور مقصود اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات کو بڑھانا ہے اور انسان کو آسمانی علوم کا وارث کرنا ہے۔ اس لئے وہ کہتا ہے۔ **الْأَمِنْ أَلَى اللَّهِ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ** (الشعراء: ۹۰) اب اس آیت میں دماغ کا ذکر بالکل گم کرتا ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ دماغی نشوونما کی ضرورت اور دماغی عجائبات پر غور کرنے کی ضرورت بتاتا نہیں۔ بلکہ قرآن مجید دوسرے مقامات پر **أَفَلَا تَبْصُرُونَ** (الذّٰریت: ۲۲) اور اسی قسم کے دوسرے الفاظ بھی استعمال کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دماغی ترقی سے روکتا نہیں اس کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ مگر انسانی خلق کی غایت اور مقصد مادی ترقیات نہیں۔ اس لئے ذہنی ترقیوں کے ساتھ اس کا پہلا فرض یہ ہونا چاہئے کہ وہ قلب سلیم کے عجائبات کو مشاہدہ کرنے کی کوشش کرے جو تقویٰ اللہ سے حاصل ہوتے ہیں اور تمام سروروں کا باعث ہوتے ہیں۔ پاک

مطاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حُبِّ اِلٰی مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثُ اَلنِّسَاءِ وَ الطَّيِّبُ وَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ۔ (مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر جلد ۳ صفحہ ۱۲۸ مطبوعہ بیروت) اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ جناب الہی نے محبت ڈال دی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں محبت کرتا ہوں۔ کل یا پرسوں میاں منظور محمد نے مجھ سے پوچھا کہ مدارج ترقی کی انتہا بھی ہے۔ اس وقت خیال آیا کہ صوفیوں نے اس پر بحثیں کی ہیں۔ تمام ترقی یافتوں میں اولیاء ہوتے ہیں۔ اس میں غایت درجہ جناب الہی کا دیدار ہے۔ پس یہ لوگ تو وہاں تک تڑپتے ہیں کہ اس مقام لقاء تک پہنچ جاویں۔

حضرت معروف کرنی کو کسی نے رویا میں دیکھا کہ وہ یوں کھڑے تھے (اس موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح نے آسمان کی طرف منہ کر کے ٹکٹکی لگا کر بتایا) یعنی آسمان کی طرف ٹکٹکی باندھے کھڑے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں کھڑے ہیں؟ تو جواب دیا کہ جناب الہی کو دیکھتے ہیں اور کوئی خواہش اب باقی نہیں رہی۔ جو لوگ صوفیاء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں وہ **لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰی وَ زِيَادَةٌ** (یونس: ۲۷) کے یہ معنی لیتے ہیں۔ **الْاَنْظُرُ اِلٰی وَجْهِ اللّٰهِ**۔ ان لوگوں میں یہ کہانی لقاء اللہ تک ختم ہو جاتی ہے۔ مگر انبیاء علیہم السلام میں عبودیت کی حُب رکھی ہے۔ اس حُب کا محبوب بھی اللہ ہے۔ جب تک اللہ ہے عبودیت بھی ہے۔ چونکہ حکم دینے والے کے مدارج کا انتہا نہیں۔ اس لئے ترقیات کا بھی انتہا نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتہ کے ذریعہ پوچھا گیا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں۔ فرمایا۔ عبد۔ پھر پوچھا تو یہی فرمایا کہ عبد۔ پھر پوچھا فرمایا کہ عبد۔

غرض حُب کے بہت عجائبات ہیں۔ پہلا مرتبہ حواسِ خمسہ سے شروع ہوتا ہے۔ پھر حواسِ خمسہ باطنی پھر قلب کے عجائبات ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے قلب میں محبت ڈالی گئی۔ ایک بیویوں کی۔ یہ کیوں؟ یہ بھی محبت کی جامع ہوتی ہیں۔ آنکھ بھی حظ اٹھاتی ہے کان بھی۔ مس سے بھی لذت حاصل ہوتی ہے۔ اس سے مراد آپ کی مراد یہ تھی کہ حواس کے ذریعہ سے جو انسانی کمالات ہیں۔ خدائے تعالیٰ نے مجھے ان سے بھی متمتع کیا ہے اور یہ حواس سب عجیب دیئے ہیں۔ پھر ان میں ایک چیز ناک کے متعلق عارضی ہے۔ اس لئے فرمایا کہ مشک کی بھی محبت دی

ہے۔ یہ عجائبات دماغ کے متعلق تھے۔ اس لئے ان کے ذکر کے بعد فرمایا کہ قلب کے کمالات بھی عطا فرمائے ہیں اور وہ یہ ہیں۔ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ (المستدرک. کتاب النکاح) پہلے فرمایا تھا حب الہی یعنی مجھ میں محبت ڈال دی گئی ہے اور یہاں فرمایا کہ قُرَّةُ عَيْنِي۔ میری آنکھوں کا سرور اور ٹھنڈک تو نماز میں ہے۔ ساری خوشیوں کا منتہا اور ساری لذتوں کی جڑ آپ کے لئے نماز ہے۔ اگرچہ یہ بھی کہا کہ مراد عائشہ و بتول ہے۔

عربی زبان میں جب مونث مذکر کو جمع کرتے ہیں تو غلبہ مذکر کو دیتے ہیں۔
ایک علمی نکتہ: جیسے کہتے ہیں۔ امراءة ورجال جاءوا یعنی عورتیں اور مرد آئے۔ اس لئے

یہاں ثلث کہا۔ ثلثہ نہیں کہا؟ پھر یہ سوال ہے کہ نساء کو مقدم کیوں کیا؟

صوفیانہ ذوق کی بات ہے۔ اس کا سر صوفیانے یہ لکھا ہے کہ سارا کارخانہ جناب الہی کا موقوف ہے اثر ڈالنے پر اور اثر لینے پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ملا وہ اثر کرنے پر موقوف تھا۔ بیوی بھی ایک اثر کو قبول کرتی ہے اور اس اثر کا نتیجہ ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے۔ آسمان بھی نطفہ کی طرح زمین پر پانی ڈالتا ہے اور پھر اس کی تاثیرات کے نتائج مختلف ہیں۔ اسی طرح پر تاثیرات کا ایک وسیع سلسلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کمالات ظاہر کیا ہے اور بھی کچھ چیزیں آپ کو پسند تھیں۔ ان میں سے ایک دودھ بھی ہے۔ جب آپ دودھ لے کر پیتے تو فرماتے الہی اس سے بڑھ کر دے اور کوئی چیز لے کر کھاتے تو فرماتے۔ اس میں برکت دے۔ دودھ کے بھی بڑے عجائبات ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں۔ ان کو ایک مرتبہ خواب آیا کہ میرے پاس دودھ کا نصف پیالہ ہے۔ مجھ سے انہوں نے لے کر پیا۔ میں نے اس کی تعبیر کی کہ علم ہے۔ غالباً آپ ہم سے پڑھیں۔ ان دنوں مولوی عبدالکریم مرحوم مجھ سے بخاری پڑھتے تھے۔ نصف ہو چکی تھی کہ وہ آئے بعض باتیں جو پسند آئیں تو بے اختیار کہہ اٹھے کہ اب میں بھی پڑھوں گا۔ چنانچہ باقی نصف بخاری انہوں نے مجھ سے پڑھی اور اس طرح پر یہ رویا پورا ہو گیا۔ قصہ معراج میں بھی آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شراب اور دودھ پیش کیا گیا۔ آپ نے دودھ ہی پسند کیا اور پیا۔ اس پر جبرائیل نے کہا کہ اگر آپ شراب پیتے تو امت غاوی ہو جاتی۔

غرض محبت ایک چیز ہے جو آنکھ، کان، زبان، لمس اور شہوت سے پیدا ہوتی ہے۔ اب اس سے آگے چلیں تو یہ بات کھلتی ہے کہ اگر یہ چیزیں دنیا میں موجود نہ ہوتیں تو یہ محبت اور محبوب کہاں ہوتے؟ اس سے معلوم ہوا کہ وجود جڑ ہے تمام محبتوں کی۔ جس قدر اس میں ترقی ہوگی اسی قدر محبت میں ترقی ہوگی مثلاً دیکھا کہ ایک عورت ہے اس کی شکل چڑیل کی سی ہو انسان اس سے محبت نہیں کر سکتا۔ بد شکل انسان ہے تو موجود مگر وہ محبوب نہیں، پاخانہ موجود ہو تو وہ مطلوب نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وجود کے ساتھ کمالات ہوں تو وہ محبوب ہو سکتا ہے۔ پس حُب کا وجود موجود سے ہوتا ہے بشرطیکہ اس وجود کے ساتھ کمال ہو۔ جس قدر کمالات میں ترقی ہوگی اسی قدر محبت زیادہ ہوگی۔ جہاں کمال پیدا ہوتا ہے محبت بھی جلوہ گر ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کمال میں بقانہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ مثلاً آنکھ کے سامنے ایک خوبصورت شی جلدی سے گزر جاوے تو وہ اتنی پسندیدہ نہیں ہو سکتی بہ نسبت اس کے کہ وہ زیادہ دیر تک رہے۔ پس ضرور موجود ہو۔ اس کے ساتھ کمال ہو اور کمال کے ساتھ بقاء ہو۔

پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ خود کشی کیوں کر لیتے ہیں۔ اس کی جڑ یہی ہے کہ اگر وہ کمال کا بقاء دیکھ لیتے تو ہرگز ایسا نہ کرتے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ آنکھ، ناک اچھی ہو تو یہ اس قسم کی محبت ہے۔ لوگ مال و دولت اور دوستوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ بھی دراصل محبوب کے لئے ہے۔ غرض جو کچھ ہے حسن و جمال کی خاطر ہے۔ جس کے سبب ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں اس کے آگے ایک اور چیز ہے اور وہ احسان ہے۔ آنکھ، ناک، کان کا کوئی مزہ نہ ہو تو احسان کی وجہ سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر کے سامنے ایک خطرناک مریض ہو۔ زخموں میں پیپ پڑ چکی ہو۔ بد بو آتی ہو۔ ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے۔ ڈاکٹر کی کوئی چیز اسے پسند نہ ہو۔ مگر مریض ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟

جُبَلَتِ الْقُلُوبُ عَلٰی حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا (کنز العمال فی سنن الاحوال زیر حرف میم)

الباب الثالث فی الحکم والجوامع الکلم)

انسانی فطرت میں یہ امر ہے کہ وہ اس شخص سے جو اس کے ساتھ احسان کرتا ہے محبت کرتا ہے۔ پس ایک ذریعہ حُب کا احسان بھی ہے۔ احسان ایک ایسی چیز ہے کہ بعض وقت فاسقوں،

فاجروں کو بھی پسند آنے لگتا ہے۔ روٹی، کپڑا، مکان وغیرہ چیزیں جو انسان کو اچھی معلوم ہوتی ہیں اور ان سے محبت کرتا ہے تو اس کی جڑ بھی احسان ہی ہے۔ دوائی جو آنکھ میں ڈالتے ہیں اگر چہ وہ لگتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے تاہم اچھی معلوم ہوتی ہے۔ ایسا ہی لباس وغیرہ کا حال ہے۔ بعض چیزوں کے حسن کو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ (اس موقع پر حضرت نے ایک نابینا کی مثال بیان کی جس کو کبوتر بازی کا شوق تھا اور جب کبوتر اڑاتا تو منہ اٹھائے ہاتھ پر ہاتھ ہاتھ مار کر مزہ لیتا) یہ بھی ایک حُب ہے کہ انسان اسے بیان نہیں کر سکتا۔

میں طالب علم تھا میرے ایک محسن مکرم عنایت فرما عبد الرشید مراد آبادی تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے ایک آشنا نے مجھ سے کہا کہ میں بنارس کے ایک لڑکے پر عاشق ہوں۔ ہم دس بارہ آدمی اس کو دیکھنے گئے کہ وہ کون بناری لڑکا ہے جس پر یہ عاشق ہیں۔ اس نے سوچا کہ ان کی آنکھیں تو اس طرح سے نہیں دیکھتی ہیں جس طرح پر میں دیکھتا ہوں۔ ممکن ہے کہ جن وجوہات سے میں اسے پیار کرتا ہوں ان کے نزدیک وہ کچھ بھی نہ ہوں۔ اس لئے اس نے ان سے کہا کہ ٹھہرو، میں دیکھ آؤں کہ وہ مکان پر بھی ہے یا نہیں۔ وہ ایک چکر لگا کر آ گیا اور کہا کہ وہ آج مکان پر نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ بھی ایک نکتہ ہے کہ حُب ہوتی ہے مگر سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ اس کو حُب لا مہر ما کہتے ہیں۔ بعض لوگ سورۃ یوسف پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوسف بڑے ہی خوبصورت تھے۔ مگر انہیں آپ کا عشق نہیں آتا۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کا بیان نہیں کر سکتے۔

میرے ایک دوست یہاں آئے تھے۔ وہ کانگرہ میں رہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ وہاں آئیں۔ عجیب دلربا سینریاں ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا کیا سینری ہے بیان تو کرو۔ اس پر کہنے لگے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مگر آہ یہ سب محبوب جو میں نے بیان کئے زوال پذیر ہیں۔ ایک شخص ایک عورت کو بھگالے جاتا ہے صرف آنکھ کی خوشی کے لئے۔ چند روز کے بعد جب معلوم ہوا کہ اسے آتشک تھا یا عورت کی ناک کٹ گئی تو اسے چھوڑنا چاہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کسی طرح سے اس بلا سے رہائی ملے۔ اس محبوب کو پھر بلا سمجھتا ہے۔ میں نے ایسے گویے دیکھے ہیں کہ وہ عقل فکر حیران کر دیتے ہیں۔ مگر ذرا آواز بگڑی تو پھر گلستان کا یہ مصرعہ

پنبہ ام درگوش کن

لوگ پڑھاٹھتے ہیں۔ غرض فانی چیزوں کی محبت کا یہی حال ہے کہ وہ فانی اور زوال پذیر ہیں۔ تماشا کی گڑیا کیسی حسین ہوتی ہے مگر کوئی اسے محبت نہیں کرتا۔ جانتے ہیں کہ ابھی تباہ ہو جائے گی۔ ان واقعات سے ایک اصل ہمارے ہاتھ آ گیا کہ حسن یا احسان ہو۔ اس کے ساتھ کمال ہو۔ اس میں دوام ہو تو وہ محبوب ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے بڑھو ایک اور باریک چیز ہے جو محبوبیت کی شان رکھتی ہے۔ وہ علم ہے۔ اگر علم کا ذوق ہو تو حسین جمیل بیوی کتنا ہی کہے کہ یہاں ٹھہرو تو وہ یہی کہے گا کہ فلاں عالم کا آج لیکچر ہے میں تو اسے سنوں گا۔ تمہارا آنا قادیان آنا بھی اسی ذوق کے ماتحت ہے جو سارے آرام چھوڑ کر چلے آئے۔ ایک واعظ ہو، سخت بد شکل ہو، منہ کے دانت نکلے ہوئے ہوں۔ لیکن اپنے کمالات علم کی وجہ سے وہ محبوب ہو جائے گا۔ اس سے یہ مسئلہ حل ہوا کہ ایک محبوب پر دوسرا محبوب قربان کیا جاتا ہے۔

کبھی علم سے محبت ہوتی ہے۔ کبھی دین سے، انبیاء و رسل سے محبت کی جڑ یہی ہے۔ مکہ میں عناق نام ایک کنجی زمانہ جاہلیت میں تھی۔ ایک صحابی کا زمانہ جاہلیت میں اس سے تعلق تھا۔ جب وہ مسلمان ہوا تو وہ تعلق بھی جاتا رہا۔ وہ ہمیشہ مدینہ سے مکہ آتے اور مسلمان قیدیوں کو چھڑا کر لے جاتے۔ یہ بدکار قوم ایسی ہے کہ جب کوئی نہ ملے تو دیر تک چراغ جلا کر بیٹھی رہتی ہیں۔ ایک رات جو وہ آیا تو اس کا گزر اس کے گھر کے پاس سے ہوا۔ تو اس نے کہا او جابر! میں جانتی ہوں تو کس غرض کے لئے آیا ہے۔ میں تیری غرض میں مدد دوں گی تھوڑی دیر کے لئے یہاں آ جاؤ۔ جابر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے۔ اس نے کہا۔ محمد فی المدینۃ ابن یمنظر۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں ہے وہ کہاں دیکھتا ہے۔ جابر نے کیا اچھا جواب دیا رب محمد یمنظر اس پر اس کنجی نے کہا کہ پرانا زمانہ یاد کرو۔ مگر اس پر بھی جب اس کا مطلب پورا نہ ہوا تو کہا تمہیں مشکلات میں ڈلوادوں گی۔ اس نے اس پر کہا کہ کچھ بھی پروا نہیں۔ کیونکہ وہ تو اپنے تمام محبوبات کو اسلام کے لئے جواب دے چکا تھا۔ یہ سن کر وہ چلائی کہ مکہ والو! تمہارے قیدیوں کو چھڑا لے جانے والا موجود ہے۔ اس پر

سب ٹوٹ پڑے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ محبوبوں میں بھی فرق ہوتے ہیں۔ وطن بھی محبوب ہے۔ اولاد بھی محبوب ہے۔ بیویاں بھی محبوب ہیں۔ مگر پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر صحابہ نے سب کو قربان کر دیا اور ایک حُب دوسری پر غالب آگئی۔ اس محبت کے ذریعہ بڑے بڑے سرچشمہ پھوٹتے ہیں۔ دیکھو تم کو حضرت صاحب سے محبت ہے پھر میاں محمود سے محبت ہے پھر ان کی دوسری اولاد سے محبت ہے اور پھر مجھ سے بھی محبت ہے لیکن اگر کوئی امر مجھ سے خلاف شریعت سرزد ہو تو پھر تم کہہ دو گے کہ ہم تو اللہ کے لئے محبت کرتے ہیں۔ اب اس سے آگے چلو اور غور کرو کہ تقویٰ اور علم کے ہزاروں لاکھوں مراتب ہیں اور پھر ان محبتوں کے نتیجے میں کس طرح کی قربانی ہوتی ہے۔ اب کفار ہی میں دیکھو۔ میں نے ایک عربی اخبار میں پڑھا کہ دیکھو۔ پنجاب میں لاجپت رائے۔ مرہٹوں میں تلک، بنگال میں سریندر و بابو اور پن پال محبان قوم کہلاتے ہیں اور خاص خیال کے لوگ ان کے مداح ہیں۔ ان کی خاطر بعض ناعاقبت اندیش لوگوں نے اپنے آپ کو خطرہ میں ڈال دیا ہے اور مال و جان کی بھی کچھ بھی پرواہ نہیں کی۔ مجھے معلوم ہوا کہ اٹھارہ سے پچیس برس تک کے نوجوان لڑکے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خطرہ میں ڈالا ہے۔ اس لئے کہ وہ محبان ملک ہیں۔ تمام محبتوں سے بڑھ کر جب خیال آیا تو بیوی، بچوں، مال و دولت اور سب سے بڑھ کر جان تک کی بھی پرواہ نہیں کی۔

ایک دفعہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو مصلحین سے محبت ہے۔ میں نے کہا ہاں ہے تو سہی۔ مگر میرا عجیب تماشا ہے۔ ایک کو دوسرے پر قربان کرتا رہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ کیشب بابو اور دیانند سے بھی محبت ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں۔ انہوں نے لاکھوں بت توڑ ڈالے۔ اس لئے اس حد تک میں نے ان سے محبت کی۔ پھر کہا کہ سرسید سے بھی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ آپ علی گڑھ نہ گئے اور نہ دیانند اور کیشب بابو کے پاس جا کر رہے۔ مگر مرزا کے پاس تو ایسے گئے کہ گھر بار ہی چھوڑ دیا؟ میں نے کہا تم جانتے ہو کہ میں ایک مذہبی آدمی ہوں اور مجھے قرآن مجید سے محبت ہے۔

اس میں لکھا ہے کہ **وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مَّجْرِمِينَهَا (الانعام: ۱۲۴)**

یعنی بڑے بڑے آدمی راستبازوں سے محبت نہیں کرتے۔ بلکہ وہ ان سے قطع تعلق کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب میں جو دیکھتا ہوں تو حضرت صاحب کے ساتھ کسی بڑے آدمی نے تعلق ارادت قائم نہیں کیا۔ حالانکہ کیشب بابو کے مریدین میں مہاراجہ کوچ بہار تھا اور ایسا ہی دیا نند اور سرسید کے ساتھ تعلق رکھنے والے بھی بڑے بڑے آدمی تھے تو قرآن مجید کی یہ آیت مجھے راستباز کی صداقت کا ایک معیار نظر آتی تھی۔ اس لئے میں نے مرزا کو راستباز یقین کر کے پھر اپنی آنکھ سے دیکھ کر ساری محبتوں کو اس پر قربان کر دیا اور اس کی خاطر وطن، عزیز اور دنیا کی خواہشیں قربان کر دینی مجھے بہت ہی آسان معلوم ہوئیں اور جہاں اس نے کہا میں بیٹھ گیا۔

میرے ایک دوست ریاض احمد نام یہاں آئے تھے۔ انہوں نے میرے اس معیار صداقت کو کہیں سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کا معیار صداقت سنا ہے۔ مگر آپ یہ تو بتائیں کہ بڑے اور چھوٹے آدمیوں میں فرق کیا ہے؟ کیا نواب صاحب بڑے آدمی نہیں ہیں؟ میں نے کہا کہ وہ مالیر کوٹلہ کے نواب نہیں ہیں۔ بلکہ وہاں کے خوانین میں سے ہیں۔ اس پر اس نے کہا کہ میں تو بریلی سے یہ خیال لے کر آیا تھا۔ اب میں جاتا ہوں۔ خیر یہ سلسلہ بڑا لمبا ہے۔ آنکھ، ناک، کان، ذوق، شہوت کے محبوب میں بھی محبوب ہوتے ہیں۔ مگر علم اور دین کے سامنے ان کی کچھ بھی حقیقت نہیں اور اس پر ان کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ اس قربانی کے عجیب عجیب تماشے میں نے دیکھے ہیں۔ ابھی میاں شریف کی انگلی کا ایک پورا اڑ گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ جب تک اس کی ہڈی کا صاف حصہ نہ کاٹا جاوے۔ ماس اوپر نہیں آئے گا۔ اس پر مجھے بھی سپارش کرنی پڑی کہ ہاں اسے کاٹ دیا جاوے۔ کیونکہ اس ہڈی کی محبوبیت کو اس پر قربان کر دیا گیا۔ پھر محرم میں اس کے عجیب تماشے ہیں۔ یزید قریشی ہے، اولاد صحابہ میں سے ہے، دنیاوی جاہ و جلال بھی رکھتا ہے، اسلامی سلطنت کا بادشاہ بھی ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب بد معاہدگی کی تو اب امام حسینؑ کے بالمقابل کوئی اس کا نام تولے یا پگڑی ہی باندھ کر اس مجلس عز میں بیٹھ جاوے۔ یہ بھی علم دین کی حُب کا ایک تماشا ہے۔ مال بھی محبوب ہے تم نے قربان کیا۔ گھر کی انگلیٹھیاں اور آرام سب کچھ آپ کو حاصل تھا۔ مگر اسے بھی قربان کیا۔ کیوں ان سے بڑھ کر جو ایک حُب نے اپنا اثر کیا۔ وہ حُب ایسی ہے جس کا

سرچشمہ دین ہے۔ مگر دین کہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ علم اور قدرت سے ایک دیندار عالم اگر پاگل ہو جاوے تو کس کام کا۔ پس ان سب کا خلاصہ کیا ہوا؟

انسان اپنی جان سے پیار کرتا ہے۔ اپنی بقاء سے پیار کرتا ہے۔ پھر صحت سے پیار کرتا ہے۔ پھر سلامتی سے پیار کرتا ہے۔ مگر اس پیار کو حسن و جمال پر قربان کر دیتا ہے اور اسے کمال احسان پر قربان کرتا ہے اور حسن و احسان دونوں کو کامل دین کے لئے نثار کرتا ہے۔ پھر جب اس کی عقل جاتی رہے۔ تو اتنی اور علم پر اسے بھی قربان کر دیتا ہے۔

اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ حسینوں کو کس نے پیدا کیا۔ کون حسن کو قائم رکھتا ہے۔ کس کی دی ہوئی آنکھوں، کانوں، ناکوں اور زبان سے متمتع ہوتے ہیں۔ مالوں سے کون متمتع کرتا ہے۔ محسنوں کو وہ چیزیں کون دیتا ہے۔ جس سے وہ کسی پر احسان کرتے ہیں۔ علم و دین اور قدرت کا سرچشمہ کون ہے؟ جواب یہی ہوگا کہ ایک راء اور اذات ہے جو ان تمام صفات کا ملہ کی جامع ہے۔ پس معلوم ہوا کہ حقیقی محبوب وہی ہونا چاہئے اور تمام محبوب اس پر قربان کر دینے کے قابل ہیں۔ وہ ایک ایسا محبوب ہے کہ اس میں بقاء بھی ہے۔ پھر ایسی بقاء کہ اس کو زوال نہیں۔ بلکہ کمال ہے۔ کمال احسان ہے اور کمال حسن بھی وہ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (النور: ۳۶) پھر اللہ تعالیٰ اگر محبوب بنا ہے۔ تو وہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (النور: ۳۶) ہے۔ اس کے علم کے سامنے کسی کا علم ہستی ہی کیا رکھتا ہے۔

انسان کبھی کبھی شجاعت کے کرشمہ دیکھنے کا خواہشمند ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلو انوں کے ڈنگل میں بیس بیس روپیہ ٹکٹ کی قیمت دے کر بھی چلا جاتا ہے۔ مگر اس سلسلہ کو ذرا لمبا کر کے غور کرو۔ علیؑ کی شجاعت پر بھی نظر کرو اور پھر خدا تعالیٰ کی شجاعت کو دیکھو۔ عَلِيُّ كَلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (النور: ۴۶) اور مَلِيكٌ مُّقْتَدِرٌ (القمر: ۵۶) ہے۔ حسن اور احسان میں کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ محبوب اور ان کے حسن، محسن اور ان کے احسان کس نے بنائے؟ ہم دھوپ میں ہوں تو سایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر دھوپ اور سایہ کس نے بنائے؟ اندھیرے میں ہوں تو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر روشنی کس نے بنائی؟ یہ سارا سلسلہ بالآخر جناب الہی پر جا کر ختم ہو جاتا ہے اور وہ حقیقی محبت کا چشمہ قرار پاتا ہے۔

پھر دوسرے محبوبوں میں ایک نقص عظیم ہے کہ ان کی خوبیاں زوال پذیر ہیں اور بعض وقت ایسے نقص

پیدا ہوتے ہیں کہ خودکشی تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ لازوال خوبیوں کا مالک ہے اور تمام عیبوں سے پاک جو محبوب ہے۔ وہ اللہ ہی ہے۔ محبوبوں پر ذرا عیب لگ جاوے تو محبوبیت معدوم ہو جاتی ہے۔ ایک شخص ایک مرتبہ آدھی رات کو میرے پاس آیا اور وہ اتنا بڑا آدمی تھا کہ میرے جیسے کو لاکھ دو لاکھ دے سکتا تھا مگر آدھی رات کو خود آیا اور میرے دروازہ کو کھٹکھٹایا اور جب میں نے دروازہ کھولا تو جھٹ سر سے پگڑی اتار کر میرے پاؤں پر رکھ دی۔ سبب دریافت کیا تو کہا کہ اتنی مصیبتوں سے ایک عورت کو بلایا ہے اور اب میں قادر نہیں ہو سکتا۔ اس لئے پیشاب کا بہانہ کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اب کوئی دوا دو ورنہ مرتا ہوں۔ مجھے اس حالت کو دیکھ کر ایک عجیب نکتہ یاد آیا کہ محبوبیت کے لئے بھی بڑی مصیبت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب اپنی ایک شاگردنی پر عاشق ہو گئے۔ اس نے کہا کہ ٹھنڈے پانی سے غسل کر کے آؤ۔ وہ گئے اور کانپتے ہوئے آئے اور اپنے عضو تناسل پر جوتے مارے کہ کم بخت تو نے ذلیل کیا۔ غرض محبوبیت کے ساتھ ذرا دکھ ہو تو باطل ہو جاتی ہے۔ پس ایک ہی محبوب ہے جو تمام عیوب سے پاک اور تمام نقصوں سے منزہ ہے اور وہ سبوح قدوس محبوب ہے جو علم، قدرت میں کامل ہے۔ **يَسْبِغُ لَكَ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ** (الجمعة: ۲) تمام چیزوں سے گواہی ملتی ہے کہ اپنے علم قدرت میں یکتا۔ حسی و قیوم ہونے میں کامل۔ اس کے حسن کا کمال یہ ہے کہ **قُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ** ہے اور تمام عیوب سے منزہ ہے۔ پھر جس جس قدر کوئی اس کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اسی قدر وہ منزہ ہوتا جاتا ہے۔

اب سوچو کہ اگر حُب اور عشق کوئی چیز ہے تو صرف اللہ ہی سے چاہئے۔ میں نے پرسوں بتایا تھا کہ لا الہ الا اللہ مجھے کس طرح آیا اور دعا، قرآن کریم سے کس طرح محبت بڑھتی گئی مگر اس وقت یہ نہ بتایا کہ ان سب کی جڑ حُب تھی۔ اس لئے کہ جناب الہی کے جو کام ہیں۔ رحمانیت سے شروع ہوتے ہیں۔ پھر رحیمیت کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ کیونکہ جب اس نے قوی دیئے ہیں اور استعمال کی تاکیدی ہے۔ آخر میں رحمانیت کی شان سے پھر کرشمہ دکھایا۔

مرزا صاحب میں ایک شان محبوبیت تھی۔ اس نے ہمیں کھینچا اور اس محبت پر وطن اور دوسرے دنیوی منافع کو قربان کر دیا۔ اس محبت کی غرض لا الہ الا اللہ کی ہی تکمیل تھی۔ ان کا رفع ہوا اور وہ

محبوب حقیقی کے حضور پہنچے۔ تو ان کی وفات نے بھی لا الہ الا اللہ ہی کی طرف ہمیں متوجہ کیا۔ جب سچی محبت مولیٰ سے ہوگی۔ تو اس کا منشاء معلوم کرنے کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اس کی پاک کتاب اور پاک زبان سے بھی محبت ہوگی۔ اس کو قرآن کریم نے جہاں سے میں نے اس وقت کھول کر رکھا ہے۔ بیان کیا ہے۔ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي (ال عمران: ۳۲) یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھتے ہو۔ تو اس کی پہچان یہ ہے کہ میرے تابع ہو جاؤ۔ پھر تم آپ ہی محبوب ہو جاؤ گے۔ یہ گڑ ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ کیسا مجرب نسخہ ہے۔ پہلے آپ آزما تا ہے پھر تمہیں بلاتا ہے۔ ایک اور راز محبت ہے اور قرآن کریم نے ہی اسے بیان کیا ہے مگر چونکہ بہت ہی باریک ہے۔ عادت کے نہ ہونے کے سبب اور وقت کے تنگ ہونے کے باعث اس وقت کھول نہیں سکتا۔ حُب کے لئے ایک مناسبت ہوتی ہے۔ اس مناسبت کے سبب سے عشق و محبت ہوتی ہے۔ ہیر یا رانجھا کو ایک دوسرے نے جس نظر سے دیکھا۔ کوئی اور ان کے دیکھنے والا نہ تھا۔ یہ ایک باریک راز ہے اور بڑی صحبت کو چاہتا ہے۔ میرے دل میں جوش ہے۔ جس سے بتاؤں کہ یہ کیا راز ہے۔

ایک لاہوری دوست ایک شخص کو یہاں لائے اور اپنے خرچ سے لائے کہ تم مرزا صاحب کو ایک مرتبہ چل کر دیکھ آؤ۔ پھر جو جی چاہے کہنا۔ جب وہ دیکھ کر واپس گیا اور اس سے پوچھا۔ تو اس نے اگر کچھ کہا تو یہ کہ نہایت ہی لغویت کے ساتھ آپ کی پگڑی پر اعتراض کیا۔ اس کی نظر میں وہ شانِ محبوبیت جو مرزا میں تھی آہی نہیں سکی اور ایک ہم ہیں کہ اس کی پگڑی کے پیچوں میں بھی ایک محبت کا جذبہ معلوم ہوتا ہے اور محبت کا ایک ایسا مخفی راز ہے کہ ہاتھ چومتے چومتے تھکتے نہیں اور وجہ نہیں بتا سکتے۔ اس کے مقابلہ میں بغض بھی ہے۔ اس کے لئے بھی اسی قدر کہنا پڑتا ہے۔ مگر یاد رکھو کہ یہ ایک مخفی راز ہے اور نہایت باریک۔

فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ (الحجر: ۳۰) افرشتو! میں ایک آدم بنا تا ہوں۔ وہ عناصر کی چیز ہے۔ تمہیں اس سے کیا تعلق۔ مگر میں اس میں اپنا ایک سرِ محبت ڈالتا ہوں تو تم سجدہ میں گر جاؤ گے۔

تَفَحَّتْ فِيهِ مِنْ رُوحِي يَهِي وَهَرَّ هِيَ۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بعض لوگوں سے پوچھے گا کہ مَرَضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي (مسلم کتاب البر و الصلۃ باب فضل عیادۃ المریض) میں بیمار ہوا مگر تم نے میری عیادت نہ کی۔ وہ کہے گا کہ تو کب بیمار ہوا۔ مگر اسے جواب میں بتایا جاوے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا۔ تم نے اس کو نہیں پوچھا۔ یہ کیا تھا۔ وہی مخفی امر حُب کا تھا۔ اس بندہ کا پوچھنا گویا خدا تعالیٰ کا پوچھنا تھا۔ یہ ایک سرّ ہے جو اس بندہ کے ساتھ تھا۔

فلا سفر اس سرّ کو پہنچے ہیں کہ ایک آنکھ جب دوسرے سے لڑتی ہے تو حُب ہو جاتی ہے مگر وہ اس راز کو بیان نہیں کر سکے کیونکہ یہ ایک کیمیائی تاثیر ہے جو بیان میں نہیں آسکتی۔

اس سے سمجھو کہ جس کے دل میں لا الہ الا اللہ کلمہ پیدا ہوا۔ اس نے دنیا کی محبتوں پر نظر کی اور تمام محبوبوں کو دیکھا۔ تو ان کی محبوبیت کو ذاتی نہ پایا اور ان میں نقص زوال محسوس کیا۔ ان کو دیکھ کر دل سے، زبان سے، جان سے رات دن کے رونے سے یہ نکلا کہ لا الہ الا اللہ کہو۔ لا شریک لہ کہو۔ اب یہ کیا سرّ ہے کہ سارا کارخانہ ہی حُب سے چلتا ہے مگر ان میں زوال ہے۔ میں نے بہت غور کیا ہے کہ جہاں تک محبت مخلوقات سے ہے۔ وہ ایک مخفی راز ہے اور وہ حی و قیوم کے تربیت کے نیچے ہے۔ پھر محبت کے بھی کئی مراتب ہیں۔ اس کی تمثیل سنو!

ایک شخص جو ریگستان میں ہو اور سخت گرم ہو اچل رہی ہو اور دھوپ بھی سخت تیز ہو۔ وہ اس سے گھبراتا ہو۔ وہ دور سے درخت کو دیکھتا ہے اور اس کے سایہ کو غنیمت سمجھتا ہے اور دوڑ کر اس کے نیچے چلا جاتا ہے۔ لیکن وہاں وہ ایک اور درخت دیکھتا ہے۔ جس کا سایہ گھنا ہے اور پاس پانی بھی ہے تو وہ اس سایہ دار درخت کو جس کے پاس تالاب بھی ہے زیادہ پسند کرے گا اور وہاں چلا جانا چاہے گا۔ لیکن اس کے بعد ایک اور درخت کو دیکھتا ہے جہاں تالاب ہی نہیں بلکہ آدمی بھی ہے تو وہاں جاتا ہے اور وہ جگہ اسے محبوب تر نظر آتی ہے۔ پھر وہاں جا کر پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ دہریہ ہوں۔ لیکن آگے دیکھتا ہے کہ ایک اور شخص ہے جو خدا کو مانتا ہے تو وہاں جاتا ہے مگر اس سے جا کر پوچھا کہ تو کون ہے اور اس نے کہا کہ میں آریہ ہوں۔ تو پھر بھی شکر کرتا ہے کہ دہریہ تو نہیں۔ لیکن آگے چلتا ہے تو اور دیکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو قادر ماننے والا ہے اور وہ یہودی یا مجوسی یا برہمنی ہے تو اور

بھی خوش ہوتا ہے مگر اس سے بھی اگر مسلمان ہو تو اور بھی پسند کرے گا۔ لیکن شیعہ ہو تو اور آگے چلتا ہے اور سنی ہو تو اور بھی خوش ہوتا ہے اور احمدی ہو تو پھر اور بھی خوشی ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حُب میں مراتب ہوتے ہیں اور فطرتاً ادنیٰ کو اعلیٰ پر قربان کرتے رہتے ہیں اور یہ واقعی بات ہے کہ جوں جوں کسی کو منزہ پاتے ہیں اسی قدر محبت کے تعلقات بڑھتے جاتے ہیں۔ اب یہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نیکی وغیرہ کا مدار حُب پر ہے۔ اسی لئے میں نے کہا تھا کہ وہ مضمون اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ میں اس کا بچپن سے مشتاق ہوں اور عجیب در عجیب محبوبوں کے نظارے کئے ہیں اور اس نکتہ پر پہنچا ہوں۔ کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں۔ یہ بھی کہا تھا کہ کھانے پینے کا اول فکر ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی پھر کپڑے کا۔

پھر آہستہ آہستہ عمدہ حالت آئی تو پچھلی کو چھوڑتا جاتا ہے۔ میں نے ایسی ناباک ر عورتیں دیکھی ہیں جو بچپن میں لاڈ سے بچوں کے عضو تناسل کو بار بار ہاتھ لگاتی ہیں مگر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر انہیں کہنا پڑتا ہے کہ تو الگ سویا کر۔ پھر باحیا اور بے حیا کا فرق بنتا ہے۔ غرض محبوبیت اور محبت کا تماشا ہوتا رہتا ہے۔ ہم میں ایک اور استعداد ہوتی ہے جو ترقی کی استعداد ہے۔ اس کے بھی عجیب عجیب تماشے ہوتے ہیں۔ آم کے درخت کو اتنا پھول آتا ہے کہ اگر سب پھل ہو تو جڑ تک کا ستیاناس ہو جاتا ہے۔ پھر جھکڑ چلتے ہیں اور اس پھول کا بہت سا حصہ گرا دیتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد کیریاں لگتی ہیں اس کے ساتھ جانور وابستہ ہوتے ہیں۔ کچھ لڑکے لے جاتے ہیں۔ پھر چٹنی اور اچمور کے لئے خرچ ہوتے ہیں۔ کچھ اچار کے مربہ کے کام آتے ہیں۔ آخر جو بچتے ہیں وہ پکتے ہیں۔ جہاں دو چار پکے اتار لئے اسی طرح پر یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ آم کے پھول چاہتے تھے کہ ہم ہی رہ جاویں مگر ہوا کے جھکڑ نے صفائی کی۔ علیٰ هذا القیاس۔ یہ بھی ایک تماشا ہے۔

اب ہم میں انگریزی پڑھا ہوا دیکھتا ہے کہ متمدن قوم انگریزی بولتی ہے۔ غیر قوموں کو انگریزی کے ذریعہ سب کچھ پہنچا سکتے ہیں۔ پس ہمارا ہی راج ہو اور جو ہم چاہیں وہی ہو۔ بہت خوب! ایک عربی دان آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عربی ہی تو جان ہے۔ اسلام آسکتا ہی نہیں جب تک عربی سے محبت نہ ہو۔ قرآن عربی میں ہے اس کے لئے عربی کا پڑھنا ضروری ہے۔ عربی ہی عربی

ہو۔ میں اس تماشے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہوں اور کہتا ہوں۔ خوب است!

اپنے اپنے محبوبات سے کام لے رہے ہیں اور قوم کے لئے ضروری ہے کہ اس کے ہر فرد میں سچا جوش ہو کیونکہ جب تک ہر ایک کو اپنے مذاق کے موافق جوش نہ ہو تو کامیابی کیسے ہو۔ میں جب طب پڑھنے گیا تو میرے استاد نے پوچھا کہ کہاں تک پڑھو گے۔ میں نے کہا کہ مجھے افلاطون بنا دو۔ میں نہیں جانتا تھا کہ طبیب اور حکیم میں کیا فرق ہے۔ اس نے کہا کہ پھر تم کچھ پڑھ لو گے۔ اگر تم موز کا نام لیتے تو میں کبھی نہ پڑھاتا۔

پس میں جب مباحثات سنتا ہوں اور ہمت بلند کے تماشے دیکھتا ہوں تو بہت خوش ہوتا ہوں۔ ایک انگریزی پر مباحثہ کرتا ہے۔ دوسرا عربی کی اہمیت جتاتا ہے۔ فٹ بال، کرکٹ وغیرہ میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر ایک بڑھنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔ وَالسُّيُوفُ الشِّبُّونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (الواقعة: ۱۲)

بہت سے نادان حیران ہوتے ہیں اور شاید بعض سمجھتے ہوں کہ یہ جھگڑتے ہیں۔ فلاں اٹھا اور اس نے دوسرے کی ایسی تردید کی کہ ناک رگڑ دیا۔ میں کہتا ہوں وہ حُب کے لئے بولتا ہے۔ تمہارا جو فرض منصبی ہے تم بھی زور لگاؤ۔ میں سچ کہتا ہوں کہ مجھے بڑی ہی خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ عربی کا مؤید کہتا ہے کہ سب کو پیچھے چھوڑ دو اور سب کو اس پر قربان کر دو۔ میں اس کے جوش کو دیکھ کر کہتا ہوں کہ ہاں ضرور ایسا ہی کرو۔ یہ جوش کام دے گا اور اس کے نتیجے مفید اور بابرکت ہوں گے۔

ہمارے شیخ یعقوب علی اٹھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مشینوں کے ذریعے کام ہونا چاہئے اور مشینیں آنی چاہئے اس کے لئے اتنے ہزار چاہئے۔ میں کہتا ہوں، کروڑ مانگتا ہے تو دو یہ بھی ضروری ہے۔ دوسرا اٹھتا ہے کہ بدر کے لئے دو۔ کم قیمت میں یہی ایک اخبار ہے۔ وقت پر نکالنے کے لئے خرچ کرنا پڑتا ہے اس لئے روپیہ کی ضرورت ہے اس کی کثرت اشاعت کی حاجت ہے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے کرو۔ میگزین والے کہتے ہیں کہ حضرت صاحب نے فرمایا دس ہزار اشاعت ہو میں کہتا ہوں کہ بیس ہزار ہو۔ صاحبزادہ صاحب ہیں۔ تم نے ان کی نظم اپیل کو سنا ہے۔ ان کے دل میں حق کا جوش ہے۔ وہ بڑے ہونہار ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں نظر بد سے بچا دے (آمین) میں نے ان کی نظم کو سن کر رو

رو کر سجدہ میں ان کے لئے دعا کی ہے۔ ان کے اندر اس قدر جوش موجزن ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ حق کے مخالفوں کو پس دوں۔ میں کہتا ہوں ہاں ایسا ہی ہونا چاہئے وہ جو اپیل کرتے ہیں اس کی تعمیل ہونی چاہئے۔

پس ان جوشوں کو دیکھ کر گھبراؤ نہیں بلکہ خوش ہو کہ یہ ترقی کے لئے ضروری ہیں۔ ہاں! مقابلہ والوں کو چاہئے کہ حد بندی ہو۔ دنیا میں عیب گیری بہت ہوتی ہے۔ کسی کے لیکچر میں جوش دیکھتے ہیں تو اس پر اعتراض کرتے ہیں حالانکہ اگر نیک نیتی اور حسن ظن سے کام لیا جاوے تو بات آسان ہے کہ یہ حُب کا کرشمہ ہے اور حدود بندی جناب الہی کے اختیار میں ہے۔ مگر ہر شخص کا فرض ہے کہ اپنی راہ میں پورا زور لگائے۔ ایک اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ ضعفاء کے لئے چندہ دو۔ ہم اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے کہ مت دو۔ صدرا نجمن ہی میں دو۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے روکنے سے نہیں رکتا۔ میں اپنی ذات کے لئے نہیں مانگتا۔ یہ عجیب بات ہے۔ تم اس نکتہ پر پہنچو نہ پہنچو مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب حُب کے کام ہیں۔

صدرا نجمن کا حکم بھی ایک حُب ہے۔ وصایا پر کار بند ہونا بھی حُب ہے۔ یہ سب حُب ہے مگر میرا منشاء پوچھو تو عربی تو میری محبوب زبان ہے۔ اس کی تائید تو میں اپنا فرض سمجھتا ہوں مگر میں تو اس کے ساتھ یہ بھی چاہتا ہوں کہ وید کی زبان، فرانسیسی اور جرمن بھی پڑھیں اور میرا سارا کتب خانہ پڑھیں۔ غرض انگریزی کے مؤید خوب زور لگائیں۔ عربی کے مؤید خوب تائید کریں اور میرے جیسے انڈیا کی اور نو دس زبانیں بڑھا کر خوب کوشش کریں۔ ابو سعید جیسے بھی ہوں جو مختلف زبانیں سیکھ لیں۔ غرض سب کی ضرورت ہے۔

ہمیں ہر قسم کے آدمیوں کی ضرورت ہے۔ مگر نیک نیت، نیک کردار، خدا ترس اور سچے فرمانبرداروں کی۔ دیکھو، خالد بن ولید کی ایک بھی حدیث نہیں۔ ضرار بن آزر کا نام بھی حدیث کی کتابوں میں نہیں وہاں جاؤ تو قال ابو ہریرہ ملے گا۔ مگر تاریخ میں جاؤ تو پھر ابو عبیدہ، خالد اور ضرار

کے کارناموں کو دیکھو۔ یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ کچھ عربی کے کچھ انگریزی کے، کچھ اور زبانوں کے مؤید ہیں۔ یہ سب مقابلہ ہے اور ان سب کی ضرورت ہے اور ان سب کو جوش کرنا چاہئے۔ آگے رہی حد بندی وہ تمہارا کام نہیں اور نہ وہ میرا کام ہے۔ گو میں سب کا مؤید اور سب کا جامع ہوں بلکہ وہ اصل کام ہے۔ الحکم کا بھی مؤید، بدر کا بھی مؤید، انگریزی دانوں کا بھی مؤید، وکیلوں اور ڈاکٹروں کا بھی مؤید۔ عبدالحی کہتا ہے کہ میری کتابیں لے لو۔ ایک میرا داماد ہے۔ وہ کہتا ہے میرے پاس طبیب حاذق ہے وہ لے لو۔ میں کروں تو کیا کروں۔ ان سب کو بے شک مجھے ہی کہنا چاہئے۔ تائید حق کے لئے میں نے کہا اور پھر پوچھا تو جس کے پاس تھیں۔ اس نے کہا کہ تھوڑی ہی کبی ہے۔

غرض حُب کا مضمون بہت بڑا تھا۔ میں نے کاٹ کر ایسے روکا اور کم کیا۔ ساری عمر میں یہ مضمون نہیں سنایا۔ مگر چھوٹی سی عمر سے میں اس پر غور کرتا رہا ہوں۔ اسی نے مجھے قرآن سکھایا۔ اسی نے مرزا تک پہنچایا۔ اب اسی جوش حُب میں میں چاہتا ہوں کہ اس کے لئے واعظ پیدا ہوں۔ ہمارے مفتی صاحب کو بھی تم سے محبت ہے۔ وہ کہتے ہیں میں آپ کو دعا سکھاؤں۔ جس سے حُب پیدا ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ یُّحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِیْ یُبَلِّغُنِیْ حُبَّكَ۔ (ترمذی: کتاب الدعوات)

اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے تیری محبت اور اس کی محبت جو تجھ سے محبت رکھے اور وہ کام جو مجھ کو پہنچا دے۔ تیری محبت تک۔

اس کے بعد میر حامد علی شاہ صاحب نے اپنے کثوف بتائے جو حضرت خلیفۃ المسیح وسلمہ اللہ تعالیٰ کی خلافت اور انتخاب ربانی کی تائید کرتے تھے اور بعد دعا جلسہ برخواست ہوا۔ (ایڈیٹر الحکم)

(الحکم ۷، ۱۴، ۲۱، مارچ ۱۹۰۹ء، صفحہ ۷۸ تا ۷۵)



بچوں کو نصیحت

(تقریر فرمودہ ۲۳ جنوری ۱۹۰۹ء بعد نماز مغرب بمقام مسجد مبارک قادیان)

حضرت خلیفۃ المسیح نے مدرسہ کے چھوٹے بچوں کو مخاطب کر کے فرمایا۔

تم جانتے ہو کہ برسات میں جب آم کی گٹھلیاں زمین میں آگ آتی ہیں تو نیچے اکھیڑ کر ان کی پھپھیاں بناتے ہیں لیکن اگر اس آم کی گٹھلی پر پانچ چھ برس گزر جاویں تو باوجود یہ کہ یہ لٹ کا بھی پانچ چھ برس گزرنے پر جوان اور مضبوط ہو جائے گا لیکن پھر اس کا اکھیڑنا دشوار ہوگا پس معلوم ہوا کہ جب تک جڑ زمین میں مضبوطی کے ساتھ نہ گڑ جائے۔ اس وقت تک اس کا اکھیڑنا آسان ہے۔ اور جڑ مضبوط ہونے کے بعد دشوار۔ عادات و عقائد بھی درخت کی طرح ہوتے ہیں بری عادات کا اب اکھیڑنا آسان ہے۔ لیکن جڑ پکڑ جانے کے بعد ان کا ترک کرنا یعنی اکھیڑنا غیر ممکن ہوگا بعض بچوں کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے اگر شروع سے ہی اس کو دور نہ کرو گے تو پھر اس کا دور کرنا مشکل ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جن کو بچپن میں جھوٹ کی عادت پڑ گئی ہے پھر عالم فاضل ہو کر بھی ان سے جھوٹ کی عادت نہیں چھوٹی ہے۔ جھوٹ بولنے کی عادت اس طرح ہوتی ہے مثلاً کسی لڑکے کو دودھ پیتے دیکھا تو خود بھی اس کی ریس کرنے کو جی چاہا کہ ہم کو بھی دودھ پینا چاہئے پھر اس کے لئے چند دلائل بھی دماغ میں پیدا کر لئے کہ ہمارا دماغ کمزور ہے اگر دودھ نہ پیئیں گے تو دماغی کام نہ ہو سکے گا پیسے پاس نہیں ہیں تو پھر جھوٹ بول کر پیسے حاصل کرتے ہیں۔

ایک مرتبہ ہماری جوانی کا زمانہ تھا اور ہم مقام خوشاب میں تھے کہ حسین شاہ نامی ایک شخص دودھ کا کٹورا بھر کر ہمارے سامنے لایا اور کہا کہ اس کو پی لو۔ میں نے کہا میں تو دودھ پی نہیں سکتا اور مجھ کو دودھ ہضم نہیں ہوتا۔ اس نے بڑے تعجب کے ساتھ کہا کہ ہم تو تم کو حکیم سمجھ کر دوا دریافت کرنے آئے تھے تم تو خود ہی مریض ہو۔ بھلا بتاؤ تو سہی اگر تم سے کوئی شخص اس بات کی دوا پوچھے کہ مجھ کو دودھ ہضم نہیں ہوتا تو تم کیا بتا سکتے ہو جبکہ تم خود اپنی ہی دوا نہیں کر سکتے۔ میں نے یہ سن کر کٹورا

اس کے ہاتھ سے لے لیا اور سب دودھ پی گیا غرضیکہ مجھ کو دودھ پینے کی مطلق عادت نہیں اور میں بالکل دودھ نہیں پیتا۔ لیکن اب بھی دیکھو کہ کس قدر دماغی کام کرتا ہوں اور تمام تمام رات بیٹھ کر پڑھ سکتا ہوں۔ یہ بالکل غلط خیال ہے کہ ہم دودھ پی کر ہی دماغی کام کر سکتے ہیں غرض جس لڑکے کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ جھوٹ کے ذریعہ سے پیسے حاصل کرتا ہے۔ تم ہی میں سے ایک لڑکا ہمارے گھر میں آتا تھا ہمارے گھر والے بھی اس کے ساتھ سلوک کرتے رہتے تھے اس کو فضول خرچی کی عادت نے چوری پر مجبور کیا۔ اور وہ ہمارے گھر سے زیور چرا کر لے گیا خدا کے فضل سے ہمارا زیور تو واپس آ گیا۔ لیکن اگر وہ لڑکا فضول خرچی کے سبب چوری کرنے کے گناہ میں مبتلا نہ ہوتا تو وہ بہت سے برکات اور تعلیمات سے محروم نہ ہوتا جیسا کہ اب اس کو اسکول بھی چھوڑ دینا پڑا۔ اس لڑکے سے جب دریافت کیا کہ تیرے پاس یہ زیور کہاں سے آیا تو اس نے کہا کہ مجھ کو مسجد کے قریب پڑا ہوا ملا تھا۔ دیکھو اس کو جھوٹ بھی بولنا پڑا۔ تم میں سے غریبوں کو چاہئے کہ غریبانہ زندگی بسر کریں اور امیروں کی ریس ہرگز نہ کریں۔ میرے بیان سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ میں دودھ کی مذمت اور برائی بیان کرتا ہوں بلکہ دودھ تو بہت ہی اعلیٰ درجہ کی چیز ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بہت پسند تھا اور فرمایا کرتے تھے اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ (روضۃ المحدثین ج ۷، نمبر ۱۰ صفحہ ۳۲۷) جن کو میسر ہے اور وہ پی سکتے ہیں میرا توجی چاہتا ہے کہ وہ ضرور پیئیں لیکن جن کے پاس نہیں ہے وہ چوری نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، فضولی نہ کریں۔ اگر تم کو اس وقت پڑ جائے گی تو پھر اس کا چھوڑنا سخت دشوار ہوگا۔ جھوٹ فضول خرچی چوری کی عادت بالکل نہ ڈالو اور بہت بچو۔ میری ان باتوں کو یاد رکھو اور بہت ہی یاد رکھو۔ اگر کوئی امیر ہے تو اپنے واسطے ہے غریبوں کو کیا ضرورت ہے کہ اس کی ریس کریں۔

دوسری نصیحت میں تم کو یہ کرتا ہوں کہ آج اگر تم نماز نہ پڑھو گے تو بڑے ہو کر تو پھر بالکل ہی تم کو نماز کی عادت نہ رہے گی، ہم مکتب میں پڑھا کرتے تھے ایک مرتبہ ہمارے استاد نے بچوں کو نماز پڑھنے کے واسطے مسجد میں بھیجا ہم میں ایک لڑکا تھا اس نے وضو کر کے کہا: یارو! کیسی نماز؟ کون نماز پڑھتا ہے یہ کہہ کر اس نے اپنی پیشانی پر مٹی ملی جس سے یہ معلوم ہونے لگا کہ یہ مسجد میں نماز

پڑھ کر آیا ہے۔ دیکھو اس نے سب کو نماز نہ پڑھنے اور جھوٹ بولنے کی ایک انکل سکھائی پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بڑا نامی گرامی چور ہوا۔ اور ہمارے شہر کے تمام چوروں اور بدمعاشوں میں اس کا اول نمبر تھا۔ ایک مرتبہ وہ ایک قلعہ کی دیوار سے کودا۔ اس کو قبضہ کی سخت تکالیف اٹھانی پڑیں۔ میری اس نصیحت کو بھی یاد رکھو کہ نماز دل سے پڑھو۔

(الحکم ۲۸ جنوری ۱۹۰۹ء صفحہ ۴، ۵)



ایمان کی مضبوطی

﴿تقریر فرمودہ ۲۸ مارچ ۱۹۰۹ء﴾

حضرت امیر المؤمنین و خلیفۃ المسلمینؓ نے ۲۸ مارچ ۱۹۰۹ء کو جبکہ لاہور سے خواجہ کمال الدین صاحب، شیخ رحمت اللہ صاحب، ڈاکٹر سید محمد حسین صاحب، مرزا یعقوب بیگ صاحب تشریف لائے ہوئے تھے۔ ایک موقع پر اپنے خدام کی طرف مخاطب ہو کر جو مختصر سی تقریر فرمائی تھی اس کو میرے عزیز مبارک اسماعیل نے نوٹ کیا تھا اور اسی نے صاف کیا ہے اور ناظرین الحکم تک پہنچانے کا واسطہ ہوا ہے۔ اس کے لئے ناظرین دعا کریں۔ (ایڈیٹر الحکم)

اگر آدمی کا ایمان مضبوط ہو تو اس کو کوئی دکھ نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کو دیکھو۔ غیر مذاہب والوں نے بھی ان کے ایمان پر یقین کیا ہے۔ اس واقعہ کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام سارہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک دفعہ مع اپنی بیوی کے مصر جانے کا اتفاق ہوا۔ مصر کے آدمی چونکہ بد صورت ہوتے تھے۔ اس لئے مصر کے بادشاہ کو لوگوں نے خبر کی کہ آپ کی سلطنت میں فلاں مقام کی ایک بہت خوبصورت عورت آئی ہے۔ بادشاہ نے اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ اس عورت (حضرت سارہ) کو پکڑ لائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس بات کا پتہ لگا تو انہوں نے حضرت سارہ سے فرمایا کہ تم پر اب ایک ایسا حادثہ ہونے والا ہے۔ تم ہمیشہ دعا میں لگی رہنا اور اسی پر دار و مدار رکھنا۔ خدا تعالیٰ دعا سے تمام مشکلات حل کر دیتا ہے۔ حضرت سارہ کو لوگ زبردستی پکڑ کر اس بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے فعل بد کا ارادہ کیا۔ جب پاس گیا تو اس پر فالج گرا۔ غرض کہ تین مرتبہ اس نے ارادہ کیا اور تینوں مرتبہ اس پر فالج گرا۔ آخر اس نے تنگ آ کر حضرت سارہ سے تمام حال پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میرا خاوند ایسا نیک ہے اور اس قسم کا آدمی ہے۔۔۔ تمام کیفیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنادی۔ بادشاہ کے دل پر حضرت سارہ کی باتوں کا ایسا اثر پڑا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ وہ جب

آئے تو معذرت کے ساتھ حضرت سارہ کو واپس دیا اور اپنی بیٹی ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دی۔ اب سارہ اور ہاجرہ اکٹھی ہو گئیں۔ واقعات کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سارہ نے پہلے کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی عہد لیا تھا کہ جو میں کہوں گی اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ (جیسا کہ رام چندر جی کی سوتیلی ماں نے اپنے خاوند سے عہد لیا تھا کہ جو میں کہوں گی اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ جب راجہ رام چندر جی کی تخت نشینی کا وقت آیا تو اس نے معاہدہ کو پیش کیا اور کہا کہ میرے کہنے کے موافق رام چندر جی کو چودہ برس کا بن باس دیا جائے) اب سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہاجرہ کو کسی دور دراز جگہ میں چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سمجھایا مگر سارہ نے نہ مانا اور اپنی بات پر اصرار کیا۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے خدا اب میں کیا کروں؟ خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا وعدہ پورا کرو۔ پس آپ حضرت ہاجرہ کو لے کر دور دراز ملک میں چلے گئے اور کسی پہاڑی پر چھوڑ آئے۔ اب حضرت ہاجرہ کی گود میں ایک بچہ تھا۔ جس کا نام اسمعیلؑ تھا اور وہ ابھی شیر خوار تھا۔ ایک مشکیزہ پانی کا ان کو دے آئے تھے۔ خدا تعالیٰ نے اس مقام اور اس زمین کا نقشہ کو قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔

يٰۤاِبْرٰهِيْمُ ذٰبِ زُرْعٰتِ (ابراہیم: ۳۸) جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر واپس آنے لگے تو حضرت ہاجرہ نے دریافت کیا کہ مجھ کو یہاں کیوں چھوڑ چلے ہو اور کس کے حکم سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تم کو یہاں خدا تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ چلا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے جواب دیا کہ بس جاؤ۔ اب مجھ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ مشکیزہ کا پانی تو جلد ختم ہو گیا۔ بچہ رونے لگا۔ حضرت ہاجرہ بہت بے چین ہو گئیں۔ اسی عالم پریشانی میں مروہ پر گئیں اور پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ پر سات مرتبہ انہوں نے چکر لگائے مگر پانی نہ ملا۔ آخر واپس بچے کو دیکھنے آئیں کہ ایسا نہ ہو بچہ بے ہوش ہو جائے۔ پھر چلا کر کہنے لگیں کہ کوئی میری آواز کون سنتا ہے؟ بچہ کے قریب آ کر دیکھا تو اس کو اس قدر بے تاب پایا کہ دیکھ نہ سکیں اور دور ہٹ گئیں۔ پھر قریب آئیں تو ایک چشمہ دیکھا جو حضرت اسمعیلؑ کی ایڑیوں کی ضرب کی جگہ سے پھوٹ نکلا تھا۔ اس کے ارد گرد کناروں پر اینٹیں لگا دیں تاکہ پانی بہ نہ جائے۔ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر

وہ اینٹیں نہ رکھتیں تو ضرور تھا کہ یہ چشمہ ایک ندی کی صورت میں تبدیل ہو جاتا) پانی پیا اور بچے کو پلایا (حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں) میرا یہ اپنا تجربہ ہے کہ آدمی اس چشمہ کا پانی پی کر سترہ دن تک گزارا کر سکتا ہے۔ بعض جانوروں کا بھی پانی سے خاص تعلق ہوتا ہے۔ پانی کے سبب سے وہاں پرندے بھی آن موجود ہوئے تھے۔ ایک قافلہ کا گزر اس طرف سے ہوا۔ انہوں نے پرندوں کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہاں کہیں ضرور پانی ہے۔ کچھ آدمیوں کو پانی کی تلاش میں بھیجا۔ ان آدمیوں نے آکر دیکھا کہ ایک عورت چشمے کے کنارے بیٹھی ہوئی ہے اور ایک شیرخوار بچہ اس کی گود میں ہے۔ قافلہ والوں کو اطلاع دی۔ قافلہ اس طرف آیا اور لوگوں نے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو ہم یہاں ٹھکانا بنالیں (بستی کی طرح ڈالیں)۔ حضرت ہاجرہ نے جواب دیا کہ ہاں ہم کو منظور ہے لیکن شرط یہ ہے کہ یہاں کی نمبرداری ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ قافلہ والوں نے اس کا وعدہ کر لیا اور مکانات بنا لئے۔ ایک مکان حضرت ہاجرہ کو بھی بنا دیا اور ہر ایک قسم کی چیزوں میں سے تھوڑا تھوڑا حضرت ہاجرہ کو بھی دیا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ خواہ کسی پر کتنی ہی مصیبت آجائے۔ پر وہ صفا و مروہ پر جا کر دیکھ لے کہ ہم بھی ہیں یا نہیں؟

دوسری بات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا پتہ دیتی ہے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے لڑکے اسمعیلؑ کی اولاد اتنی ہوگی کہ اگر کوئی شخص ریت کے ذروں کو گن سکتا ہے تو اس کو بھی گن سکے گا۔ لیکن جب خدا تعالیٰ نے حضرت اسمعیلؑ کے ذبح کرنے کا حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہ پوچھا کہ اے خدا! تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ اس کی اولاد بے شمار ہوگی۔ اب تو اس کے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو اولاد کس طرح ہوگی۔ بلکہ وہ خدا تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لئے فوراً کمر بستہ ہو گئے۔ دیکھو! ان کا کتنا ایمان تھا۔ وہ خدا تعالیٰ پر ایسا ایمان رکھتے تھے کہ اگر میرا لڑکا مر بھی جائے گا تو خدا تعالیٰ اس کے مردہ ذرات سے بھی اولاد پیدا کر دے گا۔ مجھ کو مثنوی کا یہ شعر بہت ہی پیارا معلوم ہوتا ہے۔

ہر بلا کین قوم راحق دادہ است زیرا و گنج کرم بہادہ است

دیکھو! اس ایمان کا خدا تعالیٰ نے کیسا اجر دیا۔ بارہ لڑکے ہوئے ہر ایک ان میں سے سردار بھی

ہوا۔ انہوں نے بارہ قلعے بنوائے جو کہ پہاڑیوں پر موجود ہیں اور ان پہاڑوں کے مقام کو دیکھو کہ کتنا بڑا شہر بنا ہوا ہے۔ پس اگر آدمی کا ایمان مضبوط ہو تو اس کو کوئی دکھ نہیں پہنچ سکتا۔

(الحکم ۲۱/۱۲ اپریل ۱۹۰۹ء صفحہ ۹۸)



حقیقت البیعت

﴿تقریر فرمودہ ۲۵ مارچ ۱۹۱۰ء بروز جمعہ بعد نماز عصر﴾

بیعت کے معنی بک جانے کے ہیں۔ جو شخص بیعت کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے۔ یاد رکھو کہ اپنے آپ کو بیچ دینا معمولی کام نہیں بلکہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ جو شخص بیعت لیتا ہے اس کی ذمہ داری کو تو تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ بہت خطرناک کام ہے۔ اگر ہم اس ذمہ داری کو سوچ کر اس ستر برس سے متجاوز عمر میں بھی کسی کو دھوکا دیں اور دنیا کے کتوں کی طرح یہ کوشش کریں کہ تمہیں اپنے مطلب پر ڈھال لوں اور کچھ حاصل کروں تو اس سے بڑھ کر لعنتی کام کیا ہوگا؟

خدا تعالیٰ نے اس وقت تک میری پرورش فرمائی ہے اور ہر طرح سے مجھے نوازا ہے۔ میں نے اس کے فضلوں کو اپنے شامل حال دیکھا ہے۔ کیا اس ستر برس کے تجربہ کے بعد بھی میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ پھر تم لوگ اپنا حرج کر کے اور خرچ کر کے آئے ہو۔ کیا اس لئے کہ کسی فریبی کو دیکھو۔ وطن چھوڑ کر اور کرایہ دے کر تمہیں آنا پڑا ہے اور معمولی اخراجات کے علاوہ چندے بھی تمہیں دینے ہوں گے۔ پھر وطن اور اقارب سے الگ ہو۔ یہاں تمہیں وہ آرام نہیں مل سکتا جو وطن اور گھر میں حاصل تھا۔ سب کو چار پائی نہیں ملے گی اور زمین پر سونا پڑے گا حالانکہ گھر پر تمہیں چار پائیاں حاصل تھیں۔ وہاں مرضی کے موافق کھانا ملتا تھا یہاں شاید یہ بات نہ ہو۔ وہاں انسان کچھ نہ کچھ کماتا ہے اور یہاں کمایا ہوا بھی دینا پڑتا ہے۔ اس قسم کی مشکلات کو دیکھ کر بھی تم اگر محض دھوکا کھا کر آتے ہو تو یہ کیسا خطرناک امر ہے۔ مگر میں یقین رکھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ پھر میرا کام تو اور بھی مشکل ہے۔ میرا حال تو ایسا ہے کہ گویا بیعت لیتے وقت تلوار کی دھار پر چلنا پڑتا ہے۔ میرے دل میں کبھی یہ خواہش اور آرزو نہیں پیدا ہوئی کہ لوگوں سے بیعت لوں۔ میں اپنی جان پر کسی کی بیعت کر لینا بیعت لینے سے بہت آسان سمجھتا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آئی تھی۔ پیر بننے کی خواہش نہ تھی اور

رزق کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا یقین دلادیا ہے کہ وہ آپ میری تمام ضرورتوں کا ضرورتوں سے پہلے تکفل فرماتا ہے اور ستر برس سے متجاوز عمر یعنی اس وقت تک میں نے اس کا تجربہ کیا ہے اور ہر روز کرتا ہوں کہ وہی مجھے دیتا ہے۔ کھانے کو، پہننے کو، پینے کو اور پھر میرے رہنے کے لئے وہی سامان کرتا ہے۔ پھر تم ہی سوچ لو کہ جس خدا نے مجھے اس عمر تک دیا اور اب اور کتنا وقت رہ گیا ہے جس کے لئے میں اس خدا کے ان انعامات کو دیکھ کر بھی پھر فریب سے لوگوں کا مال مارنا شروع کروں؟ یہ بات میرے تو وہم میں بھی نہیں آسکتی۔

اگر ایسا ہو تو میرے جیسا لعنتی کون ہوگا؟ (بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَفِي مَالِكَ وَ أَوْلَادِكَ وَأَزْوَاجِكَ) اور اگر تم اپنے مال خرچ کر کے اور تکلیفیں اٹھا کر ایک شریر کے قبضے میں جاؤ تو تم جیسا احمق کون ہوگا۔ مگر نہیں تم کو خدا نے احمق نہیں بنایا بلکہ اس نے تمہیں ان میں داخل کیا ہے جو خدا داد عقل سے کام لیتے ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ تم نے حق کو پایا ہے۔ ہاں یہ خوب یاد رکھو کہ بیعت کر کے تم نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے کیونکہ یہی بیعت کی حقیقت ہے۔

سنو! بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حق نہیں بتاتے اس لئے کہ ان کی غرض صرف چند پیسے ہوتی ہے۔ وہ اپنے چندے سے غرض رکھتے ہیں مگر میں تو چندہ نہیں مانگتا اور نہ مجھے ضرورت۔ مجھے اپنی ذات اور نفس کے لئے بھی ضرورت نہیں اور اپنی اولاد کے لئے بھی نہیں۔ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور وہ جانتے ہی نہیں کہ ہمارے باپ نے ہمارے لئے کیا چھوڑا۔ میں نے اپنے باپ کی جائیداد میں سے ایک روپیہ نقد بھی نہیں لیا مگر میرے خدا نے مجھے بہت کچھ دیا۔ پھر جس نے مجھے دیا میں اپنی اولاد کے متعلق یہ وہم کروں کہ وہ اسے چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں۔

میں اگر اپنی اولاد کے لئے یہ فکر کروں کہ ان کے واسطے کچھ چھوڑوں تو مجھ سے بڑا احمق کون ہوگا۔ پھر اس حالت میں کہ میں موت کے قریب ہوں کیونکہ بڑھے جوانوں سے زیادہ مرتے ہیں۔ میں تمہیں ایک اصل بتاتا ہوں اس کو ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑو۔ جناب الہی سے دعا کیا کرو کہ تم سے غلطی نہ ہو بہت استغفار کرو اور لاجول پڑھو۔ اگر یہ خیال شیطانی ہے تو اللہ تعالیٰ رحم کرے۔

پھر میں ان لوگوں کو جنہوں نے ابھی بیعت کی ہے نصیحت کرتا ہوں کہ وہ بہت استغفار کیا کریں۔ استغفار انسان کو بہت سی بدیوں سے محفوظ رکھتا ہے اور پھر بدیوں کے برے نتائج سے بچاتا ہے اور استغفار کی جڑ یہی ہے۔

پھر الحمد شریف بہت پڑھو۔ الحمد شریف ایک بے نظیر دعا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے پڑھنے سے پیدا ہوتی ہے مگر اس کے مطالب کو خوب سوچ کر پڑھو اور خوب توجہ سے پڑھو۔ پھر درود شریف بہت پڑھو۔ درود شریف کے پڑھنے میں اس بات کو یاد رکھو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی مدارج ہو۔ درود شریف کے پڑھنے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھتی جاتی ہے۔ آپ کے اتباع کا جوش پیدا ہوتا ہے۔ ملائکہ سے تعلق بڑھ جاتا ہے۔ درود شریف کا کثرت سے پڑھنا بڑا ہی مفید امر ہے۔

پھر لاحول بہت پڑھا کرو۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کے لئے توفیق اور بدیوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے اور ہر قسم کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ یہ میرا اور تمام راستبازوں کا مجرب نسخہ ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے جو میں نے تمہیں درددل سے کی ہے۔ اور محض خدا کی رضا کے لئے کی ہے۔ اگر دل سے نہیں کی تو پھر خدا پکڑنے والا ہے۔

میں پھر کہتا ہوں اور کھول کر کہتا ہوں کہ مجھے دنیا کی کوئی غرض نہیں اور نہ دنیا طلبی اور جاہ طلبی میرا مقصود ہے۔ صرف خدا کی رضا چاہتا ہوں۔ وہ کسی طرح سے راضی ہو جاوے۔ پھر یاد رکھو کہ میں اجتماع کو ضروری سمجھتا ہوں۔ اجتماع پر خدا تعالیٰ کے بہت بڑے فیضان اور برکات نازل ہوتے ہیں۔ اس لئے اس کی بہت بڑی تاکید قرآن مجید میں آئی ہے مگر یاد رکھو کہ اجتماع ہمیشہ ایک شخص پر ہی ہو سکتا ہے۔ ایک درخت کی خواہ لاکھ شاخیں ہوں اور سب کی سب پانی میں بھی ہوں تو بجائے اس کے کہ وہ سرسبز ہوں وہ سب کی سب خشک اور مردہ ہو جائیں گی بلکہ پانی کو بھی متعفن کر دیں گی۔ اس طرح پراگر مسلمان ایک شخص پر اکٹھے نہ ہوں تو ان کی حالت اس درخت کی ٹہنیوں کی سی ہوگی۔ اگر وہ درخت کے ساتھ وابستہ رہیں گی تو سرسبز رہیں گی والا نہیں۔

میں نے الفاظ بیعت میں ایک لفظ بڑھانا چاہا تھا کہ آپس میں محبت بڑھائیں گے مگر میں نے دیکھا کہ بعض آپس میں لڑ پڑتے ہیں اس لئے میں ڈر گیا کہ ایسا نہ ہو یہ لوگ معاہدہ کا خلاف کریں اور پھر معاہدہ کی خلاف ورزی سے نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ بہر حال آپس میں محبت بڑھاؤ۔ اس کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ہماری کمزوریاں ہوں تو دعا کرو کیونکہ دعا ہی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اگر مجھے موقع ہو تو بہت سی باتیں سناؤں گا۔

(الحکم ۲۸/ مارچ، ۷/ اپریل ۱۹۱۰ء صفحہ ۶، ۷)



ختم نبوت

﴿تقریر فرمودہ ۲۶ مارچ ۱۹۱۰ء بعد نماز ظہر و عصر﴾

۲۶ مارچ ۱۹۱۰ء کو بعد نماز ظہر و عصر حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ بنصرہ نے اپنی تقریر شروع کی۔ اس تقریر کے اہم مضمون کے لحاظ سے میں نے اس کا عنوان ختم نبوت تجویز کیا ہے۔ اس لئے میں نے اس عنوان کو پسند کیا تا وہ لوگ جو اپنی کوتاہ علمی اور عداوت کی وجہ سے ہمیں متہم کرتے ہیں کہ ختم نبوت محمدیہ کے قائل نہیں وہ دیکھیں اور غور کریں کہ کیا جس قوم کا امام ختم نبوت پر ایسے لطیف دلائل پیش کرتا ہے اور ایسے موقع اور مجمع میں جب کہ اس کی قوم کے ادائی و اعالیٰ ہر حصہ ملک سے جمع ہیں۔ جس مجمع میں اس کو اپنے اصل عقائد اور اغراض کا قوم کے ذہن نشین کرانا ضروری ہے وہ ختم نبوت کے منکر ہو سکتے ہیں؟ امید کی جاتی ہے کہ یہ تقریر انشاء اللہ العزیز بہتوں کی ہدایت کا موجب ہوگی۔ واللہ یہدی من یشاء۔ (ایڈیٹر الحکم)۔

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَفَمَنْ یَعْلَمُ اَنْزَلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰی ۙ اِنَّمَا یَتَذَكَّرُ اُولُو الْاَلْبَابِ ۗ الَّذِیْنَ یُؤْفِقُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَا لَا یَقْضُونَ الْمِیثَاقَ ۗ وَالَّذِیْنَ یَصْلُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ یُّوْصَلَ وَا یَحْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَا یَخَافُوْنَ سُوْءَ الْحِسَابِ ۗ وَالَّذِیْنَ صَبَرُوْا وَابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَا قَامُوْا الصَّلٰوةَ وَا نْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَا عَلٰنِیَةً وَا یَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَھُمْ عُقْبٰی الدّٰرِ ۗ جَنَّتْ عَدْنٌ یَدْخُلُوْنَہَا وَا مَنْ صَلَحَ مِنْ اَبَائِھُمْ وَا زَوْجِھُمْ وَا ذُرِّیَّتِھُمْ وَا الْمَلَائِکَةُ یَدْخُلُوْنَ عَلَیْھُمْ مِنْ کُلِّ بَابٍ ۗ سَلَّمَ عَلَیْکُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبٰی الدّٰرِ ۗ وَالَّذِیْنَ

يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ
يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝
اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَا
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْأٰخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ۗ (الرعد: ۲۰-۲۷)

علم و جہل: ایک علم ہوتا ہے اس کے مقابلہ میں ایک جہل ہوتا ہے۔ ساری انسانی خوبیوں اور سارے کمالات علم صحیح کے ساتھ وابستہ ہیں اور سارے دکھ درد اور مصائب

جہل سے ملے ہوتے ہیں۔ علم ہوتا ہے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ علم ہوتا ہے رسولوں کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ علم ہوتا ہے اللہ کی کتابوں سے آگاہی ملتی ہے۔ علم ہوتا ہے تو ضروریات کا استخراج کرتے ہیں۔ علم ہوتا ہے تو عجائبات مخلوقات کا مطالعہ کر کے اپنے منافع کی اشیاء کو جمع کرتے ہیں۔ اسی علم کے عجائبات میں سے سٹیم انجن ہیں۔ میرے اپنے مطلب اور مذاق کے موافق اس سے کتابیں چھاپنے کا کام لیا جاتا ہے اور بعض کے مذاق کے لئے اخبار، ناول اور ہر قسم کی تصنیفات چھاپی جاتی ہیں اور انسانی زندگی کی بہت سی ضروریات اس سے وابستہ ہیں۔ اسی کے ذریعہ سے سفر کی سہولتیں پیدا کی ہیں۔ چنانچہ ریل اور جہاز کے سفر آسان کر دیئے ہیں۔ پھر ہزاروں ہزار کارخانے، کھانے پینے، پہننے کی اشیاء کے اور سونے اٹھنے، سواریوں کے آرام کے اس سے چلتے ہیں۔ مگر جن کو کامل علم نہیں وہ تکالیف برداشت کرتے ہیں۔

یہ علم کا ایک نظارہ ہے۔ علم دین کا ہو یا دنیا کا اگر صحیح ہو وہ ہر حال میں انسان کے لئے راحت اور آسائش کا ذریعہ ہوتا ہے۔ عجیب و غریب انسان دنیا کا جس کا نام ابراہیم ہے۔ (علیہ السلام) وہ اپنی دعا میں اسی لئے کہتا ہے۔ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ۗ (البقرة: ۲۰۲)

انسانی کمالات کی تقسیم: انسان میں دو قسم کے کمالات ہیں۔ ایک جسم کے آرام کے لئے اور دوسرے روح کے لئے۔ جسم کے آرام کے لئے

کھانے، پینے، پہننے، مکانات، عیش و آرام اور سواریوں کے سامان، معلومات کے سامان، دوستوں سے ملنے کے سامان بیویوں اور بچوں سے تعلقات اور ان کے عجیب دل خوش کن شواغل، قوم میں

عزت و وقار ہے اور دوسروں پر حکومت کرنے کو ملے یہ جسمی آرام ہے۔ ایک طرف تو اس آرام کی خواہش دوسری طرف جسم کے لئے ایک وقت محدود کر دیا بلکہ **كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ** (الرحمن: ۳۰) صوفیاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ انسان ہر آن میں فنا ہو کر نیا بنتا ہے جو حالت ہماری باپ کے جسم میں (برنگ نطفہ تھی) وہ آج نہیں۔ پھر جو ماں کے پیٹ میں تھی وہ بھی نہیں پھر بچے تھے جو ان ہوئے اور بڑھاپے میں اور ہی قسم کے اعضا ہوتے ہیں۔ غرض یہ مسلم بات ہے کہ یہ جسم ہر آن معرض تحلیل میں رہتا ہے۔ اگر چہ ڈاکٹروں میں بحث ہے کہ تین سال بعد یا سات سال بعد یہ جسم بدل جاتا ہے۔ مگر میں تو یہی مانتا ہوں کہ ہر آن تحلیل اور تبدیل ہو رہا ہے۔ پھر جب ایسے فنا پذیر کارخانہ کے لئے اس قدر انبیاء کتابیں تمدن کی طاقتیں بھیجی گئی ہیں جو ایک آن میں الگ ہو جاتا ہے تو دائمی بقا کے تقاضے کے لئے کیا کچھ ہوگا؟

ایک روح ہے۔ اس میں ایک تڑپ ہے کہ ہم ضائع نہ ہوں۔ جب سے انسان پیدا ہوا ہے۔ میرا یقین ہے کہ اسی وقت سے اس نے طب کے لئے ہاتھ پیر مارے ہیں اور ہمیشہ اس میں ایجادات اور ترقیوں کا سلسلہ جاری رہا ہے؟ کس قدر دوائیں نئے دن ایجاد ہوتی رہتی ہیں۔ کیوں؟ مطلب صرف یہ ہے کہ فنا ظاہری بھی طاری نہ ہو۔

فطرتی تقاضے پورے ہوتے ہیں: جس قدر قوی انسان کو دیئے گئے ہیں اس کا سامان بھی ساتھ ہی عطا فرمایا گیا ہے۔ میں

نے دیکھا ہے مجھے جب فطرتی قوی دیئے گئے ہیں ان کا سامان بھی ساتھ ہی عطا فرمایا ہے۔ آنکھ ملی ہے تو خدا کے فضل کے نیچے میری نظر مضبوط اور محفوظ ہے۔ وہ تھکان محسوس نہیں کرتی۔ اس کے ساتھ ہی میں دیکھتا ہوں فطرت میں عجیب عجیب خوشنما نظارے موجود ہیں۔ ہر چیز جو جمال رکھتی وہ اسے خوش کرتی ہے۔ قدرت کی دلچسپیاں دیکھ دیکھ کر میں مدتوں خوش رہتا ہوں۔ مجھے کتابوں کا شوق ہے۔ انہیں دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتا اور قدرت کے تمام نظاروں سے (جو آنکھ کو اپنی طرف محو کرتے) بڑھ کر اس نظارہ سے مسرور ہوتا ہوں۔ کبھی میں شاعر ہوتا تو کتابوں کی سطروں اور الفاظ کو خط و خال سے تشبیہ دیتا۔ غرض آنکھ کی دلچسپی اور سرور کے لئے جمال کا سامان دنیا میں موجود ہے۔ پھر

فطرت نے کان دیئے ہیں وہ عمدہ بات سننا چاہتے ہیں خواہ وہ کامیابی کی کوئی خبر ہو خواہ عمدہ آواز ہو، خواہ صحت و عافیت کا نسخہ ہو۔ بہر حال قدرت نے کان کے لئے آواز کا سامان دیا ہے۔

میری ناک میں خاصیت ہے کہ نہایت ہی عمدہ گلاب کا عطر جو پچاس ساٹھ روپیہ تو لہ کا ہو وہ اسے بہت خوش کرتا ہے۔ پھر بوباس راحت کا موجب ہوتی ہے۔ غرض فطرت نے اس کے لئے بھی سامان دیا ہے۔

میری زبان ذوق کا علم رکھتی ہے۔ وہ قسم قسم کے عمدہ سے عمدہ کھانے کبھی نمکین کبھی مرچ کے مزے، پیٹھے، پھیکے، سیٹھے، ترشی اور شیرینی ملا کر غرض ہر قسم کے مزوں سے زبان لطف اٹھانا چاہتی ہے اور خدا کا شکر ہے کہ یہ سب سامان اس کے لئے موجود ہیں۔

پھر میری زبان قسم قسم کا بولنا چاہتی ہے۔ عجیب عجیب قسم کے مضمون اٹھاتی ہے اور اس کا سامان موجود ہے۔ اسی طرح ہاتھ پاؤں اور بعض دوسرے اعضاء ہیں جن کا اگر نام لیں تو بعض شاید اسے خلاف تہذیب قرار دیں مگر میں کامل انسان کے اجزا میں ان کا کمال دیکھتا ہوں۔ (یہاں تک کہ اگر وہ کمزور ہوں تو ایسے شخص کو مردوں کی فہرست سے خارج کر کے نامرد کہا جاتا ہے۔ ایڈیٹر) فطرت نے ان تمام اعضاء کی سیری اور سرور کا سامان رکھا ہے۔ جب ٹولنے پر آتے ہیں تو بعض موقع پر درشتی اور بعض موقع پر نرم و ملائم عجیب بہار بخشتا ہے۔ کوئی مخفی طاقت اور راز ہے جو عورتوں کے دیکھنے سے بدن میں جوش پیدا ہوتا ہے۔ غرض ان تمام قواعد قویہ سے یقین پڑتا ہے اور میں اس سے بھی اعلیٰ یقین پر ہوں کہ روح میں بقا کی تڑپ ہے۔ اگر کروڑ کروڑ اور سنکھ در سنکھ سال بھی حیاتی ملے لیکن جب اس میں فنا ہو پھر وہ میرے دل کو خوش نہیں کر سکتی۔

اس موقع پر مجھے ایک عزیز کی بات یاد آئی۔ وہ ہندو تھا اور پھر عارضی نجات پر قصہ:

مسلمان ہو گیا اور اس کو ایک آریہ نے کہا کہ تم ہم میں واپس آ جاؤ۔ ہم تمہیں ملانے کو تیار ہیں۔ اس پر اس نے اس آریہ کو کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ مجھے ابدی نجات کی تڑپ ہے اور یہ تمہارے ہاں نہیں ہے۔ یہاں مجھے یہ خوشی تو ہے کہ ابدی نجات ملے گی اس پر آریہ کو خاموش ہونا پڑا۔

روح کی فطرتی تڑپ: غرض روح میں ایک تڑپ ہے۔ میں تو اپنی روح کی شہادت دے سکتا ہوں۔ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو قریب تھا کہ

خودکشی کر لیں۔ یہ نظارے ہم نے طبیب ہونے کی حیثیت سے دیکھے ہیں لیکن جب ہم نے ان کو کہا کہ ایسا سامان کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے تم ایسا کرتے ہو تو انہوں نے بے حد مسرت ظاہر کی کیوں؟ وہاں بھی بقا کی فطرت کام کرتی ہے۔

میرا اپنا دل چاہتا ہے کہ روح ابدالآباد کے لئے ہو۔ پھر انبیاء علیہم السلام کی تعلیم عطاء غیر مجزوز سے تو ایسی خوش ہوتی ہے کہ اس نبی کے قدم چوم چوم کر قربان ہو جاؤں۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ یقین ہی سکھوں کا موجب ہے۔

میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ میرا مولیٰ دیکھتا ہے۔ وہ تمام مولے جو فنا ہونے والے ہیں یہ سکھ نہیں دے سکتے اس لئے میں ان سب سے بیزار ہو گیا اور تمام ان تعلیموں سے بیزار ہو گیا جن سے بقائے روح کا مسئلہ صاف نہیں ہوتا۔

خدا تعالیٰ کا قانون ہے کہ اس نے فطرتی خواہشوں اور تقاضوں کو سیری کا سامان مہیا کیا ہے۔ روح بقا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے ہاں ہم دیں گے۔ روح علم چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم علمی ترقی دیں گے۔ یہ علمی ترقی کہاں تک ہوگی؟ میں یقیناً کہتا ہوں کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (جن کو میں اپنی بصیرت کے لحاظ سے کمالات جسمانی روحانی اور نبوت کا خاتم اور اس کے علاوہ سب میں کامل انسان یقین کرتا ہوں) کو بھی یہ تعلیم ہوتی ہے۔ **قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا** (طہ: ۱۱۵) تو اپنے علم کی ترقی مانگ۔ جب تمام نبوتوں، رسالتوں اور کمالات کے خاتم انسان کامل کو علمی ترقی کے لئے یہ دعا سکھائی جاتی ہے تو اس کلمہ کو دیکھ کر اور پڑھ کر دل اور بھی باغ باغ ہو گیا کہ یہ بھی اسی بقائے ابدی کا کرشمہ ہے۔ پس یہ تعلیم ہے جو اسلام کے لئے متوالا کرتی ہے۔

اپنے بعض کشف: میں نے اس موجودہ ڈھچھر میں بعد الموت لوگوں سے ملاقات کی ہے اور جنت و جہنم کے حالات اور نیکیوں اور بدیوں کے متعلق ان سے

سوال کئے ہیں۔ ہماری صحبت میں رہنے والے ان قصص سے واقف ہیں اور بعض کے نام سے بھی واقف ہیں۔ میں چھوٹا سا تھا میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ بہت مضحل ہو رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ کیا تم بیمار ہو۔ اس پر اس نے پکڑ کر ایک عورت کو میرے سامنے کیا اور کہا کہ اس کے عشق کی اب بھی سزا دیتے ہیں۔ مجھے اس واقعہ پر عورتوں سے ایسی نفرت ہوئی کہ ماں کا چہرہ بھی ناگوار ہو گیا۔ یہاں بعض وہ لوگ بیٹھے ہیں کہ جو اس قصہ سے واقف ہیں۔ ہمارے گھر میں ایک عورت روٹی پکاتی تھی۔ میں نے کہا کہ روٹی ڈیرے پر بھیج دیا کرو۔ اتفاق سے میں اس جگہ گیا جہاں کی وہ عورت تھی جو مجھے دکھائی گئی۔ پھر اس محلہ میں گیا جہاں کی عورتیں بہت حسین ہوتی ہیں۔ چونکہ وہاں میری وجاہت تھی۔ میں نے عورتوں کے ایک گروہ کو کہا کہ مایو ذرا ٹھہر جاؤ۔ وہ ٹھہر گئیں اور میں نے غور سے دیکھا تو وہ لڑکی ان میں مجھے نظر آئی۔ میں نے ان عورتوں کو کہا کہ اس کو ذرا میرے پاس بھیج دو۔ انہوں نے اسے دھکا دے کر آگے کر دیا۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا جو اس نے بتا دیا۔ اس کے بعد میں نے ایک شخص سے جو اس مرے ہوئے سے واقف تھا پوچھا کہ وہ کسی پر عاشق تھا۔ وہ یہ سن کر حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ مرتے وقت اس کا سر میری ران پر تھا اور میرے اور اللہ تعالیٰ یا اس لڑکی کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کسی پر عاشق بھی ہے۔ میں نے کہا عشق و مشک رانٹو انست نہفت۔

كَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى (الانعام: ۱۱۲) تک تو نوبت پہنچ چکی تھی۔ اس پر جب میں نے یہ حالات بتائے تو اسے بہت تعجب ہوا مگر اس واقعہ نے میرے قلب پر بہت اثر کیا اور مجھے عورتوں سے حد سے زیادہ نفرت ہو گئی اور خوف غالب ہو گیا مگر میں نے اس واقعہ کو ایمان کے لئے مفید پایا۔ کیونکہ ایمان خوف اور رجاء کے درمیان ہوتا ہے۔

پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ بہشت میں ہے، غُرَفَات میں ہے۔ وہ سماں اب تک میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ میں اسے جانتا تھا کہ وہ شراب خور اور عیاش تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا گزر یہاں کیونکر ہوا۔ اس نے جواب دیا کہ میری غریب الوطنی پر رحم ہو گیا۔ بعد اس کے ہم نے ایک آدمی سے اس کی بابت پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ سرشتہ دار تھا متوالا رہتا تھا۔ ایک روز

کچھری سے نکل کر گھر کو آیا مگر وہ گھر نہیں پہنچا۔ اس کے متعلق بہت دریافت کیا۔ اب تک پتا نہیں۔ اس واقعہ پر دو سال گزرنے کے بعد ایک دوست آیا۔ اس نے کہا کہ وہ مر گیا جب پوچھا کہ کہاں تو اس نے کہا کہ وہ پایادہ حج کے لئے بمبئی جا رہا تھا۔ کلیانی میں پہنچ کر مر گیا۔ تب اس کی غریب الوطنی کی حقیقت مجھ پر کھلی کہ دل میں کیسی سچی توبہ کی تھی اور وہ خدا تعالیٰ نے قبول کر لی۔ یہ باتیں میں ان لوگوں کے لئے پسند کرتا ہوں جو مجھے راستباز یقین کرتے ہیں اور مجھے ان باتوں کے پہنچانے اور سنانے میں قطعاً کوئی دنیوی غرض نہیں۔ اگر کوئی غرض ہوتی تو جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ سب سے پہلے منکر ہو جاتے۔

خدا تعالیٰ کے احسانات: میں روٹی خدا کی دی ہوئی کھاتا ہوں۔ اس معاملہ میں گھر

والوں کا بھی مجھ پر احسان نہیں کہ بیوی پکائے تو کھاؤں۔ کپڑا اسی کا دیا ہوا پہنتا ہوں۔ رہنے کو اسی نے مکان دیا ہوا ہے۔ اب تھوڑی عمر باقی رہ گئی ہے کیا معلوم، ہے بھی یا نہیں۔ پھر وہ کیا غرض ہو سکتی ہے جو مجھے خلاف بیانی کی ترغیب دے۔ بچے اس قدر چھوٹے ہیں کہ وہ کچھ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ شاید خواب و خیال کی طرح بڑے کو یاد ہو کہ ہمارا ابا ایسا ہوتا تھا۔ پھر کیا میں ان کے لئے کچھ جمع کرنا چاہتا ہوں ہرگز نہیں۔ راستباز کا واقعہ یقین کرنے کے لئے اعلیٰ مقام ہے۔ اسی طرح پر اللہ جل شانہ کی ہستی پر ایمان آتا ہے۔

اب ہم جاپان اور لنڈن پر تو یقین رکھتے ہیں۔ وہاں کے آئے تاروں کو پڑھ کر کبھی وہم نہیں کرتے کہ یہ غلط ہیں۔ پھر کس قدر افسوس ہوگا اگر ہم ان راستبازوں کے منہ سے سن کر یقین نہ کریں جن کی راستبازی اور اخلاق کے پتہ کے برابر بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے خدا تعالیٰ سے سن کر کہا کہ خدا نے کہا ہے۔ ”انا الموجود“ غرض راستبازوں کے منہ سے سن کر تکذیب نہ کرو۔ یہ راستبازوں کی جماعت انبیاء علیہم السلام اور ان کے خلفاء و نواب کی جماعت ہے۔

رجوع بہ مطلب اصلی: ہاں اس رکوع کے شروع میں علم اور بے علمی کے متعلق بتایا ہے کہ علم اور بے علمی برابر ہی نہیں کرتے۔ علم بڑی عجیب چیز ہے۔

انبیاء کا علم، اللہ کی کتابوں کا علم، ملائکہ کا علم، جزا و سزا، جنت و نار اور مقادیر الہیہ کے علوم ایسی راحت

بخش چیزیں ہیں کہ مجھے تو اس سے بڑھ کر کوئی خوشی اور خواہش نہیں ہو سکتی اور کوئی لذت اس علم کی لذت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں خدا تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے یہ علم دیا ہے۔ اس نے مال دیا تو اس قدر کہ اور حاجت نہیں۔ بے اعتنائی دی تو ایسی کہ ایک ہزار رکھنے کی جانچ نہیں۔ تم خود دیکھ لو کہ کوئی عزت تمہارے دل میں بھی ہے۔ پھر کیا میں تمہاری کسی بھی چیز کا حاجت مند یا لالچی ہوں اگر میں جھوٹ کہتا ہوں تو کہہ دو۔ پس میں جو کچھ کہتا ہوں درِ دل سے کہتا ہوں۔

یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو علیم یقین کرنا ہر بدی سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قدوس ہے۔ پاک لوگ ہی اسی سے تعلق پیدا کر سکتے ہیں اور وہ پاکوں کو اپنا بناتا ہے کیونکہ پاک کو پلید سے کیا نسبت۔ جس قدر چیزیں پلیدی کا موجب ہیں ان سے قطع تعلق کرنا تو اس کا آسان گریہ ہے کہ سبوح قدوس کا مطالعہ کرو۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی اس سے تعلق قرب پیدا کر سکتے ہیں تو وہ بدیوں اور ناپاکیوں سے بچنے کی توفیق پاتا اور پاک فرشتے اس سے اپنا تعلق بڑھاتے ہیں۔

میں تو اس کے فضلوں کو دیکھ دیکھ کر قربان ہو جاتا ہوں اور یہ سب اسی کے رحم کا نتیجہ ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے پانے جانتا ہوں۔ بادشاہوں کو میں نے بتایا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ پلاؤ اور روٹی کس طرح پک سکتی ہے۔ پھر ان کا استعمال میں نے کیوں نہ کیا ہو؟ ایسا ہی اعلیٰ درجہ کے لباس کی کتربینت بھی جانتا ہوں اور اسے پہن کر دیکھا ہے۔ تو پس یہ اعلیٰ سے اعلیٰ راحت اور آرام کیونکر ملتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی اطاعت پر۔

میں کس طرح پر قرآن کریم پر عمل کرنے کی روح تمہارے اندر

ایک دہریہ قرآن کریم کے طفیل بچ گیا:

پھونک دوں۔ یہ خدا ہی کا کام ہے۔ ایک مرتبہ ایک دہریہ نے مجھے کہا کہ میں کہیں باہر جاتا ہوں کوئی نصیحت کرو۔ میں نے اس کو کہا کہ تم قرآن شریف پر عمل کر لیا کرو۔ اسے ایک آسودہ جماعت کے ساتھ ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں عیاشی کے سامان تھے۔ سب ساتھ والے آتشک میں مبتلا ہو گئے وہ بچ گیا۔ جب واپس آیا تو میں نے کہا کہ تم کس طرح بچ گئے۔ اس نے کہا کہ میں خدا کو

تو مانتا نہیں مگر اس قرآن نے مجھے بچالیا۔ تب میں نے اسے کہا کہ لَا رَيْبَ فِيهِ (البقرة: ۳)۔
اتباع انبیاء سکھ کا موجب ہے: اس کتاب کی شان ہے۔ ریب ہلاکت کو بھی کہتے ہیں یعنی اس کتاب میں کوئی ہلاکت کی راہ

نہیں اور سچ تو یہ ہے کہ انبیاء کی اتباع میں کوئی دکھ ہی نہیں لَا رَيْبَ فِيهِ کے یہ بھی معنی ہیں کہ اس میں ہلاکت کی تعلیم نہیں بلکہ سکھ کی تعلیم ہے۔ پھر تمام انبیاء نے اپنے آزمودہ نسخوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ صحابہ نے انہیں استعمال کیا۔ پھر دیکھ لو کہ کس قدر نفع اٹھایا۔ ابراہیم کی اصل نسل تو سب جانتے ہیں مگر نمرود کا نام بھی کوئی نہیں جانتا۔ آج کل یہ سوال اٹھا ہے کہ وہ کون تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ خیالی نام ہے۔ مگر وہ تھا، اور حضرت ابراہیم کا دشمن تھا اور وہ بے نام و نشان ہو کر مٹ گیا۔ لیکن بانام و نشان گویا اب تک زندہ ہے۔ یورپ فخر کرتی ہے کہ وہ ابراہیم کی اولاد ہے۔ نصرانی عیسائی، یہودی، صیامی، مسلمان سب کے سب اس کے نام پر فخر کرتے ہیں۔ زرتشت کی قوم اس کو عظیم الشان انسان سمجھتی ہے۔ یہ درجہ اور عزت اسی کی اولاد کو ملی۔ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءً وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا (المائدة: ۲۱) کوئی آسمان کے ستارے یا ریت کے ذرے گئے تو ابراہیم کی اولاد کو گئے جو ابراہیم پر برکت کرے خدا اس پر برکت نازل کرتا ہے جو ابراہیم پر (نعوذ باللہ) لعنت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے لعنت کی مار مارتا ہے۔ یہ انعام کیوں ہوا؟ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (البقرة: ۱۳۲) ایک ہی نکتہ ہے اور وہ کامل اتباع اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ تم ہمارے فرمانبردار ہو جاؤ تو کہا حضور میں تو فرمانبردار ہو چکا اور آپ کا کیوں فرمانبردار نہ بنوں آپ تو رب العالمین ہیں۔ ابراہیم فرمانبرداری کی نوعیت اور وجہ نہیں پوچھتا۔ حکم کے ساتھ ہی فرمانبرداری کا اقرار کیا ہے۔ یہاں تک ہی نہیں بلکہ وَوَصَّي بِهَا آلَهُمْ بَيْنَهُ وَيَعْقُوبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَى لَكُمْ الَّذِينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (البقرة: ۱۳۳) یعنی اسی فرمانبرداری کی ابراہیم نے اپنے بیٹے کو وصیت کی اور یعقوب نے بھی کہا کہ اے میرے بیٹو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے دین کو برگزیدہ کیا ہے جو فرمانبردار بننے کا دین ہے۔ پس تم فرمانبردار ہو کر ہی مرو۔

اسی ایک نکتہ پر سارے کمالات کا دار و مدار ہے۔ غرض فرمانبرداری کامل فرمانبرداری تمام

سکھوں کی جڑ ہے۔ میں نے بتایا ہے کہ انسانی اور جسمانی علوم سکھ کا موجب ہوتے ہیں تو جاودانی علوم کیوں جاودانی راحت کا ذریعہ نہ ہوں؟ میں اپنے تجربہ سے اور تمام راستبازوں کے تجربہ کے علم سے کہتا ہوں کہ جاودانی علوم سے متمتع ہونے والا کبھی گھبراؤ میں نہیں ہوتا۔ اتنا سکون راحت اَسَلَّمْتُ کہنے والے کے سوا کسی اور کو نہیں مل سکتا۔

مگر ایسی سچائیوں کا علم لوگوں کے اتباع سے نہیں مل سکتا۔ کتنا ہی مقرر ہو کیا وہ قرآن کریم سے بڑھ سکتا ہے۔ کیسا ہی صاحب تجربہ و معلومات ہو پھر بھی وہ خالق فطرت کے برابر کب ہو سکتا ہے اور یہ کتاب لے کر وہ شخص آیا جو کل کمالات انسانی کا جامع تھا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔
 مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (النساء: ۸۱) یعنی جس نے اللہ کے رسول کی اتباع کی یقیناً یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اللہ کے پرے اور کیا ہو سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی اتباع کا نشان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو قرار دیا تو کیوں یہ آیت ختم نبوت کا نشان ہو؟
 پھر فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ (الانفال: ۱۸) تو نے نہیں پھینکا جب کہ تو نے پھینکا تھا مگر وہ

اللہ ہی نے پھینکا تھا پھر کہا اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللَّهَ (الفتح: ۱۱) جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی بیعت کرتے ہیں۔ اب غور کرو کہ یہ عظیم الشان مقام کسی اور کو ملا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔

ایک عجیب بات اور ہے یہ زے دعاوی نہیں بلکہ اس کے ساتھ زبردست دلائل اور بھی ہیں۔ میں نے وید کو سنا ہے اور احتیاط سے سنا ہے۔ اتھرو کے سواتنیوں وید سننے ہیں اوستاژند اور دساتیر کو پڑھا اور سنا ہے اور گاتھ جو مجوسیوں کی کتاب ہے اسے بھی احتیاط سے سنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے قرآن کریم کو پڑھا ہے۔ تمہیں تعجب ہوگا کہ جب بدو فطرت سے قرآن سے محبت ہوئی تو شیعوں کی کتابیں بھی پڑھی ہیں۔ ایک کتاب چار سو روپیہ کو آتی ہے بحار الانوار نام اور عربی میں ہے۔ میرے دل میں ہے کہ اسے بھی منگوا کر پڑھ لوں یعنی اس کی مستند اور معتبر کتابوں کو منگوا یا اور پڑھا ہے اور میرے پاس وہ ہیں میرے نزدیک ان کی کتابیں معتبر معلوم ہوتی ہیں۔ چار ان کی مسلم ہیں کافسی

ہے تہذیب ہے۔ استبصار اور من لا یحضر، مجمع البیان، طبری اور نہج البلاغۃ جناب امیر کے خطبات ہیں۔ ان کے مد مقابل خوارج ہیں۔ ان کی کتابیں بھی میں نے پڑھی ہیں۔ ایک ترانوے جلد میں ہے اور میرے پاس ہے۔ (اس کتاب کی ترانویں جلدیں سن کر ایڈیٹر الحکم نے استعجاب سا ظاہر کیا۔ اس پر فرمایا)۔

کہ ایک سیاح استنبول کا یہاں آیا اور پہلے وہ سلطان روم کے کتب خانہ کی بڑی تعریف کرتا تھا۔ لیکن جب اس نے میرے کتب خانہ کو دیکھا تو کہنے لگا کہ وہ کیا چیز ہے۔

غرض ان کتابوں کو اس وسعت سے دیکھا ہے۔ پھر سینوں میں مذاہب اربعہ، صوفیوں اور محدثین کا مذہب پڑھا ہے اور ان سب کو پڑھ لینے کے بعد میں ایماناً کہتا ہوں اور کھول کر سناتا ہوں اور یہ اس لئے کہ میں نہیں جانتا کہ آئندہ ہم سے کون ہوگا اور کون نہیں مجھے کچھ کہنے کا اور تمہیں کچھ سننے کا موقع ملے یا نہیں۔ اس لئے سنو اور غور سے سنو کہ اس تحقیقات اور تجربہ کے بعد میں علی وجہ البصیرت اقرار کرتا ہوں کہ قرآن کریم جیسی کوئی نعمت اور کتاب نہیں۔ وہ خدا تعالیٰ کی کامل کتاب ہے اور وہ تمام اختلافات مٹانے کا کامل ذریعہ ہے اور وہ خود اختلافات کا باعث نہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اس شہادت کو بھی علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ بعد کتاب اللہ بخاری جیسی بھی کوئی کتاب نہیں۔ میں نے سرسید احمد صاحب کو سو روپیہ اس لئے دیا تھا کہ تم جو تصنیف کرو مجھے بھیج دو۔ آخری دم تک اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے۔ میں نے اس کی تصنیفات کو خوب پڑھا ہے۔ میں دنیا کے مقتداؤں سے بے خبر نہیں۔ برہم ازم کی کتابیں پڑھی ہیں سب سے بڑی کافر قوم برہم ہے۔ میں اس کو مذہبی رنگ میں آریوں اور عیسائیوں سے زیادہ خطرناک سمجھتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ براہموزم ہیں مگر میں کہتا ہوں کہ یہ بہت ہی گرم ہیں۔ یہ الہی غضب کے نیچے ہیں۔ جو تمام انبیاء علیہم السلام کو مکالمہ الہیہ کے دعویٰ میں جھوٹا سمجھتے ہیں۔

میں یہ بھی علم اور بصیرت سے کہتا ہوں۔ میں نے ان کی کتابوں کو درستی سے پڑھا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھتے ہیں۔ میں انہیں چند منٹ میں پڑھ لیتا ہوں۔ انہوں نے انبیاء علیہم السلام کو کذاب (معاذ اللہ) مانا ہے اور جو کچھ نرم ہیں، انہوں نے دعویٰ رسالت کو جنون یا دروغ

مصلحت ان پر کہا ہے۔ غرض اس ساری تحقیقات کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قرآن کریم ہی کامل کتاب ہے۔ اور پھر جب قرآن مجید میں تدبر کیا اور ساہا سال تک تدبر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نمونہ اس پر عملدرآمد کا نہیں۔

کتاب وسنت: پھر بخاری سے بڑھ کر کوئی کتاب تاریخی روایت کے لحاظ سے نہیں۔ اس کے ماوراء ہمارے سلسلہ میں قرآن کو کتاب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل در آمد کو سنت کہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ چند مثالیں دوں تاکہ جو تفرقہ ان میں ہے وہ معلوم ہو جائے۔

جب بخاری امام نہ ہوئے تھے تو بھی وہ مسلمان تھے۔ نماز پڑھتے، حج، روزہ، زکوٰۃ، اعمال الاسلام کا پابند تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ علم جو ارکان اسلام اور اعمال کا ان کو تھا وہ اسی سنت متواتر کے ذریعہ ان کو ملتا تھا۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی امام نہ ہوئے تھے اور فقہ نہیں لکھی گئی۔ محیط اور مبسوط کے مسائل منہ سے نہ نکلے تھے تو کیا وہ مسلمان نہ تھے؟ کیا ہدایہ اور قدوری پڑھ کر وہ مسلمان ہوئے تھے۔ نہیں بلکہ وہ جس ذریعہ سے نیک تھے وہ یہی سنت اور اہل سلسلہ کا تعامل تھا۔ صحابہ کے وقت تو یہ کتابیں نہ تھیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ کرتے دیکھا وہی کرتے تھے۔ وضو کرتے دیکھتے تھے تو اسی طرح وضو کرتے نماز پڑھتے دیکھتے، نماز پڑھ لیتے۔ روزہ رکھتے دیکھا تو روزہ رکھتے اور اسی طرح آپ کو دیکھ کر حج کر لیا۔ اخلاق فاضلہ سے متصف پایا آپ بھی ہو گئے۔ یہی سنت ہے۔ ایک نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بہت سے دوست اسے یاد رکھیں اور اسے پہنچاویں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملدرآمد دنیا کے بچے لڑکیاں جوان آدمی جوان عورتیں بوڑھے مرد، بوڑھی عورتیں، یہود، عیسائی غرض ہر طبقہ کے لوگ دیکھتے تھے۔ اسی تواتر سے وہ علم ہم تک پہنچا ہے۔ اب اگر کوئی اس میں ترمیم کر کے کہے کہ نماز کی اتنی رکعت ہے۔ وہ تمام مجنونوں سے بدتر مخلوط الحواس ہے۔ صلوٰۃ کے معنی صبح، ظہر، عصر، مغرب اور عشا کی سترہ رکعت فرض ہیں۔ وتروں کو زیادہ مؤکد کریں تو بیس رکعت اور اس کے سوا بیس رکعت اور یہ عمل در آمد تواتر سے ثابت ہے اس کے لئے کسی کتاب کی ہمیں ضرورت نہیں۔

مجھے شوق ہوا کہ شیعوں اور خوارج وغیرہ کی نماز دیکھوں۔ صوفیوں اور محدثین کی نماز کا علم پیدا کروں۔ میں نے غور سے دیکھا اور دریافت کیا مگر وہاں بھی سترہ رکعت فرض ہی پائیں۔ پھر جھگڑا کیا؟ کیا روزہ، حج مکہ اور زکوٰۃ میں؟ اس میں بھی نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں بھی نہیں۔ ملائکہ پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور رسولوں قیامت اور تقدیر کو ماننے میں سب برابر ہیں۔ اب اس قدر تعامل اور توازن کے ہوتے ہوئے اگر ایک سکھ اٹھ کر کہے کہ نماز کے یہ معنی ہیں تو کیونکر قابل تسلیم ہوں گے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ قرآن کریم کے ساتھ تعامل کا وجود بہت بڑی طاقت کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (الفاتحة: ۲) کے معنی جو ہم نے بچپن سے سیکھے ہیں۔ وہ بھی اسی طرح تعامل کے نیچے چلے آتے ہیں۔ اَل کے معنی ساری حمد تعریفیں اَل کے معنی واسطے اللہ معنی اللہ رب کے معنی پالنے والا اَل معنی سارے عالمین معنی جہانوں یعنی ساری تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔

آہ! لوگوں نے تعامل کا بھید نہیں سمجھا۔ بچپن کا واقعہ ہے۔ بخاری ہمارے گھر میں تھی۔ خلاصہ کیدانی مجھے یاد کرایا جاتا تھا۔ اس میں رفع سبابہ کا ذکر تھا۔ مفتی محمد صادق کی والدہ کے باپ نے کہا کہ خلاصہ کی شرح ہم بھیجیں گے۔ چنانچہ کالے کالے بستوں میں انہوں نے وہ شرح دی۔ میرے بھائی صاحب نے اسے پڑھ کر کہا کہ رفع سبابہ کی بات تو درست ہی معلوم ہوتی ہے۔ اس وقت کی کتب کا یہ حال تھا مگر اب مطبع، کاغذ، امن، ڈاک کا انتظام اور وی پی کا طریقہ دیکھ کر میں تو قربان ہو جاتا ہوں۔ آج اگر کتابوں کے ذریعہ یہ باتیں معلوم نہ ہوں تو تعجب نہیں مگر اس زمانہ میں جب کہ سلسلہ کتب نہ تھا تب بھی ارکان دین کا علم عام تھا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ نماز کی شکل روزہ حج کی شکل مخلوق سے اتنی سنی ہوگی کہ گن بھی نہیں سکتے اور یہ کہنا کہ قرآن کریم کو مقدم سمجھتے ہیں۔ اس کے بھی معنی معلوم کرنے کے لئے اول تعامل ہے۔ پھر لغت ہے۔ یاد رکھو کہ ہمارا یہ ایمان ہے۔

کوئی تحقیق و قرآن والے کوئی مکالمہ مکاشفہ وحی اگر تعامل کے خلاف ہو تو تیرہ سو برس کے بعد ایسے لال بھکڑ کی بات کون مانتا ہے۔

یعنی وہی مکالمہ مکاشفہ اور وحی اب بھی قابل تسلیم ہو سکتی ہے جو قرآن کریم اور تعامل کے خلاف نہ ہو۔

اب میں پھر اصل رکوع کی طرف توجہ کرتا ہوں۔ اس آیت میں جاہل کا لفظ نہیں رکھا بلکہ عملی کا لفظ رکھا۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے کمالات اور عجائبات میں سے یہ بھی ہے کہ ہر دعویٰ کے ساتھ دلائل دیئے ہیں جو دوسری کتابوں میں نہیں اور یہ ثبوت ہے اس امر کا کہ رسول اللہ خاتم الانبیاء ہیں۔ قرآن کریم نے ہر تعلیم اور دعویٰ کے ساتھ دلائل دیئے ہیں۔ اس کی اگر تشریح کروں تو بہت وقت خرچ ہوگا۔ مختصراً بتاتا ہوں۔ مثلاً فرمایا کہ شرک نہ کرو۔ اس کی دلیل یہ دی وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (الاعراف: ۱۴۱) یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوسری مخلوق پر فضیلت دی ہے۔ اب وہ چیز جس کو تم خدا کے سوا معبود بناتے ہو وہ تو تمہاری خادم ہے مخدوم بھی نہیں ہو سکتی چہ جائیکہ ایسے معبود بناؤ۔ اب یہ کیسی روشن دلیل ہے۔ دعاوی اور دعاوی کے دلائل کے آگے کیا ضرورت باقی رہتی ہے۔ یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔

دنیا میں مذاہب کے تین بڑے مرکز گزرے ہیں۔ ایک امران امیراموں برہما آسام چاننا وغیرہ کا یہ ایرانی مذہب کی شاخیں ہیں۔ یورپ امریکہ افریقہ کے کنارے اور کچھ ہندوستان کے کنارے یہ عبرانیوں کی شاخ درشاخ ہیں یروشلم (ہولی لینڈ) ان کا مرکز ہے۔

بت پرستی کے کمال میں عرب بھی پیچھے نہیں رہا۔ یرمیا کے نوحہ میں اس کی تفصیل ہے۔ واقعات بتاتے ہیں کہ وہ اپنے مذاہب کے بڑے حامی اور زبردست مؤید تھے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا کمال ہے کہ تینوں مرکز آپ نے فتح کر لئے۔ دارالسلطنت فتح کر لینے کے بعد اگر کوئی مقابلہ کرے تو یہ مذمومی حرکت ہوتی ہے۔ اگر سب کا سب فتح کر لیتے تو پچھلے آنے والوں کے لئے کیا رہتا۔ بہر حال مذاہب کے مرکروں پر کامیابی حاصل آپ ہی نے کی اور یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔

اللہ کے لفظ پر کسی سماوی کتاب نے قرآن کے برابر زور نہیں دیا۔ سب نے صفاتی نام بیان کئے ہیں۔ دیانند نے سوا ایک نام کہے ہیں جن میں پہلا نام اگنی بھسم کرنے والی آگ ہے اور اس میں رحم عدل دیالتا کرپالتا کا نام بھی نہیں۔ وحدہ، لاشریٹ کہاں آتا ہے مگر اللہ کا لفظ ایسا ہے

کہ اس کی نظیر نہیں ملتی یعنی تمام کاملہ صفات سے موصوف اور تمام بدیوں سے منزہ معبود۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کو جس قدر مطالعہ کرو اللہ کو موصوف اور باقی صفات ہیں۔ اس ایک نقطہ سے بھی آپ خاتم النبیین ثابت ہوتے ہیں۔

پھر میں دیکھتا ہوں کہ کوئی شخص مہدی مجدد کرشنا مصلح ہوگا۔ کچھ ہی اسے کہہ لو انگریزی الفاظ میں ریفا رمر کہہ لو کچھ ہی ہو یہ ایک خوبی ہے۔ مگر یہ خوبی کسی کو قیامت تک نہیں مل سکتی جب تک وہ آنحضرت کا خادم اور غلام نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام روحانی فیوض کے حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ آپ کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام خوبیوں کے جامع ہیں اور اسی لئے آپ کا نام محمد ہے ساری خوبیاں تو اس نام میں جمع ہیں۔ وہی رسول ہو سکتا ہے جو محمد ہو۔ اب آپ کے بعد کون رسول ہو سکتا ہے؟ پس محمد کا لفظ بھی خود ختم نبوت کی دلیل ہے۔

پھر میں نے غور کیا ہے کہ انسان اپنی انسانیت کے لحاظ سے ساری مخلوق پر حکمران ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چھتے سے شکار کراتے ہیں۔ بازوں کو دیکھا ہے کہ کیسے چلے جاتے ہیں جو شکار کر کے لے آتے ہیں۔ پھر کبوتر کو دیکھا ہے۔ اعلیٰ درجہ کا کبوتر چومیس گھنٹہ آسمان پر رہتا ہے۔ پھر جب بلاتے ہیں تو آواز کے ساتھ واپس آجاتے ہیں۔ ایک آدمی بھوکے شیر کے منہ میں سر دیتا ہے۔ یہ ایک قسم کا کسب کمال ہوتا ہے پھر بہت سے لوگ سانپوں کو نچاتے ہیں۔ چوہوں کو دیکھا ہے کہ ان سے تماشا کراتے ہیں۔ ہاتھی گھوڑوں سے ایسا تصرف کرتے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں مرجاؤ تو وہ مردہ کی طرح لیٹ جاتے ہیں اور ان کا حکم مانتے ہیں۔ یہ سب انسانی اخلاق کا نتیجہ ہے مگر تو بھی یہ ایک حد کے نیچے ہوتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وکیل ہے، اکاؤنٹنٹ ہے، مصلح قوم ہے، سپہ سالار ہے، فاتح ہے۔ غرض کسی ایک یا دوسرے خُلق میں بڑائی ہوگی مگر اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فرماتا ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ (القلم: ۵) جس کو خدا تعالیٰ عظیم کہے اس کی عظمت وہم میں بھی نہیں آسکتی۔ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (التوبة: ۱۲۹) کا عظیم بے مثل ہوتا ہے پھر کہا تو یہ کہا لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ زبان کی خوبیوں کے لحاظ سے یہ جملہ نہایت عجیب ہے۔

پھر عمدہ اخلاق ایک فضل ہے۔ پھر علم کا نظر لیکچر والے کا ناک کا زبان کا قومی کا سیاست سپہ گری وغیرہ لاکھوں خدا کے فضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرماتا ہے۔ **كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا** (النساء: ۱۱۴) تجھ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ اب اس عظیم سے پرے تو ختم ہی ختم ہے۔ یہ دلیل ہے ختم نبوت کی۔

اب ہم نظارہ آنکھ کان سے کام لیتے ہیں۔ ایک کتاب میں نے پڑھی اس میں لکھا ہے کہ چرچ آف انگلینڈ کا خرچ چھتیس کروڑ روپیہ ہے۔ پھر اس میں چرچ آف انگلینڈ جہاں جہاں کام کرتا ہے وہاں کا راستہ اور جغرافیہ بھی دیا ہے۔ ایسا ہی میں نے مہاراجہ کپورتھلہ کا سیاحت نامہ پڑھا ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ پوپ کی ملاقات کو گئے اور وہاں دیکھا کہ یورپ کے بہت سے شہزادے پوپ کی خدمت کو حاضر ہیں اور پوپ کے سر پر چنور کر رہے ہیں۔ ان کو کہا گیا کہ ہاتھ بڑھاؤ مگر پوپ نے ہاتھ نہ بڑھایا۔ پھر ان کو کہا گیا کہ ہاتھ بڑھائے رکھو۔ پوپ نے پوچھا کہ کیا تمہاری ریاست میں مسیحی لوگ بھی رہتے ہیں۔ کہا ہاں کچھ ہیں۔ پھر پوپ نے اقرار لیا کہ کیا آپ ان کی رعایت رکھنے کا اقرار کرتے ہو۔ انہوں نے اقرار کیا تو ہاتھ بڑھایا۔ جس پر انہوں نے بوسہ دیا۔ اس قصہ کو دیکھ کر غور کرو کہ کیسی خواہش اور کوشش ہو رہی ہے اور ہمارے اور ان کے امراء میں کیا فرق ہے۔

میرا ایک دوست جٹ زمیندار ہے مگر بہت ہوشیار چلتا پرزہ ہے۔ مجھے اس نے بیان کیا کہ ایک وقت ہزاوڑ لیفٹیننٹ سے ملنے گیا۔ ہزاوڑ نے اسے کہا کہ ملک صاحب! آپ اردو پڑھے ہوئے ہو؟ پھر نہایت عمدہ سنہری جلد والی انجیل لاکر تحفہ دی اور کہا کہ مہربانی کر کے اس تحفہ کو آپ پڑھ لیا کریں۔ اس کے مقابلہ میں ہمارے امراء جو کچھ کرتے ہیں وہ تم سے مخفی نہیں۔ اس لئے تفصیل کی حاجت نہیں۔ بائیں اسلام کا محافظ کیسا ہے؟ خدا تعالیٰ کسی نہ کسی کو پیدا کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ جماعت کو اکٹھا کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشاء ہے کہ اسلام دنیا میں زندہ مذہب ہو۔ دیکھو یہود، مجوسی اور نصاریٰ میں مجدد نہیں ہوتے جن کا خدا تعالیٰ سے تعلق ہو اور وہ خدا تعالیٰ سے فیض حاصل کر کے دوسروں کو فیض یاب کریں۔ وہ لوگ خود قائل ہیں کہ ان میں سے

ایسے لوگ نہیں ہوتے اور یہ ان کی تعلیم کی کمزوری اور ان کے ہادیوں کی قوت قدسی کا ضعف ہے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی ایسی زبردست اور آپ کی تعلیم ایسی بابرکت ہے کہ تیرہ سو برس تک برابر ایسے لوگ ہوتے آئے اور ہوتے جائیں گے جو احیاء ملت کرتے رہیں گے اور ان کے ہاتھ پر بہتوں کو شفا ہوگی اور وہ دنیا کی ہدایت کا ذریعہ ہوں گے۔ یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔

ایک شخص نے مجھ سے انجیل کی رو سے ختم نبوت کی دلیل پوچھی۔ میں نے کہا وہاں تو بالکل صاف ہے۔ متی کی انجیل میں باغ کی مثال بیان کی ہے۔ باغ کے مالک کا آنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے اور یہ آخر میں ہے۔ اس لئے مالک کے پرے اور کون ہے جس کا انتظار ہو۔ ختم نبوت کی دلیل ہے۔

پھر قرآن میں ایک جگہ نبوت کا عظیم الشان معیار بتایا ہے اور وہ یہ ہے مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ (النجم: ۳) جو ہمارا ہادی ہو اس میں تین باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اول وہ اجنبی نہ ہو جس کو کوئی جانتا بھی نہ ہو کیونکہ ایسا آدمی تھوڑے دنوں کے لئے نیک بن سکتا ہے۔ حالانکہ ممکن ہے کہ وہ شریر ہو اس لئے ایسا شخص جو ہادی ہونے کا مدعی ہو وہ تم میں سے ہی ہو جس کے حالات سے تم بخوبی واقف ہو۔ دوم وہ بے علم نہ ہو۔ سوم جو وہ تعلیم دیتا ہے اس کا عامل ہو آپ خلاف ورزی نہ کرے۔ مکہ والو! بتاؤ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے صاحب ہیں یا نہیں؟ ہیں پھر بے علم تو نہیں؟ بالکل نہیں۔ پھر خلاف ورزی تو نہیں کرتا۔ بالکل نہیں۔ اب بتاؤ اس سے آگے کیا شرط ہوگی؟ یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔

پھر فرمایا عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ (النجم: ۶) وہ جس کی طاقتیں بڑی مضبوط ہیں۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم ہے۔ اس سے پرے کوئی طاقت نہیں۔ پھر وہ ذُو مِرَّةٍ ہے بڑا مضبوط وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ (النجم: ۸) اس دل گردے کا انسان کوئی ہے؟ یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔

پھر فرمایا۔ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ (المائدة: ۳) تعلیم اور ہدایت کو کامل کر دیا۔ اس پر کسی قسم کے اضافہ کی کبھی حاجت نہیں۔ انسان کے لئے ایمان چاہئے۔ محافظ ایمان چاہئے۔ پھر معاملات تمدن، معاشرہ، اخلاق، سیاست چاہئے۔ معاملات میں بیع شرا، اجارہ، استجارہ، رہن، تداین، وصایا

شہادت کھانے پینے کا فکر غرض تمام ضروریات دین کی تکمیل کر دی۔ اس سے پرے کسی چیز کی حاجت ہے؟ اگر کوئی ہے تو کلوں کی۔ اگر کلیں بنا کر دیئے جاتے تو کیا سستی کی رغبت دیئے جاتے اور روزمرہ کے ایجادات و ترقیات سے سبکدوش کیا جاتا۔ اس لئے اس کی ضرورت نہ تھی۔ غرض کامل شریعت اور کامل ہدایت دی۔ یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے؟ حضرت صاحب کا شعر ہے۔

ختم شد بر نفس پاکش ہر کمال لا جرم، شد ختم ہر پیغمبرے

پھر ظلمت بہت بری چیز ہے کفر کی ظلمت ہو رسم کی ہو۔ عادت و جہالت کی ہو بیجا محبت اور غضب کی ہو غرض کسی قسم کی ظلمت ہو بڑے دکھ کا موجب ہوتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی ظلمت سے نجات دیتے ہیں۔ یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔

ایک حدیث میں پڑھا تھا کہ شام کے وقت گھروں کو بند کرو۔ بچوں کو باہر نہ جانے دو۔ برتن ڈھانپ دیا کرو۔ میں عموماً ان ہدایات پر بجز اللہ عامل رہتا ہوں۔ چوہوں کو مار دینا چاہئے احرام کی حالت میں بھی چوہے کو مار سکتے ہیں۔ یہ بڑا فاسق ہے۔ کچھ دن ہوئے کہ میں نے لیفٹیننٹ گورنر صاحب کا شائع کردہ ایک رسالہ پڑھا جس میں لکھا تھا کہ ابتدائے ظلمت میں جرم کا زور ہوتا ہے اور ان تمام اصول کو بیان کیا جن کا نبی کریم نے تیرہ سو برس ہوئے بیان کیا تھا، کہہ اٹھا۔ غرض ہر سیکھ کی راہ آپ نے بتائی۔ یہ بھی آپ کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔

یہ بہت لمبا سلسلہ ہے اور آپ کی ختم نبوت کے اس قدر دلائل ہیں کہ گنتے گنتے تھک جاویں وہ ختم نہ ہوں اور اب وقت بہت ہو گیا ہے میں رکوع بھی ختم نہیں کر سکا۔ غرض یہ ہے مومن بنو اور ان کے جو صفات بیان کئے ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرو۔ عہد شکن نہ بنو مومن وہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو وفا کرتے ہیں اور عہد اللہ کو توڑتے نہیں۔ نمازوں کو درست رکھتے ہیں۔ بدیوں کے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

اب میں ایک بات کہہ کر ختم کر دیتا ہوں ہمارے دوست میر عابد شاہ کچھ کہنا چاہتے ہیں اور انہوں نے مجھے لکھا ہے کہ میں ان کے لئے سپارش کروں۔ ان کی باتیں سنو اور شور و شب نہ ہو اور ہمارے لکھنے والے انہیں لکھ لیں وہ اخلاص سے کہتے ہیں۔ پھر ایک کتاب ہے دین الحق یا ہمارا

مذہب میں نے اس کو بہت غور سے پڑھا اور بہت ہی غور سے پڑھا اور میں نے اس کے پچاس نسخہ آپ خرید کئے ہیں۔ میں پسند کرتا ہوں کہ اس کی بہت بڑی اشاعت ہو اور بہت بڑی اشاعت ہو اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سمجھ اور توفیق دے اور اس میں کوئی کمزوری ہو تو مجھے اطلاع دے۔ میری عقل و فکر جہاں تک پہنچتی ہے میں اس کو مفید پاتا ہوں اور عبدالحی کی بھی سپارش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے۔ آمین

(الحکم ۲۸ مارچ، ۱۷ اپریل ۱۹۱۰ء، صفحہ ۱۲ تا ۲۱)



قبولیت دعا

﴿ تقریر فرمودہ ۲۳ اپریل ۱۹۱۰ء ﴾

ناظرین الحکم کو معلوم ہے کہ مسجد النور کی بنیادی اینٹ حضرت خلیفۃ المسیح نے رکھی تھی۔ اب اسی مسجد کا خدا کے فضل سے بہت بڑا حصہ تیار ہو چکا ہے۔ ۲۳ اپریل ۱۹۱۰ء کی نماز عصر حضرت خلیفۃ المسیح نے اسی مسجد میں پڑھی اور بعد نماز عصر آپ نے روزانہ درس القرآن بھی وہیں دیا۔ ساری احمدی جماعت وہاں موجود تھی۔ حضرت نے درس کے وقت جو تقریر فرمائی وہ بجائے خود وہاں تشریف لے جانے اور نماز پڑھنے کے اغراض کو کھلے طور پر بیان کرتی ہے اس لئے میں نے مناسب سمجھا ہے کہ اس تقریر کو شائع کر دوں۔ آج حضرت نے اپنی جماعت کے لئے خصوصاً حاضرین کے لئے بہت دعائیں کیں اور فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ نے دعا کے لئے ایسے ایسے الفاظ اور طریق بتائے ہیں کہ میں حیران تھا اور ایسی دعائیں جو میرے وہم میں بھی نہ تھیں۔ یہ امر قبولیت دعا کا نشان ہے کیونکہ تمام راستبازوں کا وسیلہ ہے کہ جب دعا کے لئے الفاظ اور طریق بتائے جاویں تو وہ قبولیت دعا کا ایک زور ہوتا ہے اس لئے میں اپنی جماعت کو یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ خصوصیت کے ساتھ ان کے امام کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں سنا۔

بہر حال آپ نے نماز عصر کے بعد حسب معمول قرآن مجید کا رکوع پڑھ کر (جو سورۃ الانبیاء کا

۶ رکوع تھا) ترجمہ کرنے سے پہلے فرمایا:

آج یہاں ہم نے درس کیوں کیا؟ باوجودیکہ ہوا مجھے تکلیف دیتی ہے اور روشنی میں دیکھنے سے تکلیف ہوتی ہے پھر بھی یہاں آنا اور اس کے لئے اس مسجد میں کھڑا ہونا اس کے کیا اغراض ہیں؟ اس کے ظاہری محرک مولوی محمد علی صاحب ہیں۔ ان کی نیت ان کے ساتھ وابستہ ہے۔ مجھے ان کے دل کے حال سے آگاہی نہیں۔ اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے اپنے حوصلہ اور

وسعت کے موافق مجھے یہاں بلانے میں کوئی مقصد رکھا ہوگا مگر میں نے اپنی نیت کو ٹٹولا کہ وہ خدا کے لئے ہے تو میں نے ان کی درخواست کو منظور کر لیا۔ میرے دل میں جو بات ہے وہ یہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ جس کو میں یقیناً راستباز مانتا ہوں اور تم بھی راستباز یقین کرتے ہو اس شہر میں آیا اور اس نے بڑا دعویٰ کیا جس کو سن کر بڑی مخلوق چونک اٹھی۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا تھا کہ اتنا بڑا دعویٰ ایک انہونی بات ہے کس نے ماننا ہے اور کس نے پسند کرنا ہے ہاں اگر اس کی ذاتی وجاہت کی وجہ سے کوئی مان لے تو وہ اگر ”ماند شبے ماند شبے دیگر نماذ“ کا مصداق ہوگا۔ ایسے خیالات ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو سنت اللہ سے ناواقف اور راستبازوں کے خیالات سے بے خبر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جو خدا کی طرف سے آتے ہیں۔ ایک آیت ہوتے ہیں اور اس رکوع میں بھی جو میں نے ابھی پڑھا ہے آیت کہا ہے۔ میں نے بناوٹ سے ترجمہ نہیں کرنا۔ یہی لفظ آیا ہے۔

(یہ حضرت کا اشارہ اس آیت کی طرف ہے: **وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَأَبْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ** (الانبیاء: ۹۲)۔ ایڈیٹر)

اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ہاتھ اپنا فضل، اپنا کرم، اپنا رحم دکھاتا ہے۔ وہ انہیں ایک آیت بتاتا ہے۔ وہ ایک نشان ہوتے ہیں اور پھر ان کی صداقت کے نشان عام طور پر دکھائے جاتے ہیں۔

اسی طرح پر وہ راستباز جو اس بستی میں آیا ایک آیت اللہ تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے نشان بنایا اور پھر اس کی سچائی کے لئے اس قدر نشان دکھائے کہ میں اب کہتا ہوں کہ تم سب جو یہاں ہو اس کی سچائی کا نشان ہو۔ ہر ایک شخص تم میں سے اس کی سچائی کا نشان ہے۔ تم نے اس بات کو نہیں سنا جب خدا تعالیٰ نے اسے تمہارے آنے کے متعلق کہا۔ وہ آواز ایسی کان میں پہنچی اور پھر اس نے تمہارے یہاں آنے سے بہت پہلے اس کو سنایا۔

(حضرت خلیفۃ المسیح کا اس امر سے یاتون من کل فج عمیق (تذکرہ صفحہ: ۳۹) کی پیشگوئی

کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا۔ ایڈیٹر)

ہاں میرے کان میں بھی خدا کی آواز اسی کے ذریعہ پہنچی اور پھر اسی طرح ہو کر رہا۔ اس کی صداقت کے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سے نشان دکھائے تھے جنہوں نے مجھے کامل یقین دلایا کہ وہ خدا کی طرف سے آیا ہے۔

میں ان نشانات میں جو مجھ پر اس کی سچائی کے ظاہر ہوئے۔ ایک تمہیں سناتا ہوں۔ میں ان دنوں جموں میں ملازم تھا۔ میرا ایک داماد عبدالواحد غزنوی ہے میں مولوی عبداللہ غزنوی کا مرید نہیں مگر مجھے ان سے بہت محبت تھی اسی محبت کی وجہ سے میں نے ان کے ایک لڑکے کو اپنی ایک لڑکی بیاہ دی۔ وہ ہمارے پاس رہتا تھا اور پڑھتا تھا۔ ایک اور شخص تھا جس نے فلسفہ پڑھ لیا تھا اور طب پڑھتا تھا وہ شخص اب بھی زندہ ہے۔ قدرت الہی کا عجیب نقشہ ہوتا ہے۔ ایک دن اس نے پوچھا کہ عبدالحق غزنوی کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ نیک آدمی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا وہ مفتری ہے؟ میں نے کہا میں اسے مفتری نہیں سمجھتا۔ (یہ حسن ظن کا نتیجہ ہے جو حضرت کی فطرت میں ہے۔ ایڈیٹر) تب اس نے کہا کہ عبدالرحمن لکھو کے کے متعلق کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہ وہ بھی مفتری نہیں۔ اس پر اس نے کہا کہ مرزا، عبدالحق، عبدالرحمن جب مفتری نہیں تو پھر یہ کیا بات ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کے کان میں کچھ کہتا ہے اور کسی کے کان میں کچھ؟ میں تو ایسے خدا کا قائل نہیں ہو سکتا۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل کو بہت دکھ ہوا کہ اس نے ہمارے ڈیرے میں رہ کر اور ہمارا شاگرد ہو کر ایسا بے ادبی کا کلمہ بولا۔ میرا دل گھبرا یا اور میں اٹھ کر اندر چلا گیا اور اسی حالت میں معاً مجھے غیر طبعی نیند آئی اور اس میں مجھے بتلایا گیا کہ مرزا صاحب پر اعتراض کیا ہے؟ یہ کہ انہوں نے قادیان کو دمشق کہا ہے۔ اس وقت اس امر پر اعتراض تھا۔ اس کے جواب میں مجھے اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ آج ہم نے سب کو مجاز بولنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس کے بعد میں بیدار ہو گیا۔ طبیعت کی کوفت جاتی رہی اور میں باہر چلا آیا اور آ کر کہا کہ آج مجھے یہ الہام ہوا ہے اور ان لوگوں سے کہا کہ اعتراض تو مجاز کا ہے افترا کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ آج ان سب کو ہم نے استعارہ پر مجبور کر دیا ہے۔ میرے ساتھ ان لوگوں کی خط و کتابت نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح پرچا ہے گا اس حقیقت کو کھولے گا۔

کچھ دن گزرے عبدالحق غزنوی کا خط میرے نام آیا۔ اس سے پہلے کبھی اس کا کوئی خط میرے

نام نہیں آیا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر عبد الواحد اور اس فلسفی کو کہا کہ آج یہ پہلا خط ہے اور یہ میرے الہام کی تصدیق کرتا ہے، اسے تم آپ کھولو۔ انہوں نے کھولا اور پڑھا تو اس میں لکھا تھا خربت خیبر ای قادیان۔ یہ اس نے اپنا الہام لکھا جس میں قادیان کا نام خیبر رکھا گیا ہے۔ میں نے کہا۔ جب یہ قادیان کو خیبر کہتا ہے تو دمشق کہنے میں کیا حرج ہے۔ عبد الواحد نے فوراً لکھ دیا کہ یہ خردماغ ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں۔ تم اس کا ادب کرو۔ وہ جانتا تھا کہ عبد الرحمن لکھو کے والے محتاط ہیں وہ اگر خط لکھیں گے تو سوچ کر لکھیں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ بڑی طاقت ہے۔ اس کا بھی دوسری تیسری ڈاک میں خط آ گیا۔ انہوں نے مجھے لکھا کہ ہم تمہیں اچھا سنتے تھے مرزا صاحب کے ساتھ تمہارے تعلق سے رنج ہوا۔ ہم نے اللہ سے توجہ کی کہ اس معاملہ کو صاف کر دے۔ اس پر جو الہام ہمیں ہوئے ہیں وہ بلا کم و کاست نیچے لکھ دیئے ہیں۔ پھر نیچے وہ الہامات لکھے تھے ان میں سے ایک یہ تھا۔ ما سمعنا لهذا فی ملة الآخرة۔ یہ کفار کا قول ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں آپ کی تعلیم کے متعلق کہا اور اعتراض کیا۔ پھر خود ہی ان کو بددھا پڑی کہ یہ تو ہمیں ابو جہل بتاتا ہے۔ ہونہ ہوا اس میں استعارہ ہے اس لئے اس کے معنی بتائے۔ ای الملة المحمدية۔ میں نے عبد الواحد سے کہا۔ اب بتاؤ تیرہ سو برس میں یہ معنی کسی نے نہیں کئے۔ اس پر اس نے کہا کہ آپ تو معذور ہیں۔

اس واقعہ سے وہ شخص جس نے کہا تھا کہ میں ایسے خدا کا قائل نہیں بول اٹھا کہ میں تو خدا تعالیٰ کا قائل ہو گیا۔ مجھے اس سے بڑی خوشی ہے۔ وہ شخص اب بھی ہماری جماعت میں ہے اور ایک مخلص دوست ہے۔ غرض خدا تعالیٰ نے مجھے بہت سے نشانات دکھائے ہیں اور تم سب اس را ستباز کی صداقت کا نشان ہوئے۔

پس مولوی صاحب نے تحریک کی کہ میں یہاں نماز پڑھوں۔ میں اپنے اخلاص کو دیکھتا تھا کہ مخلصانہ وقت میسر آ جاوے تو میں آؤں گا۔ پس خدا تعالیٰ نے مجھے وہ اس وقت دیا اور میں یہاں آیا ہوں۔ میں نے اس مسجد کی اینٹ رکھی تھی۔ اس وقت بھی میرے دل میں اسس بسنیانہ سے التقویٰ ہی

مد نظر تھا اور یہی میری دعائی اور قرآن مجید کی یہ آیتیں میرے سامنے تھیں۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلِيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ ۗ وَاللَّهُ يَسْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۱۰۹﴾ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ ۚ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَهَّرُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴿۱۱۰﴾ أَقْسَمُ بِبَيِّنَاتِهِ عَلَى تَقْوَىٰ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّ مِنْ أُسْسٍ بَيِّنَاتِهِ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارِقًا نَهَارًا بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۱۱﴾ (التوبة: ۱۰۷ تا ۱۰۹)۔

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک عیسائی ابو عامر تھا اس نے ایک مسجد بنائی تھی۔ عیسائی قومیں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں۔ اس نے دل میں دیکھ لیا کہ ایک مسجد بناؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ بعض اوقات ندی نالے چڑھ جاتے ہیں اور غرباء و ضعفاء آپ کی مسجد میں نہیں آسکتے اس لئے ان کے لئے ایک مسجد بناتے ہیں۔ حضور بطور تبرک ایک وقت کی نماز اس میں پڑھ لیں۔ جب آپ نماز پڑھ لیں گے تو یہ مسجد متبرک ہو جائے گی اور مسلمانوں کی نگاہ میں معزز ہوگی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ بھی کر لیا مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی وحی کے ذریعہ آگاہ کر دیا کہ ان کی غرض و غایت کیا ہے اور آپ پر وحی ہوئی وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا یعنی اس مسجد کے بنانے والوں کا منشاء دکھ دینے اور کفر کا ہے اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا مقصود ہے اور یہ غرض ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جن لوگوں نے جنگ کی ہے ان کے لئے مکین گاہ بنادیں اور یہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہمارا مقصود نیکی ہے اور ہم حسنیٰ چاہتے ہیں مگر یاد رکھو وَاللَّهُ يَسْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۱۱۱﴾۔

میں نے بھی اس مسجد کی اینٹ رکھی ہے اور میرے وہی پیارے نے بھی رکھی ہے۔ میرے دل میں تقویٰ تھا۔ میں نے ضرر کے لئے نہیں رکھی اور کسی شریر کے آئندہ جانشین ہونے کے لئے نہیں رکھی یہ پتا پیچھے ملے گا۔ میری غرض تقویٰ ہے۔ اگر اس غرض کے لئے نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا اس مسجد ضرار میں کبھی کبھی بھی کھڑا نہ ہو

مگر تم دیکھتے ہو کہ میں اس مقام پر کھڑا ہوں۔ اس لئے کہ میں نے کسی کپٹ اور لحاظ کے لئے اینٹ نہیں رکھی۔ اگر ایسا ہوتا تو میں نہ اینٹ رکھتا اور نہ یہاں کھڑا ہوتا۔ میں نے پہلے دن تقویٰ پر اس کی اینٹ رکھی ہے اور اب اسی سنت کو پورا کرنے کے لئے یہاں آیا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اس مسجد میں کون ہوں گے؟ وہ مرد ہوں گے جن کو ضرورت ہے اور جو پسند کرتے ہیں کہ وہ مقدس ہوں اور خدا تعالیٰ مقدرین ہی کی جماعت کو پسند کرتا ہے۔ تم میں سے جو سچے دل سے چاہے گا کہ وہ مطہر اور پاکیزہ بن جاوے اللہ تعالیٰ اسے ضرور پاکیزہ بنا دے گا۔

یاد رکھو جس مسجد کی بنا تقویٰ پر رکھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی پر رکھی ہے وہ بڑی بڑی مسجد ہے مگر جس کی بنا کھائی کے کنارے ہو وہ گرے گی اور بنانے والے کو ہی ساتھ لے جائے گی۔

پس میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس کی بناء اللہ کی رضا کے لئے رکھی ہے اور تقویٰ پر رکھی ہے۔ وہ غریب نواز ہے۔ مجھ پر اس کے بڑے بڑے کرم ہیں۔ وہ مجھے ایسی جگہ کھڑا نہیں کرے گا جو اس کی رضا کا مقام نہ ہو۔ میری دعا ہے کہ اس مسجد کی بنا تقویٰ پر ہو۔ تیرے محبوب، پیارے تیرے دین کے خادم عمل کرنے والے قرآن کے خادم ہوں۔ آمدورفت کرنے والوں میں تقویٰ کوٹ کوٹ کر بھری ہو اور جانشینوں میں بھی تقویٰ اللہ ہو۔ میں اب بھی کرب سے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کرب سے دعا کرنے والوں کی سنتا ہوں۔ میں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھتا ہوں ہاں اسی کا فضل ہے کہ اس نے مجھے جو کرب دیا جو دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہوتا ہے اور میں اپنے آپ کو اور تمہیں خوش وقت سمجھتا ہوں۔ یاد رکھو ہماری نسبت اور ہمارے کاموں کی نسبت لوگ کیا کیا منصوبے کرتے ہیں کرنے دو۔ میں خدا کے فضل سے یقین رکھتا ہوں کہ میری چٹان سے جو سر مارے گا اس کا سر ٹوٹ جاوے گا۔

اب میں خدا تعالیٰ کے پاک لوگوں کا نام تبرکاً سنا تا ہوں۔ ان میں سے ایک نوح تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح اور اس کے ساتھ والوں کی دعا کو سنا اور انہیں کرب عظیم سے نجات دی اور ان کے مکذبین پر انہیں نصرت دی اور بالآخر ان کے مخالفوں کو غرق کر دیا۔ یہ ایک راستباز اور اس کے ساتھ والوں اور

ان کے مخالفین کے انجام کی نظیر ہے۔

اس طرح پر حسب معمول حضرت نے قرآن مجید کے اس رکوع کا درس دیا۔ حضرت سلیمان اور داؤد علیہما السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ

انہوں نے ایک کھب کے معاملہ میں فیصلہ کیا۔ حضرت سلیمان کو اس کے متعلق سمجھ آگئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ چھوٹوں کو ایک بات سمجھا دیتا ہے۔

داؤد علیہ السلام کی زرہ کے ذکر پر فرمایا۔ دیکھو میں تمہیں اس زرہ کا پتا دیتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے جو ہر مصیبت کے وقت اور ہر دکھ کے وقت ہمیں محفوظ رکھتی ہے۔ وہ زرہ اسلام ہے۔ ہاں وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ یہ قرآن کریم ہے۔ میرا یقین ہے مجھے کامل تسلی ہے کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کوئی باطل پرست اس کتاب کے فہم والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خدا تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر قرآن کریم کا منکر تجھ پر اعتراض کرے گا تو ہم اسی وقت اس کا جواب سمجھا دیں گے۔ میں نے اپنی زندگی میں بارہا اس کا تجربہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تقویٰ کے مقام پر کھڑا ہو کر میں نے افترا نہیں کیا۔

رکوع ختم کرنے کے بعد آپ نے فرمایا:

پھر میں تمہیں کہتا ہوں کہ خدا سے میرے لئے بھی دعا کرو اس مسجد کو متقیوں کی مسجد بنا دے۔ اس میں نماز پڑھنے والوں کو مطہر بنا دے۔ جو لوگ اس کے مہتمم ہیں ان کی غلطیوں کی اصلاح کرے اور ان کی صحیح باتوں کو ترقی دے اور صدموں سے محفوظ رکھے۔ آمین

اس کے بعد آپ نے بہت لمبی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہمارے حق میں قبول فرماوے۔ آمین

(الحکم - ۱۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷،

اسلام اور دیگر مذاہب

(تقریر فرمودہ ۳۱ جولائی ۱۹۱۰ء بوقت صبح بمقام میدان احمدیہ بلڈنس)

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ
وَرَسُولَهُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (آل عمران: ۲۰)
وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
الْخَسِرِينَ (آل عمران: ۸۶)۔

جو اشتہار کل شائع کیا گیا ہے وہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے۔ اس میں آج کی تقریر کا مضمون
تمہید اسلام اور دیگر مذاہب بتایا گیا ہے میں اس کے متعلق بیان کرنے کے واسطے اس وقت آپ
صاحبان کے سامنے کھڑا ہوا ہوں تاکہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ جس امر کا میں پابند ہوں
اور جس چیز کو میں نے اپنا مذہب قرار دیا ہے، وہ کیا ہے؟ اور میں نے اسے کیوں اختیار کیا ہے اس پر
کسی کو اعتراض کا موقع کم ہی ہوگا کیونکہ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اپنے دلی اعتقاد کا اظہار
کروں اور یہ بتاؤں کہ میں کس طرح اس نتیجے تک پہنچا۔ ہاں اس کے ضمن میں مجھے یہ بھی بتانا پڑے گا
کہ دیگر بہت سے مذاہب سے میں نے اپنے آپ کو کیوں اور کس طرح علیحدہ کیا۔

کسی مذہب کو اختیار کرنے کے اسباب ہر ایک شخص کے واسطے کسی مذہب کے
اختیار کرنے کے لئے بہت سے وجوہ

ہوتے ہیں اور مختلف اسباب ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو ایک مذہب کا پابند بنا دیتے ہیں ان میں سے
ایک سبب یہ ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جس مذہب کے لوگوں میں وہ نشوونما پاتا ہے ان
کے خیالات اور معتقدات رفتہ رفتہ اس کے دل میں گڑتے رہتے ہیں اور وہ بتدریج ان کا اثر اپنے
اندر لیتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس مذہب کا پابند کہلاتا ہے یہ بھی ایک سبب کسی
مذہب کے اختیار کرنے کا ہے اور مجھے بھی ایسا موقع ملا ہے میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا۔
میرے ماں باپ سنی حنفی کہلانے والے مسلمان تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بہت رحمتیں ہوں میری کھلائی

پر کہ مجھے بہلانے کے وقت اور لوری دیتے ہوئے اس کے منہ میں اللہ کا نام اور نبی کا نام رہتا تھا۔
ابتدا میں میرے مسلمان ہونے کا یہی سبب ہوا۔

بچپن کی سنی ہوئی کلام کا اثر
آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے اول اس کے کانوں میں اذان کہی جاتی ہے جن کلمات میں مذہب اسلام کے تمام اصول صاف صاف مندرج ہیں وہ اس کے کان میں پھونکے جاتے ہیں جب میں نے طب پڑھی تو میں اس نکتہ پر پہنچا کہ بچپن کے وقت کان میں پڑی ہوئی بات گہرا اور لمبا اثر رکھنے والی ہوتی ہے۔

میں نے ایک عورت کا حال پڑھا ہے جو کہ جرمن زبان سے بالکل نا آشنا تھی مگر اس پر ایک دورہ پڑتا تھا کہ اس وقت وہ جرمن زبان میں ایک فصیح بلغ لیکچر دیا کرتی تھی ایک ڈاکٹر اس کھوج میں لگا کہ اس کی اصلیت کو دریافت کرے۔ بہت کوشش کے بعد اسے اس کا سبب یہ معلوم ہوا کہ جب یہ عورت چھوٹی بچی تھی اور اپنی ماں کی گود میں تھی اس وقت اس کی ماں ایک جرمن پادری کے ہاں خدمت گاری کے لئے رہتی تھی۔ پادری صاحب اپنی سرمن (خطبہ) تیار کر کے پہلے مشاقتی کے لئے گھر میں باواز بلند اسی طرح پڑھا کرتے تھے جس طرح انہوں نے گرجا میں پڑھنا ہوتا تھا اور وہ آواز اس لڑکی کے کان میں متواتر ایک عرصہ تک پڑتی رہی۔ یہ اس کا اثر تھا جو اب وہ جرمن زبان میں لیکچر دیتی تھی۔

ابتدائی تعلیم
پھر میں نے اپنی ماں کی گود میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ کی آواز سنی۔ بڑے بڑے صلوات و برکات و سلام اور رحمتیں ہمارے ہادی پر ہوں جس نے ہمارے کانوں میں یہ صدا پہنچائی۔ جب مجھے ذرا ہوش آئی اور میں نے اپنے باپ کے پاس پڑھنا شروع کیا تب بھی یہی صدا میرے کان پڑتی رہی۔ جب میں اور بڑا ہوا اور مدرسہ میں داخل ہوا تو اس وقت کے مدارس میں ایسا گھمسان نہ تھا جیسا کہ اب ہے کہ ایک ہی بیٹنج پر اور ایک ہی کمرہ میں بہت سے مختلف مذہب کے لوگ جمع ہوں اور اکٹھے سبق پڑھیں اور ایک دوسرے پر اپنا اثر ڈالیں بلکہ ہمارے میاں جی ایک خاص رنگ کے آدمی تھے وہ دس لڑکوں کو ملا کر سبق نہ پڑھاتے بلکہ ایک ایک لڑکے کو باری باری الگ الگ سبق دیتے تھے جو زیادہ خدمت کرتا اسے زیادہ اور عمدہ سبق پڑھ لینے کا

موقع ملتا اور جو کم خدمت کرتا اسے کم موقع ملتا۔ یہ بناوٹی بات نہیں ہے بلکہ واقع میں اسی طرح سے ہوا غرض یہاں تک میں نے کوئی بات اس آواز کے مخالف نہ سنی جو بچپن سے میرے کان میں ڈالی گئی تھی۔

پہلی مخالف آواز لیکن جب کہ میں نارمل اسکول راولپنڈی میں پڑھتا تھا تو میرے مکان کے قریب ایک مشنری پادری صاحب الگزیٹڈ رنام کی کوٹھی تھی ان سے ملاقات کا اتفاق ہوا تو انہوں نے دو کتابیں بنام میزان الحق و طریق الحیات نہایت خوبصورت جلد کی ہوئی مجھے دیں۔ ان کتابوں سے مجھے پرانی تعلیم اور اس کے منشاء کے برخلاف باتیں معلوم ہوئیں جس سے مجھے حیرت پیدا ہوئی۔ یہ پہلی صدا تھی جو اس کلمہ اور تعلیم کے مخالف میرے کان میں پڑی۔ اس وقت میری عمر پندرہ سال سے کچھ زائد تھی۔

مزید مخالفتوں کی آواز اس کے بعد ایک بڑا وقفہ رہا مگر اہل حدیث و اہل فقہ کے باہم متخالف کے اسباب پر اطلاع مجھے پوری پوری مل گئی۔ پھر میں لکھنؤ میں تعلیم حاصل کرنے کے واسطے گیا۔ وہاں مجھے شیعوں کے عقائد اور اعمال کے دیکھنے اور سننے کا بڑا اتفاق ہوا۔ وہاں اہل تشیع طلبہ العلم بھی تھے اور علماء بھی تھے سب کے حالات دیکھنے کا بخوبی موقع ملا۔ تب مجھے شوق ہوا کہ میں تحقیقات کروں کہ دنیا میں کس قدر مختلف الحیال لوگ ہیں اور ان میں باہمی کیا کچھ اختلاف ہے اور ان کے عقائد میں کیا فرق ہے؟ اس وقت تک مجھے صرف دو فرقوں کے دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا ایک عیسائی دوسرے شیعہ، زیادہ کاوش کرنے سے معلوم ہوا کہ دو اور فرقے ہیں ایک اخباری اور ایک اصولی۔ پھر مجھے ہمیشہ یہ شوق رہا کہ دریافت کرتا رہوں کہ کس قدر عجیب خیالات کے لوگ اور دنیا میں ہیں مگر اس وقت بہ سبب طالب علمی کے یا شاید اس واسطے کہ آج کل کی طرح تبادلہ خیالات کا موقع نہ تھا مجھے زیادہ اختلاف معلوم ہوئے۔

اسلامی فرقوں میں چنداں اختلاف نہیں پھر ایک اور موقع نکلا جس میں مسلمانوں کے درمیان مختلف فرقوں کے دیکھنے اور

حالات معلوم کرنے کے ذرائع مجھے حاصل ہوئے۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے درمیان مقلد اور غیر مقلد، شرک و بدعت، سنی و شیعہ، اتباع الحدیث وغیرہ کے سبب بھی اختلافی مسائل ہیں۔ یہ میدان بہت بڑا نظر آیا لیکن جب میں نے اس پر غور کی نگاہ ڈالی تو معلوم ہوا کہ اختلاف کوئی بہت

بڑا نہ تھا اخباری ہوں یا اصولی، مقلد غیر مقلد کہیں سے کوئی ایسا بگولہ نہ اٹھا جو اس لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ کے پودے کو صدمہ پہنچاتا۔ جو ابتداء سے میرے دل میں لگایا گیا تھا کیونکہ یہ سب فرقے اس کے قائل تھے پس ابتدائی عقیدے کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا۔

علمی شوق کا نمونہ اور مجھے پتا لگا کہ وہ ایک تاجر کتب کے پاس مل سکتی ہے میں اس کے پاس گیا اس نے کہا وہ کتاب قابل تلاش ہے اس وقت نہیں مل سکتی میں تلاش کر رکھوں گا آپ کل آویں۔ میں دوسرے دن گیا اس نے مجھے کتاب دی۔ جس کے کل ۶۲ صفحات تھے اور ۵۰ صفحات کا اس کے ساتھ ضمیمہ تھا۔ چھاپے کی کتاب تھی اور معمولی تھی۔ میں نے قیمت دریافت کی تو اس نے کہا کہ پچاس روپے۔ اگر چہ زمانہ طالب علمی تھا مگر میرے پاس خدا تعالیٰ کے فضل سے روپیہ موجود تھا اور کتاب کا شوق تھا میں نے اسے مبلغ ۱۰ روپیہ کا نوٹ نکال دیا اور کتاب اپنے قبضہ میں کی اور وہاں سے چل پڑا۔ اس نے اصرار کیا کہ ٹھہر جاؤ کچھ بات کرنی ہے مگر میں نے کہا کہ مجلس واحد میں اقالہ کے متعلق فقہاء کا اختلاف ہے۔ بعض تفارق قوی کے قائل ہیں اور بعض تفارق جسمی کے اور مجھے ہے کتاب کا شوق، اس لئے میں اٹھا ہوں کہ بالاتفاق آپ اقالہ فرما سکیں۔ میں فی الحال باہر جاتا ہوں تاکہ یہ بیع بالاتفاق پختہ ہو جائے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد میں واپس آیا ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے کہا میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں کیا آپ قبول فرمائیں گے۔ میں نے کہا ہر ایک شخص کی مصلحت لینے اور دینے کی جدا جدا ہوتی ہے۔ جب تک کہ مجھے معلوم نہ ہو کہ آپ کیا دینا چاہتے ہیں میں کچھ اقرار نہیں کر سکتا۔ وہ بولا میں آپ کو مبلغ ۱۰ روپیہ واپس دیتا ہوں کیونکہ میں نے کبھی کوئی کتاب کا ایسا عاشق نہیں دیکھا۔ میں نے کہا۔ جب عشق ہوا تو عشق کے سامنے پچاس روپیہ کی کیا ہستی ہے!

قرآن شریف میں کوئی آیت منسوخ نہیں مذکورہ بالا کتاب کی تلاش مجھے مسئلہ آیات نسخ کے متعلق تھی۔ سب سے

پہلے میں نے ایک کتاب میں یہ دیکھا تھا کہ قرآن شریف کی چھ سو آیتیں منسوخ ہیں اس پر مجھے تعجب ہوا کیونکہ ۱۵۰ حدیثیں ہیں جن سے احکام فقہ نکلنے ہیں اور یہ قرآن شریف کی ۱۵۰ آیتیں آیات سے

احکام فقہ نکلنے ہیں یہ توکل تین سو ہوئے اور بالمقابل منسوخ ۶۰۰ ہوئے۔ یہ تعجب انگیز بات تھی اگرچہ میرا علم اس وقت ایسا وسیع نہ تھا تاہم میں عربی جانتا تھا اور مجھے اس میں بعض جگہ تا مل ہوتا تھا مگر جرأت مقابلہ کی نہ تھی۔ جب میں ان کتابوں کو پڑھ چکا تو پھر میں اور ایسی کتابوں کی تلاش کرتا رہا۔ اس تلاش میں مجھے ایک ترک مہتمم کتب خانہ ملے انہوں نے فرمایا ایک کتاب میں باب نسخ منسوخ کے متعلق ہے اور اس کا نام اتقان ہے۔ پھر انہوں نے مجھے وہ کتاب پڑھنے کے واسطے عاریتاً دے دی۔ اس کتاب میں میں نے لکھا دیکھا کہ صرف انیس یا اکیس آیات منسوخ ہیں زیادہ نہیں۔ آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر خوشی اور راحت مجھے حاصل ہوئی ہوگی۔ کہاں چھ سو اور کہاں صرف انیس۔ عالم جوانی تھا۔ میں نے کہا انیس آیات تو میں ابھی یاد کر سکتا ہوں۔ جب میں نے ان آیات کو گہری نگاہ سے دیکھا تو مجھے فوز الکبیر نے یہ فائدہ دیا کہ اس میں صرف پانچ آیتیں ایسی ہیں جو منسوخ کہی جاسکتی ہیں باقی کا فیصلہ صاحب فوز الکبیر نے کر دیا کہ وہ منسوخ نہیں اس سے پھر مجھے ایسی خوشی ہوئی جیسے کسی کو کوئی سلطنت مل جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ معاد و سراخیال یہ پیدا ہوا کہ نسخ منسوخ کے متعلق کوئی ارشاد حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کا یا ارشاد نبوی نہیں ہے۔ ورنہ اتنا اختلاف کیوں ہوتا کہ ایک کے نزدیک چھ سو آیات منسوخ ہوں اور دوسرے کے نزدیک صرف پانچ۔ اس خیال سے جو خوشی مجھے حاصل ہوئی میں اس سرور کونشہ کے ساتھ تعبیر کر سکتا ہوں۔ جب میرے علم میں اس سے زیادہ وسعت ہوئی تو مجھے معلوم ہوا کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکرؓ کا بھی اس نسخ کے متعلق کوئی فتویٰ نہیں اور نہ حضرت عمرؓ کا۔

سب سے پہلا مباحثہ جو کہ مجھے پیش آیا وہ اسی مسئلہ نسخ منسوخ کے متعلق تھا اور وہ لاہور میں ہی ہوا۔ میرا اس وقت یہ خیال نہیں کہ میں اپنی سوانح عمری بیان کروں بلکہ مسئلہ نسخ کے متعلق بیان کرتا ہوں اور وہ اسباب بیان کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس موجودہ مذہبی عقائد تک پہنچایا۔ جب میں تعلیم حاصل کر کے واپس پنجاب میں آیا اور راستہ میں لاہور میں ٹھہرا تو ایک مسجد میں وضو کر رہا تھا کہ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ جب عمل بالقرآن والحدیث ضروری ہے تو ہم نسخ منسوخ کس طرح پہنچائیں۔ میں نے کہا یہ بحث لغو ہے کوئی آیت منسوخ نہیں۔ اس نے یہ بات وہاں کے امام مسجد سے جا کہی۔ وہ مولوی صاحب

بہت ہی تیز ہو گئے ان کو اتنا اضطراب ہوا کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ نہ سکے۔ کھڑے ہو گئے اور مجھے بڑی دھمکی سے بلایا کہ ادھر آؤ۔ مجھے تعجب ہوا کہ میرا ان کے ساتھ کوئی سابقہ تعلق نہیں۔ قبل ازیں کوئی واقفیت نہیں۔ یہ پہلی ملاقات ہے پھر یہ اتنا جوش کیوں دکھاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ مباحثات کو لمبا کرتے ہیں اس مسئلہ میں بہت باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ فیصلہ کی راہ آسان ہے آپ کوئی ایک آیت پیش کریں جو آپ کے نزدیک منسوخ ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس وقت تائید ایزدی میرے شامل حال ہوئی کہ مولوی صاحب نے ان پانچ آیات میں سے کوئی آیت پیش نہ کی جن کے متعلق میں نے تحقیقات کی ہوئی نہ تھی۔ خدا تعالیٰ نے ہی ایسا موقع دے دیا کہ انہوں نے ایک معمولی سی آیت پیش کی کہ اگر کوئی نسخ منسوخ نہیں تو بتلاؤ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِآلِ دِينِ (الکافرون: ۷) کے کیا معنی ہیں۔ میں نے کہا یہ تو بالکل موٹی سی بات ہے اس کا جواب تو تفسیر فتح العزیز میں موجود ہے۔ بیضاوی کے حواشی پر بھی اس کا جواب درج ہے۔ مجھے اس سے راحت پہنچی کہ کوئی ایسی بات ان کے منہ سے نہیں نکلی جس سے بہت گفتگو کی ضرورت پیش آوے۔

مولوی صاحب فرمانے لگے کہ کیا آپ سید احمد کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ اس وقت تک میں سرسید کے نام سے ناواقف تھا۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ اس کا بھی یہی مذہب ہے کہ کوئی آیت منسوخ نہیں۔ میں نے کہا خوب! پھر تو ہم دو ہو گئے۔ مولوی صاحب فرمانے لگے تم امام شوکانی کو جانتے ہو۔ میں نے کہا کہ نہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ امام شوکانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ابو مسلم اصفہانی بھی نسخ منسوخ کا منکر تھا۔ میں نے کہا آپ کا بھلا ہو مجھے تو ان لوگوں کا علم نہ تھا۔ مولوی صاحب اب تو ہم تین ہو گئے اور تین کی جماعت ہوتی ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ یہ خیال بدعت ہے خیر خدا نے مجھے راحت دینی تھی۔ میں بہت خوش ہو کر وہاں سے چلا آیا۔ وطن میں پہنچ کر جب اس کا ذکر ہوا تو ایک دوست نے مشورہ دیا کہ ان پانچ آیات کے متعلق بھی تحقیق کر لینی چاہئے کیونکہ ممکن ہے کہ آئندہ گفتگو کے وقت کوئی شخص وہی آیات پیش کر دے تو پھر دقت واقع ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے گھر میں کتابوں کا ذخیرہ کافی تھا ہر طرح کی آسودگی حاصل تھی، حافظہ قوی تھا، سب قوی صحیح تھے، جوانی کا وقت تھا۔ پھر صحت تھی اور فراغت تھی کتابوں کا مطالعہ خوب کر سکتا تھا اور کرتا تھا۔ جب میں کتابوں کو دیکھنے لگا تو پانچ میں سے تین آیات پر تو

بعض تفسیروں کے خصوصاً اقوال مل گئے کہ یہ تین منسوخ نہیں ہیں۔ اس پر مجھے پہلے کی طرح پھر ایسا جوش خوشی کا ہوا کہ باقی دو آیتوں کی طرف میں نے کوئی توجہ نہ کی۔ اس کے بعد میں ایک دفعہ ریل کے سفر میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جس میں مجھے ان دو میں سے ایک کے متعلق یہ تحقیقات ملی کہ وہ منسوخ نہیں ہے اب ایک رہ گئی۔ پھر مجھے ایک تفسیر ملی جس میں اس کا بھی جواب تھا۔ تب تو میں بہت مضبوط ہو گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ قرآن شریف میں کوئی آیت بھی منسوخ نہیں ہے۔
فالحمد لله على ذلك۔

اس مسئلہ کا تو اس طرح سے تفسیہ ہوا لیکن یہ شوق مجھے ایک سوسطائی سے ملاقات ہمیشہ دامنگیر رہا کہ میں دیکھوں کہ مختلف مذاہب کیا ہیں اور ان کا باہمی اختلاف کس حد تک ہے ایک جھگڑا تو ہمارے ساتھ عمل بالحدیث یا عمل بالفقہ کا تھا۔ بدعت و شرک کا مقابلہ ہو رہا تھا مگر یہ اختلاف محدود دائرہ کے اندر تھا اور **إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ** (آل عمران: ۲۰) کی جو آواز میرے کان میں پڑی تھی اس پر بہر حال کوئی حملہ نہ تھا یہ اختلاف اسلام پر خارج نہ تھا مگر اسلام کی مقدس کتاب کی راہ میں ان سے ضرور مشکلات ڈالے گئے تھے۔ اس کے بعد پھر جو مجھے ایک دفعہ لاہور آنے کا موقع ہوا تو اللہ تعالیٰ کے احسان سے مجھے ایک سوسطائی کے خیالات معلوم کرنے کا موقع ملا۔ میرا کسب طہابت ایسا ہے کہ مجھے ہر ایک قسم کے شخص سے ملاقات کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ وضیع و شریف، امیر و غریب، نیک و بد، تاجر، ملازم، اہل حرفہ مرد، عورت، بچہ بوڑھا غرض ہر قسم کے اشخاص کے ساتھ ملاقات کا ذریعہ رہتا ہے۔ جوانی کے عجیب جوشوں میں مختلف مجالس میں اور مختلف صحبتوں میں ہر قسم کے آدمیوں کے ساتھ ملنے کا اتفاق ہوا اور اسلام کے ساتھ غیر مذاہب کے مقابلہ کا موقع ملتا رہا۔

الغرض جب میں لاہور میں محلّہ سید مٹھا میں تھا ایک خاص تعلق کے سبب اس محلّہ میں مجھے ایک شخص ملا جو کہ سوسطائی مذہب کا تھا اس نے کہا ہمارا مذہب ایسا ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہ اس پر کوئی زد پڑ سکتی ہے کیونکہ اثبات کے واسطے لوگ نیچر کو پیش کرتے ہیں ہم خود نیچر ہی کو نہیں مانتے۔ اس واسطے نیچر کے ذریعہ سے بھی ہمارا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔

مجھے سوسطائی کے دیکھنے کا شوق تھا میں نے یہ لفظ تو سنا ہوا تھا مگر اس کا پابند کوئی نہ دیکھا تھا اس

نے مفصل اپنے عقیدہ کو بیان کیا اور تمام مذاہب پر ریویو کر گیا۔ کہا کہ لوگ واقعات عالم سے ثبوت لیتے ہیں ہم تو عالم ہی کو نہیں مانتے اس واسطے کسی کا رعب ہم پر نہیں پڑتا۔ خدا تعالیٰ نے اس وقت مجھے ایک عجیب جواب سمجھایا اور میری، اس کی اس طرح سے گفتگو ہوئی۔

میں: آپ کیا کام کرتے ہیں۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔

وہ: ایک دفتر میں ملازم ہوں۔

میں: آپ کا دفتر کہاں ہے۔

وہ: انارکلی کے پرلے سرے پر۔ کوڑی باغ میں۔

میں: آپ کس وقت دفتر جاتے ہیں۔

وہ: دس بجے جاتا ہوں۔

میں: آپ کس راستہ سے دفتر جایا کرتے ہیں۔

وہ: انارکلی کے راستہ سے۔

میں: جب آپ کے مذہب میں انارکلی، راوی، شاہدرہ، شمال مار سب ایک ہی ہیں اور کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ انارکلی ہے یا شاہدرہ ہے کیونکہ ممکن ہے وہ راوی ہو اور ممکن ہے کچھ اور ہو۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ دفتر جانے کے وقت ہمیشہ انارکلی کی طرف جاتے ہیں اور کبھی ایسا نہیں کرتے کہ دریا کی طرف منہ کر لیں اور اسی کو انارکلی کا دفتر سمجھ لیں پھر جب آپ کے نزدیک دس بجے بارہ بجے اور ایک بجے سب یکساں ہیں۔ تو کیا سبب ہے کہ آپ ہر روز ٹھیک دس بجے ہی دفتر جاتے ہیں اور آگے پیچھے نہیں جاتے۔ پھر جب آپ کے نزدیک ماں بیٹی، بہن، بیوی سب برابر ہیں تو چاہیے کہ آپ سب کے پاس بلا حجاب جاتے ہوں۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے جیسا کہ ظاہر ہے کہ آپ نہیں کرتے اور عملی رنگ میں آپ ہمارے برابر ہیں اور آپ کا مذہب آپ کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو پھر یہ ہدایت بے سود ہے عملی رنگ میں جو کچھ ہم کرتے ہیں وہی آپ کرتے ہیں تو آپ کا مذہب خصوصیت سے کس کام آیا۔

وہ: اب میں جاتا ہوں پھر کسی وقت آپ سے ملوں گا۔

یہ پہلا موقع ہے جو ایک سوفسطائی سے میری ملاقات ہوئی۔ واقعاتِ عالم جو ظاہر ہو رہے ہیں ان کا کیونکر انکار ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے شروع میں ہی اپنا نام رب العالمین رکھا ہے۔ عالم ایک چیز ہے جس کا وہ رب ہے۔ بھرم ورم کوئی شے نہیں سوفسطائی قوم بھی عملاً ہمارے ہی ساتھ ہے۔ ان کا علم عمل کے لئے نہیں بلکہ صرف مباحثات کے واسطے ہے۔ لاہور کے مباحثات کے فیضان میں یہ دوسرا موقع ہے۔

مجھے اس سوفسطائی کے ساتھ ملاقات کرنے سے اور اس کی باتوں کے سننے سے بہت اذان خوشی ہوئی کہ حق کا غلبہ ہے۔ اسلام نے جو بات سکھلائی ہے وہی عملی رنگ میں سچی ہو سکتی ہے اس کے سوائے دنیا کا گزارہ ہی نہیں۔ اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں جو مخفی رکھنے کے لائق ہو یا جو خاص کے واسطے اور ہو اور عوام کے واسطے الگ ہو جیسا کہ بعض مذاہب میں اکثر باتیں دوسرے لوگوں سے مخفی رکھی جاتی ہیں کسی پر ظاہر نہیں کی جاتیں۔ ہندوؤں میں ساکت مت ہے، وہ عام طور پر اپنے عقائد کو بیان نہیں کرتے بلکہ اس کے اظہار میں بہت مضائقہ کرتے ہیں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں جس کا بیان اہل اسلام کے واسطے کسی حالت میں بھی قابل شرم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اپنے عقائد کو ہمیشہ اونچے سے اونچے مکانوں پر چڑھ کر اور بلند میناروں پر کھڑے ہو کر دن میں پانچ دفعہ پکار کر سب کو سنا دیتا ہے موزن کانوں میں انگلی دے کر تاکہ اس کے کان کے پردوں کی حفاظت ہو، نہایت بلند آواز سے ایسے کلمات بول دیتا ہے جو کہ دین اسلام کے تمام اصول اور فروع کے لئے جامع ہیں یہی اصلی اور حقیقی اور سچا مذہب ہے۔ جس کی منادی کو ٹھوں پر چڑھ کر برملا کی جاتی ہے۔ افسوس ہے کہ موجودہ صدی کے مسلمان اذان کی حقیقت سے آشنا نہیں رہے اور اس کی خوبیوں سے بے خبر ہو گئے ہیں ورنہ بطور فخر کے اسے دیگر مذاہب کے سامنے پیش کرتے اور صرف اس کے ذریعہ سے سب کو جیت لیتے اس میں عقائد اصول فرائض، مواجب، ضروریات، نتیجہ اسلام اعمال سب باتیں شامل ہیں۔

اللہ اکبر اللہ سے کون بڑا ہے اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو تمام صفات کاملہ سے موصوف اور تمام بدیوں سے منزہ اور عبادت کے لائق ہے اس سے پرے مدح کا کوئی کلمہ

نہیں اور عبادت کے واسطے بلانے کے لئے کسی قوم نے اس سے بہتر کوئی تجویز نہیں کی۔

یورپ امریکہ نے اس پر ترقی نہیں دکھائی ایک دفعہ ایک انگریز پادری صاحب کے ساتھ مجھے گفتگو کا موقع ہوا۔ اثنائے گفتگو

میں ممالک یورپ و امریکہ کی ترقی کا ذکر ہوا۔ پادری صاحب فرمانے لگے کہ دیکھو عیسائی اقوام نے کتنی بڑی ترقی کی ہے۔ میں نے کہا میں تو ان کی کوئی ترقی نہیں دیکھتا اگرچہ موجدوں کے کام میں انہوں نے بہت ترقی کی ہے اور بہت عمدہ خوبصورت جوتے بنانا جانتے ہیں یا اگر جلاہے کے کام میں انہوں نے بہت ترقی کر لی اور بہت سا کپڑا بنانا جانتے ہیں یا چمکی پینے کے کام میں بہت ہوشیار ہو گئے ہیں تو ان سب باتوں کا انجام یہ ہوا کہ انہوں نے روپیہ کمانے کے کام میں بہت ترقی کر لی ہے اور وہ بڑے دولت مند ہو گئے ہیں۔ اب دیکھنا چاہئے کہ اس ترقی پر انجیل کا کیا فتویٰ ہے متی باب ۱۹ آیت ۲۳ میں لکھا ہے۔ ”تب یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونا مشکل ہے بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سونے کے ناکے سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ ایک دولت مند خدا کی بادشاہت میں داخل ہو۔“

اس سے ثابت ہوا کہ یہ لوگ دولت مند لوگ جن کا آپ ذکر کرتے ہیں عیسائی دنیا کے واسطے قابل فخر نہیں ہو سکتے۔ پھر انجیل میں تو لکھا ہے کہ ٹوکل کی فکر آج نہ کر۔ کیا آج کل کے پولیٹیکل لوگ جو سو سو سال کے بجٹ بناتے ہیں اس آیت پر عمل درآمد کرنے والے ہیں؟ کیا ان کی پولیٹیکل ترقیاں انجیل کی تعلیم کو سچا ثابت کر سکتی ہیں؟ یہاں تو گفتگو مذہب کے متعلق ہے دنیا داری کے متعلق نہیں۔ مذہبی امور میں آپ یورپ امریکہ کی کوئی ترقی دکھلائیں۔ مذہبی امور میں سے ایک امر یہ ہے کہ نماز کے واسطے لوگوں کو کس طرح سے بلایا جاوے۔ اس میں آپ نے سوائے گھنٹہ بجانے کے کیا تجویز اختیار کی ہے۔ اللہ اکبر اذان سے بڑھ کر کوئی بات بتاؤ۔ اس سے بہتر کوئی لفظ نکالو۔ پادری صاحب ذہن آدمی تھے بہت توجہ کی اور دیر تک سوچتے رہے۔ آخر فرمایا کہ بے شک اللہ اکبر سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہے۔ ہاں مدت کے بعد ایک مسیحی وکیل کے رسالہ میں پڑھا کہ اذان کی بھدی اور بے سری آواز کو گھنٹہ کی سریلی آواز سے کیا نسبت۔ واہ واہ۔

ثبوت ہستی باری پر مباحثہ سوسطائی کی ملاقات کے بعد مجھے کسی ایسے آدمی سے ملنے کا شوق تھا جو دہریہ ہو اور ہستی باری کا منکر ہو۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ان لوگوں کے پاس دلیلیں ہیں جو وہ خدا تعالیٰ کے وجود سے منکر ہیں۔ اس کا موقع مجھے ایک بڑے رئیس کے دربار میں ملا۔ آخری وقت دن کا تھا کھلے میدان میں دو رتک سفید چاندنی (فرش پر) بچھی ہوئی تھی اور اس کے کونوں پر میر فرس رکھے ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ نرم نرم ہوا چل رہی تھی اور ہوا کے سبب سے چاندنی میں ایک لطیف موج اٹھتی تھی جو دو رتک نہایت موزوں ناچتی ہوئی چلی جاتی تھی۔ یہ قدرتی نظارہ ایسا دلکش تھا کہ میں پوری توجہ سے اس میں بالکل منہمک ہو گیا اور صوفیانہ خیالات دل میں آ کر مجھ پر ایک وجد سا طاری کر رہے تھے۔ رئیس اپنے پرائم منسٹر (وزیر اعظم) کے ساتھ کچھ مباحثہ کر رہا تھا جو بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ مباحثہ ہستی باری کے متعلق تھا۔ وہ پرائم منسٹر (وزیر اعظم) موجودہ علوم کے رو سے ایک بہت بڑے پایہ کا آدمی تھا وہ وجود باری کا منکر تھا۔ رئیس خدا تعالیٰ کی ہستی کے دلائل دیتا تھا اور وزیر اس کے برخلاف کہتا تھا۔ اثنائے گفتگو میں جب رئیس کسی موقع پر رکا تو اس نے مجھے آواز دی اور کہا کہ آپ ہستی باری کی کوئی دلیل دیجئے۔ میں نے کہا یہی چاندنی اس وقت خدا تعالیٰ کی ہستی کا بڑا بھاری ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کس طرح۔ میں نے کہا۔ آپ غور کریں۔ کیا آپ نے کبھی ایسا دلربا نظارہ دیکھا ہے کس خوبصورتی کے ساتھ کیسا موزوں یہ تموج ہے۔^۱



۱۔ البدر ۱۸ اگست ۱۹۱۰ء صفحہ ۶۰۵

۲۔ البدر ۲۵ اگست ۱۹۱۰ء صفحہ ۶۳۴

لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ کے تین عظیم الشان فائدے

﴿تقریر فرمودہ ۲۵ دسمبر ۱۹۱۰ء بعد نماز ظہر و عصر﴾

اشھد ان لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ وحده لا شریک له و اشھد ان محمداً عبده و رسوله
 اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ شَهِدَ
 اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلهَ اِلاَّ هُوَ لَا هُوَ لَا الْمَلِيْكَةُ وَاُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا اِلهَ اِلاَّ
 هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (ال عمران: ۱۹)۔

اللہ جلّ شانہ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا اکرم اور فضل ہوا ہے کہ مجھ
 حمد باری تعالیٰ: کو آپ لوگوں سے ملاقات کا زندگی میں پھر موقع ملا ہے۔ میں کوئی لمبی
 تقریر خصوصاً کھڑے ہو کر آواز بلند سے پہنچانے میں کسی قدر اس وقت عذر رکھتا ہوں اس واسطے
 ایک ضروری بات تمہیں پہنچانی چاہتا ہوں۔

میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح میں نے اپنے اوپر بہت بوجھ رکھ کر ہمت الہیہ سے یہ بات
 کہنی چاہی ہے۔ اللہ جلّ شانہ تم کو توفیق دے کہ تم اس میری بات کو دل سے مانو اور دل سے مان کر
 زبان سے اقرار کرو۔ پھر اسی کے مطابق تمہارا عمل درآمد ہو۔ تمام وہ تو میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی
 ہیں۔ وہ سب کی سب اس بات کو مانتی ہیں کہ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ کے واسطے کیا کیا
 کوششیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیں اور یہی لا الہ الا اللہ جو فقرہ ہے۔ اس کے
 پہنچانے کے لئے ہماری سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ برس تک اپنے ملک میں بڑی بڑی
 تکالیف شدیدہ کو برداشت فرمایا۔

آخر اس لا الہ الا اللہ کی مخالفت کے باعث آپ کو وطن بھی چھوڑنا پڑا۔ جب ان شریروں
 نے تکلیف کو حد سے بڑھا دیا تو اس رحمۃ للعالمین نے ہر طرح سے مقابلہ کیا اور انہی کی کوشش سے
 اس کلمہ کی اشاعت ہوئی۔ چنانچہ ہم سب جو موجود ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں۔ سب انبیاء

جو خدا کی طرف سے آئے ہیں اسی کلمہ کے لئے انہوں نے وہ وہ تکالیف اٹھائی ہیں جن کے بیان کرنے کے واسطے بہت ہی وقت چاہئے۔

اس کلمہ کے تین عظیم الشان فائدے ہیں۔ جب انسان منہ سے بولتا ہے تو مسلمان کہلاتا ہے۔ وہ معاملات جو ہم مسلمانوں سے کر سکتے ہیں اس شخص سے کرتے ہیں جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ سنتے ہیں۔ اسلام ایک عجیب نعمت ہے۔ اسلام کے معنی اصل میں صلح کے ہیں اور آشتی کے اور نیک نمونے کے سلم اور مسلم دونوں لفظ صلح کو چاہتے ہیں۔ منجملہ ان باتوں کے جن سے اسلام نے صلح کو قائم کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ:-

لَا تَسْبُو الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُو اللَّهَ عَدُوًّا بَغِيْرٍ عَلَيْهِ (الانعام: ۱۰۹)۔

تمام وہ قومیں جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتی ہیں۔ ان کے کسی معبود کو کسی بزرگ کو گو وہ اللہ کے سوا ہی ہو اور اس کی وہ پرستش کرتے ہوں۔ ان کو بالکل گالی مت دو۔ فَيَسْبُو اللَّهَ عَدُوًّا بَغِيْرٍ عَلَيْهِ۔ کیونکہ وہ نادان بھی اللہ کو گالی دیں گے نا سبھی سے۔ یہ لا تسبوا کی دلیل بتلاتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام بڑی صلح اور بہت بڑی آشتی کو چاہتا ہے۔ اس کے معنی فرمانبرداری کے بھی ہیں اور ہر ایک کی فرمانبرداری نہیں بلکہ اللہ کی فرماں برداری اور اس کے رسولوں کی فرمانبرداری، اولوالامر کی فرمانبرداری اس کا نام اسلام رکھا ہے۔ اسلام کے معنی فرمانبرداری مگر الاسلام کے معنی خاص فرمانبرداری۔ اسلام کے لفظ سے ایک سَلَّم لفظ بھی نکلا ہے۔ سَلَّم۔ اس سیڑھی کو کہتے ہیں جس سے انسان بلندی کی طرف چڑھتا ہے۔ ایسے ہی ہماری ترقیات کے لئے اور بلند مراتب پر پہنچانے کے واسطے خدا نے اسلام کو بھیجا ہے۔ اس کے نمونے دیکھ لو۔

جناب ابوبکرؓ اور ان کے والد مکہ کے صناید اور عمائد سے نہ تھے مگر اسلام ہی

راز خلافت:

تھا کہ اس فرمانبرداری نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین

بنادیا۔ جناب عمر ایک دفعہ حج سے واپس آتے ہوئے ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ کئی آدمی ساتھ تھے۔ رعب کے سبب کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ وجہ دریافت کرے مگر حذیفہ کو جناب سے بہت بے تکلفی تھی۔ اس نے پوچھا تو فرمایا خطاب کا بیٹا یہاں اونٹ چراتا تھا۔ ایک دفعہ اس کے

باپ نے اسے یہاں جھڑکی دی تھی۔ آج اسلام نے اسے اس بلندی پر پہنچا دیا کہ لاکھوں آدمی ایک اشارہ پر خون بہانے کو تیار ہیں۔

اسی لفظ سے سلامتی نکلی ہے جس سے حفاظت کے معنی پیدا ہوئے ہیں۔ عجیب قسم کی حفاظت مومن کو عطا ہوتی ہے۔ میں نے پنتالیس برس سے بہت زیادہ طب کی ہے۔ میں نے کبھی کوئی اسلام میں فرمان بردار ہو کر آتشک میں، سوزاک میں مبتلا نہیں پایا۔ بہت سے حکام کے ساتھ تعلقات رکھے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اسلام کے سبب کسی کو بید لگے ہوں۔ کوئی تکلیف کسی کو اسلام کے باعث نہیں پہنچتی بلکہ اگر خدا تعالیٰ کو مومن کی خاطر جہاں غرق کر دینا پڑے تو اسے پروا نہیں۔ کیا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پروا کی ہے۔ یہ بات نہایت سچ ہے۔

ہلاکت سے بچنے کی راہ: ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ (البقرة: ۳) کے یہ بھی معنی ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے اور جس میں کوئی ہلاکت نہیں۔ ریب ہلاکت

کو بھی کہتے ہیں جیسے قرآن شریف میں فرمایا۔ نَتَرَبَّصُّ بِهٖ رَيْبَ الْمُنُوْنِ (الطور: ۳۱)۔ لَا رَيْبَ فِيْهِ کے یہ معنی ہوئے کہ قرآن کی تعلیم میں کوئی ہلاکت نہیں ہوتی۔ ابھی کل کی بات ہے یارات کی ایک نکتہ معرفت میرے کان میں پہنچا۔ میری بیوی نے کہا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو تکلیف کیوں پہنچی۔ میں نے کہا اللہ کے مخفی درمخفی راز ہیں۔

کہا۔ ایک وجہ میرے خیال میں بھی آئی ہے۔ کہو تو سناؤں۔ میں نے بیماری کا ایک راز: کہا ہاں۔ کہنے لگی۔ تمہاری عادت تھی کہ جمعہ کے بعد دعاؤں میں

لگے رہتے، تم وہ دعا کا وقت چھوڑ کر ایک امیر کو ملنے چلے گئے۔ مجھے یہ نکتہ بہت پیارا لگا۔ غرض اسلام سلامتی چاہتا ہے۔ اسلام کے بھیجنے والا کا نام السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّمُنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ (الحشر: ۲۴) ہے۔ السلام نام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اسلام کا نتیجہ بہشت ہے۔ بہشت کا نام بھی دار السلام ہے۔ لَهْمُ دَارِ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهٖمُ (الانعام: ۱۲۸) اور فرمایا: اَلَّذِيْ

اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ لَا يَمْسَنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَلَا يَمْسَنَا فِيْهَا غُوبٌ (فاطر: ۳۶)۔ گویا اسلام سکھوں کا موجب ہے اور بہت بڑے سکھوں کا موجب ہے۔ اسلام میں کبھی کوئی

ہلاکت نہیں ہوئی۔

میں نے اس لفظ کو الٹ پلٹ کے بڑا دیکھا ہے اس کے سارے لفظوں میں خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ سلم کو الٹادیں۔ مس بن جاتا ہے۔ مس نرم چیز کو کہتے ہیں۔ مسلمان اَشِدَّاءٌ عَلَى الْكُفَّارِ اور رُحَمَاءٌ بَيْنَهُمْ (الفتح: ۳۰) یعنی آپس میں رحیم کریم ہوتے ہیں۔ اسی لفظ کو اور الٹادیں تو سلم بن جاتا ہے۔ سلم کے معنی یہ ہیں کہ انسان حیاء کے سبب بعض وقت خاموشی اختیار کرے۔

مسئل بھی اس کا الٹ لفظ بنتا ہے۔ اس کے معنی ہیں پانی دوسری جگہ پہنچا دینا۔ مسلمان کا یہ بھی کام ہے کہ دوسرے کو نفع پہنچائے۔

مس بھی اس کا مشتق ہے اس کے معنی ہر وقت طلب میں لگے رہنا۔ پس مسلمان کا یہ بھی کام ہے کہ ہر وقت رضائے الہی کی طلب میں لگا رہے مگر جس طرح اسلام دنیا میں صلح، آشتی، نیک نمونہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ اسی قدر اگر کوئی موزی اسلام کے لئے پیدا ہو تو اس موزی کا عہدگی سے مقابلہ کرتا ہے۔ قرآن شریف فرماتا ہے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (النحل: ۱۲۶) مقابلہ کرو پر ایسی ترکیب سے کرو کہ جس میں خوبیاں ہی بھری ہوئی ہوں۔

پس ہمارے مناظرے غیر قوموں سے اگر ہوں تو اسی مناظرہ کس طرح سے ہو: طرح سے وہ مناظرے ہونے چاہئیں جس میں خوبیاں

ہوں، دشمن کی غلطی پر اسے آگاہ کیا جاوے اور اس کے مقابلہ میں اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کی جاویں اور ایک جگہ فرمایا۔ اِذْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (حَمَّ السَّجْدَةِ: ۳۵)۔ مدافعت بھی کرو تو اس طریق سے کہ وہ بہت ہی عمدہ ہو۔ اِذْفَعِ السِّيَةَ بِالْحَسَنَةِ۔ ہر بدی کو کسی خوبی سے ہٹا دو۔ جب مخالفوں کے ساتھ بھی ہمیں مدافعت میں خوبیاں مد نظر رکھنی چاہئیں تو دو مسلمانوں کے درمیان تباغض، عداوت اور باہم جنگ کیونکر ہو سکتی ہے۔

المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده۔ مسلمان تو اس وقت مسلمان ہوتا ہے کہ صولح کار لوگ ہیں اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ میں جانتا ہوں کہ چند آدمیوں کے درمیان محبت کا قیام، اخوت کا استحکام محض فضل الہی سے ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ

نے فرمایا ہے: **لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ** (الانفال: ۶۳)۔ ساری زمین کی گول بھر کر اگر دے دو تو بھی یہ الفت پیدا نہیں ہو سکتی۔ (جواب اللہ نے ان کے دلوں میں پیدا کر دی ہے) اور فرمایا **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبِرْتُمْ بِنِعْمَةِ إِخْوَانًا** (ال عمران: ۱۰۴)۔ خدا کے فضل سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔

دعا میں کرو: میرے احباب میرے عزیز دوستوں پر واجب ہے۔ جناب الہی سے باہم الفت، محبت اور اخوت کے لئے دعا کیا کریں۔ مخالفوں نے ناخونوں تک زور

لگائے کہ یہ جماعت نہ بنے۔ مگر اب تم اس قدر لوگ موجود ہو۔ یہ جناب الہی کے فضل کا نمونہ ہے۔

دوسرا مرتبہ: لا الہ الا اللہ کا یہ ہے کہ جب یہ کلمہ دل میں رچ جاتا ہے اس وقت انسان کو مومن کہتے ہیں۔ مومن کا لفظ خود بھی امن سے مشتق ہے۔ یہی اسلام کا اعلیٰ مقام

ہے۔ مومن امن میں تھی رہ سکتا ہے کہ دشمن کا مقابلہ بھی کرے۔ عسکل عربینہ کے چند موذی مدینہ میں آئے بعض صحابہ کرام قتل کیا۔ لکھا ہے۔ **مِثْلَ أَعْيُنِهِمْ**۔ ان کی آنکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چروادی تھیں تا ایذا سے باز آجائیں۔

مومن امن دینے والا اور خود امن میں رہنے والا ہوتا ہے۔ جب یہ کلمہ دل میں رچتا ہے تو مومن ایمان کے یمن میں اور برکات سے متمتع ہوتا ہے۔ یہ ایمان کا باغ جب دل میں لگ جاتا ہے۔ کوئی دکھ اور کوئی ناخوشی اور کوئی خوف و حزن باقی نہیں رہتا۔ میں ایک دفعہ مصیبت کے کسی بچہ میں گرفتار تھا۔ صبح کی نماز پڑھانے لگا۔ اس وقت میرے دل میں جب یہ لفظ آیا۔ **الْحَمْدُ لِلَّهِ** تو میرے دل نے یہ گواہی دی کہ اس دکھ میں **الْحَمْدُ لِلَّهِ** کا کیا موقع ہے۔ اگر کہوں تو منافقانہ **الْحَمْدُ لِلَّهِ** ہے۔ نہ کہوں تو الحمد کے سوا نماز کیسے ہوتی ہے۔ معاذ خدا نے بجلی کی طرح سمجھایا کہ جب انسان **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** (البقرة: ۱۵۷) کہتا ہے تو ہر مصیبت کے وقت ہزاروں خوشیاں دیتا ہے۔ تب میں نے انا للہ کہہ کر بڑی بلند آواز سے الحمد لله کہا یہ اس ایمان کا نتیجہ تھا۔ ایمان سے وہ سارا خوف اور حزن راحت کے ساتھ مبدل ہو جاتا ہے اور وہ مضمون کہ مومن

جو ہوتے ہیں لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرة: ۶۳) ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھ لیا۔ یہ ایمان میں کمزوری ہوتی ہے جو مومن ناامید ہوتا ہے یا یاس میں آجاتا ہے۔

لا اله الا الله کا فائدہ وہ ہے جو احادیث صحیحہ میں میں نے پڑھا۔
تیسرا مرتبہ: حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جناب الہی میں عرض کیا۔ کوئی مجھے کلمہ

سکھایا جاوے جو میری ترقیات کا موجب ہو۔ الہام ہوا لا اله الا الله کہو۔ کہا الہی جب سے میں نبی ہوا ہوں اسی کلمہ کی اشاعت کی کوشش میں ہوں جناب الہی سے الہام ہوا۔ افضل الذکر لا اله الا الله اس سے نئی کوئی بات نہیں۔ یہ بات کہنے کو معمولی ہے مگر سارا قرآن شریف ٹٹول کر دیکھ لو۔ قرآن شریف کے بعد تمام اولیاء کرام اور ان کے ملفوظات اور ان کی تصنیفات کو ٹٹولو۔ ساری بڑائیاں سارے قرب سارے فضل ساری ان کی کرامتیں اسی لا اله الا الله کے وظیفے پر موقوف ہیں اس کا نام وہ نفی و اثبات کہتے ہیں اور رنگ برنگ الفاظ میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ جیسے محبوب کے چہرے کو تغزلات میں بیان کیا جاتا ہے۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ اسلام، ایمان کے بعد احسان کا مرتبہ ہے۔ اعبدوا الله کانث تراہ فان لم یکن تراہ فانہ یراٹ۔ اللہ کی عبادت کرو گویا تم اسے دیکھتے ہو اگر تم نہیں دیکھتے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ یہ ایک مقام ہے قرب الہی کا جو لا اله الا الله میں تدبر سے حاصل ہوتا ہے۔ کچھ زمانہ مجھ کو گزارا ہے مجھ کو اللہ جل شانہ نے لا اله الا الله کے معنی بتلائے کہ انسان غور کرے اس کی ہستی کیا ہے۔ هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا (الدھر: ۲)۔ انسان پر وہ زمانہ بھی گزرا ہے کہ وہ کچھ چیز نہ تھا۔ اس عدم میں اس کی خواہش کیا مطالب کیا؟ جناب الہی کے فضل نے عدم سے موجود کیا۔ مِّنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (الدھر: ۳)۔

خدا جانے کیوں درمیان اس وعظ کے نکتہ خیال میں آیا۔ میں وعظ چھوڑ کر اس کے بیان کرنے میں معذور ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تین آدمی آئے ایک کو جگہ مل گئی۔ بیٹھ گیا۔ دوسرے نے دیکھا جگہ نہیں، تو وہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نہ پہنچتی وہیں بیٹھ گیا۔ تیسرے نے کہا آواز نہیں آتی۔ یہاں کیا بیٹھنا چلا گیا۔ نبی کریم کو جناب الہی سے الہام

ہوا۔ تین آدمی یہاں آئے ایک کو جگہ ملی وہ بیٹھ گیا۔ فَاوَاہ اللہ نے اسے قرب میں جگہ دی۔ دوسرے کو حیا آئی آگے نہ بڑھا۔ جانے سے مضائقہ کیا۔ اللہ بھی اس کی پکڑ سے حیا کرے گا۔ تیسرے نے منہ پھیرا خدا بھی اس سے منہ پھیرے گا۔ شاید کوئی قلب ایسا ہو جس کی وجہ سے یہ تحریک ہوئی۔

حضرت حق سبحانہ نے انسان کو، معدوم کو موجود فرمایا اور فرمایا **نَبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا** (المدھر: ۳)۔ اس پر انعام فرماتے رہے اور انعام کرتے کرتے اس قدر بڑھایا کہ سمیع بصیر بنا دیا۔ ایک عام طور پر سمیع و بصیر ہیں ایک وہ جو خدا کی آواز سنتے ہیں۔ جناب الہی کے حقائق دیکھتے ہیں۔ جس طرح انسان عدم میں بے طاقت تھا اور فضل الہی سے باہر آیا اسی طرح ہر وقت اس کو ایک جدید ترقی عطا ہوتی ہے۔ جناب الہی کا فضل نہ ہو تو ترقی عطا نہ ہو۔ کل کا کھایا، کل کا پیا، کل کا مکان، کل کا لباس آج ہمارے کام میں نہیں آیا۔ کل کی خوشی، کل کی خوشحالی، کل کے جو تعلقات کسی کے ساتھ تھے وہ آج کام کے نہیں۔ ہر وقت اللہ کی ہی نعمتوں کا محتاج ہے۔ اس لئے اس کا نام **الصَّمَدُ** ہے۔ میں آواز دیتا ہوں ایک حرف کے بعد دوسرا نکلتا ہے۔ اگر ذرا اعانت الہی نہ پہنچے تو وہ آواز کہاں سے آسکتی ہے۔ غرض ہر آن میں انسان جناب الہی کے فضلوں کا محتاج ہے۔ جتنے کمالات کسی کو نصیب ہوئے ہیں۔ انبیاء ہوں اولیاء ہوں۔ سب کا سب کارخانہ اس کے فضلوں کا ہر آن محتاج ہے۔ اس کے فضل کے بڑے بڑے عجائبات ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے یہ معنی ہیں کہ ہر آن میں تم میرے محتاج ہو۔ اس کا فضل ہی ہوتا ہے تو کام بنتا ہے۔ اس لئے انسان عبد بنا ہے اور جناب الہی معبود بنے ہیں۔

عبودیت: عبودیت کے واسطے تین چیزوں کی بڑی ضرورت ہے۔ تب جا کر عبد، عبد بنتا ہے۔ جناب الہی سے اعلیٰ درجہ کی محبت ہو اور جناب الہی کی اعلیٰ درجہ کی تعظیم ہو اور انسان اعلیٰ درجہ کے عجز و انکسار و تذلل کے مقام پر ہو۔ محبت پیدا ہونے کے اسباب میں تعظیم الہی کے پیدا ہونے کے اسباب بھی ہیں۔ تذلل و انکسار کے اسباب بھی ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں غور کرنے سے تینوں کا پتا چلتا ہے۔

ہم دیکھتے ہیں محبت جو پیدا ہوتی ہے حسن و احسان سے پیدا ہوتی ہے۔ جس قدر حسن

(حسن کے معنی خوبی کے ہیں) کسی میں ہوتا ہے اور جس قدر ہمارے ساتھ کسی کا احسان ہو اسی قدر اس سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ جناب الہی کے حسن و احسان پر جب ہم غور کرتے ہیں ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ ساری دنیا کے احسان خدا تعالیٰ کے احسان کے جزو ہیں۔ جو دنیا احسان کرتی ہے وہ خدا کے فضل و داد کا نتیجہ ہیں۔ ہم غلہ کھاتے ہیں ایک دانہ سے کئی دانے پیدا کرنا اور وہ زمین وہ ہوا وہ روشنی وہ ظلمت جس کے ساتھ نشوونما وابستہ ہے کس کا کام ہے؟ پھر جانور جو بیل جوتے ہیں کسی ملک میں بیل ہیں، ٹٹو ہیں، اونٹ ہیں، ہاتھی ہیں کہیں گھوڑے ہیں ان کا کتنا بڑا کارخانہ ہے؟ روشنیوں اور ظلمتوں اور جانوروں کا پیدا کرنا جن سے نشوونما ہوتا ہے۔ پھر اس میں لکڑی کی حاجت، لوہار کی ضرورت، کتنا بڑا کارخانہ ہے۔ یہ تمام کارخانہ جناب الہی کا عطا کردہ ہے۔ عمدہ سے عمدہ غذا ہے، گلابند ہے، پیٹ میں درد ہے، قنچ ہے تو وہ غذا کس کام کی اگر اللہ کا فضل شامل حال نہیں۔ غرض اللہ کے فضل کے سوا کچھ بھی نہیں۔

حسن جتنے ہیں وہ بھی خدا ہی کے فضل پر موقوف ہیں۔ اگر خط و خال کا حسن ہے تو آنکھ کے سوا یہ نعمت بے کار ہے۔ آواز کا حسن ہے تو کان کے سوا کچھ نہیں۔ خوشبوئی کا حسن ہے تو ناک کے سوا کچھ نہیں۔ اگر اعضا کی خوبی کا ہے تو ٹٹو لنے کے سوا نہیں۔ غرض سارے حسن و احسان خدا کے حسن و احسان پر موقوف ہیں۔ اگر محبت کا مدار حسن و احسان پر ہے اور واقع میں ہے تو اللہ کے برابر ہمارا کوئی محسن اور حسن والا نہیں۔ تعظیم کا مدار، علم کامل قدرت کاملہ پر ہے۔ جناب الہی کی قدرتوں حکمتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں سارے علوم خدا ہی کے فیضان سے پیدا ہوتے ہیں۔ پس اعلیٰ تعلیم کا موجب علم و قدرت ہے اور اعلیٰ محبت کا موجب حسن و احسان ہے۔

اب ادھر ہم دیکھتے ہیں۔ تذلل کی حالت، سانس رک جاوے جان معاً جاتی ہے۔ اب اس سے زیادہ تذلل کیا ہے۔ جب انسان لا الہ الا اللہ پر غور کرتا ہے اور اسے اپنا انکسار و تذلل معلوم ہوتا ہے اور جناب الہی کے علم و قدرت کا تماشا دیکھتا ہے اور حسن و احسان کا نظارہ اس کے سامنے سے گزرتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ پکارا ٹھکتا ہے۔ اس واسطے تمام غفلت کے پردے جو انسان کو قرب الہی میں واقع ہوتے ہیں۔ ان سب کا علاج لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کے بعد میں آیت کی

طرف توجہ کرتا ہوں۔ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (ال عمران: ۱۹)۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔ اس لا الہ الا اللہ کی گواہی اللہ نے دی ہے گواہی ہمیشہ چند آدمیوں کے سامنے دی جاتی ہے۔ جناب الہی کی گواہی کے ساتھ بھی تمام رسول تمام انبیاء اور تمام اولیاء سب کے سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو کہا ہے لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ کی گواہی، حضرت نبی کریم کی گواہی سے قرآن شریف بھر پڑا ہے کہ اللہ نے ان کو فرمایا لا الہ الا اللہ۔ ہر فرد کے سامنے گواہی ضروری نہیں ہوتی۔ میری دانست میں اللہ کی ہستی اور نبیوں کی صداقت پر یہ بڑی بھاری دلیل ہے کہ تمام انبیاء تمام اولیاء تمام مجددین سب کے سب متفق ہیں اس بات پر کہ لا الہ الا اللہ معبود حقیقی خدا ہے اور اپنے حسن و احسان، علم و قدرت میں کامل ہے اور انسان بڑے انکسار و تذلل کے نیچے ہے۔ دس، بیس، تیس، چالیس، پچاس جس بات کے گواہ ہوں وہ بات بھی قابل اعتماد ہوتی ہے۔ کیا حال ہے اس گواہی کا جس کے تمام صداقت کے عاشق صداقت کے محب اس بات پر متفق ہیں۔ اس صداقت کے لئے کوئی بڑا تعلق کوئی بڑا ہی فضل حضرت محمد رسول اللہ پر اللہ کا ہے۔ دنیا میں ہزاروں انبیاء آئے ان کی تعلیم کا نام و نشان بھی نظر نہیں آتا پتا نہیں لگتا۔ پھر ان کی کتابوں کی زبانیں ہی ایسی پرانی ہیں کہ ان کے سمجھنے کے سب سامان مفقود ہو گئے۔ مجھے کبھی کبھی تعجب آتا ہے۔ آریہ مذہب پر کہ دو ارب برس سے وید ہیں۔ ویدوں کی لغت کا نام لیتے ہیں تو دو چار ہزار برس سے بتاتے ہیں۔ بھلا دو ارب کی بات دو چار ہزار برس والے کو کیا معلوم۔ یہ ایک فضل ہے ہم لوگوں پر۔ سلامتی سے اسلام نکلا ہے۔ اس واسطے رسول اللہ کی تعلیم کو اللہ نے محفوظ رکھ دیا۔ یہ بھی ایک اس کی گواہی ہے کس طرح اس نے حفاظت فرمائی۔ قرآن کے زیر و زبر تک محفوظ ہیں۔ پھر قرآن کے پہنچانے والوں اور اس کے معانی کے محافظین، مجددوں کا سلسلہ موجود ہے۔ ہم بھی بڑے خوش قسمت ہیں کہیں ۲۰۱۵ء میں ہوتے تو اپنی آنکھ سے کہاں دیکھتے کہ خدا نے اسلام کی حفاظت فرمائی۔ ہمارے زمانے میں ایک مجدد آیا۔ اس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم نے اس راستباز سے بارہا سنا کہ جب تک انا الموجود کی آواز نہیں آتی ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اللہ اس کی روح رواں پر بہت سی برکتیں بھیجے۔ کیسی ایک جماعت اللہ نے باوجود عظیم مخالفت کے عطا

فرمائی۔ جس طرح جناب الہی کی یہ گواہی ہے اسی طرح پاک دلوں کے ساتھ جب ملائکہ کا تعلق ہوتا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں۔ اس سے آگے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مؤحد جن کا بڑا اعلیٰ نمونہ ہم نے دیکھا۔ وہ بھی یہی کہتے اور شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے برابر کوئی معبود کوئی محبوب کوئی منعم اور کوئی محسن اور کوئی فضل و احسان کا وجود نہیں، کوئی علم اور قدرت میں اس کے برابر نہیں۔ یہ چند کلمات بہت ہی زور لگا کر سنائے ہیں۔ خدا تعالیٰ چاہے تمہارے دلوں کو لا الہ الا اللہ سے بھر پور کر دیوے۔ یہ تعلیم اللہ کی نعمتوں بڑی رحمتوں، غریب نوازیوں کا موجب ہو جاوے۔

(البرہر ۵ جنوری ۱۹۱۱ء صفحہ ۱۳ تا ۱۵)



حربہ دعا

﴿تقریر فرمودہ ۲۷ دسمبر ۱۹۱۰ء بعد نماز ظہر و عصر﴾

۲۷ دسمبر ۱۹۱۰ء کو حضرت خلیفۃ المسیح مدظلہ العالی کی طبیعت بہت کمزور تھی اور اس کی وجہ ۲۵ دسمبر کی غیر معمولی تقریر اور زیادہ دیر تک باہر بیٹھے رہنا تھا۔ اس کے بعد بھی پورا تجلیہ نصیب نہ ہوا۔ احباب برابر آتے جاتے رہے تو بھی جیسا کہ اس قوم کا خاصہ ہوتا ہے کہ وہ تبلیغ حق کے لئے حریص ہوتی ہے آپ نے پسند کیا کہ بعد نماز ظہر و عصر پھر احباب کی عام ملاقات کے لئے باہر تشریف لائیں۔ ظہر و عصر کی نماز جمع کر کے پڑھی گئی اس کے بعد حضرت مدرسہ کے صحن میں تشریف لائے اگرچہ آج آپ کا ارادہ تھا کہ کچھ بھی نہ کہیں گے لیکن آخرا سی حرص تبلیغ کے جوش نے مجبور کر دیا اور مندرجہ ذیل تقریر آپ نے فرمائی۔ (ایڈیٹر)

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔
اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔

أَدْعُوَنِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (المؤمن: ۶۱) یہ ایک ہتھیار ہے اور وہ بڑا کارگر ہے لیکن کبھی اس کے چلانے والا آدمی کمزور ہوتا ہے اس لئے اس ہتھیار سے منکر ہو جاتا ہے۔ وہ ہتھیار دعا کا ہے جس کو تمام دنیا نے چھوڑ دیا ہے۔ مسلمانوں میں ہماری جماعت کو چاہئے کہ اس کو تیز کریں اور اس سے کام لیں۔ جہاں تک ان سے ہو سکتا ہے دعائیں مانگیں اور نہ تھکیں۔ میں ایسا بیمار ہوں کہ وہم بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ میری زندگی کتنی ہے اس لئے میری یہ آخری وصیت ہے کہ لا اله الا الله کے ساتھ دعا کا ہتھیار تیز کرو۔ تمہاری جماعت میں تفرقہ نہ ہو کیونکہ جب کسی جماعت میں تفرقہ ہوتا ہے تو اس پر عذاب آ جاتا ہے جبکہ قرآن شریف میں فرمایا:

فَلَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَعْرَبْنَا بَيْنَهُمُ الْهَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (المائدة: ۱۵)

اب تک تم اس دکھ سے بچے ہوئے ہو۔ خدا تعالیٰ کے فضل اور نعمت کے بغیر دعا بھی مفید نہیں ہوتی اس لئے میں نصیحت کرتا ہوں کہ بہت دعائیں کرو پھر کہتا ہوں کہ بہت دعائیں کرو تا کہ جماعت تفرقہ

سے محفوظ رہے۔ وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل فرمائی ہے وہ دعا ہی سے آنی ہے! میرے لئے بھی دعا کرو۔ میرے وزرا مومن ہوں، مسلمان ہوں، مخلص ہوں، محسن ہوں، بامروت ہوں، میری مخالفت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے واعظ نصیب کرے جو علیٰ وجہ البصیرت وعظ کریں حق شناس ہوں ان میں دنیا کی ملوٹی نہ ہو باوجود اخلاص کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستہ کی پہچان رکھتے ہوں۔ اس قدر بیان کے بعد پھر جوش پیدا ہوا تو ذیل کے فقرات بطور تہمتہ بیان فرمائے۔ (ایڈیٹر)

میرے تم پر بہت حقوق ہیں :-

اول حق تو یہ ہے کہ تم نے میرے ہاتھ پر فرمانبرداری کا اقرار کیا ہے جو اقرار کے خلاف کرتا ہے وہ منافق ہو جاتا ہے میں ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو میری نافرمانی سے کوئی منافق ہو جاوے۔

دوسرا حق یہ ہے کہ میں تمہارے لئے تڑپ تڑپ کر دعائیں کرتا ہوں۔

تیسرا حق یہ ہے کہ میں نماز میں بھی آجکل سجدہ نہیں کر سکتا مگر تمہاری بھلائی کے لئے نماز سے بڑھ کر سجدہ میں دعائیں کی ہیں۔ پس میری حق شناسی کرو اور باہم تفرقہ چھوڑ دو۔

(البدرد ۱۲ جنوری ۱۹۱۱ء صفحہ ۳)



انجمنوں کے کارکنان کو نصیحت

﴿ تقریر فرمودہ ۲۷ دسمبر ۱۹۱۰ء بعد نماز مغرب ﴾

۲۷ دسمبر ۱۹۱۰ء کی شام کو بعد نماز مغرب حضرت خلیفۃ المسیح مدظلہ العالی نے تمام انجمنوں کے سیکرٹری اور میر مجلس صاحبان کو حاضر آنے کا ارشاد فرمایا تھا چنانچہ سب لوگ آچکے تو باوجود یہ کہ آپ کو بہت ضعف تھا آپ نے مندرجہ ذیل تقریر فرمائی۔ (ایڈیٹر)

میں نے آپ لوگوں کو ایک خاص وجہ کے لئے بلایا ہے۔ سال گزشتہ میں میرے دل پر ایک رنجیدگی تھی کہ آپ لوگ مجھ سے نہیں ملے تھے اس لئے میں نے چاہا تھا کہ اگر سال آئندہ زندہ رہوں تو آپ کو ملامت کروں گا۔

یاد رکھو قوم میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک نا فہم دوسرے وہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے فہم بخشتا ہے نا فہموں کی میں ایک مثال سناتا ہوں۔

ایک عورت حضرت صاحب (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے پاس آئی اور میں نے عورتوں سے سنا کہ اس نے ایک سو روپیہ حضرت کو نذر دیا۔ قدرت الہی سے وہ عورت میرے پاس بھی آئی اس کے ساتھ ایک جوان خوبصورت لڑکی بھی تھی اس عورت نے مجھ سے کہا کہ میرے لئے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے۔ میں اس لڑکی کو دیکھ کر سمجھا کہ یہ اس کی لڑکی ہے اس لئے میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کس کی لڑکی ہے اس نے کہا کہ میری ہی ہے مگر میرے اولاد نہیں۔ میں اس کے اتنے ہی فہم پر تعجب کرتا تھا کہ یہ لڑکی کو اولاد ہی نہیں سمجھتی اس پر میں نے چاہا کہ اس کی تسلی کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ اسے سناؤں کہ آپ کی بھی لڑکی ہی تھی۔ اس لئے میں نے اس سے پوچھا کیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہے اس نے جواب دیا جی میں پڑھی ہوئی نہیں (گویا اس کے خیال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا صرف پڑھنے ہی پر موقوف ہے)

تب میں نے اس کو کہا کہ کیا تو جانتی ہے کہ اس جہاں کا پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ پڑھے لکھے لوگ ہی جانتے ہوں گے۔ اس پر میں نے اس کو کہا کہ تم جو مرزا صاحب کے پاس آئی اور سو روپیہ نذر دیا، کیا سمجھ کر آئی ہو؟ اس نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ وہ اچھے آدمی ہیں۔ اس سے تم اندازہ کر لو کہ بعض لوگ کیسے نا فہم ہوتے ہیں۔ ہر قوم میں ایسے لوگ ہوتے ہیں اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر خدا تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، ان کو علم ہوتا ہے فہم ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کو جانتے ہیں۔ محمد رسول اللہ خاتم النبیین کو سمجھتے ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اور اس کے پیاروں کو پہچانتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے اور خاص احسان ہوتا ہے۔ جن پر اللہ کا احسان ہے ان کے لئے قرآن شریف میں فرمایا: **أَحْسِنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ** (الفصص: ۷۸) یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے تم بھی احسان کرو۔ تم پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے تم کو جاہلوں سے نہیں بنایا اور نا فہم نہیں بنایا۔ نا فہمی کا وہ نمونہ یاد رکھو کہ وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تک سے ناواقف اور اخلاص ایسا کہ سو روپیہ دے دیا۔ پس تم خدا کا شکر کرو کہ اس نے تم پر احسان کیا اس کا شکر یہ ہے کہ جو تم نے پاک تعلیم سنی ہے اسے مخلوق کو پہنچاؤ۔

میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ کام بہت ہی بڑا ہے۔ میرے کسی وہم یا گوشہ خیال یا تخیلات شاعرانہ میں بھی نہیں آیا تھا کہ میں کسی جماعت کا امام بنوں۔ یہ بات میرے وہم و گمان سے وراہ الوراہ تھی بلکہ میرے شاگرد جانتے ہیں جنہوں نے مجھ سے کچھ پڑھا ہے۔ ایک حدیث ہے اس کا مطلب اور ہی سمجھتا تھا اب تو اور سمجھتا ہوں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قریشیوں کی سلطنت میں زوال نہ ہوگا جب تک دو بھی ہوں۔ میں قریشی تھا اور مرزا کا سچے دل سے مرید ہوا۔ ہمارے جد بزرگوار میں فرخ شاہ ایک بزرگ کابل میں گزرا ہے۔ درہ فرخ شاہ اب تک بھی اس کے نام سے ہے۔ اس نے سلطنت جان بوجھ کر چھوڑی اور تخت سے اتر کر چبوترہ پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اب بھی میری قوم کے آدمی یا غستان میں شاہزادے کہلاتے ہیں۔ تو میرے تو وہم میں بھی نہ تھا کہ میں کسی جماعت کا امام ہوں گا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایک آن کی آن میں مجھے امام بنا دیا اور ایک قوم کا امیر بنا دیا۔ تم سیکرٹری لوگ ہو پریذیڈنٹ بھی ہیں تمہیں کبھی کبھی مشکلات پیش آجاتے ہوں گے اور پھر اس سے عناد بڑھ

جاتا ہے۔

اول تو اس غلطی سے کہ کیوں مجھے عہدہ دار نہ بنایا۔ میرا اپنا تو ایمان ہے کہ اگر حضرت صاحب کی لڑکی حفیظہ (امۃ الحفیظہ) کو امام بنا لیتے تو سب سے پہلے میں بیعت کر لیتا اور اس کی ایسی ہی اطاعت کرتا جیسی مرزا کی فرمانبرداری کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھتا کہ اس کے ہاتھ پر بھی پورے ہو جائیں گے۔ اس سے میری غرض یہ بتانا ہے کہ ایسی خواہش نہیں ہونی چاہئے۔ غرض کبھی اس قسم کی مشکلات آتی ہوں گی پس پہلی نصیحت یہ ہے اور خدا کے لئے اس کو مان لو۔ اللہ کہتا ہے۔ لَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ (الانفال: ۴۷)۔ اس منازعت سے تم بودے ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا بگڑ جائے گی پس تنازعہ نہ کرو اور اللہ تعالیٰ چونکہ خالق فطرت تھا اور جانتا تھا کہ جھگڑا ہوگا اس لئے فرمایا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (الانفال: ۴۷)۔

پس جب سیکرٹری اور پریزیڈنٹ سے منازعت ہو تو اللہ تعالیٰ کے لئے صبر کرو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوگا۔ میرا حق ہے کہ میں تم کو نصیحت کروں تم نے عہد کیا ہے کہ تمہاری نیک بات مانیں گے اس لئے میں کہتا ہوں کہ یہ مان لو۔ قطعاً منازعت نہ کرو۔ جہاں منازعت ہو فوراً جناب الہی کے حضور گر پڑو۔ میں نے ابھی کہا ہے کہ اگر حفیظہ کو امام بنا لیتے تو اس کی بھی مرزا صاحب جیسی ہی فرمانبرداری کرتا۔ پس تم مشکلات سے مت ڈرو۔ مشکلات ہر جگہ آتی ہیں میرے اوپر بھی آئیں اور بڑی غلطی یا شوخی یا بے ادبی بعض آدمیوں سے ہوئی۔ اب ہم نے درگزر کر دیا ہے مگر انہوں نے حق نہیں سمجھا کہ کیا امامت کا حق ہوتا ہے؟ یہ بھی کم علمی کا نتیجہ ہوتا ہے جو انسان حقوق شناسی نہ کرے مگر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا ان کے دلوں کی آپ اصلاح کر دی اور دل اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں تھے۔ اس نے سب کو میرے ساتھ ملا دیا اور ان پر اور ہم پر اور ہماری قوم پر رحم اور احسان ہوا۔ غرض ایک یہ یاد رکھو کہ تنازعہ نہ ہو۔ نہ آپ کرو نہ ماتحتوں کو کرنے دو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر صبر کی تعلیم دی ہے۔ دوسرے بعض جگہ جہاں کثرت سے لوگ ہیں وہاں میں دیکھتا ہوں ترقی رک گئی ہے اس کا کوئی مخفی راز ہے۔ میں اس کو جانتا ہوں اس کی تلافی دو طرح ہو سکتی ہے ایک یہ کہ

پریذیڈنٹ اور سیکرٹری اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ سورج اور چاند گرہن پر مسلمانوں کے ہاں نماز پڑھی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج گرہن اور چاند گرہن ہوتا تو گھبرا جاتے حالانکہ وہ جانتے تھے کہ قرآن کریم میں ہے **وَ الْقَصْرَ نُورًا** **وَأَقْدَرَهُ مَنَازِلَ** (یونس: ۶) مگر وہ بہت گھبراتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ سورج روشن تو رہتا ہی ہے مگر روشنی زمین پر نہیں آتی اسی طرح چاند کی روشنی رک جاتی ہے۔ چاند گرہن ۱۳۔ ۱۴ تاریخ کو ہوتا ہے جو اس کے کمال کے ایام ہیں اور سورج گرہن ۲۷۔ ۲۸ کو۔ باوجود اس علم کے کہ سورج اور چاند روشن ہیں پھر ان کی روشنی رک جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبراتے اس لئے کہ میں تو مبلغ ہوں کہیں میری تبلیغ کا اثر نہ رک جاوے اس لئے صدقہ کرتے قربانی دیتے دعائیں کرتے غلاموں کو آزاد کرتے۔

احق فلاسفرز اس سر کو نہیں سمجھتے۔ مگر نبی جانتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں روشن ہے ایسا نہ ہو کہ آفتاب و ماہتاب کی طرح ہماری روشنی اور اثر بھی رک جائے۔ اس لئے وہ صدقہ و خیرات اور دعاؤں سے کام لیتے۔ پس خوب یاد رکھو کہ جہاں جماعت کی ترقی رک گئی ہے وہاں پریذیڈنٹ اور سیکرٹری صاحبان وضو کریں۔ نماز پڑھیں۔ دعائیں کریں اور اپنی ذات سے صدقہ اور خیرات کریں کہ جناب الہی خود اس گرہن کو دور کرے اور اس روک کو اٹھادے جو ان کے اثر کے آگے آگئی ہے۔ میں نے اس وقت تک دو باتیں بتائی ہیں اول تنازعہ نہ کرو۔ پھر اگر ایسا ہو جاوے تو صبر کرو۔ تیسری بات یہ بتائی کہ اگر ترقی رک گئی ہے تو صدقہ و خیرات کرو۔ استغفار کرو۔ دعاؤں سے کام لو تاکہ تمہارا فیضان رک نہ جائے اگر کوئی روک آگئی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دور کر دے۔

میں تم کو صدقہ کا حکم دیتا ہوں اس لئے کہ الصدقة تطفی غضب الرب (المعجم الاوسط جزء ۷ حدیث نمبر ۷۷۶۱) صدقہ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھادیتا ہے۔ اس کی بہت بڑی کہانیاں ہیں اور میں ان باتوں کو مانتا ہوں کہ صدقہ سے غضب الہی دور ہو جاتا ہے۔ تم تو مسلمان ہو اس لئے ضرورت نہیں کہ وہ کہانیاں تمہیں سناؤں، ایک بتاتا ہوں۔ ایک شخص کو پھانسی کا حکم ہوا اس

نے راستہ میں کسی سے دو پیسہ مانگے اور ان کی روٹی لے کر کسی غریب کو دے دی کسی نے اس سے پوچھا کہ یتیم نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ مجھ پر غضب الہی آیا ہے میں نے صدقہ کیا ہے اور اس سے ٹل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سولی کا تختہ سامنے ہے اب کیا ٹل سکتا ہے۔ ادھر کسی نے بادشاہ سے کہا کہ فلاں شخص جس کو پھانسی کا حکم دیا ہے بے گناہ ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ تو پھانسی مل گیا ہوگا۔ اس پر اس نے عرض کیا کہ شاید ابھی نہ دیا گیا ہو چنانچہ بادشاہ نے سوار کے ہاتھ حکم بھیجا کہ پھانسی نہ دو۔ جس وقت سوار پہنچا وہ تختہ پر چڑھ چکا تھا گوا بھی پھانسی پر لٹکا یا نہیں گیا تھا۔ اس طرح پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا یہ باتیں بناوٹ کی نہیں ہیں واقعات ہیں۔ میں ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے اوپر بڑا زور ڈال کر بول رہا ہوں پھر مرنے کی حالت میں جھوٹ بولنے کی مجھے کیا حاجت؟ پس تم یاد رکھو کہ صدقہ غضب الہی کو روک دیتا ہے جس کا اثر متعدی نہیں رہا وہ خدا کے آگے گر پڑے اور صدقہ و خیرات دے۔ چوتھی بات جو میں سمجھاتا ہوں وہ یہ ہے کہ مال کے معاملہ کے متعلق بڑی بدگمانی ہوتی ہے یہاں کے کارکن امین ہیں نیک ہیں اگر کسی کی نسبت پیسہ کا جرم لگ جاتا ہے تو وہ چور نہیں ہوتے۔ اس لئے تم اپنے مالوں کے لئے مطمئن رہو۔ جو مجھے کوئی دیتا ہے اس کے لئے بھی میں امین ہوں۔ میں جب چھوٹا تھا تو ایک امیر کبیر ہمارا دوست تھا اس نے ایک لوئی خریدی۔ وہ اتنا بڑا مالدار تھا کہ پچاس ساٹھ ہزار روپیہ اس کے پاس زکوٰۃ ہی کا تھا۔ میرا دل چاہا کہ لوئی مول لوں۔ میں نے خرید تو کی مگر مجھے یہ یاد نہیں کہ میں نے کبھی پہنی ہو۔ خریدنا تو اب تک یاد ہے مگر پہننا ہرگز یاد نہیں اور اب تک مجھے اللہ تعالیٰ پشمینہ ہی پہننے کو دیتا ہے۔ پس میں اپنی نسبت مطمئن کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال کا حریص نہیں بنایا۔ میرے دل میں مال کی خواہش ہی نہیں ہے۔

تمہاری نذریں جو میرے پاس آتی ہیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک تو ایسی ہوتی ہیں کہ میں ان کو لے کر باغ باغ ہو جاتا ہوں۔ اس کی دو تین مثالیں بتاتا ہوں۔ حافظ معین الدین بڑا ہی مسکین اور مخلص آدمی ہے۔ نابینا آدمی ہے کوئی بھائی نہیں باپ نہیں اور رشتہ دار نہیں۔ اگلے دن میرے پاس آیا اور تین روپیہ مجھے دئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دئے ہیں اب میرا جی چاہتا ہے کہ آپ ان کی یخنی پیئیں تو طاقت آ جاوے گی۔ اس کی بے کسی اور نابینا پن کو دیکھو اور اخلاص کو دیکھو میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے اس کی یخنی پلاؤ۔

ایک دفعہ دو ملک سے ایک شخص آیا اور اڑھائی روپے دیئے اور کہا کہ یہ بڑے اُطیب ہیں آپ کھائیں گے تو نیارنگ دیکھو گے۔ ایک شخص نے کھد رکا کرتے دیا ہے اس نے کہا کہ خاص تیرے لئے ہے اور ایسی اُطیب چیز سے بنا ہے کہ اس کو دیکھ کر میرا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ تین مثالیں ہیں باقی کے روپیہ کو میں سنبھال کر رکھتا ہوں اور کبھی مشورہ کرتا ہوں کہ کیا کروں۔ بہر حال انہیں ایسی جگہ خرچ کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا موجب ہو۔ پس میری طرف سے مطمئن رہو کہ میں مال کا بھوکا نہیں۔ بڑا بننے کی خواہش بھی نہیں۔ میں اپنی بیوی کو محدود خرچ مہینہ میں دیتا ہوں۔ تمہارے اموال اور نیتیں نیک ہوں تو میں انہیں نیک جگہ خرچ کروں۔ غرض یاد رکھو کہ ایک نصیحت تو یہ ہے کہ جھگڑے نہ کرو۔ دوم صبر سے کام لو۔ سوم صدقہ و خیرات دو اپنی ذاتی کمائی سے۔ چہارم یہاں کے لوگ جن کے قبضہ میں روپیہ آتا ہے ان کی نسبت بدگمانی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو اس جماعت کے بعض بندے بڑے ہی پیارے ہیں۔ ایسا نہ ہو کسی کی نسبت بدگمانی کر کے نقصان اٹھاؤ۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اب مرنے کے قریب ہوں مگر میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں اور بڑا خیر خواہ ہوں تمہارے لئے دعا کرتا ہوں۔ میں نے اپنی اولاد کے لئے روپیہ نہیں رکھا۔ میرے باپ نے مجھے کوئی روپیہ نہیں دیا اور نہ بھائی نے دیا۔ مگر میرے مولانا نے مجھے بہت کچھ دیا۔ اور وہی دیتا ہے پس تم بدگمانی سے توبہ کر لو۔

یہ باتیں میں نے بہت سوچ سوچ کر کہی ہیں میرے دماغ میں خشکی ہو تو ہو مگر ان باتوں میں خشکی نہیں۔ آپس میں محبت رکھو تنازعہ نہ کرو۔ بدگمانی نہ کرو۔ کوئی اگر ناراض ہو تو صبر سے کام لو اور دعائیں کرو۔

ایک مرتبہ میں نے ایک شخص کو جو میرا پیارا ہے نصیحت کرنے کا ارادہ کیا میں مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ تم اس کو نصیحت نہ کرو اگر اس نے نہ مانا تو تم کو رنج ہوگا میرے دل پر اس سے کچھ بوجھ گزرا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ تم اس کے لئے دعا کرو ہم اپنی حکمت کاملہ سے سمجھا دیں گے وہ بڑا غریب نواز ہے۔ اس لڑکے پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا کہ اسے شرمندگی سے بچالیا۔ پس ایسے لوگوں کے لئے دعا کرو اور نماز میں دعائیں کرو۔ یہ معرفت کی باتیں ہیں مجھے کہنے میں معذور سمجھو۔ میرے دل کی خواہش برس بھر سے تھی۔ بدگمانی بھی ہوئی کہ

شاید پیسوں کے لئے بلاتا ہے۔ میں مالوں کا خواہشمند نہیں میرا نام آسمان میں عبدالباسط ہے۔ باسٹ سے کہتے ہیں جو فراخی سے دیتا ہے میرے پرانے دوست مثل حامد شاہ کے موجود ہیں وہ جانتے ہیں میرا یہی لباس رہا ہے میرا مولا وقت پر مجھے ہر چیز دیتا ہے اس کے بڑے بڑے فضل مجھ پر ہیں۔ میں ابھی گرا تھا اگر گھوڑی آنکھ پر لات مار دیتی تو کیا حقیقت تھی یہ اسی کا فضل تھا۔ سال گزشتہ میں کئی قسم کی غلطیاں ہوئیں مگر خدا کے فضل سے امید ہے کہ آئندہ نہ ہوں گی۔

(البدرد ۱۲ جنوری ۱۹۱۱ء صفحہ ۳ تا ۵)



البلاغ من الشاهد الى الغيب

﴿تقریر فرمودہ ستمبر ۱۹۱۱ء﴾

عید الفطر کے دن حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب سلمہ ربہ نے خطبہ پڑھا جس میں یوم العید کی حقیقت اور فلسفہ کے ساتھ ان حکمتوں کا ذکر فرمایا جو انسان کو ابو و لعب اور ہر قسم کی منافی سے بچانے کا ذریعہ ہو سکتی ہیں۔ یہ خطبہ بعد میں انشاء اللہ العزیز درج ہوگا۔ ان کے خطبہ پڑھ چکنے کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح نے نہایت جوش اور جلال کے ساتھ مندرجہ ذیل تقریر فرمائی جس میں آپ نے فرمایا کہ جو نہیں سنتے ان کو پہنچا دو۔ اس لئے میں اس تقریر کو بغرض ابلاغ درج کرتا ہوں اور اس کو حضرت خلیفۃ المسیح کو دکھا کر درست کرایا گیا ہے۔ خدا کرے ہم اس سے عملی رنگ میں فائدہ اٹھانے والے ہوں۔ واللہ

یہدی من بئشاء الی صراط مستقیم۔ (ایڈیٹر الحکم)

فرمایا:

میاں صاحب نے جمعہ کے دن لطیف سے لطیف خطبہ سنایا۔ وہ اور بھی لطف ہوگا اگر تم اس پر غور کرو گے۔ میں اس خطبہ کی بہت ہی قدر کرتا ہوں اور میں یقیناً کہتا ہوں کہ وہ خطبہ جمعہ کا عجیب سے عجیب نکات معرفت اپنے اندر رکھتا ہے۔ بہت سے شریف الطبع لوگوں کو اس سے بہت سے فائدے ہوں گے مگر بعض بڑے بلید الطبع، گندے اور شریر ہوتے ہیں جو ایسی پاک باتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تم نے سنا ہے کہ میں نے کیسے سخت لفظ بولے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ابھی میاں صاحب کے خطبہ جمعہ کی خوشی سے فرصت نہیں پاچکا کہ ایک شخص نے ایک لمبارقعہ دوسرے کی شکایت کا پیش کیا جس کو پڑھ کر میں نے کہا ہے کہ خبیث الطبع لوگ ہیں جو ایسے پاک کلام کی قدر نہیں کرتے ہیں ایسے گندے اور بد بخت خدا کے کلام کی خوبیوں پر بھی غور نہیں کر سکتے۔ وہ بد بخت گندے بیمار کی طرح ہیں جن کو عمدہ اور لطیف غذا بھی گندی نظر آتی ہے۔ میں نے تم لوگوں سے معاہدہ لیا ہے کہ شرک مت کرو۔ شرک کی عجیب عجیب راہیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ مجھے دعاؤں کے

لئے کہتے ہیں اور وہ مجھے سمجھتے ہیں کہ گویا میں خدا کا کوئی ایجنٹ ہوں حالانکہ میں ایک عاجز بندہ ہوں۔ میری ماں ایک زمیندار اعوانی تھی ہاں وہ کچھ پڑھی ہوئی تھی۔ میرا باپ ایک غریب آدمی تھا جو اپنی ضروریات کے لئے تجارت کر لیتا تھا اور بہت ہی مختصر تجارت کرتا تھا۔ پھر میں کہاں سے خدا کا ایجنٹ آ گیا۔ ہاں مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کرنا آتا ہے۔ اس نے مجھے طرح طرح سے دعائیں کرنا سکھایا ہے اور دعاؤں کی ترکیبیں بتائی ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اور میں کبھی کبھی قبولیت کے اثر بھی دیکھتا ہوں لیکن جب بعض لوگ شرک کی حد تک پہنچتے ہیں تو میں ان کے لئے دعاؤں سے مضائقہ کرتا ہوں۔ میں علم غیب نہیں رکھتا اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں اپنے لئے ہر قسم کی بھلائیاں جمع کر لیتا۔ میں فرشتہ بھی نہیں اور میرے اندر فرشتے نہیں بولتے۔ پس اللہ تعالیٰ ہی تمہارا معبود ہو۔ اللہ تعالیٰ کا علم قریب اور بعید، مخفی اور ظاہر سب رنگ میں وسیع ہے اور بہت ہی بڑا وسیع ہے۔ خدا کا تصرف بہت بڑا تصرف ہے جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اس کے تصرف کا ایک نظارہ یہاں موجود ہے۔ تم بھی مرزا کے مرید ہو میں بھی اسی کا مرید تھا پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پکڑ کر میری طرف جھکا دیا۔ کسی کا اس میں احسان نہیں قطعاً نہیں۔ کیا میری خواہش تھی؟ ہرگز نہیں نہ میرے وہم و گمان میں تھی نہ تمہاری خواہشوں سے یہ ہوا۔

ابھی بیمار ہوں ڈاکٹروں نے کہا کہ بچنے کی کوئی امید نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے حیاتی دی۔ اسی سے دعا ہے، اسی کے لئے سجدے اور قربانیاں ہیں۔ کوئی روزہ، نماز، دعا، وظیفہ، طواف، قربانی اللہ کے سوا دوسرے کے لئے جائز نہیں مگر بے ایمان شریروں نے شرک کے اندر سمجھا دیا کہ قبروں پر جاؤ اور جا کر کہو کہ تم ہمارے لئے عرض کرو۔ یاد رکھو! اسلام نے یہ نہیں سکھایا۔ پس شرک چھوڑ دو اور مجھے خدا کا ایجنٹ مت سمجھو۔ پھر یہ معاہدہ ہے چوری مت کرو۔ تم میں سے بہت سے چور ہیں۔ نوکر ہیں اگر وہ فرائض منصبی کو ادا نہیں کرتے تو وہ چور ہیں۔ تاجر جو تجارت کرتے ہیں اور حساب نہیں رکھتے ان کے مال میں ضرور چوری کا حصہ ہے۔ تمہاری شرکتیں ہیں پیچھے جوت چلتا ہے اس لئے کہ تمہارے اندر حلال کھانے کی توجہ کم ہے۔ تم اس سے واقف نہیں ایک کسب والا اگر اپنے کسب میں شرارت کرتا ہے وہ چوری کرتا ہے اور اکل بالباطل کرتا ہے۔

پھر بدکاریوں کے نزدیک نہیں جاؤں گا۔ بدکاریاں آنکھ کی، ناک کی، زبان کی، کان کی بھی ہوتی ہیں۔ پس تم ان کے نزدیک نہ جاؤ۔ بہتان کسی پر مت باندھو۔ ابوداؤد میں ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری طبائع، خواہشیں، چال چلن، لباس، خوراک مختلف ہے۔..... تمہاری تربیت مختلف ہے تو ان اختلافوں کی وجہ سے ایک دوسرے کی بدی مجھ تک مت پہنچاؤ۔

میں بھی تمہیں کہتا ہوں کہ تم میرے پاس مت پہنچاؤ۔ بعض لوگ میرے پاس ایک دوسرے کی بدی پہنچاتے ہیں۔ وہ لوگ تم میں سے سخت شریر ہیں، گندے ہیں، بد بخت ہیں جو دو آدمیوں کو باہم لڑانا چاہتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ توبہ کر لیں ورنہ خدا کی لعنت برسے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے **وَلَا تَنَازَعُوا** (الانفال: ۴۷) باہم تنازع نہ کرو ورنہ تم پھسل جاؤ گے۔ تمہارا کوئی اختلافی مسئلہ نہیں جس کا میں محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تم فیصلہ نہیں کر سکتے خدا نے مجھے علم دیا ہے تم میں بعض بے علم ہیں۔ خدا نے مجھے فہم دیا ہے تم میں بعض بے فہم ہیں۔ تم میں سے بعض ایسے گندے ہیں کہ انہوں نے مجھے سخت دکھ دیا ہے۔ انہیں کھول کر کہتا ہوں کہ **لَا تَنَازَعُوا** پر عمل کرو۔ **وَالَا فَتَفْشَلُوا** (الانفال: ۴۷) تم بودے ہو جاؤ گے۔ تمہاری ہوا بگڑ جائے گی۔ تم میں سے بعض نے مجھے دکھ دیا ہے۔ ان خبیث تحریروں کو پڑھ کر مجھے نفرت ہوئی ہے۔ چھوٹے چھوٹے لڑکے واعظ بن کر مجھے سمجھاتے ہیں جو سنتے ہیں وہ توبہ کر لیں اور جو نہیں سنتے انہیں پہنچا دو اور سمجھا دو۔

عید کا دن میاں کہتا ہے خوشی کا دن ہوتا ہے مگر تم نے مجھے رنج دیا ہے۔ تنازعہ چھوڑ دو۔ تم کہتے ہو کہ مجھے دوسرے نے دکھ دیا ہے مگر اللہ کہتا ہے کہ پھر تم صبر کرو۔ صبر کی تعلیم اسی لئے تو دی تھی کہ جب دوسرے سے دکھ پہنچے تو صبر کرو۔ پھر وہ صبر کیوں نہیں کرتا۔ ایک پرائیویٹ چٹھی لکھتا ہے تو اس پر کالم کے کالم سیاہ نہ کرو بلکہ صبر کرو۔ صبر کے سوال ائی ختم نہیں ہوتی۔ میں نہیں سمجھتا کہ میرا مرید کون ہے۔ تم اتنے بیٹھے ہو مجھے کیا خبر ہے۔ ہاں میرا مرید وہی ہے جو ان معاہدات پر عمل کرتا ہے جو اس نے مجھ سے کئے ہیں اور جو حضرت صاحب سے کئے ہیں۔ میں کسی کی پروا نہیں کرتا۔ میرے ڈاکٹر دوستوں نے میرے زخم کے لئے کوشش کی مگر باجرہ کے دانہ کے برابر اب تک باقی ہے اور ان کی

کوشش کچھ نہیں کر سکتی۔ رحم کرے اللہ اس خاندان پر جس کے ذریعہ میں نے توحید سیکھی ہے۔ میری بات کو کوئی پسندیدگی سے سنے یا ناپسندیدگی سے میں حق کہنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ تمہارے تنازع ہیں ان کو دور کر دو۔ یہ خدا کا پیغام ہے جو میں سناتا ہوں۔ لڑائیاں مت کرو۔ ہوا بگڑ رہی ہے، پھونک نکل رہی ہے۔ اگر کوئی عمل کرنے والا ہو، اس کا بھلا ہو۔ آمین۔ فرمایا: اس طرح کی عبارت لکھ دو کہ بہ سبب بیماری ضعف بہت دھیمی آواز سے بولتے ہیں مگر بقدر اپنی طاقت کے بہت زور سے سمجھایا۔ تم لوگ بے خبر نہیں ہو کہ کن باتوں میں اختلاف ہوتا ہے جو لوگ تنازعات کو نہ چھوڑیں گے میں ان کو کم از کم اپنی جماعت میں ہرگز نہ سمجھوں گا۔

(ضمیمہ الحکم ۱۴، ۲۱، ستمبر ۱۹۱۱ء صفحہ ۲۰)



فہم قرآن کے گزرائے نسخ منسوخ کا حل اور جبل اللہ کو پکڑنے کی نصیحت

(نوشتہ ایڈیٹر الحکم جس کو حضرت خلیفۃ المسیح نے شائع ہونے سے پہلے درست کیا)

(تقریر فرمودہ ۲۷ دسمبر ۱۹۱۱ء بر موقع جلسہ سالانہ)

اشھد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشھد ان محمد اعبده ورسولہ اما بعد

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٣٠﴾
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ
كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ
عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾ وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٢﴾ وَلَا تَكُونُوا
كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ (ال عمران ۱۰۳-۱۰۶)

مجھے کل کسی نے کہا اور شاید درد سے تمہارے فائدے کے لئے کہا ہو

تمہیدی کلمات

نا کہا ہو کہ ”تم کوئی تقریر کرو“۔ میرا ارادہ تھا کہ میں ہر روز درس دیتا

ہوں ان ایام میں اس درس ہی میں کچھ وسعت کر لوں گا اور اسے معمول سے زیادہ وسیع کر کے
سناؤں گا۔ جیسا کہ حکم ہے کہ مہمان کے لئے اپنے کھانے میں اضافہ کر لو اور اسے کسی قدر زائد اچھا
اور ممتاز بنا لو۔ میں نے اس حکم کی تعمیل میں مناسب سمجھا تھا کہ جو غذا میں کھاتا ہوں اور جس کے بغیر
میری زندگی محال ہے اسے عمدہ طور پر کچھ زیادہ کر کے پیش کروں مگر ہر شخص اپنی اپنی پسند میں معذور
ہوتا ہے۔ اگر کسی کو میٹھا پسند ہے تو کوئی نمکین کو پسند کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ جسمانی غذا تو تمہیں
گھر میں شاید یہاں سے بہتر میسر آسکتی ہو اور یہاں بھی اس کے لئے تم سب ہی انتظام کرنے والے

ہو۔ میں تمہیں وہ غذا دوں جو جسم نہیں روح کی سیری کا موجب ہو سکتی ہے اگر اللہ کا فضل ہو۔ اس خیال میں آج میں نے سوچا کہ تقریر کیا ہوتی ہے؟ پھر بہت سے معانی میرے دل میں آئے اگر میں انہیں ہی بیان کروں تو شام تک شاید وہ ختم نہ ہوں۔ مجھے ایک عرب کا شعر یاد آ گیا اگرچہ مجھے شعر کہنے کی عادت نہیں کبھی کہتا ہوں تو دقت سے کہہ سکتا ہوں۔ ہاں میں شعر کو خوب سمجھ سکتا ہوں اور یہ خدا تعالیٰ کا خاص فضل ہے اور وہ شعر یہ ہے۔

قالوا اقترح شيئاً بخدمك طبعه

فقلت اطبخوولي جبة و قميصا

ایک عرب سردی کے دنوں میں کسی کے گھر گیا اس پر گرم کپڑا کوئی نہ تھا۔ موسم تھا سرما کا۔ میزبان نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو آپ کے لئے ویسا ہی کھانا پکوائیں جو آپ پسند کرتے ہیں تو اس نے جواب دیا ہاں میرے لئے گرم کپڑے پکوادو۔

ایک میرا پیارا بچہ ہے اور مجھے بہت ہی عزیز ہے اس سے ذکر آیا کہ کوئی پیارا ہو اور گول چہرہ کی تعریف کرے تو کس سے تشبیہ دے۔ کبھی چودھویں کے چاند سے اور کبھی سورج سے تشبیہ دے۔ ایک بڑے آدمی نے ایک مرتبہ شعراء کو حکم دیا کہ وہ گول چہرہ کی تعریف کریں۔ سب شعراء نے طبع آزمائیاں کیں۔ مگر ایک نے کہا کہ جیسے گول خوبصورت روٹی ہوتی ہے۔ اس رئیس نے فوراً سمجھ لیا کہ اس کو ابھی تک کھانا نہیں کھلایا گیا اس نے فوراً اپنے آدمی کو اشارہ کیا اور ملامت کی کہ ان کو ابھی تک کھانا نہیں کھلایا۔ تب اس نے کہا کہ حضرت کھانا تیار ہے پہلے کھانا کھالیں۔ غرض مجھے بھی عجیب عجیب جوش اٹھتے ہیں۔ میں اس بچہ کو وہ ساری ذوق کی باتیں نہیں سناتا۔ اس وقت مجھے جب تقریر کے لئے کسی نے کہا تو پھر عجیب عجیب جوش اٹھنے لگے۔ تو میں نے دل سے پوچھا کہ کون سی تقریر کرو گے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اپنے پیارے کی پیاری کتاب قرآن ہی پڑھ دو۔ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ بات میرے دل میں ڈالی اور مجھے یہی پیاری لگی کہ ایسی ہی تقریر میں بھی بیان کروں۔

آج کل کے سیکروں کی حالت دنیا کے عجائبات ہیں۔ اس وقت یورپ کی ہوا چلی

ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ارادے سے یا ہمارے اعمال کے سبب سے چلی ہے۔ اس لئے لوگ یورپ کی ہر بات اور ہر ادا کو پسند کرتے ہیں۔ تقریر میں بھی اسی یوروپین طرز کو پسند کرنے لگے ہیں۔ لیکچرار اپنے لیکچروں میں کئی امر مد نظر رکھتے ہیں کبھی تو بہت سی ضرب المثلیں یاد ہوتی ہیں اور لیکچرار اپنے لیکچر میں انھیں ادا کرتا ہے اور بڑے زور سے اپنے لیکچر کے دوران میں کہتا ہے جرمن میں یہ ضرب المثل ہے۔ فرانس میں یوں ہے۔ قدیم مکین لوگوں میں یہ ضرب المثل ہے۔ انگریزی میں یہ فارسی میں وہ اور عربی لٹریچر میں فلاں اردو میں اس طرح پر ہے۔ جب لیکچرار مختلف زبانوں کی ضرب المثلیں بیان کرتا ہے تو لوگ عیش عیش کراٹھتے ہیں۔ اور حیران رہ جاتے ہیں لیکچرار سمجھتا ہے کہ میری زبان کا سکہ سننے والوں کے دل پر بیٹھ گیا۔ میں بھی کبھی ایسے لیکچر کو پسند تو کرتا مگر قلب پر اس کا کچھ اثر نہ تھا اس لئے کہ بولنے والا صرف دلربائی کرنا چاہتا تھا نہ کچھ اور۔ غرض بعض بولنے والے تو اس قسم کے ہوتے ہیں اور بعض لطیف اشعار یاد کر لیتے ہیں اور موقع بموقع انہیں ایک ترتیب کے ساتھ پڑھتے جاتے ہیں۔ ہر شخص کو اس کی نیت کے موافق پھل مل جاتا ہے۔ اس میں شک نہیں شعر میں ایک طاقت ہوتی ہے جو قلوب پر اثر ڈالتی ہے۔ اس لئے کہ شاعر بھی اللہ تعالیٰ کا تلمیذ ہوتا ہے۔ بعض وقت اسے ایسی بات سمجھاتا ہے کہ اسے سن کر صوفی کو وجد ہو جاتا ہے۔ مگر خود شاعر کو اس کے سننے سے وجد نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ اسے براہ راست ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ملہمین کو بھی شعراء کے مصرعے اور اشعار ایک جگہ الہام ہو جاتے ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کی وہ مراد ہوتی ہے۔ میں دور چلا گیا میں سنانا چاہتا ہوں کہ مجھے کہا گیا کہ تقریر کرو۔

مجھے کیا پسند ہے؟ خدائی کتاب

ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں ان سب میں مجھے خدا ہی کی کتاب

پسند آئی۔ بااں ایک احمق نے بڑھ کر ایک بات کہی ہے۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے سر کو چوٹ کیوں لگی؟ اور کیوں وہ کچلا گیا؟ بعض لوگ میرے سامنے بہت اونچی باتیں کرتے ہیں کہ شاید میں بہرا ہو گیا ہوں۔ وہ احمق اس چوٹ کی وجہ بتاتا ہے کہ تم نے ہزاروں ہزار کتابیں پڑھیں مگر

قرآن شریف کو چھوڑ دیا۔ اس واسطے **جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِّثْلُهَا** کے موافق تمہیں بدلہ دیا اور سر کچلا گیا۔ وہ احمق نہیں جانتا کہ میرا سر خدا ہی کے فضل سے بالکل محفوظ ہے باوجودیکہ تم نے دیکھا کہ چوٹ لگی اور سال گزشتہ کے انہیں دنوں میں بچنے کی امید نہ تھی۔ کلورافارم کے ذریعہ اور کلورافارم کے بدون بھی اس زخم پر جراحی عمل ہوا مگر ڈاکٹر دوسرے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ کی کیسی حفاظت فرمائی۔ جو لوگ میری صحبت میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے زیادہ مجھے کوئی کتاب عزیز نہیں اور میری غذا جس سے میں زندہ رہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہی کی کتاب ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل اور محض فضل سے مجھے اس کتاب کی محبت اور اس کا فہم دیا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ اس کا رحم ہے کہ اس کتاب کا فہم کرنے والا پاگل نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میری دماغی قوتوں کی خود حفاظت فرمائی ہے یہ اس احمق کو غلطی لگی جو وہ سمجھتا ہے کہ میرا سر کچلا گیا۔

میں نے دوسری کتابیں پڑھی ہیں اور بہت پڑھی ہیں مگر دوسری کتابیں کیوں پڑھی ہیں اس لئے نہیں کہ قرآن کریم کے مقابلہ میں وہ مجھے پیاری تھی

تھیں بلکہ محض اسی نیت اور غرض سے کہ قرآن کریم کے فہم میں معاون ہوں۔ قرآن شریف ہی میں یہ ارشاد ہے **تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ (المائدہ: ۳)** پس میں نے اگر ہزاروں ہزار کتابیں پڑھی ہیں یا پڑھتا اور پڑھاتا ہوں تو قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کرنے کے لئے۔ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر عجیب عجیب انعام کئے ہیں جو دوسروں کی سمجھ میں بھی نہیں آسکتے۔ کل ہی مجھے ایک کتاب ملی ہے۔ اس کی نسبت مجھے الہام ہوا تھا کہ وہ ہند میں نہیں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کو تو مالٹ السموات والارض سمجھتا ہوں اس نے میرے لئے کیا کچھ نہیں کیا جو ایک کتاب مہیا نہ کر دیتا۔ ایک سیاح اتفاقاً یہاں آگیا مجھے برا سمجھتا ہے۔ میری نسبت پیشگوئیاں کی ہیں۔ میں تو اپنے عشق میں پورا ہوں (یاد رکھو عشق کا لفظ عادتاً بولتا ہوں اس لئے کہ پچھلے بولتے ہیں۔ ورنہ قرآن مجید میں یہ لفظ نہیں آیا ہاں حلیہ ابی نعیم سے ایک حدیث نکالی ہے کہ اس میں عشق کا لفظ آیا ہے مگر راوی روایت بالمعنی کرتا ہے) غرض میں نے اپنے اسی عشق کی وجہ سے جو مجھے قرآن کریم کی خدمت اور فہم کے لئے کتابوں سے ہے۔ اس کتاب کا ذکر اس سے کیا اور یہ بھی کہا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ ہند میں یہ کتاب نہیں۔

اس نے کہا ہاں ہند میں تو نہیں مگر سندھ میں ہے۔ میں تمہیں پہنچا دوں گا۔ کل وہ کتاب اللہ تعالیٰ کے فضل سے غلہ کے وی پی میں میرے پاس پہنچ گئی۔ اور اس کو پڑھ بھی لیا۔ یہ سچ ہے کہ مجھے کتابوں کا شوق ہوتا ہے مگر تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کے رنگ میں۔ پس میں نیکی کے طور پر کتابیں پڑھتا ہوں اور تفسیریں بھی پڑھ لیتا ہوں اور اس قدر پڑھتا ہوں کہ علی العموم دوسرے نہیں پڑھ سکتے۔ الا ماشاء اللہ پرسوں ایک دوست نے مجھے قرآن مجید کا ایک ترجمہ دیا اس پر لکھا تھا الہامی ترجمہ۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑا دکھ ہوا اور مجھ کو ہمیشہ دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ پاک لفظ کو گندے معنوں میں لے لیتے ہیں۔ مثلاً کلمہ تمام لڑکوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ کلمہ لفظ مفرد کو کہتے ہیں۔ حالانکہ کلمہ کی یہ تعریف قرآن مجید کے خلاف ہے۔ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا (الانعام: ۱۱۶)۔ پھر کیا عدم صداقت عدم عدل کبھی کلمہ کی تعریف ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔

کلمہ کے معنی اصدق کلمة قال الا كل شيء ما خلا الله باطل

یہاں غالباً مسلمان ہی بیٹھے ہیں ابھی ایک نام دھاری مرید بھی بیٹھے ہیں۔ انہیں حضرت صاحب سے اور ہم سے اور ہمارے سلسلہ کے ساتھ بھی بڑی محبت ہے غرض سب مسلمان جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کلمہ کہتے ہیں۔ مگر اب اس لفظ کے معنی بگاڑ کر لفظ مفرد کا نام کلمہ رکھ دیا جو صحیح نہیں۔ اسی طرح پر بہت سے لفظ بگڑ گئے اور ان کے شرعی معنی چھوڑ دیئے گئے۔ جن کو سن کر اور دیکھ کر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ یہ مشکلات ہر زمانہ میں آئی ہیں اور ہم پر بھی آئی ہیں۔ ان مشکلات کو زیر نظر رکھ کر محض تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

کے لئے میں کتابوں اور تفسیر کو پڑھتا ہوں اور تفسیر میں تفسیر کے متعلق میرا طرز عمل ان کو مقدم کرتا ہوں جو مجھے قرآن کریم کا تذکرہ کرادیں اور

ان میں اس طرح پر تفسیر کی ہو کہ ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے ہو۔ اور پھر اس کے بعد میں اس تفسیر کو مقدم کرتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک کلمات سے کی گئی ہو۔ ایک زمانہ مجھ پر ایسا بھی گزرا ہے کہ ایک تفسیر کے شوق میں میں بمبئی گیا اور ایک دوست سے اس کے متعلق پوچھا اس نے کہا ہاں مل سکتی ہے۔ دوسرے دن جب میں اس دوست کے پاس گیا تو گو میں طالب علم تھا تاہم اللہ تعالیٰ نے مجھے طالب علمی کے زمانہ میں بھی مالدار رکھا ہے میں جیب میں کچھ روپیہ ڈال کر لے گیا میں نے اس دوست سے کہا کہ وہ کتاب آئی ہے تو عطا کرو۔ انھوں نے کہا کہ ہاں کتاب تو آگئی ہے مگر اس کی قیمت پچاس روپیہ ہے۔ اس کتاب کے ساٹھ صفحہ ہیں اور ایک اس کا ضمیمہ ہے۔ اس کے ۵۸ صفحہ ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا لائیے۔ اور میں نے پچاس روپیہ کا نوٹ اس کے ہاتھ میں دے دیا وہ بولے کہ وہ کتاب طبع شدہ ہے اور اسی شہر بمبئی میں چھپی ہے۔ میں نے کہا اچھا ہے اس پر انھوں نے وہ کتاب مجھے دی اور میں اس کو لے کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور تھوڑی دیر کے لئے باہر چلا گیا۔ وہاں تیلی کی گلی مشہور ہے اس کا یہ واقعہ ہے۔ پھر میں اندر گیا تو وہ حیران ہوا اور پوچھا کہ آپ باہر کیوں چلے گئے تھے میں نے کہا فقہی بحث ہے کہ تکمیل بیع کے لئے تفارق جسمی بھی قول کے ساتھ ضروری ہے یا نہیں۔ محدثین اور شوافع کا قول ہے کہ تفارق جسمی بھی چاہئے میں نے اس پر عمل کر لیا۔ اس لئے باہر گیا تھا تا کہ بالاتفاق کتاب میری ہو جاوے۔ میری ۳۵ ویں پشت میں میرے ایک دادا نے اس مسئلہ پر عمل کیا تھا میں نے اس کی سنت ادا کر لی۔ پھر اس نے پوچھا کتاب کو بھی دیکھا میں نے کہا ”جمادے چند دیدم جاں خریدم“ اس کتاب کا نام مجھے قدرت ہی نے سکھادیا تھا میں جب اس دوست کے پاس اٹھنے لگا تو اس نے کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ آپ کی مہربانی ہے۔ تب اس نے کہا کہ اظہار محبت میں یہ پچاس روپیہ نذر کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں ہوں تو طالب علم مگر میری جیب میں اب بھی روپیہ موجود ہے۔ اس نے بہر حال وہ پچاس روپیہ واپس کر دیا۔ اسی طرح پر جب میں مدینہ طیبہ میں گیا تو ایک ٹرک کو مجھ سے بہت محبت تھی اس نے کہا کہ اگر کوئی کتاب آپ کو پسند ہو تو ہمارے کتب خانہ سے لے جایا کریں گو ہمارا قانون نہیں ہے مگر آپ

کے اس عشق و محبت کی وجہ جو آپ کو قرآن کریم سے ہے
ناسخ منسوخ کا مسئلہ کیسے حل ہوا آپ کو اجازت ہے۔ میں نے کہا کہ مسئلہ ناسخ و منسوخ کے
متعلق کوئی کتاب دو۔ انھوں نے مجھے ایک کتاب دی جس میں ۶۰۰ آیت منسوخ لکھی تھی مجھے یہ
بات پسند نہ آئی۔ ساری کتاب کو پڑھا اور مزہ نہ آیا۔ میں اس کتاب کو واپس لے گیا اور کہا کہ میں
جو ان آدمی ہوں اور خدا کے فضل سے یہ ۶۰۰ آیت یاد کر سکتا ہوں۔ مگر مجھے یہ کتاب پسند نہیں۔ وہ بڑا
بڈھا اور ماہر تھا اس نے ایک اور کتاب دی۔ اس کا نام اتقان ہے اور ایک مقام اس میں بتا دیا جہاں
ناسخ و منسوخ کی بحث ہے۔ خوشی ایسی چیز ہے کہ میں نے ابھی پچاس والی کو پڑھا بھی نہیں۔ مگر اسے
لایا اور اس کو پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا کہ ۱۹ آیتیں منسوخ ہیں۔ میں اس کو دیکھ کر بہت خوش
ہوا کہ گویا بادشاہ ہو گیا۔ میں نے کہا کہ ۱۹ یا ۲۱ آیتیں تو فوراً یاد کر لوں گا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی مگر مجھے
ایسا قلب اور علم دیا گیا تھا کہ اس پر بھی وہ کتاب مجھے پسند نہ آوے۔ آخر میں نے کہا کہ یہ بھی پوری
خوشی کا موجب نہیں پھر مجھے خیال آیا کہ پچاس روپے والی کتاب بھی تو پڑھ دیکھیں اس کو پڑھا تو
انہوں نے لکھا کہ خدا تعالیٰ نے جو علم مجھے دیا ہے اس میں ۵ آیتیں منسوخ ہیں۔ یہ پڑھ کر مجھے بہت
خوشی ہوئی کہ اب کیا مشکل ہے۔ میں نے جب ان پانچ پر غور کی تو خدا تعالیٰ نے مجھے سمجھ دی کہ
ناسخ و منسوخ کا جھگڑا ہی غلط ہے کوئی پانچ سو چھ سو بتاتا تھا کوئی انیس، اکیس، کوئی پانچ اس سے
معلوم ہوا کہ یہ تو صرف فہم کی بات ہے۔ اور میں نے یہ قطعی فیصلہ خدا کے فضل سے کر لیا کہ ناسخ
و منسوخ کا علم صرف بندوں کے فہم پر ہے۔ ان پانچ نے سب پر پانی پھیر دیا۔ یہ فہم جب مجھے دیا گیا
تو اس کے بعد ایک زمانہ میں لاہور کے اسٹیشن پر شام کو اترا۔ بعض اسباب ایسے تھے کہ چینیاں
والی مسجد میں گیا۔ شام کی نماز کے لئے وضو کر رہا تھا کہ مولوی محمد حسین بٹالوی کے بھائی میاں علی
محمد نے مجھ سے کہا کہ جب عمل قرآن مجید و حدیث ہوتا ہے تو ناسخ و منسوخ کیا بات ہے۔ میں نے
کہا کچھ نہیں۔ اگر چہ وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے (عالم مراد ہے۔ ایڈیٹر) گو میر ناصر کے استاد تھے۔
انھوں نے اپنے بھائی سے ذکر کیا ہوگا۔ یہ ان دنوں جو ان تھے اور بڑا جوش تھا۔ میں نماز میں تھا اور وہ
جوش سے ادھر ادھر ٹہلتا رہا۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو کہا ادھر آؤ۔ تم نے میرے بھائی کو کہہ دیا کہ

قرآن میں نسخ منسوخ نہیں۔ میں نے کہا ہاں نہیں ہے۔ تب بڑے جوش سے کہا کہ تم نے ابو مسلم اصفہانی کی کتاب پڑھی ہے وہ احق بھی قائل نہ تھا میں نے کہا پھر تو ہم دو ہو گئے۔ پھر اس نے کہا کہ سید احمد کو جانتے ہو۔ مراد آباد میں صدر الصدور ہے۔ میں نے جواب دیا کہ میں رام پور، لکھنؤ اور بھوپال کے عالموں کو جانتا ہوں ان کو نہیں جانتا۔ اس پر کہا کہ وہ بھی قائل نہیں۔ تب میں نے کہا بہت اچھا پھر ہم اب تین ہو گئے۔ کہنے لگا یہ سب بدعتی ہیں۔ امام شوکانی نے لکھا ہے کہ جو نسخ کا قائل نہیں وہ بدعتی ہے۔ میں نے کہا تم دو ہو گئے۔ میں نسخ و منسوخ کا ایک آسان فیصلہ آپ کو بتاتا ہوں تم کوئی آیت پڑھ دو جو منسوخ ہو اس کے ساتھ ہی میرے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ ان پانچ آیتوں میں سے کوئی پڑھ دے تو کیا جواب دوں۔ خدائے تعالیٰ ہی سمجھائے تو بات بنے۔ اس نے ایک آیت پڑھ دی میں نے کہا کہ فلاں کتاب نے جس کے تم بھی قائل ہو اس کا جواب دیے دیا ہے۔ کہنے لگا ہاں پھر میں نے کہا اور پڑھو تو خاموش ہی ہو گیا۔ علماء کو یہ وہم رہتا ہے ایسا نہ ہو تک ہو۔ اس لئے اس نے یہی غنیمت سمجھا کہ چپ رہے۔

بھیرہ میں ایک شخص نے نسخ کا مسئلہ پوچھا اور میں نے اپنے فہم کے مناسب جواب دیا اور کہا کہ پانچ کے متعلق میری تحقیق نہیں تو اس دوست نے کہا کہ اب ان پانچ پر نظر ڈال لیں۔ میں نے تفسیر کبیر رازی میں بہ تفصیل ان مقامات کو دیکھا تو تین مقام مجھے خوب سمجھ میں آ گئے اور دو سمجھ میں نہ آئیں۔ تفسیر کبیر میں اتنا تو لکھا ہے کہ شدت اور خفت کا فرق ہو گیا ہے۔ غرض میں ان کتابوں کو پڑھتا ہوں مگر تعاون علی البر کے لئے نہ اس محبت اور جوش سے جو مجھے پیارے کی پیاری کتاب سے ہے۔

پھر میں ایک مرتبہ ریل میں بیٹھا ہوا ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ جیسے بجلی کو بند جاتی ہے۔ میں نے پڑھا کہ فلاں آیت منسوخ نہیں ہے۔ میں بڑا خوش ہوا کہ اب تو چار مل گئیں صرف ایک ہی رہ گئی۔ بڑی بڑی کتابوں کا تو کیا ذکر میں ٹھٹھ بیٹوں کی بھی پڑھ لیتا ہوں۔ مگر اسی غرض تعاون علی البر کے لئے۔ اس طرح پر ایک میں وہ پانچوں بھی مل گئی اور اس طرح پر خدا کے فضل سے مسئلہ نسخ و منسوخ حل ہو گیا۔ میرے دماغ کو اللہ تعالیٰ نے ترتیب کو محفوظ رکھنے والا بنایا ہے اگرچہ

مجھے اب بھی زخم ہے مگر دماغ پر اس کے سبب سے صدمہ نہیں۔ اس لئے میں اصل مطلب کی طرف آ کر کہتا ہوں کہ میں تفسیروں اور کتابوں سے تعاون علی البر کیا کرتا ہوں دوسری بات یہ تھی کہ ہرچہ گیر دلتی علت شود کے موافق الفاظ کے معانی بگڑ گئے ہیں۔ اس میں سے کلمہ کے معنی سنائے جو درسی کتابوں کے نصاب میں بھی بگڑ گئے اور گورنمنٹ نے بھی غلطی رہنے دی۔ اسی طرح پر ایک لفظ الہام کا ہے۔ محبوب لوگوں نے سمجھ رکھا کہ جو دل میں آ جاوے وہ الہام ہے ان معنوں کو اتنا وسیع کیا کہ برہم ازم کے ماننے والوں نے تمام انبیاء علیہم السلام کو نعوذ باللہ جھوٹا کہہ دیا کیونکہ وہ الہام کی حقیقت ہی نہیں سمجھے اور اس کے مفہوم کو ایسا بگاڑا کہ نبی انہیں جھوٹے معلوم ہوئے اور کہہ دیا کہ نعوذ باللہ انبیاء علیہم السلام نے صرف لوگوں کو ڈرانے کے لئے الہام کی عظمت بیان کی والا یہ بہت معمولی بات ہے جو دل میں آ جاتی ہے وہی الہام ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بڑے آدمی کی میں نے کتاب پڑھی وہ بات پر کہتا ہے ہذا ما الہمنی ربی۔ اور پھر لکھ دیا کہ

زجر ائیل امین قرآن بہ پیغامے نئے خواہم

یہ برہمؤوں کا مذہب ہے۔ پرسوں ایک شخص نے ایک ترجمہ دیا لکھا تھا نعوذ باللہ الہامی ترجمہ ہے۔ ایک ہزار نسخہ چھاپا ہے خریداجاوے۔ میں نے محض اس خیال پر کہ ایک دوست لایا ہے (میرے خیال میں وہ درست ہے) اس کو پڑھ لیا۔ میں اپنے کسی دوست کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس کو پڑھے۔ میرا پڑھنا تعاون علی البر کے طور پر ہے اس میں **مَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكِينَ** (البقرہ: ۱۰۳) میں ملکین کے معنی شیطان کیا ہے اور دلیل یہ دی ہے کہ جیسے ہماری زبان میں لُحے کو حضرت کہتے ہیں یہ دونوں باتیں غلط ہیں اور خطرناک غلط ہیں اگر مملٹ کا یہی ترجمہ ہے تو **أَمَنُوا بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ** کے کیا معنی ہوں گے ہمارا وہ دوست اس مجلس میں ہے تو اس پر غور کرے کہ اس الہامی ترجمہ والے نے خدا سے ذرا بھی خوف نہ کر کے ہاروت و ماروت کو شیاطین کہا ہے اور پھر اس کا نام الہام رکھا ہے۔ میں نے جب اس ترجمہ میں یہ پڑھا تو میرے روٹکٹے کھڑے ہو گئے۔ پیچھے میں نے سمجھا کہ اس کے متعلق تبلیغ کر دوں اس لئے میں کھول کر کہتا ہوں کہ اس ترجمہ کو ہرگز ہرگز نہ پڑھو مملٹ کا ترجمہ فرشتہ ہے اور حضرت کا ترجمہ بے ایمان کرنا یہ بھی جہالت کی بات ہے۔۔ پس تم

کو چاہئے کہ

الفاظ کے معانی کرنے میں محتاط رہو اور قرآن کریم کے فہم کے بعض گُر الفاظ کے معنی کرنے

میں خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور قرآن شریف کے لفظوں کو مقدم کر لیا کرو۔ قرآن شریف کے سمجھنے کے لئے اول قرآن شریف ہی کو پڑھو۔ اس کی آیات دوسری جگہ متواتر معنی بیان کرتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ قرآن مجید جب ایک بات کہتا ہے تو بیس مقامات تک بھی اس کی تشریح کرتا ہے دس جگہ اور سات جگہ تو عام ہے۔ کیونکہ سات کا عدد بھی کامل ہے۔ بعض آیات ایسی بھی ہیں کہ میں ان پر سا لہا سال غور کرتا رہا کہ قرآن شریف میں کہاں تشریح کی ہے اور پتا نہ ملا مگر جب خدا تعالیٰ نے وہ پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ سو سو جگہ تک بیان کیا ہے۔

پھر اس کے بعد دوسرا ذریعہ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل درآمد میں دیکھو وہاں بھی قرآن کریم کی تفسیر ملے گی۔ مثلاً صلوة اور زکوٰۃ کے الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل درآمد تمہیں بتائے گا کہ ان الفاظ کا کیا مفہوم ہے۔ ہمارے بعض دوستوں کو بھی اس قسم کا ابتلا آیا تھا۔ انھوں نے کہا کہ قرآن شریف میں نماز حج وغیرہ دکھاؤ۔ میں نے کہا کہ پہلے گھوڑے، نچر میں امتیاز بتاؤ۔ پھر البغال و الحمیر میں تفرقہ کر کے دکھاؤ میں نے ان کے لئے بہت دعا کی اور خدا تعالیٰ نے ان کو سمجھ دی اور یہ ابتلا جاتا رہا۔ میں نے کہا کہ جب تم بغال اور حمیر میں فرق کرنے کے لئے ان کو دیکھتے ہو تو کیوں تم اس شخص کی نماز نہیں دیکھتے جس پر قرآن نازل ہوا؟ ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے کہ اگر قرآن مجید میں صلوة کی تمیز ہوتی تو وہ بھی عربی میں ہوتی پھر ان لفظوں کے کئی کئی معنی کرتے اور کس قدر مشکلات پیدا ہوتیں۔ پھر ایک اور نکتہ ہے۔ جب میں رامپور میں طالب العلم تھا کسی مقلد نے غیر مقلد کو کہا کہ نذیر حسین کے کیا معنی ہیں تو غیر مقلد طالب العلم نے کہا کہ اصل میں نذیر عدو حسین ہے لفظ عدو محذوف ہو گیا ہے حالانکہ نذیر ان کا نام تھا اور حسین کا لفظ باظہار قومیت شامل کر لیا گیا۔ والا اس طرح حذف مضاف سے عبد النبی بھی جائز ہو جاوے کیونکہ بحذف مضاف عبد سب النبی ہو سکتا ہے۔ اور کہیں کنایہ وغیرہ نکال کر خدا جانے کیا کیا

معنی کرتے۔ پس ہمارے مولیٰ نے کامل رحم فضل سے نماز پڑھوا کر دکھادی اور ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابی نے دیکھ لی حتیٰ کہ یہود و نصاریٰ و مجوس نے بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لی اب کسی اور معنی کی ضرورت نہیں۔ نہ تقدیم تاخیر۔ نہ کنایہ نہ حذف و محذوف کی۔ گجرات کے ضلع میں دتہ شاہی ایک قوم ہے وہ کام (شہوت) کرودہ (غضب) لو بھ (حرص) موہ (بے جا محبت) ہنکار (غرور) کو چھوڑنے کا نام ہی نماز رکھتے ہیں۔ یہاں ایک گلو سقہ ہے جب وہ جماعت میں نہ تھا تو کہتا تھا کہ یہ خود منارہ ہیں، سرگند ہے اور آپ نماز ہیں۔ غرض اس قسم کی یہودہ تو جیہیں پیدا کر لی جاتی ہیں۔

مسلمانوں پر یہ دکھ اور مصیبت کا وقت ہے ایسے وقت میں یاد رکھو کہ قرآن کریم کی تفسیر قرآن شریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عملدرآمد سے کرو۔ اور پھر تمام امت میں مشترکہ رنگ کو دیکھ لو۔ پھر احادیث صحیحہ کو پڑھو۔ ایک بڑی گندی قوم گزری ہے جو احادیث کا انکار کرتی ہے۔ ایک نے یہ گندالفظ کل کہا اور بڑی جرأت سے کہا کہ روایت احادیث شیطین ہیں وہ نہیں مرے گا جب تک خود شیطان نہ بن لے۔

وہ لوگ بڑے ہی محروم ہیں جو اس علم حدیث سے محروم ہیں میں بچپن سے ۷۵-۷۶ سال کی عمر تک پہنچا ہوں اور میرا یہ تجربہ ہے کہ علم حدیث کے بغیر دین آتا ہی نہیں۔ تم ہی بتاؤ جس نے علم حدیث پڑھا ہے اس کی گواہی حدیث کے متعلق ماننی چاہیے یا اس کی جس نے یہ علم پڑھا ہی نہیں پھر ایک وہ طریقہ قرآن کریم کے فہم کا ہے جو میرے ہادی نے مجھے سمجھایا ہے۔ میں نے ایک بار حضرت مرزا صاحب کے حضور عرض کیا کہ آپ کے طریق میں مجاہدات کیا ہیں فرمایا اگر شوق ہے

فصل الخطاب لکھنے کی وجہ

ان مجاہدات کا جو ہمارے طریق میں ہیں تو ایک کتاب عیسائی مذہب کے رد میں لکھو۔ میں نے جب اس کتاب کے لکھنے کا

ارادہ کر لیا تو ایک مسیحی کو مقرر کیا کہ وہ جو اعتراض قرآن شریف پر رکھتا ہے لکھے۔ اس نے ایک ہزار کے قریب اعتراض لکھ کر بھیج دیا۔ میں نے اس کے اعتراضوں کو پڑھ کر ساری بائبل کو کئی مرتبہ پڑھا اور نوٹ کرتا گیا۔ (وہ بائبل اب کسی نے چرائی ہے) میں نے کل اعتراضات کے الزامی جواب

نوٹ کر لئے اور پھر حقیقی جوابات کی طرف متوجہ ہوا تو بعض اعتراضوں کے جواب سمجھ میں نہ آئے۔ میں نے مرزا صاحب سے عرض کیا کہ بعض اعتراضوں کے جواب حقیقی نہیں ہو سکتے۔ یا تو ان اعتراضات کا ذکر ہی نہ کریں یا الزامی جواب دے کر خاموش ہو جائیں۔ میرا ایک دوست تھا اللہم اغفرہ وارحمہ مولوی عبدالکریم نام انہوں نے کہا کہ الزامی جواب پسند نہیں۔ میں نے حضرت صاحب سے ذکر کیا۔ آپ کی عادت تھی کہ ہنستے ہنستے کپڑا منہ پر رکھ لیتے تھے۔ یہ سن کر فرمایا کہ بڑی بے انصافی کی بات ہے کہ جس بات کو آپ کا قلب نہیں مانتا دشمن کو وہ آپ کیونکر منوائیں گے۔ اس بات کو سن کر میرا اعتقاد آپ کی نسبت بہت بڑھ گیا کہ جب تک اس کا قلب مطمئن نہیں ہوتا یہ بات کرتا ہی نہیں اور مجھے بزور کہا کہ یہ بے انصافی ہے کہ جس بات کو خود نہ سمجھو دوسروں کو منواؤ۔ میں نے سمجھا کہ اس کا ایمان بڑا عجیب ہے اور یہی وجہ ہے جو ایک بات کو بیسیوں مرتبہ بیان کرتا ہے۔ میں یہ سن کر خاموش ہو گیا اور دل میں آیا کہ پھر کیا کریں۔ جب اٹھنے کے قریب ہوئے تو فرمایا کہ جو مقامات حل نہیں ہوتے ان کو خوشخط لکھ کر سامنے لگا لو۔ جب آمد رفت کے وقت ان پر نظر پڑے تو دعا کرو چند روز کے بعد وہ انشاء اللہ حل ہو جائیں گے۔ میں ان ایام میں صوفیت سیکھتا تھا۔ میں نے سوچا کہ خوشخط لکھنا اور پھر سامنے لگانا تو مشکل کام ہے اس لئے دل ہی میں لٹکا دو یہ میرا اپنا ذوق تھا۔ اب بھی یہ گریا درکھنے کے قابل ہے جو آیت سمجھ میں نہ آوے اس کو خوشخط لکھ کر سامنے لٹکا دو اور دعا کرتے رہو اللہ تعالیٰ کے فضل سے حل ہو جائے گی۔ غرض میں نے ان سوالات میں سے بعض کو اپنے دل پر لٹکا دیا اور خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں حل کر دیا۔ انہیں سوالوں میں سے والفجر اور والنجم کی تفسیر ہے جو میں نے لکھی ہے۔ اگر کوئی چاہے تو وہ سوال موجود ہیں۔ میں اس کے حوالہ کر سکتا ہوں غرض تم کو کوئی آیت سمجھ میں نہ آوے تو اس طریق سے کام لو اور جناب الہی میں گریو کہ تیری کتاب ہے میری سمجھ میں یہ آیت نہیں آتی۔ دعاؤں میں لگے رہو اور منتظر رہو کہ کب انکشاف ہو جاتا ہے۔ کیا میں نے اس موقع پر اپنے خیال کو ترجیح دی ہے یا کسی تفسیر کی سپارش کی ہے بلکہ یہ چوتھا مرتبہ بتایا ہے کہ قلب مطہر لے کر جناب الہی میں گر جائے، یہ اصول ہیں فہم قرآن کریم کے لئے۔ بات کچھ اور شروع کی تھی اور ذوق میں کہاں تک چلی گئی!

پہلی نصیحت متقی بنو اور مسلم مرو: میں نے آیت پڑھی ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ** (ال عمران: ۱۰۳)۔

یاد رکھو آج کا دن کل کے دن کی آمد کی تیاری کر رہا ہے۔ اس وقت شام کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ وقت جب تک نہ گزر جائے شام نہ ہوگی۔ مرتے وقت غشی بھی ہوتی ہے۔ طب والے کہتے ہیں کہ اس وقت غشی کی حالت ہوتی ہے جبکہ گھر والے پکارتے ہیں کہ تم نے مجھے پہچانا ہے مرنے والا دیکھتا ہے مگر کہتا کچھ نہیں اس وقت وہ اسی غشی کی سی حالت میں ہوتا ہے۔ پس جبکہ انسانی زندگی کا ہر لمحہ موت کے قریب کر رہا ہے تو انسان کو چاہئے کہ اس کی تیاری کرے۔ اس لئے اس آیت میں یہ ہدایت کی ہے کہ تقویٰ اختیار کرو اور ایسا تقویٰ جو تقوی اللہ کا حق ہے اور یاد رکھو کہ تمہیں ایسی حالت میں موت آوے کہ تم مسلمان ہو۔ چونکہ انسان کو معلوم نہیں کہ موت کی گھڑی کس وقت آ جاوے اس لئے اس آیت پر عملدرآمد اسی حالت اور صورت میں ہو سکتا ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار رہے اور کامل متقی ہو۔ تقوی اللہ کیا ہے؟ عقائد صحیحہ ہوں اور ان عقائد کے موافق اعمال صالحہ ہوں۔ تقویٰ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دکھوں سے بچ جاتا ہے اور سکھوں کو پالیتا ہے۔ متقی اللہ کا محب ہوتا ہے۔ متقی کو تمام تنگیوں سے نجات ملتی ہے۔ اس کو **مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ** (الطلاق: ۴) رزق ملتا ہے۔ متقی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ متقی کے دشمن ہلاک ہوتے ہیں اور وہ مقابلہ دشمن میں ممتاز ہوتا ہے۔ متقی پر الہی علوم کھولے جاتے ہیں۔ پس میں بھی پہلی نصیحت یہی کرتا ہوں کہ متقی بنو۔ متقی بنو۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے لئے متقی بنو اور تم اللہ تعالیٰ کے سچے فرمانبردار بن جاؤ اور اسی فرمانبرداری پر تمہارا خاتمہ ہو۔ یہ فرمانبرداری عجیب نعمت ہے ابوالمسلمہ ابراہیم علیہ السلام پر تمام برکتیں اسی فرمانبرداری کی وجہ سے نازل ہوئیں **إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْتُ قَالَ أَسْلَمْتَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ** (البقرة: ۱۳۲) اس لئے تم بھی اگر برکات سماوی سے بہرہ اندوز ہونا چاہتے ہو تو متقی بنو اور تقویٰ کی حقیقت سچے مسلمان میں پیدا ہوتی ہے۔ پس تم بھی مسلم بنو اور تمہارا خاتمہ اسلام پر ہو۔

دوسری نصیحت **حبل اللہ کو پکڑو اور تفرقہ نہ کرو:** پھر فرمایا: **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا** (ال عمران: ۱۰۴)

حَبْلِ اللَّهِ كَوْمَضْبُوطٍ پکڑ لو اور سب کے سب مل کر مجموعی طاقت سے جبل اللہ کو پکڑو اور تفرقہ نہ کرو۔ یہ آیت میں آج تم پر تلاوت کرتا ہوں اور پھر سناتا ہوں وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا تَمَّ خدا کی جبل کو مل کر مضبوط پکڑے رکھو اسے چھوڑو نہیں اور اس سے جدا نہ ہو اور نہ باہم تفرقہ کرو۔ ایک مرتبہ مجھے ایک مدرسہ میں لڑکوں کو وعظ کرنے کے لئے کسی نے کہا میں نے اس سے پہلے رسہ کشی کی کھیل نہ دیکھی تھی۔ اس روز لڑکے رسہ کشی کا کھیل کھیل رہے تھے ہر ایک طرف کے لڑکوں نے بڑا زور لگایا اور وہ کہتے تھے کہ مل کر زور لگاؤ جس طرف کے لڑکوں نے کمزوری دکھائی وہ ہار گئے۔ اس وقت مجھے اس آیت کی تفسیر معلوم ہوئی۔ دین اسلام میں جس کو جبل اللہ کہا گیا ہے قرآن مجید ہے۔ آریہ، برہمہ، سناتن، مسیحی، دھریہ، ملحد بھی اس رسہ کو زور سے کھینچ رہے ہیں اور زور لگا کر اپنی طرف لے جانا چاہتے ہیں دوسری طرف تم نے اس جبل اللہ کو پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پس تم اس دعویٰ کو بلا دلیل نہ رہنے دو اور پوری طاقت و ہمت اور یک جہتی سے اس کو مضبوط پکڑ کر زور لگاؤ ایسا نہ ہو کہ وہ مخالفین اسلام اس رسہ کو لے جائیں (خدا نہ کرے ایسا ہو) اس رسہ کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید تمہارا دستور العمل اور ہدایت نامہ ہو۔ تمہاری زندگی کے تمام مرحلے اس کی ہدایتوں کے ماتحت طے ہوں۔ تمہارے ہر ایک کام، ہر حرکت و سکون میں جو چیز تم پر حکمران ہو وہ خدا تعالیٰ کی یہ پاک کتاب ہو جو شفا اور نور ہے۔

یاد رکھو دنیا ایک مدرسہ ہے اس مدرسہ میں وہی کامیاب ہوں گے جو جبل اللہ کو ہاتھ سے نہ دیں گے اور مل کر زور لگائیں گے اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے کہ مسلمانوں میں عملی زندگی پیدا ہو اور ان کے تفرقہ مٹ جاویں میں پھر تمہیں اللہ کا حکم پہنچاتا ہوں سنو اور غور سے سنو!

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔

دیکھو تفرقہ نہ کرو اگر تفرقہ کرو گے تو جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ جبل اللہ تفرقہ مت کرو: تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی اور اس کے ساتھ ہی تم بھی بودے ہو جاؤ گے خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ (الانفال: ۴۷) تنازعہ کرو گے تو بودے ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا نکل جائے گی پھر تمہارا جھٹا ٹوٹ کر قوت منتشر ہو جائے گی اور دشمن

تم پر قابو پا جائیں گے ہاں اگر تنازعہ پیدا ہو تو اس وقت تمہیں صبر سے کام لینا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد کیا ہے کیونکہ جب جھگڑا پیدا ہوتا ہے تو ایک طرف غضب آتا ہے اگر دوسری طرف بھی اس غضب سے کام لیا جاوے تو نتیجہ اس کے سوا نہیں ہوگا کہ پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کے نیچے آ کر ہلاک ہو جاوے۔ پس ایسے موقع کے لئے محض اپنے کرم اور غریب نوازی سے یہ تعلیم دی کہ صبر کرو اگر صبر سے کام لو گے تو نتیجہ کیا ہوگا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (البقرة: ۱۵۴) تنازعہ کے باطل کرنے کا یہی طریق ہے کہ صبر سے کام لو۔ انسان جب صبر کرتا ہے تو ایک نور اس کے قلب پر اترتا ہے جس سے اس کو سکینت اور اطمینان حاصل ہوتا ہے اور وہ جوش کی آگ جو اس کے اندر بھڑکنے والی تھی بالکل ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ یہ ظہور ہوتا ہے إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ کا خدا تعالیٰ کی معیت اس طرح پر اپنا کام کرتی ہے اور پھر جس کے ساتھ خدا ہو اس کی کامیابی اور فتح میں کیا کلام ”خدا داری چغم داری“ انسان خدا کی محبت اگر چاہتا ہے تو اس کے لئے لازمی شرط یہی ہے کہ متقی ہو اور پھر صبر کرے مگر تم دیکھو کہ تم میں ادنیٰ ادنیٰ باتوں میں تنازعہ ہو جاتا ہے۔ یہاں ہمارا بازار ہے کتنی دوکانیں ہیں ان میں کتنا سودا ہے میں تو جانتا ہوں اس کا نام بازار رکھنا بھی شرم ہے۔ بہر حال جو کچھ بھی ہے، ہے۔ ان گنتی کے دوکانداروں میں ہر ایک یہی سمجھتا ہے کہ جو سودا اس نے رکھا ہے کوئی دوسرا نہ رکھے اور اسے ہی سارا نفع ہو۔ پھر جگہ پر جھگڑا ہوتا ہے ایک کہتا ہے مجھے یہ جگہ ملے دوسرا کہتا ہے مجھے دو یہ۔ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ کیا کرتے ہیں کیا ان کی غرض اتنی ہی ہے۔ وہ مجھ سے پوچھتے تو میں انہیں بتاتا کہ اگر تم نفع چاہتے ہو تو خدا پر بھروسہ کرو کسی دوکان یا کسی سودے کو اپنا خدا مت بناؤ۔ ان پر بھروسہ کرو گے تو ہلاک ہو جاوے گے۔ نہ دنیا کا فائدہ ہوگا اور دین بھی ہاتھ سے جائے گا۔ نفع دینا اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے اور یہ اس کے فضل سے ملتا ہے۔ ہاں تدبیر کرو مگر اپنی تدبیروں کو خدا نہ سمجھ لو اور ان پر بھروسہ نہ کرو تمہاری تجارتیں تمہارے لئے موجب برکت دین ہوں۔ وہ دنیا کسی کام کی نہیں جو دین کو بگاڑ دے۔ کیا دنیا میں پہلے سے ایسے تاجر موجود نہیں جن کو دین سے واسطہ نہیں۔ تم کوشش کرو اور خدا تعالیٰ سے توفیق چاہو کہ تمہاری تجارتیں بھی تمہارے لئے دین ہو جائیں۔

پھر بعض نوجوان ہیں وہ جھٹ تصنیف کر دیتے ہیں حالانکہ ان میں وہ فہم وہ فراست نہیں ہوتی جو

ایک کتاب کے لکھنے والے میں ہونی چاہئے محض خیالات سے کچھ نہیں بنتا۔ جب تک سچے علوم سے واقفیت نہ ہو اور پھر ایسی تصنیفیں ایک تفرقہ کا موجب ہو جاتی ہیں۔ تم کو اگر مشکلات پڑتی ہیں تو خدا تعالیٰ سے توفیق مانگو اور دعاؤں سے کام لو۔ ایک نے کہا کہ ہم سے امر بالمعروف میں اطاعت کی بیعت لی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بیعت میری ایجاد تو نہیں قرآن مجید بھی تو تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (ال عمران: ۱۱۱) فرماتا ہے امر بالمعروف اسی قرآن مجید کے ارشاد کے نیچے ہے۔ پس میں ان نوجوانوں کو یہی کہوں گا کہ لڑانے کا فکر نہ کرو ہماری بددعا نہ لو دعائیں لو۔ کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالو جس سے جھگڑا پیدا ہو اور تفرقہ بڑھے۔ یاد رکھو میں پھر کہتا ہوں باہم جھگڑا کرو گے تو قرآن مجید کے اس فتوے کے نیچے آ جاؤ گے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ (الانفال: ۴۷) تم پھسل جاؤ گے اور تمہاری ہوائیں اٹ جائیں گی اس لئے توبہ کر لو اس میں تمہارا بھلا ہے۔

نکمے جھگڑے: بعض لوگ نکمے جھگڑے کرتے ہیں۔ ایک نے آ کر سنایا کہ سیالکوٹ کی جماعت نے کہا کہ نور دین نے اتنے مسئلہ اُڑادیئے؟ ان میں سے ایک یہ

بھی کہ نور دین جہراً بسم اللہ نماز میں نہیں پڑھتا۔ ایسا ہی کل ایک دوست آیا کہ جہراً بسم اللہ پڑھی تو پشاور کے قاضی نے کہا کہ احمدیوں کی نمازیں تو ٹھیک ہوتی ہیں مگر جہراً بسم اللہ درست نہیں۔ یہ نکمے جھگڑے ہیں۔ سیالکوٹ کا اگر کوئی بیٹھا ہے تو وہ اب توبہ کرے اور استغفار کرے۔ یہ مسئلہ جھگڑے کے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بسم اللہ جہراً اور خفاءً پڑھتے تھے۔ میری اپنی تحقیق میں جہراً پڑھنے والے تھوڑے ہیں خفاءً پڑھنے والے بہت ہیں۔ میں عبد الکریم مرحوم سے خدا کے لئے محبت رکھتا تھا اور اس کے پیچھے نہایت ذوق سے نماز پڑھتا تھا اور میں اس کے جہر پر بھی فدا تھا اور میں نے حضرت صاحب کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے تم میں سے بھی بعض نے پڑھی ہوگی۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت صاحب جہراً بسم اللہ پڑھا کرتے تھے؟ پھر میں نے حضرت صاحب کے سامنے بھی نمازیں پڑھائی ہیں اور بہت پڑھائی ہیں اور تم میں سے بھی بہتوں نے پڑھائی ہیں کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اس وقت بھی اسی طرح نماز نہ پڑھتا تھا؟ اب ان کے بعد بسم اللہ کے جہراً پڑھنے یا نہ پڑھنے پر بحث کرتے ہو اور پھر اس بحث میں بڑھتے بڑھتے ایسے لفظ

بول دیتے ہو دیکھو میں خلیفۃ المسیح ہوں اور خدا نے مجھے بنایا ہے۔ میری کوئی خواہش اور آرزو نہ تھی اور کبھی نہ تھی جب خدا تعالیٰ نے مجھے یہ ردِ اپہنادی ہے میں ان جھگڑوں کو ناپسند کرتا ہوں اور سخت ناپسند کرتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ تم میں ایسی باتیں پیدا ہوں جو تنازعہ کا موجب ہوں اس لئے میں اس خیال سے کہ

سرچشمہ شاید گرفتن بہ میل

چو پرشد نشاید گذشتن بہ پیل

اس قسم کے نکلے جھگڑوں کو روکنا چاہتا ہوں۔ تم کو کیا معلوم ہے کہ قوم میں تفرقہ کے خیال سے بھی میرے دل پر کیا گزرتی ہے؟ تم اس درد سے واقف نہیں۔ تم اس تکلیف کا احساس نہیں رکھتے جو مجھے ہوتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں اور خدا ہی کے فضل سے یہ ہوگا کہ میں تمہارے اندر کسی قسم کے تنازعہ اور تفرقہ کی بات نہ سنوں۔ بلکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا عملی نمونہ ہو **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا** (ال عمران : ۱۰۴) دیکھو ایسے چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر یقین کے ساتھ پہنچنا تم میں سے بہتوں کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کے آثار پر ڈھوکم از کم موطا امام محمد اور آثار امام محمد ہی کو پڑھ لو۔ صحابہ ایسے مسائل جزویہ میں اپنے ذوق کے موافق ترجیح دے لیتے تھے مگر یہ مسائل ان میں اختلاف کا باعث نہ ہوتے تھے۔ میں پھر تمہیں کہتا ہوں جو سنتا ہے وہ سن لے اور دوسروں کو پہنچا دے کہ جھگڑا مت کرو ہم مرجائیں گے پھر تمہیں بہت سے موقعے جھگڑے کے ہیں !!!

تم سمجھتے ہو میں حضرت ابو بکرؓ کی طرح آسانی سے خلیفہ بن گیا ہوں؟ تم اس حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے اور نہ اس دکھ کا اندازہ کر سکتے ہو اور نہ اس بوجھ کو سمجھ سکتے ہو جو مجھ پر رکھا گیا ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے کہ میں اس بوجھ کو برداشت کر سکا۔ تم میں سے کوئی نہیں جو اس کو برداشت تو ایک طرف محسوس بھی کر سکے۔ کیا وہ شخص جس کے ساتھ لاکھوں انسانوں کا تعلق ہو آرام کی نیند سو سکتا ہے؟ اتنے

بڑے کنبے کے آدمی کی جو حالت ہو سکتی ہے اس کا قیاس تو کرو۔ پھر میری حالت کو دیکھو اور سمجھ لو کہ مجھے تمہاری بھلائی کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت صاحب توبہ کی بیعت لیتے تھے۔ میں نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ بیعت ارشاد کیوں نہیں لیتے۔ فرمایا میں شکر کرتا ہوں کہ توبہ ہی کر لیتے ہیں۔ پس تم میری اس نصیحت کو یاد رکھو میں تمہارے بھلے کے لئے کہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے ذرا بھی تفرقہ کا احتمال ہو سکے۔ میری توجہ اور عقد ہمت کو اسی میں لگا رہنے دو۔ دوسری طرف متوجہ نہ ہونے دو اس میں تمہارا بھلا ہوگا۔

عبداللہ تیماپوری کا ایک ابتلا ہے۔ مجھے دکھایا گیا کہ وہ مجنون ہے۔ میں نے اس کو یہ کہہ دیا اس نے کہا کہ پھر توجہ کرو۔ تب

میں نے اس کو کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور بے ادبی ہے مجھے اب اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس پر اس نے کہا کہ ہاں اگر میں روزہ رکھوں تو جنون ہو جاتا ہے پھر اس نے میرے ہاتھ پر بیعت کی اور اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا۔ میں نے اس سے بیعت ارشاد لے لی اور اس نے بیعت ارشاد کر لی۔ اس کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی اور میرے پاس لایا اور کہا یہ مجھ کو براہ راست ملا ہے۔ میں نے کہا تم نے میرے ہاتھ پر بیعت کی اور کیا وہ بیعت ارشاد نہیں ہے؟ آخر اس نے اقرار کیا۔ تب میں نے کہا کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت پوری ہو گئی۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں خلافت سے معزول کرتا ہوں۔ پھر یہاں تک ہی بس نہیں کی بلکہ کہتا ہے کہ حضرت صاحب نے بھی مجھے شناخت نہیں کیا اور اسی وجہ سے ان کی عمر میں ۱۵ سال کی کمی ہو گئی۔ پھر یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت صاحب کی تعلیم کمزور تھی۔ پھر اپنے دعوے کے ثبوت میں کہا کہ مجھ میں چالیس آدمی کی قوت ہے اور جو کوئی میری بیعت کرے اس میں پندرہ آدمی کی قوت آ جاتی ہے۔ حافظ روشن علی نے ہاتھ پکڑا تو چلا اٹھا اور کہا کہ میری غلطی تھی اس قوت سے مراد روحانی قوت تھی۔ یہ ایک ابتلا ہے مجھے خدا تعالیٰ نے اس کو مجنون دکھایا ہے۔ ان دعاوی کے ساتھ وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ بعض لوگ معذور ہیں جیسے شیخ نور احمد (شیخ نور احمد مالک ریاض ہند پریس امرتسر اور مولوی غلام رسول امرتسر) نے تحریری طور پر حضرت خلیفۃ المسیح کے حضور توبہ کر لی ہے۔ ایڈیٹر الحکم) وہ رات کو کچھ کہتا ہے تو شیخ

نور احمد کہہ دیتے ہیں کہ اس کو چھاپ دو۔ میں دوستوں کو چوکس کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے پرہیز کرو ایسے لوگوں کی ایک جماعت ہے جو ایسے دعوے کرتے پھرتے ہیں۔ ایک نے مجھے لکھا کہ اگر تم راستباز ہو تو مجھے اپنے جلسہ میں تقریر کرنے کی اجازت دو۔ جب تک چاہوں بولتا رہوں اور یہ بھی لکھا کہ تمہارا سر اس لئے کچلا گیا کہ اور کتا میں پڑھتے ہو قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ میں نے اس کو لکھا کہ جب قرآن مجید کے سوا کچھ نہیں اور ہر شخص کو اس کا فہم دیا جاتا ہے تو تم کیا سمجھانے آؤ گے؟ پھر مجھے لکھا کہ اجازت دو ورنہ حجت پوری ہوگی۔

میں اس مسجد میں قرآن ہاتھ میں لے کر اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے پیر بننے کی خواہش ہرگز

خليفة المسيح کا اعلان خلافت:

نہیں اور نہ تھی اور قطعاً خواہش نہ تھی۔ خدا تعالیٰ کے منشاء کو کون جان سکتا ہے اس نے جو چاہا کیا تم سب کو پکڑ کر میرے ہاتھ پر جمع کر دیا اور اس نے آپ نہ تم میں سے کسی نے مجھے خلافت کا کرتہ پہنا دیا۔ میں اس کی عزت اور ادب کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں باوجود اس کے میں تمہارے مال اور تمہاری کسی بات کا بھی روادار نہیں اور میرے دل میں اتنی بھی خواہش نہیں کہ کوئی مجھے سلام کرتا ہے یا نہیں۔ تمہارا مال جو میرے پاس نذر کے رنگ میں آتا تھا اس سے پہلے اپریل تک میں اسے مولوی محمد علی کو دے دیا کرتا تھا مگر کسی کو غلطی میں ڈالا اور کہا کہ یہ ہمارا روپیہ ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ تب میں نے محض خدا کی رضا کے لئے اس روپیہ کو دینا بند کر دیا کہ میں دیکھوں یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ایسا کہنے والے نے غلطی کی نہیں بے ادبی کی۔ اسے چاہئے کہ وہ توبہ کرے میں پھر کہتا ہوں کہ وہ توبہ کر لے، اب بھی توبہ کر لیں۔ ایسے لوگ اگر توبہ نہ کریں گے تو ان کے لئے اچھا نہ ہوگا۔ ایک وقت مجھ سے کسی نے مجھ سے جھگڑا کیا اس وقت کے بعد سے میں ایسے اموال ان کو دیتا نہیں جو مخصوص مجھے ہی دیئے جاتے ہیں۔ ہاں میں انہیں ایک مد میں رکھتا ہوں اور اسے ایسی جگہ خرچ کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی راہ ہو۔ میں اپنی ذات اور اپنے متعلقین کے لئے تمہارے کسی روپیہ کا محتاج نہیں ہوں اور کبھی بھی خدا تعالیٰ نے مجھے کسی کا محتاج نہیں کیا۔ وہ اپنے غیب کے خزانوں سے مجھے دیتا ہے اور بہت دیتا ہے اور میں اب تک وہ کسب کر لیتا ہوں جو خدا تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ یاد رکھو میں پھر کہتا ہوں کہ میں تمہارے اموال کا محتاج نہیں ہوں اور نہ تم سے مانگتا ہوں تم میرے پاس اگر کچھ

بھیجتے ہو تو اسے اپنے فہم کے موافق خدا کی رضا کے لئے خرچ کرتا ہوں پھر وہ کون سی بات ہو سکتی تھی کہ میں پیر بننے کی خواہش کرتا۔ اب خدا تعالیٰ نے جو چاہا کیا اس میں نہ تمہارا کچھ بس چلتا ہے اور نہ کسی اور کا۔ اس لئے تم ادب سیکھو کیونکہ یہی تمہارے لئے بابرکت راہ ہے تم اب اس جبل اللہ کو مضبوط پکڑ لو یہ بھی خدا ہی کی رسن ہے جس نے تمہارے متفرق اجزا کو اکٹھا کر دیا ہے۔ پس اسے مضبوط پکڑے رکھو۔ تم خوب یاد رکھو کہ معزول کرنا اب تمہارے اختیار میں نہیں۔ تم مجھ میں عیب دیکھو آگاہ کر دو مگر ادب کو ہاتھ سے نہ دو۔ خلیفہ بنانا انسان کا کام نہیں یہ خدا تعالیٰ کا اپنا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چار خلیفے بنائے ہیں آدم کو، داؤد کو اور ایک وہ خلیفہ ہوتا ہے جو **لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ** (النور: ۵۶) میں موجود ہے اور تم سب کو بھی خلیفہ بنایا۔ پس مجھے اگر خلیفہ بنایا ہے تو خدا نے بنایا ہے اور اپنے مصالح سے بنایا ہے خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے خلیفہ کو کوئی طاقت معزول نہیں کر سکتی۔ اس لئے تم میں سے کوئی مجھے معزول کرنے کی قدرت نہیں رکھتا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے معزول کرنا ہوگا تو وہ مجھے موت دے دے گا (اللہم اید الاسلام و المسلمین ببقائہ و طول حیاتہ۔ ایڈیٹر) تم اس معاملہ کو خدا کے حوالہ کرو تم معزول کی طاقت نہیں رکھتے میں تم میں سے کسی کا بھی شکر گزار نہیں ہوں۔ جھوٹا ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ ہم نے خلیفہ بنایا مجھے یہ لفظ بھی دکھ دیتا ہے کہ جو کسی نے کہا کہ **پارلیمنٹوں کا زمانہ ہے دستوری حکومت ہے ایران اور پرتگال میں بھی دستوری ہو گئی ہے۔ ترکی میں پارلیمنٹ مل گیا۔ میں کہتا ہوں وہ بھی تو بہ کر لے جو اس سلسلہ کو پارلیمنٹ اور دستوری سمجھتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ایران کو پارلیمنٹ نے کیا سکھ دیا اور دوسروں کو کیا فائدہ پہنچایا ہے۔ ترکوں کو پارلیمنٹ کے بعد کیا نیند آتی ہے؟ ایرانیوں نے کیا فائدہ اٹھایا۔ محمد علی شاہ کے سامنے کتنوں کو غارت کرایا اور اب پچھلوں کو الٹی میٹم آتے ہیں۔ ادھر انجمن ترقی و اتحاد جو دکھ اٹھا رہی ہے اس کا اندازہ ان خبروں سے کر لو جو طرابلس سے آرہی ہیں۔ تم دستوری کو کیا سمجھتے ہو خدا ہی کے فضل سے اور اسی کے رسن کو مضبوط پکڑے رہنے سے کچھ بنتا ہے۔ اس لئے میں پھر کہتا ہوں **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا** (ال عمران: ۱۰۴)۔ میں تمہیں پھر یاد دلاتا ہوں کہ قرآن مجید میں صاف طور پر لکھا ہے کہ اللہ ہی خلیفہ بنایا کرتا ہے۔ یاد رکھو آدم کو خلیفہ بنایا تو کہا **إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً** (البقرہ: ۳۱) فرشتوں نے اس پر اعتراض کر کے کیا خمیازہ اٹھایا۔ تم قرآن میں پڑھو جب فرشتوں کی یہ حالت ہے اور انہیں بھی **سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا** (البقرہ: ۳۳) کہنا پڑا تو**

تم مجھ پر اعتراض کرتے ہو۔ اپنا منہ دیکھ لو مجھے وہ لفظ خوب یاد ہیں کہ ایران میں پارلیمنٹ ہوگئی اور دستوری کا زمانہ ہے انہوں نے اس قسم کے الفاظ بول کر جھوٹ بولا بے ادبی کی۔ خدا تعالیٰ کی غیرت نے انہیں دستوری کے نتیجے ایران ہی میں دکھا دیئے۔ میں پھر کہتا ہوں وہ اب بھی تو بہ کر لیں میں دوستوں کو کہتا ہوں لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَآلِئِ انْ أُجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ (ہود: ۳۰) میرا مولا مجھے سب کچھ دیتا ہے اگر وہ نہ چاہتا تو جب میں گھوڑے سے گرا تھا تو اس صدمہ سے مر جاتا مگر اسی نے میری حفاظت کی اور جہاں پچھلے سال مجھے بولنے کی طاقت نہ تھی آج خدا کے فضل سے میں اس سے بھی بلند آواز سے بول سکتا ہوں (الحمد لله على ذلك - ایڈیٹر) پس ایسے خیالات کو چھوڑ دو۔ پھر جو اخباروں میں بعض مضامین دیتے ہو اللہ تعالیٰ کے آگے ڈرو ورنہ تم پر الزام قائم ہوگا۔ خوب یاد رکھو اور سن رکھو میری امانت دیانت کی حفاظت تم سے نہیں ہو سکتی اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کل ایک بیوی نے مجھے سو روپیہ دیا اس کے بیٹے نے ایک مصیبت سے مخلصی پائی اس نے نذرمانی تھی۔ مجھے وہ روپیہ دیا۔ کیا کوئی جان سکتا تھا میری بیوی میرے پاس بیٹھی تھی میں نے سمجھا کہ شاید اس کا دل لپچایا ہو۔ میں نے اس دینے والی سے پوچھا کہ کہاں خرچ کریں وہ بولی کہ کسی اچھی جگہ خرچ کرو۔ میں نے وہ جمع کر کے گھر میں نہیں رکھے۔ میرے پاس تین قسم کی رقوم آتی ہیں کچھ کپڑے آتے ہیں یتامیٰ اور مساکین کے لئے اور ایسا ہی روپیہ بھی آتا ہے کوئی روپیہ دیتا ہے کہ جہاں آپ چاہیں خرچ کر دیں۔ ایک کہتا ہے جہاں میرے مردے کو ثواب پہنچے وہاں خرچ کر دو اور کچھ خیرات بھی آتی ہے۔ بعض لوگ مخصوص کر دیتے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ وہ خدا تعالیٰ کے خاص منشا کے ماتحت ہوتا ہے کہ یہ تمہاری ذات کے لئے ہے ان تمام اموال میں سے یتامیٰ کے اموال کو تو میں لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ (الانعام: ۱۵۳) پر عمل کرنے کے لئے محمد علی صاحب کے حوالہ کر دیتا ہوں اور ایسا ہی ان کے کپڑے بھی۔ جو اموال میرے پاس آتے ہیں میرے حفاظت کرنے والوں کو تو میرے گویا کی بھی خبر نہیں تو اموال کی کیا خبر ہو؟ (یہ سخت لفظ میں نے ایک خاص وجہ سے بولا ہے) پھر جو کپڑے ہوتے ہیں بعض وقت ان میں قیمتی کپڑے ہوتے ہیں میں نے ایک دفعہ اپنی بیوی کو کہا کہ ان کو بیچ کر اوسط درجہ کے کپڑے بنا دیا کرو تا کہ وہ زیادہ کے کام آسکیں۔ اس نے کہا کہ اگر میں خود لینا چاہوں تو میں نے اسے جواب دیا کہ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی اور بیوی ہو جو ہماری رشتہ دار نہ ہو وہ

چاہے تو لے سکتی ہے۔ تو ایسے کپڑے بعض وقت ہم بیچ دیتے ہیں گو بہت ہی کم موقع ملتا ہے۔ مجھے یہاں شادیاں کرنی پڑتی ہیں اور وہ مسکینوں کی ہوتی ہیں ابھی آٹھ دس نکاح ان دنوں میں ہوئے ہیں اور بجز میری ایک نو اسی کے سب مساکین تھے۔ ان کو کپڑے اور مختصر سے زیور دینے پڑتے ہیں ایسے اموال سے جو مساکین کے لئے آتے ہیں اسی قسم کی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں۔ میں یہ واقعات اپنی برأت کے لئے نہیں کہتا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے میں تمہاری مدح، مذمت، انکار کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ اس لئے سناتا ہوں کہ تم میں سے کوئی بدگمانی کر کے گنہگار نہ ہووے۔ ایک عورت نے ایک مرتبہ کہا کہ کپڑوں کے کوٹھے بھر لئے ہیں کوئی حساب تو نہیں۔ مجھے خیال ہوا کہ ممکن ہے اس قسم کے وہم مردوں میں بھی ہوں ایسے لوگ اگر ہوں تو توبہ کر لیں ”عشق است و ہزار بدگمانی“ میں تمہارے روپیہ کا محتاج نہیں حضرت صاحب کے وقت میں بھی ایسے اموال میرے پاس آتے تھے اور میں لے لیتا تھا۔ میں تمہاری بھلائی کے لئے کہتا ہوں مجھے تم میں سے کسی کا خوف نہیں اور بالکل نہیں ہاں میں صرف خدا ہی کا خوف رکھتا ہوں۔ پس تم ایسی بدگمانی نہ کرو اور توبہ کرو۔ اگر ہمارا گناہ ہے ہمارے ذمہ رہنے دو اگر میں غلطی کرتا ہوں اس بڑھاپے اور اس عمر میں قرآن مجید نے نہیں سمجھایا تو پھر تم کیا سمجھاؤ گے؟ میری یہ حالت ہے کہ بیٹھتا ہوں تو پیر دکھی ہوتے ہیں کھڑا ہوتا ہوں تو محض اس نیت سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے تھے۔ میں نہیں جانتا میرا کتنا وقت ہے میں اس راہ سے ناواقف ہوں نحن اُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ لَا نَحْسِبُ۔ میں نے ملازمت بھی کی مگر اس میں بھی گھڑی نہیں رکھی۔ میں نے روٹی بھی نہیں کھائی اور اگر چائے کی پیالی بھی نہ آتی تو اس کا بھی محتاج نہیں تھا۔ تمہاری بھلائی کے جوش میں میں ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ مجھے کیا معلوم ہے کہ پھر کہنے کا موقع ملے گا یا نہیں موقع ہو تو توفیق ہو یا نہ ہو۔ اس لئے میں نے ضروری سمجھا کہ تم کو حق پہنچا دوں۔ پس میری سنو اور خدا کے لئے سنو! اسی کی بات ہے جو میں سناتا ہوں میری نہیں کہ **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا**۔ غرض تفرقہ نہ کرو **وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ**

اِحْوَانًا (ال عمران ۱۰۴)۔ اللہ کا فضل یاد کرو جب کہ تم باہم اعداء تھے۔

نظارہ تفریق: اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم باہم بھائی بھائی ہو گئے۔ تم خود غور کرو تم جو یہاں موجود ہو سب کے ذوق الگ

سب کی طرز کلام اور طریق بیان جدا، شکلیں الگ اور زبانیں الگ ہیں اور تمہارے لباس ایک دوسرے سے نہیں ملتے، پگڑیوں کے رنگ ان کے باندھنے کے طریق سب جدا جدا ہیں۔ اکبر کے زمانہ میں بڑی خوبصورت پگڑیاں باندھنے کا طریق تھا ایک پگڑی سیدھی سادھی نور دین کی سی تھی دربار میں اس سے کہا گیا کہ تم کو پگڑی باندھنی نہیں آتی؟ اس نے کہا کہ مجھے تو آتی ہے یہ باقی عورتوں سے بندھوا کر لائے ہیں اگر انہوں نے آپ باندھی ہیں تو پھر بندھوا کر دیکھ لو۔ چنانچہ جب ان کو حکم دیا گیا تو نہ باندھ سکے کیونکہ گھر میں تو بڑے تکلف اور آئینہ سامنے رکھ کر باندھا کرتے تھے۔ عورتوں سے مراد نفس ہی لے لو۔ غرض اس وقت بھی پگڑیوں کی بندش ان کے رنگ اور ململوں اور لمبائی چوڑائی سب باتوں میں فرق ہے۔ یہ اختلاف اور فرق دور تک چلتا ہے ایک خالق ہے ہم سب مخلوق ہیں پھر اختلاف ہے ایک مرد ہے ایک عورت دونوں کے کام الگ ہیں۔ ہر ایک کے اعضاء میں فرق ہے۔ باوجود اس اختلاف کے پھر وہ اتحاد چاہتے ہیں جب ان کا اختلاط ہوتا ہے تو پھر وہ کسی اور کے خواہشمند ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی بچہ ہو جاوے۔ ہمیں بھی خطوط آتے ہیں کہ دعائیں کرو کسی نے اپنے بچہ کا نام غلام مرزا رکھا مگر وہ زندہ نہ رہا۔ غرض اکیلا ہو کر بیوی چاہتا ہے اس کے آنے پر پھر اولاد چاہتا ہے پھر اولاد کی شادی پھر ان کی اولاد کی خواہش کرتا ہے۔ اختلاف ہے تو کتنا اتحاد ہے تو کس حد تک۔ یہ تمام اختلافات اللہ تعالیٰ کی ہستی کے دلائل ہیں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَ اِخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ (الروم: ۲۳) فی الحقیقت اگر ایک ہی قسم کے چہرے ہوتے اور ایک ہی قسم کی آوازیں قد و قامت ہوتے تو کیسا دکھ اور مصیبت ہوتی دوست دشمن بیوی بہن میں تمیز نہ ہو سکتی۔

اختلاف مٹھمر ہونے کے لئے وحدت چاہتا ہے: پس اختلاف جہاں بہت ہی مفید ہے وہاں باوجود اختلاف کے وحدت کے نظام کو چاہتا ہے تب یہ نتیجہ خیز اور مٹھمر ہو سکتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں ایک دوات ہے وہ آسٹریا، چائنا یا انگلینڈ یا امریکہ سے بن کر آتی ہے۔ پھر سیاہی اور

اس کے اجزا کو دیکھو جب تک باہم مل کر متحد نہیں ہو گئے اس سیاہی میں لکھنے اور نقش پذیر ہونے کی طاقت نہیں۔ پھر قلم ہے اس میں آجکل کے قلم کو مد نظر رکھ کر دو تین جزو ہیں کچھ لکڑی ہے کچھ لوہا ہے یہ اجزا اگر باہم نہ ملیں تو قلم نہیں بن سکتا۔ پھر قلم بھی ہو لیکن اگر سیاہی کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو تو کچھ فائدہ نہیں قلم کسی شخص کے ہاتھ میں ہو اور وہ ہاتھ اس کو اس دوات تک لے جاوے اور پھر اس سیاہی سے کاغذ پر کچھ لکھے کاغذ کے مختلف اجزا کو دیکھو اور غور کرو پھر لکھنے کے لئے ہاتھ کی جنبش اور آنکھ کی بصارت اور دماغ کی قوت متفکرہ سے کام نہ لیا جاوے تو کچھ بھی نہیں۔ اب تمام پراگندہ صورتوں پر غور کرو پھر ان کے اتحاد کو دیکھو وہ حالت منتشرہ میں کیا کچھ بھی مفید ہو سکتی تھیں؟ لیکن جب ان میں اتحاد اور اختلاط ہوا اور ایک مرکز پر جمع ہو گئیں تو اس سے کتابیں اور نہایت قیمتی تحریریں پیدا ہو گئیں۔ یہ مضمون بجائے خود بڑا وسیع مضمون ہے اور اس پر غور کر کے نہایت مختصر الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ نظام عالم کی رونق اختلاف سے ہے جب جب وہ اختلاف ایک مرکز پر متحد ہو۔ اپنے وجود پر غور کرو کس قدر مختلف چیزوں کا مجموعہ ہے لیکن ان مختلف چیزوں کا اجتماع کیسا خوبصورت بن گیا ہے۔ اب تم سوچو کہ باوجودیکہ تمہارے رنگ و روپ تمہاری شکلیں، علوم، عقول، تعلیم، تربیت، سوسائٹی، مطالعہ کی کتابیں اور خواہشیں جدا جدا ہیں۔ پھر تم دیکھو کہ کیوں اکٹھے ہو کر باہم ایک جگہ جکڑے گئے۔ تناخ والوں کو اس اختلاف نے غلطی میں ڈالا اور وہ اس اختلاف کو تناخ کا نتیجہ سمجھ بیٹھے کاش وہ اس اختلاف کی حقیقت پر غور کرتے تو اس کثرت میں وحدت کا مزہ پاتے۔ یہ خوب یاد رکھو کہ کثرت میں وحدت کی ضرورت ہے جب تک وحدت نہ ہو کثرت مفید ہی نہیں ہو سکتی۔ دیکھو کلکتہ سے لے کر پشاور تک ایک شاہی سڑک ہے جس پر ریلیں دوڑتی ہیں۔ اب تم غور کرو کہ یہ مختلف قطعات زمین مختلف لوگوں کے قبضہ میں تھے ایک طاقت جس کو گورنمنٹ کہتے ہیں آئی اور اس نے ان قطعات کو مختلف مالکوں سے لے کر ایک کی ملکیت میں شامل کر دیا تب اس کثرت میں وحدت پیدا ہو گئی۔ پھر اینٹوں پتھروں اور مٹی کو مختلف جگہ سے لا کر اس پر جمع کیا بظاہر مختلف چیزیں جمع کر دیں مگر ان کو ایک سطح اور ایک ترتیب میں رکھ کر ایک سڑک کی شکل میں تبدیل کر دیا پھر لکڑی اور لوہے کو بچھا کر اور ایک خاص صورت سے انہیں ملا کر لائن بچھادی اور سکہ الحدید بن گئی پھر اس لائن پر گاڑیوں کو جمع

کیا جن میں مختلف عقلوں اور ہاتھوں کے ذریعہ مختلف چیزوں لکڑی، لوہا، رنگ وغیرہ کو ایک خاص شکل میں بنایا گیا وہ اختلاف بجائے خود قائم رہ کر وحدت کا رنگ پیدا ہو گیا۔ پھر ایک اور چیز جس کو انجن کہتے ہیں ان کے آگے لگا دیا پھر اس انجن میں آگ پانی کو نلکہ رکھا گیا سب کی سب مختلف اور متضاد چیزیں تھیں مگر ایک خاص ترکیب سے ان کو ملایا تب ان سے بھاپ پیدا ہو کر حرکت کا موجب ہو گئی اب کلکتہ اور پشاور کے درمیان ریل گاڑی دوڑنے لگی۔ جو فوآند اور آرام اس سے مل رہے ہیں وہ ظاہر ہیں مگر یہ سب کچھ کثرت فی الوحدت کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح پر میں تمہیں کہتا ہوں کہ اختلاف کو رہنے دو مگر اس اختلاف کو وحدت کے مرکز کے نیچے لاؤ کہ یہ مفید اور کارآمد شئی بن جاوے۔ ہمارے لوگ اختلاف کو تو ترقی دیتے ہیں مگر مرکز وحدت سے الگ ہو کر اس صورت میں یہ مفید نہیں بلکہ مضر ہوگا۔

انسان کی ابتدائی حالت کے علوم: سنو! میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں قرآن کریم میں لکھا ہے۔ هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا (اللہم: ۲) انسان کی ہستی ہی کیا تھی کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قطرہ سے ہاں ایک تھوڑی سی چیز سے بنا کر سمیع و بصیر بنا دیا ہے میں نے جب اس پر غور کیا ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرہ علوم پہلے ہی بتا دیئے ہیں۔ ابھی کہتے کہتے معلوم ہوا کہ تیرہ نہیں بلکہ ۱۴ علوم نہ ماں سکھاتی ہے نہ باپ نہ کوئی اور ان میں سے بعض علوم یہ ہیں:-

اول دودھ کو چوسنے اور نکلنے کا علم ہے غور کرو کہ اگر کوئی بچے کو یہ علم سکھاتا تو کس طرح اور کس بولی میں سکھاتا۔

(۲) پھر ایک اور علم ہے جو بدیہات کہلاتی ہیں۔

(۳) بچہ کل اور جز کو سمجھتا ہے۔ ماں ایک چھاتی سے دودھ پلا رہی ہو اور ابھی اس میں باقی ہو جب وہ دوسری چھاتی پر لے جانا چاہے تو روتا ہے گویا کل اور جز کو سمجھتا ہے۔ ایسا ہی بچوں کو مٹھائی دے کر دیکھا ہے اگر سارے ٹکڑے میں سے آدھی کاٹ لی جاوے تو رو پڑتا ہے۔

(۴) طول اور عرض کو بھی سمجھتا ہے۔

(۵) اس بات کو سمجھتا ہے کہ دو مکان میں ایک جسم نہیں ہو سکتا۔ ایک لڑکا اگر آ جاوے تو اسے

دھکا دیتا ہے اور ایک لپستان جو آپ پی رہا ہے دوسرے کو نہیں لینے دیتا۔

(۶) دوسدوں کو خوب سمجھتا ہے کھڑا ہونے کو جی نہ چاہے تو نہیں اٹھتا، بیٹھنے کو نہ چاہے تو کھڑا ہو جائے گا۔

(۷) صدق و کذب کو خوب سمجھتا ہے مٹھائی نہ دو اور یونہی کہہ دو کہ تمہارے ہاتھ میں ہے کبھی نہ مانے گا۔

(۸، ۹) مکان اور زمان کو بھی سمجھتا ہے۔

(۱۰) سمعیات کی سچائی کو جانتا ہے جو تمہیں کہتے سنتا ہے اسی کو یقین کر کے ان چیزوں کو اسی نام سے پکارتا ہے جس سے تم پکارتے ہو۔
(۱۱) یہ بھی جانتا ہے کہ علم غیب نہیں۔

(۱۲) یہ بھی مانتے ہیں کہ فعل بدوں فاعل کے نہیں ہوتا۔ غرض اس قسم کے بہت سے علوم فطرتاً دیئے جاتے ہیں۔ پس تم اگر ان فطرتی علوم سے کام لو تو اللہ تعالیٰ پھر نفس مطہر دے کر خود قرآن مجید سکھا دیتا ہے۔ غرض تم اللہ تعالیٰ کے اس فضل کو یاد کرو کہ تم باہم اعداء تھے اس نے تمہیں بھائی بنا دیا اس اخوت کی قدر کرو اور سچے دل سے قدر کرو۔

پس میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اصول مشکل نہیں ہیں بلکہ بہت آسان ہمارے اصول:

ہیں اول ایمان باللہ۔ ایمان باللہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تمام صفات کاملہ سے موصوف اور تمام محامد اور اسماء حسنیٰ کا مجموعہ اور مسٹی اور تمام بدیوں اور نقائص سے منزہ یقین کرنا ہے اور اللہ کے سوا کسی وجود اور ہستی سے امید و بیم نہ رکھنا اور کسی کو اس کا ند اور شریک نہ ماننا۔ وہ اپنی ذات میں یکتا، اپنی صفات میں بے ہمتا، اپنے اسماء اور افعال میں کیس گمٹلہ شیء (الشوری: ۱۲) ہے۔ پھر ملائکہ پر ایمان ضروری ہے جو تمام نیک تحریکوں کے محرک ہیں اور ان پر ایمان لانے کی یہی غرض ہے کہ انسان ان پاک تحریکوں پر عمل کرے۔

یہ ملائکہ نزول بھی کرتے ہیں اور ان پاک بندوں پر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھاتے ہیں اور استقامت کے درجہ پر پہنچتے

ہیں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے پھر اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً دنیا کی اصلاح اور بھلائی کے لئے اپنے پاک نبیوں کو بھیجا اور ہم ان تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے یا نہیں اور ان انبیاء کی بعثت و نبوت میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ اس پاک گروہ نے خدا کا کلام مخلوق کو پہنچایا۔ ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ تمام نبوتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئیں بلکہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں اور بصیرت اور شرح صدر کے ساتھ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف تمام نبوتوں کے جامع اور خاتم تھے بلکہ میں کہتا ہوں کہ آپ خاتم النبیین، خاتم المرسل اور خاتم کمالات انسانی تھے۔

اب آپ کے بعد کوئی شخص آپ کی نبوت اور اتباع میں فنا ہوئے بغیر کوئی فیض نہیں پاسکتا اور کوئی نبوت موثر اور مستند نہیں ہو سکتی جس پر نبوت محمدیہ کی مہر نہ ہو۔ سب نبی برحق ہیں۔ پھر تقدیر کا مسئلہ ہے یہ حق ہے جزا و سزا حق، حشر و نشر، پل صراط، جنت و نار سب حق ہیں، یہ عقائد ہیں۔

اعمال: اور عقائد کے بعد اعمال ہیں کیونکہ زندہ اور مشر ایمان وہی ہے جس کے ساتھ اعمال صالحہ ہوں۔ ان میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، اخلاق فاضلہ ہیں اور رذائل سے بچنا ہے۔ یہ سب فرض ہیں۔ نماز کی سترہ رکعت پانچ اوقات میں فرض ہیں اور وتر کو فرض اور سنن کے درمیان رکھیں تو یہ ۲۰ رکعت ہوتی ہیں اور ۲۰ رکعت اس کی متمم ہیں اور پھر خدا توفیق دے تو ۶۰ یا ۶۰ رکعت تک نوبت پہنچتی ہے۔

ایک مہینے کے روزے فرض ہیں اور استطاعت ہونے اور راستہ میں امن کی صورت میں عمر بھر میں ایک بار حج فرض ہے اور زکوٰۃ فرض ہے۔ اخلاق فاضلہ کا حاصل کرنا اور رذائل کا چھوڑنا فرض ہے یہ اعمال ہیں۔

پھر یاد رکھو قرآن مجید کامل کتاب ہے **لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ** (حکم السجدة: ۴۳) اس کی شان ہے باطل اس پر اثر نہیں کر سکتا۔ جو لوگ آجکل کے علوم جدید اور سائنس سے ڈرتے ہیں انہوں نے قرآن مجید کی عظمت اور شوکت کو سمجھا ہی نہیں قرآن مجید پر باطل کا اثر نہیں ہو سکتا۔ وہ تمام صدائے حق کی جامع کتاب ہے اور خاتم الکتب ہے۔ اس کے فہم کے

لئے اول وہ کتاب خود ذریعہ ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل درآمد ہے پھر احادیث ہیں پھر لغت ہے پھر اللہ تعالیٰ کی حضور سے مدد اور دعا ذرائع ہیں۔ یہ میرے اصول ہیں یہاں رہو تب اور چلے جائیں تب ان کو یاد رکھو۔

ہم صحابہ کرام کو اور تابعین عظام کو رضوان اللہ علیہم اجمعین ابو بکرؓ و عمرؓ سے لے کر معاویہؓ وغیرہ تک اویس قرنی و حسن بصری سے لے کر ابراہیم نخعی و نافع عکرمہ تک اور اہل بیت میں خدیجہؓ و عائشہؓ سے لے کر علی المرتضیٰؓ اور تمام اہل بیت علیہم السلام کو اپنا پیارا یقین کرتے ہیں۔ ہم آئمہ حدیث فقہ اور تصوف کی اتباع ضروری سمجھتے ہیں اور انہیں امام سمجھتے ہیں اس لئے امام اعظم، شافعی، مالک، احمد حنبلی، امام بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی اور امام محمد رحمہم اللہ علیہم اجمعین کی جائز تکریم کرتے ہیں۔ اسی طرح تصوف میں حضرت سید عبدالقادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی، قطب الدین بختیار کاکی، شیخ شہاب الدین سہروردی، محبوب الہی سلطان نظام الدین اولیا، ابن عم حضرت فرید الدین گنج شکر، چراغ دہلوی، خواجہ نقشبند، خواجہ احمد سرہندی، زکریا ملتانی، شاہ بہاء الحق ملتانی رحمہم اللہ اجمعین کو دل سے پیار کرتا ہوں اور ایسا ہی ابن حزم، ابن تیمیہ اور ابن حجر اور ابن ہشام، ذہبی اور شوکانی کو بھی محبت کرتا ہوں۔ یہ لوگ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں اور ہادیوں میں گزرے ہیں۔ پھر اس قریب زمانہ میں شاہ ولی اللہ صاحب کو میں ممتاز انسان یقین کرتا ہوں اور سید احمد بریلوی کو خدا کے مخلص بندوں سے سمجھتا ہوں اور حضرت مسیح موعود اور مہدی بھی آچکے جن کا خدا نے اپنے فضل سے مجھ کو خلیفہ بنایا اِنَّكَ فَضَّلَ اللَّهُ يَوْمَئِذٍ مَن يَشَاءُ (الجمعة: ۵)۔

تاریخ: اب جبکہ ہمارے عقائد آپ کو معلوم ہو گئے ہیں ایک اور مسئلہ تمہیں بتاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ تاریخ میں جھوٹ اور سچ میں فرق کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہے۔ اب تازہ واقعہ تمہارے سامنے موجود ہے طرابلس کی جنگ کی خبریں آرہی ہیں اور وہ شائع ہوتی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ان اخبارات جنگ سے کوئی تاریخ مرتب کرے تو تم ہی بتاؤ کہ اس کتاب کی حقیقت کیا ہوگی؟ صوفیوں میں سید عبدالقادر، امام قشیری اور صاحب عوارف کی باتیں آسانی سے سمجھ میں آجاتی ہیں مگر صاحب فتوحات کی تصانیف مشکل ہیں، خصوصاً اور منازل السائرین آسان نہیں۔ پس تم کو میں پھر

کہتا ہوں پھر کہتا ہوں پھر کہتا ہوں اختلافات کو مٹا دو تو بہ کر لو۔ جس کے کان ہوں سن لے جس قدر غلطی کسی سے ہوئی ہے اس سے توبہ کر لو۔ اس میں تمہارا بھلا ہے۔ آج میں نے عورتوں کے درس میں اس نکتہ کو سنایا ہے اور میں اس تقریر کو ختم نہیں کر سکتا جب تک تمہیں نہ سنالوں۔ بہت سی بستیاں آباد تھیں ان بستی والوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی آخر اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ انہوں نے اپنی کرتوتوں کا بدلہ پایا۔

یہ بات کیوں سنائی ہے؟ کان والو! سن لو! عقل والو! سمجھ لو! اگر میری آواز تم تک **واعظ خانہ:** نہیں پہنچتی تو کہو میں اور اونچا کروں۔

سنو! ہر شخص جو بڑا بنایا جاتا ہے اس کے پڑوس میں اجڑا ہوا کوئی گھر ضرور ہوتا ہے۔ ہر شہر میں، ہر بستی میں اس کے نظائر موجود ہیں۔ میں ایک بستی میں رہتا تھا وہاں کا ایک امیر مجھ سے حد درجہ کی دشمنی رکھتا تھا۔ وہ میرے قتل کو چاہتا تو میں بھی اس کی زندگی کا خواہاں تھا۔ غرض میرے ساتھ اس کو سخت عداوت تھی۔ ایک دن میرے دل میں آیا کہ اتنے بڑے آدمی کو کون نصیحت کر سکتا ہے؟ یہ سوچ کر میں باوجود عداوت کے اس کے گھر چلا گیا۔ میں نے بڑی جرأت کی، وہ اس وقت کچھری کر رہا تھا میں بیٹھ گیا۔ وہ حکم احکام لکھتا رہا۔ جوں جوں جگہ خالی ہوتی گئی میں بھی آگے ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ سب لوگ چلے گئے اور صرف وہ اور میں اور اس کا میرنشی اور چند پہرہ کے سپاہی رہ گئے۔ پھر اس نے میری طرف مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کس طرح تشریف لائے ہیں؟ میں نے کہا بڑا ضروری کام ہے مگر تنہائی میں کہنا چاہتا ہوں۔ جب میں نے یہ کہا تو اس کا میرنشی جو میرا معتقد تھا فوراً چلا گیا اور اس کے پہرہ کے ایک قریبی سپاہی کے سوا باقی سپاہی بھی الگ ہو گئے۔ تب میں نے اس کو کہا کہ جو بڑے آدمی ہوتے ہیں ان کے لئے ایک واعظ ہوتا ہے کیا آپ کے لئے بھی کوئی ہے؟ کہنے لگا۔ مولوی صاحب (اسی دن مولوی کہا) ذرا کھول کر بتاؤ۔ اس پر میں نے کہا کہ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ جو بڑے آدمی ہوتے ہیں ان کے پڑوس میں کوئی نہ کوئی اجڑا ہوا گھر ہوتا ہے جو اس کو نصیحت کرتا رہتا ہے کہ سنبھل کر چلو ایسا نہ ہو تمہیں بھی عذاب میں گرفتار ہونا پڑے۔ یہ سن کر مجھے کہا کہ مولوی صاحب آگے آؤ آگے جگہ تو نہ تھی ایک کھڑکی تھی جس کے آگے وہ بیٹھا

ہوا تھا۔ میں گھٹنوں کے بل کھڑا ہو گیا۔ پھر کہا ذرا اور آگے ہو جاؤ۔ آخر میں اور آگے ہوا۔ اس نے کہا میری گدی تو وہ پڑی ہے مگر میں کبھی وہاں نہیں بیٹھا یہاں بیٹھتا ہوں مگر آج مجھے سمجھ آئی ہے کہ میں یہاں کیوں بیٹھتا ہوں۔

سامنے ایک محراب والا دروازہ تھا مجھے کہنے لگا کہ کیا سارے شہر میں اتنا بڑا دروازہ آپ نے دیکھا ہے میں نے کہا کہ نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اس گھر کا مالک اتنا بڑا آدمی تھا کہ جس قسم کا چھاتہ یہاں کارئیس رکھتا ہے صرف وہ رکھ سکتا تھا اور ہم ولایت کی سیاہ چھتری بھی رئیس کے سامنے لگا کر نہیں جاسکتے۔ اب اس کی بیوی میرے گھر میں برتن دھونے پر ملازم ہے۔ میں نے جب اس نظارہ کو دیکھا تو وجد آ گیا۔ میں نے کہا میں اب جاتا ہوں اور اس جوش میں میں وہاں کے رئیس کے پاس چلا گیا وہاں بھی کچھری ہو رہی تھی جب اس کے کھانے کا وقت آیا سب چلے گئے۔ میں بیٹھا رہا۔ اس نے بھی دربار برخواست کیا مگر میں پھر بھی بیٹھا رہا۔ میں یہ قصہ نہیں سناتا میں جس غرض کے لئے سناتا ہوں وہی غرض اب بھی ہے۔ میرے گھر میں اتنی روٹی نہیں پکتی جو تم سب کا پیٹ بھروں۔ اس لئے میں تم کو یہ دعوت کرتا ہوں اور یہ باتیں سناتا ہوں کہ تمہیں فائدہ پہنچے۔ غرض اس رئیس کو بھی وہی تقریر سنائی اس نے کہا میرے سامنے آؤ۔ اس کے سامنے پہاڑ تھا اس نے کہا کہ یہاں ایک شہر تھا جو پہاڑ کو کرید کر بنایا گیا تھا۔ اس کا نام دھارا نگر تھا۔ ہمارے بزرگ اس شہر کے رئیس کے ماتحت تھے خدا تعالیٰ نے یہ واعظ میرے سامنے رکھا ہے اور یہ مجھے بتاتا رہتا ہے۔ وہ مشرق میں تھا پھر جنوب کی طرف رخ کیا اور وہاں ایک قلعہ دکھایا اور کہا کہ یہ قلعہ بڑے زبردست بادشاہ کا قلعہ ہے اور یہ اس غرض کے لئے ہے کہ کوئی وبائی بیماری ہو تو وہاں جا رہتے ہیں۔ اس نے اس کے متعلق تاریخی واقعہ سنایا کہ ظلم کے سبب وہ سب ہلاک ہو گئے ہیں۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنی جگہ گیا مگر وہ رئیس وہاں رہا۔ میں نے ادب کے خلاف سمجھا کہ یہ اٹھا نہیں اور میں اپنی جگہ پر آ گیا ہوں پر اس نے خیال نہ کیا اور کہا کہ جہاں ہم کو کمر بند ریاست دیا جاتا ہے اور جہاں گدی نشینی ہوتی ہے وہ ان بادشاہوں کا ہے جن کی غلامی پر فخر کرتے تھے اور آج ان کی نسل کو کھانا نہیں ملتا۔ اس نے کہا آج یہ نکتہ سمجھ میں آیا کہ یہ ہمارے سمجھانے کے لئے ہے۔ میں تم کو سمجھاتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں

بھی اجڑے ہوئے مکان ہیں ان سے عبرت پکڑو۔ ہمیں بھی کوچ کرنا پڑے گا۔ میرے پاس سیالکوٹ کا ایک شخص بیٹھا ہے میں وہاں کی تاریخ خوب جانتا ہوں وہ سالباہن کہاں ہے اور اس کے بیوی بچے کہاں؟ کیا اتنا بڑا ڈھیر خاک کا آسانی سے بن گیا ہوگا۔ پس تم اپنی غلطیوں سے اپنے آپ کو برباد نہ کرو لوگوں نے تو تمہارے خلاف کفر کے فتوے لگا دیئے لیکن اگر تم نے خدا تعالیٰ کو ناراض کر لیا تو پھر تو کچھ بھی نہ رہے گا۔ نمک سے کھانا ٹھیک ہوتا ہے لیکن اگر نمک ہی گندہ ہو جاوے تو کھانا کہاں اچھا رہے گا۔ تم میری باتیں سننے آئے ہو اس لئے میں جو تمہارے لئے مفید سمجھتا ہوں کہتا ہوں تمہیں خواہ پسند آوے یا نہ آوے؟ حوالہ بخدا کرتا ہوں میں کہاں تک کہتا رہوں گا جو سنتے ہیں یاد کر لیں اور جو نہیں سنتے ان کو پہنچا دیں کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض مت کرو جو اس کو ناراض کرو گے تو پھر کہیں ٹھکانا نہ ہوگا۔ ہر شخص اس وعظ کو یاد رکھے اس کے پاس گھرانے اور مکان اجڑے ہوئے ہوتے ہیں میں نے صحت اور بیماری کی حالت بھی دیکھی ہے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو کہتے تھے کہ ہمارے پاس روپیہ آوے تو ہم یوں کریں روپیہ آتا ہے مگر وہ نہیں کر سکتے اس لئے جو کرنا ہے آج کر لو۔

میں نے ان عورتوں کو درس میں سنایا کہ عورتوں میں عادت ہوتی ہے جو غیبت کرتی ہیں دوسروں پر تہمت لگانے کی عادت رکھتی ہیں اگر خاندان کسی حسین جوان عورت سے لہذا اللہ بات بھی کرے تو عورت اس پر بدظنی کرتی ہے۔ سوکن اگر ہو تو اسے نفرت سے دیکھتی ہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ ان برائیوں کو اپنے اندر رکھ کر مت سمجھو کہ احمدی ہو گئی ہیں۔ تمہیں بھی سناتا ہوں کہ احمدی صرف زبانوں سے کہہ دینے کا نام نہیں۔ خدا کی کتاب پر عمل در آمد کرو تا کہ وہ راضی ہو۔ میں نے مریدوں میں جاں نثار بھی دیکھے ہیں جنہوں نے میری بیماری میں دعا کی کہ ہم مر جاویں اور یہ زندہ رہے۔ بعض ایسے بھی ہیں کہ کہتے کہتے تھک گیا وہ نہیں سنتے۔ میں ہمیشہ ایسی نصیحت کیا کرتا ہوں کہ گویا رخصتی نصیحت ہے۔ مجھے اس کی پروا نہیں کہ کسی کو پسند آتی ہے یا نہیں میں تمہاری پسند کے لئے نہیں کہتا۔ بلکہ خدا کے لئے کہتا ہوں اگر کہو کہ سائنس کے مضامین میرے پاس نہیں تو میں ان کی قدر نہیں کرتا۔ اب قبل اس کے کہ میں تمہیں رخصت کروں یہ نصیحت کرتا ہوں۔

ایک قومی بیماری کا علاج: کہ ایک بدی ہے جو لوگوں میں عام طور پر پھیلی ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی بدی کرتے ہیں تو اسے تقدیر کے حوالے

کر دیتے ہیں اور اگر نیکی کرتے ہیں تو اس کو اپنی خوبی جتاتے ہیں۔ اس بیماری میں طبیب بہت مبتلا ہوتے ہیں۔ کوئی مریض اگر بچ جاوے تو کہتے ہیں ہم نے ایسی تشخیص کی اور ایسا نسخہ تجویز کیا کہ اکسیر کی طرح مفید ثابت ہوا۔ وہاں وہ شافی مطلق بن جاتے ہیں لیکن اگر مریض مر جاوے تو پھر کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو بڑی کوشش کی مگر کیا کریں تقدیر ہی ایسی تھی۔ یہ قرآن مجید کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اس مسئلہ پر تدبر نہ کرنے سے غلطی لگی ہے ایسی بارہ آیتیں ہیں جن میں قرآن مجید نے فیصلہ کر دیا ہے۔

شرعی اور کوئی امور: یاد رکھو دو قسم کے امور ہوتے ہیں۔ ایک کوئی ہوتے ہیں ان کوئی امور میں انسان کا دخل و تصرف کچھ نہیں ہوتا اور نہ ان امور کے لئے وہ

مکلف ہے اور نہ جزا و سزا کے لئے مامور جو امور شرعی ہوتے ہیں وہ انسان کے دخل و تصرف کے نیچے ہوتے ہیں اس لئے وہ ان کے کرنے یا نہ کرنے پر جزا و سزا کا مستحق ہوتا ہے اس کی چند مثالیں قرآن مجید سے سن لو۔ قرآن مجید میں ایک لفظ قضی ہے یہ ایک تو کوئی رنگ میں بولا گیا ہے جیسے فرمایا فَقَضَيْتُمْ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ (حم السجدة: ۱۳) اب آسمانوں کا دو وقتوں میں بن جانا۔ اس سے انسان کو کوئی تعلق نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے امر کے نیچے بن گیا پھر یہی لفظ دوسری جگہ شرعی رنگ میں فرمایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِنِّيآه (بنی اسرائیل: ۲۳) یہاں حکم دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اب یہ فعل انسان کے دخل و تصرف کے نیچے ہے اور اگر وہ اس کی تعمیل نہ کرے گا تو مستوجب سزا ہوگا۔

اسی طرح پر ایک کتب کا لفظ ہے جو كَتَبَ اللّٰهُ لَاعْلٰمِيْنَ اَنَا وَّرُسُلِيْ (المجادلة: ۲۲) اس میں کوئی کیفیت ہے كَتَبَ عَلَيْهِمُ الصِّيَاةَ (البقرة: ۱۸۴) میں شرعی صورت ہے اسی طرح پر اتيان کا لفظ ہے وَآتَيْنَهُمْ مِّلًا عَظِيمًا (النساء: ۵۵) کوئی رنگ رکھتا ہے اور مَا اتَّكَمُ الرَّسُوْلُ فَحَدُوْهُ (الحشر: ۸) میں شرعی حالت ہے اسی طرح ارسل کا لفظ ہے أَرْسَلَ الرِّيْحَ (فاطر: ۱۰)

میں تو کوئی ہے اور **أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ** (الصف: ۱۰) میں شرعی ہے اور **حَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاصِعَ** (القصص: ۱۳) میں حرمت کوئی ہے اور **حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ** (النساء: ۲۴) میں شرعی ہے اسی طرح کلمہ کا لفظ ہے **حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ** (یونس: ۳۴) میں کوئی ہے **وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ** (البقرة: ۱۲۵) شرعی ہے۔

اسی طرح پر ارادہ کا لفظ ہے ایک جگہ **فَمَا يَفْعَالُ لِمَا يُرِيدُ** (ہود: ۱۰۸) دوسری جگہ شرعی رنگ میں **يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ** (البقرة: ۱۸۶) فرمایا ہے۔

غرض جب تک انسان ان الفاظ کے استعمال میں تفرقہ اور امتیاز نہیں کرتا وہ غلطی کھاتا ہے اور حدود اللہ کو توڑ کر بھی اپنے آپ کو بری ٹھہرا کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتا ہے یہ سخت غلطی اور گستاخی ہے اس کو چھوڑ دو اور توبہ کرو۔

اب میں اپنی تقریر کو اس خیال پر کہ نماز کا وقت تنگ نہ ہو جاوے اور کبھی اس خیال پر کہ تم میں سے کوئی اکتانہ جاوے اور کبھی اس لحاظ سے کہ کوئی دوسرا نہ کہے کہ میرا وقت لے لیا ختم کرتا ہوں۔ میں نے تمہیں جو کچھ کہا ہے تمہاری بھلائی کے لئے کہا ہے۔ تم میں بعض نوجوان بچے ہیں جو کہتے ہیں کہ زبان کا لائسنس لینے کا حکم نہیں۔ میں نے کہا اخباروں کے لٹریچر کو بدل دو اور کہا کہ دوسرے مذہب کے متعلق اپنی تحریروں کو نرم کرو۔ تو کہا کہ آہن باہن تو اس کو فتنن۔

میں نے کہا کہ دھیمی چال چلو۔ مگر اب سرکاری قانون نے ان سے وہی کرایا جو میں قانون سے پہلے چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کرے مولوی عبدالکریم کو۔ ایک مرتبہ کہا کہ نور دین بہت نرم لکھتا ہے حضرت صاحب نے فرمایا ہم بھی ان کی نرمی پر حیران ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ فطرتیں الگ الگ ہیں بہر حال تم ہماری بات کو سنو اور عاقبت اندیشی سے کام لو۔ میں تم کو وصیت کرتا ہوں او وصیلت بتقوی اللہ۔ تقوی اللہ اختیار کرو۔ میں اسی کو وصیت کرتا ہوں متقی بن جاؤ گے تو دنیا میں بامراد اور کامیاب ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ تم کو ہر قسم کی تنگیوں سے نجات دے گا۔ **مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ** (الطلاق: ۴) تم کو رزق ملے گا۔ تمہارے دشمن ہلاک ہوں گے اور بالاخر علومِ حق تم پر کھولے جاویں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور بہت استغفار کرو تا کہ گناہوں کے برے نتائج سے تم محفوظ رہو اور آئندہ گناہوں کے جذبات سے دبا دیئے جاویں۔ استغفار بہت ضروری چیز ہے اور انبیاء کا اجماعی مسئلہ ہے۔ خدا تعالیٰ کے حضور دعائیں کرو جو اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے اس پر

کھولا جاتا ہے۔ تم میں سے بعض کمزور ہیں قوت فیصلہ نہیں رکھتے اور تاب مقابلہ ان میں نہیں۔ انہیں چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور گر جائیں اور بہت دعائیں کریں الحمد شریف پڑھ کر دعا کریں۔ الحمد شریف، درود شریف، استغفار اور لاجول کثرت سے پڑھا کرو۔ میرا اعتقاد ہے لیکچر دینے میں کلام کرنے میں مسائل کا جواب دینے میں دعاؤں سے کام لو اور الحمد شریف کو ضرور پڑھو تم اس کی عادت ڈالو نامردی اور ناکامی کو دیکھو گے ہی نہیں۔ تمہارا کام دعا کرنا ہو اور سب سے ضروری مسئلہ لا اللہ الا اللہ پر ایمان رکھو۔ بندہ کمزور ہے وہ اللہ ہر آن میں تمہیں کروڑوں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔

پھر ایک اور ضروری مسئلہ کہہ کر ختم کر دیتا ہوں۔ ہمارا سردار بھی اور ہادی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ غور کرو انہوں نے کس طرح دین پھیلایا اور اگر وہ بھی ہماری طرح ہوتے تو یہ دین ہم تک نہ آتا۔ آپ کی ان مشقتوں میں سے جو تبلیغ دین کے لئے اٹھائیں ایک ادنیٰ سی بات ہے کہ طائف میں عبدیاللیل کے پاس گئے اور اس کو خدا کا کلام سنانا چاہا۔ اس نے کہا کہ میں اوروں کو بلا لوں یہ کہہ کر وہ گیا اور تمام لچوں اور شہدوں کو جمع کر کے لے آیا۔ ان سب حرامزادوں کے ہاتھ میں پتھر تھے۔ انہیں کہا کہ جاتا ہے لو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ۱۲ کوس تک بھاگتا گیا اور مجھے نہیں معلوم کدھر جاتا ہوں سر سے لے کر پاؤں تک کے تلوے تک زخمی اور لہو لہان ہو گئے۔ ایک فرشتہ نے اس حالت میں کہا کہ میں پہاڑ کا ملک ہوں اگر حکم ہو تو ان پر پہاڑ ڈال دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں ان کی اولاد اچھی ہو جائے گی۔ یہ ناواقف لوگ ہیں انہوں نے مقابلہ کیا ہے۔ تمہارا دل بھر نہیں آتا یہ ادنیٰ سی مشقت ہے جو انہوں نے تبلیغ دین کے لئے اٹھائی۔ پس کثرت سے ایسے ہادی پر درود شریف پڑھو آپ کے حسن، احسان، بردباری اور مصائب کو دیکھ کر جو اس دین کے پہنچانے میں اٹھائے درود شریف پڑھ کہ آپ کے مدارج بلند ہوں اور آپ کو کامیابیاں نصیب ہوں۔ پس اپنے گناہوں سے استغفار کرو باہم محبت بڑھاؤ، بغض چھوڑ دو۔ جو لوگ اس سلسلہ میں داخل ہیں اور انہوں نے خدا کے فضل سے الہام کا فیض پایا ہے وہ اس فیض کی قدر کریں، خرمستیاں چھوڑ دیں ایسا نہ ہو یہ نصیحت ان کے لئے وبال جان ہو جاوے۔ خدا سے ڈرو کہ اس سے ڈرنے والے ضائع نہیں ہوتے۔^۱



عمارتوں کی تعمیر کی غرض و غایت

﴿ تقریر فرمودہ ۱۵ جون ۱۹۱۲ء ۶ بجے شام بتقریب سنگ بنیاد مکان محترم شیخ رحمت اللہ صاحب بمقام لاہور ﴾

(بعد اصلاح حضرت خلیفۃ المسیح شائع کی جاتی ہے۔ ایڈیٹر)

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ . بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . أَفَمَنْ
أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا
جُرْفٍ هَارٍ فَأَنْهَارُ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (التوبة: ۱۰۹)

تاریخ عالم کا ابتدا معلوم نہیں: عمارتیں دنیا میں بہت بن رہی ہیں، بنتی رہی ہیں اور بنتی رہیں گی اور اس قدر عرصہ سے بنتی آئی ہیں کہ

میرے نزدیک اس پر زمانہ دراز گزر گیا ہے۔ اتنا بڑا زمانہ کہ اگر اب، کھرب، سیکھ مہاں سیکھ بھی کوئی تجویز کرے اور اس کو سیکھ مہاں سیکھ کے غیر نہایت عدد سے ضرب دے پھر بھی وہ اس وقت تو احق و نادان ہے جو تجویز کرے کہ دنیا کب سے آباد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس حقیقت اور زمانہ کو سمجھتا ہے۔ تو رات میں بھی تاریخ لکھی ہے۔ ویدوں سے بھی تاریخ کا پتا دیا جاتا ہے۔ زندگی اور گاتھ سے بھی زمانہ کی تاریخ ظاہر ہوتی ہے۔ دساتیر میں تاریخ عالم ہے مگر قربان جاؤں اس کا کتاب قرآن کریم کے جس نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی حد بندی نہیں کی۔ قرآن مجید نے نہیں بتایا کہ دنیا کب سے ہے اور یہ سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے رب، رحمن، رحیم، داتا، بخشہار ہے۔ اس کی کوئی حد مقرر نہیں کہ اس قدر عرصہ سے ہے۔ پس قرآن کریم کو پڑھ کر اور سمجھ کر میرا ایمان یہی ہے کہ معلوم نہیں کہ دنیا کب سے قائم ہوئی ہے؟ میں اس کتاب پر دل و جان سے قربان ہوں جس نے ہر امر میں ایسی راہ بتائی ہے جو نہایت محفوظ اور مامون ہے اور اس پر کوئی زد اور اعتراض ہو نہیں سکتا۔

پس جب ہمیں قطعاً معلوم نہیں کہ شیخ صاحب سے حضرت اقدس کا وعدہ: دنیا کب سے ہے تو یہ امر صاف ہے کہ

کسی غیر معلوم زمانہ دراز سے عمارتیں بن رہی ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں اس کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں۔ میرے آقا، میرے محسن (حضرت مسیح موعودؑ) نے شیخ صاحب (شیخ رحمت اللہ صاحب) سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی عمارت کی بنیاد اپنے ہاتھ سے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا منشاء ایسا ہی ہوا کہ آپؐ کے اس وعدہ کی تعمیل آپؐ کا ایک خادم کرے۔ شیخ صاحب نے لکھا کہ تم آؤ۔ میں بیمار ہوں اور بعض اعضاء میں درد کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے مگر میرے دل میں یہ جوش ہے کہ اپنے پیارے کے منہ سے نکلی ہوئی بات پوری کرنی چاہتا ہوں۔ مجھے رسومات اور بدعات سے نفرت ہے اور سنت سے محبت ہے۔ آج نہیں بچپن سے میری فطرت میں یہ ایک جوش ہے کہ وحدہ لا شریک کا فدا ہوں اور شرک سے کلی بیزار ہوں اور ایسے امور سے نفرت کرتا ہوں جن میں کوئی رسم و بدعت ہو۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے مجھ پر کوئی زمانہ ایسا نہیں آیا کہ میں نے شرک و بدعت کو پسند کیا ہو۔

غرض عمارت جیسا کہ میں نے کہا لا انتہا زمانہ سے بنتی چلی آئی ہیں اور بنتی چلی جائیں گی۔ لاہور ایک ایسا شہر ہے کہ بہت پرانی تاریخ میں اس کا پتا ملتا ہے۔ سفینۃ الاولیاء میں داراشکوہ کا قول میں نے پڑھا ہے کہ تیس ہزار قرآن کریم کے حافظ اس وقت یہاں تھے جب وہ یہاں اترے ہوئے تھے۔ یہ لمبا زمانہ نہیں۔ ایک ہزار ہجری کے بعد کا زمانہ ہے بلکہ بہت ہی قریب کا زمانہ ہے۔ اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تیس ہزار کے بدلہ میں تین ہزار بھی ہوں۔ اس وقت تو تیس ہزار وہ تھے جو بادشاہ کے سامنے ثبوت دے سکتے تھے اب ایسے نہ ملیں۔ چونکہ ان کو میر صاحب سے ارادت تھی اس لئے ان کے حرم سرا سے وہاں تک جانے کے لئے ایک پردہ دار سڑک بنی ہوئی تھی۔

پھر اس سے بھی پیچھے جائیں تو محمود غزنوی کے زمانہ میں بھی لاہور کے تاریخ عمارت کے عجائبات معلوم ہوتے ہیں۔ محمود بڑا عاقبت اندیش تھا ان سے غلطیاں بھی ہوئیں، نیکیاں بھی ہوئیں۔ فارسی کا رواج انہی نے ڈالا۔ اس کے بیٹے ابراہیم نے لاہور دار السلطنت تجویز کیا تھا۔ رنگ محل کے ادھر ایاز کی قبر ہے جو ایک کشمیری پنڈت تھا اور مسلمان ہو گیا تھا۔ محمود غزنوی کو اس سے بہت محبت تھی اور ان کے محبت کے بڑے اسباب لکھے ہیں۔ منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ جب محمود قنوج پر حملہ آور ہوا تو بعض لوگوں کو تعجب ہوا کہ ایک کشمیری پنڈت سے جو نو مسلم ہے اس قدر محبت

کیوں ہے؟ محمود کو یہ بات پہنچی۔ راستہ میں محمود نے ایک پہاڑی کی طرف جھک کر دیکھا۔ لوگوں نے خیال کیا کہ قدرت کا نظارہ کرتے ہوں گے مگر ایاز فوراً اپنی فوج کا دستہ لے کر پہاڑی پر چڑھ گیا۔ تب محمود نے کہا کہ ایاز سے پوچھو وہ پہاڑی پر کیوں چڑھ گیا۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں بادشاہ عاقبت اندیش ہے بے وجہ نلکی حرکات نہیں کرتا اور اس کا دیکھنا بے وجہ نہیں۔ محمود نے جب پہاڑی کو دیکھا تو میں نے سمجھا کہ کوئی خطرہ ضرور ہے۔ اس پر محمود نے ان لوگوں کو کہا کہ ایاز ہمارا مزاج شناس ہے اور خدمت کرتا ہے۔ اس ایاز ہی کی قبر کولا ہو رہی کم جانتے ہیں۔ میں تو عبرت کے لئے وہاں چلا گیا۔ اس سے پہلے عربوں کے حملہ کے وقت بھی آباد تھا۔ غرض میرا مقصد لاہور کی تاریخ بیان کرنا نہیں۔ یہ ایک تاریخی مقام ہے سب جانتے ہیں۔ پس میں اصل غرض بیان کرتا ہوں۔ عمارتیں ہمیشہ سے دنیا میں بنتی ہیں، بنتی رہیں گی اس عمارت کے ارد گرد بھی تازہ عمارتیں بنی ہوئی اور بن رہی ہیں۔

اس عمارت سے ہمارا شخصی اور قومی تعلق: مگر اس عمارت کے ساتھ ہمارا ایک خاص تعلق ہے اور یہ تعلق شخصی بھی ہے اور قومی

بھی۔ شخصی تو یہ کہ حضرت صاحب نے وعدہ فرمایا تھا کہ اس عمارت کی بنیاد رکھیں اور حضرت صاحب کا ایک خادم اس وعدہ کو پورا کر دے۔ قومی تعلق یہ ہے کہ اس عمارت میں ہماری قوم (حضرت خلیفۃ المسیح مدظلہ العالی کا اشارہ اس وصیت کی طرف ہے جو شیخ صاحب نے اپنی جائیداد کے متعلق کی ہوئی ہے کہ اس کا تیسرا حصہ قومی خدمات کے لئے ہوگا۔ ایڈیٹر الحکم) کا بھی ایک حصہ ہے اس لئے قوم کو چاہیے کہ درد دل سے دعا کرے کہ انجام بخیر ہو اور اس مکان میں جو بسنے والے ہوں جو اس کے مہتمم ہوں وہ راستباز ہوں اور نیکی سے پیار کریں۔ اگر اس مکان کے رہنے والے سچے، راستباز اور متقی مومن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بڑھائے گا اور پھیلائے گا اور جس قدر یہ عمارت بڑھے گی اسی قدر ہماری قوم متمتع ہوگی کیونکہ اس کا اس سے تعلق ہے۔

میں نے کہا ہے کہ میں ہمیشہ سنت کو پسند کرتا رہا ہوں اس لئے میں نے قرآن کریم میں غور کیا ہے کہ

قرآن مجید میں کسی عمارت کا پتھر رکھنا ہے یا نہیں یا یوں ہی ایک بات بنالی ہے تو میری توجہ اس آیت

کی طرف ہوئی جو میں نے پڑھی ہے کہ بعض عمارتوں کی بنیادیں تقویٰ پر ہوتی ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ یہ آیت مسجد نبوی کے متعلق ہے۔ اس مسجد نبوی کے مقابلہ میں بھی ایک پتھر رکھا گیا تھا مگر انجام کیا ہوا؟ اس کو جڑھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا اور وہ جگہ نجاست پھینکنے کا میدان بنا۔ یہ لمبا قصہ ہے وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کو بیان کروں۔

یہ تو ہماری سرکار ہمارے مقتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیاد رکھنے کا ذکر ہے۔ اس سے بھی بہت پہلے ایک پتھر رکھا گیا تھا اور وہ وادِ غیر ذی زرع میں رکھا گیا جو ابو المملۃ ابراہیم نے رکھا تھا۔ اس پتھر کے متعلق بہت وسیع باتیں ہیں۔ وہ بنیادی پتھر اب تک موجود ہے اور حاجیوں کو تاکید ہے کہ وہاں چکر لگا کر ابراہیمی دعائیں کریں۔ حضرت ابراہیم نے سات عظیم الشان دعائیں مانگی ہیں اور سات دفعہ چکر لگانے کا حکم ہے۔ ہاجرہ وہاں سات دفعہ چلی ہے اور سات ہی وہاں نشان (آیات اللہ) ہیں۔ اس عمارت کی بنیاد اسی تقویٰ اور رضا الہی پر رکھی گئی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسی بابرکت ہے اور مدینہ طیبہ کی وہ عمارت جس کا پہلے ذکر کیا ہے۔ آج دنیا پر اس کی وسعت پھیلی ہوئی ہے اور وہ بڑی ہی بابرکت ہے۔ غرض مکہ معظمہ کی عمارت بھی تقویٰ پر رکھی گئی اور مدینہ منورہ کی عمارت بھی۔ میں اس عمارت کی بنیاد اسی نیت اور غرض سے رکھتا ہوں۔ ہم اس وقت حضرت صاحب کے خاندان کے پانچ آدمی موجود ہیں۔ (خلیفۃ المسیح، صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد، صاحبزادہ بشیر احمد، صاحبزادہ شریف احمد، نواب محمد علی خان صاحب)

اور میں نے کہا ہے کہ ساری قوم کا اس عمارت میں حصہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ درد دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بابرکت کرے اور شیخ صاحب جن سے ہم کو محبت ہے ان کی اولاد کو بھی ہمارے ساتھ محبت بخشے۔ میں شکایت نہیں کرتا بلکہ دعا کے رنگ میں چاہتا ہوں کہ وہ ایسے ہوں۔ وہ بڑے سفروں میں جاتے ہیں مگر ہم سے اس طرح پر نہیں ملتے جس طرح ان کے والد ملتے ہیں۔ اب میں دعا کر کے ایک اینٹ رکھ دیتا ہوں پھر میرے بعد صاحبزادہ مرزا محمود اور بشیر اور شریف اور نواب صاحب دعا کر کے ایک ایک اینٹ رکھ دیں۔ یہ فرما کر آپ نے ایک اینٹ لی اور نہایت توجہ الی اللہ کے ساتھ دعا کر کے اسے ایک مقام پر رکھ دیا اور پھر صاحبزادہ صاحبان نے ارشاد

کے موافق ایک ایک اینٹ رکھی اور بالآخر نواب صاحب نے رکھی۔ اس موقع پر نواب صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دامادوں کے متعلق تو بڑی بڑی بحثیں ہوئی ہیں اس لئے آپ ضرور دعا کر کے اینٹ رکھ دیں۔ میں دعاؤں کا بڑا معتقد ہوں۔ یہ کلمہ میاں شریف احمد صاحب کے اینٹ رکھنے پر فرمایا۔

اس کے بعد آپ نے اور حاضرین نے دعا فرمائی بعد دعا فرمایا۔ جس غرض کے لئے ہم آئے تھے خدا کے فضل سے ہم اس سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اب ہم آزاد ہیں۔

ایڈیٹر الحکم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ شیخ صاحب سے کہہ دو کہ ہم آپ کے کام سے فارغ ہو چکے اور حضرت صاحب کے وعدہ کو خدا تعالیٰ کے فضل سے پورا کر چکے ہیں۔ اب ہم آزاد ہیں خواہ صبح چلے جاویں یا شام کو۔ (میں نے شیخ صاحب کو یہ پیام اسی وقت پہنچا دیا کیونکہ وہ پاس ہی موجود تھے۔ یہ سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور نہایت رقت بھرے لہجہ میں عرض کیا کہ جو غلام ہو اس کو آقا کو آزاد کرنے کی کیا جرأت۔ (ایڈیٹر الحکم) اس پر فرمایا: مجھے قادیان سے باہر مزہ نہیں آتا۔ میں کیا کروں میری حالت ہی ایسی ہے (چونکہ حضرت کے منشاء سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ۱۶ کی صبح کو ہی چل دیں مگر احباب لاہور نے حضرت کے ایک عام لیکچر کا اعلان کیا تھا اس لئے میں نے عرض کیا کہ کل ۱۶ کی شام کو تو حضور کے ایک لیکچر کی تجویز ہے۔ ایڈیٹر الحکم) فرمایا۔ اچھا۔ اس ضمن میں پھر ازراہ کرم خاکسار ایڈیٹر کو فرمایا کہ میں نے ایک خاص رنگ میں قوم کو دعا کے لئے توجہ دلائی ہے۔ اس عمارت میں قوم کا ایک حصہ ہے۔ اس طرح یہ تقریب بعافیت ختم ہوئی۔

سنگ بنیاد کی تقریر کے ضمن میں بعض ارشادات: سنگ بنیاد کی تقریب جب حضرت فرمانے لگے تو صاحبزادہ صاحب

کو بلا کر اپنے پاس کھڑا کیا اور پھر نواب صاحب (جو پیچھے کھڑے تھے) کو بلا یا کہ آگے آؤ۔ ان میں ان کو کھڑا کیا اور پھر خود کرسیاں لانے کے لئے حکم دیا اور ان چہار بزرگوں کو اپنے سامنے بیٹھنے کا حکم دیا۔ ان کو بیٹھنے میں تردد تھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح کھڑے ہیں۔ فرمایا میں تو تمہاری خدمت کرتا

ہوں اور تمہارا ہی کام کر رہا ہوں۔ تمہارے باپ کی جو میرا محسن اور آقا ہے میرے دل میں بڑی عظمت ہے آپ بیٹھ جاویں۔ میں تو کھڑا ہو کر ہی تقریر کروں گا۔ میں بیٹھ کر تقریر کرنے کا عادی نہیں اور نہ ہمارے سلف سے یہ ثابت ہے۔ ہمارے سلف جب کوئی چھوٹی یا بڑی تقریر کرتے تھے تو وہ کھڑے ہو کر ہی کرتے تھے۔ میں تو لمبی تقریریں بھی کھڑے ہو کر کرتا ہوں اور یہ تو چھوٹی سی تقریر ہے۔

(الحکم ۱۴ جولائی ۱۹۱۲ء۔ صفحہ ۲، ۳)



خلافت، اس کا حقدار اور امر خلافت میں روک

﴿تقریر فرمودہ ۱۶ جون ۱۹۱۲ء بمقام مسجد احمدیہ بلڈنگس لاہور بوقت صبح﴾

(حضرت خلیفۃ المسیحؑ کی اصلاح و تصدیق سے شائع ہوئی۔ ایڈیٹر)

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

(ال عمران: ۱۰۳-۱۰۶)

لیکچراروں کی تقسیم اور اپنا منصب: مجھے باتیں بنانی بھی آتی ہیں اور بولنا بھی آتا ہے اور مختلف مضامین پر بول سکتا ہوں

مگر مجھے بڑی سہولت ہے کہ مجھے ایک ہی مضمون پر بولنا پڑتا ہے۔ دنیا میں لوگوں کو بڑے بڑے مضامین کی ضرورت ہوتی ہے اور انہیں بہت سی ضرورتیں بولنے کی پیش آتی ہیں۔ ایک آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا دماغ ایسا بنایا ہوتا ہے کہ وہ سیاست پر گفتگو کرتا ہے اور تمام دنیا کی سلطنتوں کے سیاسی اصولوں سے واقفیت رکھ کر بولتا ہے اور تمدن، اپنی حفاظت، خودداری اور دوسروں کو کمزور کرنے کے اصولوں پر بولتا ہے۔ ہماری سلطنت ہندوستان میں تو رہی نہیں۔ باہر اگر کچھ ہے تو اس کے لئے بھی آوازیں آرہی ہیں کہ یہ بھی دے دو۔ پس نہ ہمارے حکمران اس بات کو پسند کرتے ہیں اور نہ ہماری موجودہ حالت اجازت دیتی ہے کہ سیاسی امور میں ہم دخل دیں اور ان پر بولیں۔ بہت لوگ

تمدن پر لیکچر دیتے ہیں کس طرح شہرت ہو اور کبھی تمدن کی ان شاخوں پر بحث ہوتی ہے کہ شہرت کے بعد شہر میں کیونکر گزارہ کریں۔ اور کبھی وہ دولت، تجارت اور حرفوں کے متعلق بولتے ہیں اور کبھی مادی ترقی اور اقتصادی امور پر بولتے ہیں اور کبھی حفظانِ صحت پر لیکچر دیتے ہیں۔ کبھی حکام سے تعلقات اور اپنی ملکی اور مقامی ضروریات پر بولتے ہیں۔ کبھی ہمسایہ اور دوسری قوموں پر بڑھنے کی تجاویز کے متعلق بولتے ہیں۔

غرض مختلف قسم کے لیکچرار ہوتے ہیں اور ان کی اغراض اور موضوع مضامین الگ ہوتے ہیں۔ پھر اسی لحاظ سے مختلف قسم کے اخبارات ہوتے ہیں۔ ان اخبارات نے اپنے اپنے مقاصد کے لحاظ سے کچھ فرض، سنت، واجب بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی شریعت کے سنن اور فرائض اور واجبات نہیں ہوتے بلکہ ان کے اپنے ایجاد کردہ ہوتے ہیں۔ مگر میرا بیان ان سب سے علیحدہ ہے۔ میرا دماغ خدا تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ میں مختلف قسم کے مضامین پر بول سکتا ہوں اور خوب بول سکتا ہوں۔ میں اپنی جگہ امور سیاست پر بھی غور کرتا ہوں اور خوب غور کرتا ہوں اور خیالی لذت قرآن کریم کی سیاسی آیات سے اٹھالیتا ہوں۔ کبھی تجارت، حرفت اور حفظانِ صحت پر غور کرتا ہوں اور قرآن کریم کی ان آیات پر غور کرتے کرتے دور چلا جاتا ہوں جو ان اصولوں کو اپنے اندر رکھتی ہیں۔ میں کبھی فنونِ جنگ پر بھی سوچتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صحبت نے ایسی گروہ تیار کر دی تھی کہ جب لڑائی کو جاتے تھے تو ساٹھ ہزار کے مقابلہ میں تین ہزار کافی ہوتے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظام تھے۔

اسلامی تاریخ کا ایک واقعہ: ایک جنگ میں خالد بن ولید اور ضرار تھے۔ ضرار دشمنوں کے ہاتھوں میں قید ہو گئے۔ خالد کو ان کے قید ہونے کا

سخت رنج ہوا۔ انہوں نے کہا کہ تمیں آدمی ساٹھ ہزار کے لئے کافی ہیں اور عبیدہ بن جراح نے کہا کہ ساٹھ آدمی لے جاؤ۔ حالانکہ مخالفوں کا کمانڈر انجیف ۵ لاکھ لے کر مقابلہ پر تھا۔ خالد بن ولید کو ضرار کی قید کی خبر سن کر نیند نہ آئی۔ حضرت عبیدہ سے کہا کہ کوئی ایسی بات ہو کہ ضرار کو چھڑا لاؤں۔

رات بھر دعا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی قبولیت کو یوں رنگ دیا کہ ہر قل کی افواج کے کمانڈر انچیف ہامان نے کہا کہ مسلمان ہر روز مقابلہ کرتے ہیں اور ہم کو شکستیں ہوتی ہیں۔ ان شکستوں سے بھی بدنامی ہوتی ہے۔ پھر کیوں دھوکا سے ان کے چیدہ افسروں کو قتل نہ کر دیں۔ اس دھوکا سے قتل کرنے پر بھی بدنامی تو ہوگی مگر شکستوں کی بدنامی کے مقابلہ میں ہم کو اس بدنامی کو اختیار کرنا چاہئے۔ چنانچہ اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کے بعد خط لکھا کہ خالد بن ولید اور فلاں فلاں پانچ آدمی جو اسلامی لشکر کے منتخب افسر اور بہادر ہیں۔ ان کو آپ بھیج دیں تاکہ آپ کے لائق آفیسروں سے صلح اور امن کی گفتگو کریں اور تجویز یہ تھی کہ صلح اور امن کی گفتگو کے بہانہ سے انہیں بلائیں اور جب وہ یہاں آئیں تو انہیں قتل کر دیں۔ اس تجویز کے بعد ابو عبیدہ کے پاس آدمی بھیجا گیا۔ انہوں نے تو یہ تجویز اپنی کامیابی کے لئے ایک زبردست منصوبہ سمجھی تھی مگر میں اس کو ان دعاؤں کی قبولیت کا کرشمہ سمجھتا ہوں۔ میں دعاؤں کا بہت معتقد ہوں۔ میں بڑھا ہو گیا اور میرا یہ ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ غرض جب اسلامی فوج کے ان عہدہ داروں کی طلبی کے لئے آدمی پہنچا تو ابو عبیدہ نے ذکر کیا کہ ہامان پانچ آدمی بلاتا ہے۔ خالد نے کہا ہم ضرار کی رہائی کی دعا کرتے رہے ہیں شاید اسی تجویز سے ضرار چھوٹ جاوے۔ خالد نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر سو آدمی جاویں۔ شاید ضرورت پڑ جاوے۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ وہ تو صرف مشورہ چاہتا ہے۔ مگر خالد نے کہا کہ خواہ مشورہ ہی ہو۔ سو کے جانے میں ہرج ہی کیا ہے۔ خالد نے سو آدمی ساتھ لئے اور ان کو کہا کہ ہر وقت چوکس رہنا اور دوسرا کام یہ کرنا کہ پھرتی سے ہامان کو گھیر لینا۔ پھر دیکھا جاوے گا۔ چنانچہ اس تجویز کے موافق جب وہاں گئے تو خالد کے ساتھ سو آدمی تھے۔ ہامان نے کہا کہ ہم پسند نہیں کرتے کہ سو آدمی آویں مگر ادھر سے خالد نے جواب دیا کہ ہم لڑنے کے واسطے نہیں آئے۔ قرآن کریم میں حکم ہے **وَ اَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ** (الشوریٰ: ۳۹) اس لئے میں ان کو یہاں لایا ہوں کہ اگر مشورہ کی ضرورت پڑ جاوے تو باہم مشورہ کر لیں۔ فریق مخالف نے پھر روکا اور اعتراض کیا کہ صرف خالد کی ملاقات کا منشا ہے مگر پھر کہا گیا کہ اس جماعت کو صرف ضرورت مشورہ کے لئے لایا گیا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اچھا پھر ہتھیار پہن کر نہ آویں مگر خالد نے کہا

کہ ہتھیار تو صرف ہمارا لباس ہے ہم ننگے کس طرح پر آ سکتے ہیں۔ آپ یہ اندیشہ کیوں کرتے ہیں جنگ میں سو آدمی اتنی بڑی فوج کے سامنے کیا حقیقت رکھتے ہیں۔ یہ بات ان کی سمجھ میں بھی آگئی اور انہوں نے ان کو بلا لیا۔ اندر جا کر انہوں نے اتنی پھرتی کی کہ ہامان بیچ میں گھر گیا۔ خالد آگے بڑھے تو ہامان نے کہا کہ میں نے تو صرف تم کو بلا یا تھا اتنے آدمیوں کو کیوں تکلیف دی۔ خالد نے کہا کہ مشورہ کے لئے لایا ہوں اگر ضرورت پڑے تو یہاں ہی مشورہ ہو جاوے۔ اس وحدت نے یہ فائدہ دیا کہ وہ خوشامد کی باتیں کرنے لگا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ذرا بھی رنگ بدلاتو خیر نہیں۔ غرض اس نے جب بہت محبت اور خوشامد کا اظہار کیا تو خالد نے کہا کہ ہمارا کمانڈر انچیف کیا سمجھے گا کہ آپ نے محبت سے ہم کو بلا یا ہے اس کے لئے کوئی نشان چاہئے۔ مرنے جینے کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو کیا نشان دوں۔ خالد نے کہا مال و دولت کی ہمیں ضرورت نہیں۔ ہمیں تم ضرار کو دے دو اور اس کے ساتھ ہی کہا کہ اب وہ یہاں آ جانا چاہئے کیونکہ وہ میری جوڑی کا سپاہی ہے میں پسند نہیں کرتا کہ تنہا جاؤں۔ آخر اس نے سوچ لیا کہ یہ سو آدمی ہے اور مرنے مارنے پر تیار ہے یا تو میں یہاں ہی مرتا ہوں اور یا یہ ضرار کو لئے بغیر نہ جائے گا اس لئے ضرار کو بلا یا مگر ضرار نے کہا کہ میں نہیں جانا چاہتا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا تامل ہے۔ اس نے کہا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک وہ چار سپاہی جو میرے ساتھ قید ہیں میرے ساتھ نہ ہوں۔ آخر ان کو بھی بلا یا گیا اور ان سب کو خالد کے ساتھ روانہ کر دیا گیا اور وہ بڑی خوشی سے مکان پر آ گئے۔ یہ بات تھی کہ ان میں ایک دوسرے کی ہمدردی عاقبت اندیشی ہر معاملہ میں گہری نگاہ کرنا موجود تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے جنگوں میں تمدن اور معاشرت میں نمونہ دکھا دیا تھا اور وہ اس امتحان اور مدرسہ میں پاس ہو چکے تھے وہی لوگ تھے جنہوں نے خشن پوش ہو کر ایک ایک اونٹ یا بکری کے مالک ہو کر جب باہر نکلے تو انہوں نے تمدن و معاشرت کے اصول وضع کئے اور سلطنت قائم کی اور بڑے بڑے فتوحات کئے۔ اس قسم کے عجائبات ان کے سیاسی امور میں ہیں کہ اگر ان کی صرف غیر قوموں کی تقریروں ہی کو کوئی الگ کر کے پڑھے تو ساری دنیا کی سیاسی عقل آ سکتی ہے۔ ان تقریروں میں بڑی بڑی قوموں کے سیاسی امور اور عاقبت اندیشیوں کے اشارات ہیں۔

موجودہ حالت: مگر اب مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے

کہ ایک مسلمان نے کہا کہ وہ قلعہ فتح کر لیا۔ میں حیران ہوا کہ اب قلعہ کہاں فتح ہوا۔ اس کے دوست سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ”ایک کنواری سے زنا کر لیا“ افسوس اب ایک ہی کمال رہ گیا ہے۔ لاہور میں اتنے اشتہار قوت باہ کے نکلتے ہیں کہ شاید سارے ہندوستان میں نہ ہوں اور ان میں زمین و آسمان کے فلا بے ملا دیتے ہیں۔ امساک اور قوت باہ کا اتنا دعویٰ ہوتا ہے کہ پڑھنے والا حیران رہ جاتا ہے۔ ایک اور اشتہار سیالکوٹ یا کسی اور جگہ سے نکلتا ہے ”سنیاس کا نچوڑ اور لوہے کی لٹھ“ غرض اب ساری طاقت اسی ایک طاقت کے مضبوط کرنے میں رہ گئی ہے۔ غرض مجھے سیاسی امور پر لیکچر دینے کی ضرورت نہیں نہ میں خود سپاہی ہوں نہ سپاہی بنانے لگا ہوں۔ میرا باپ شاید سپاہی ہو کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ایک کوٹھالیروں، کمانوں اور بندوٹوں کا بھرا ہوا تھا۔ میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ یہ کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہ ہو تو کیا یہاں امن رہ سکتا ہے۔ وہ قرآن بہت پڑھتے تھے اسی کا اثر ہے کہ مجھے بھی قرآن کریم سے بڑی محبت ہے۔ غرض نہ میں نے پولیٹیکل لیکچر دینا ہے نہ اکانمی اور اقتصاد پر تقریر کرنی ہے۔ میں مختصر سی بات کے لئے کھڑا ہوا ہوں کرسی کی ٹیک سے کام لے رہا ہوں ورنہ پاؤں اجازت نہیں دیتا۔

مصنفین اسلام: پھر اسلام میں بڑے بڑے لکھاری (مصنفین) موجود ہیں۔ امام رازی (جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی ہے) چھوٹی سی بات پر ہزاروں صفحے لکھ سکتا

ہے۔ ان کے بعد تقسیم مضمون، سلاست بیان اور عمدہ طور پر ذہن نشین کرنے والے امام غزالی ہیں اور انہوں نے نہایت مفید اور بابرکت کتابیں لکھی ہیں جس خوبی سے انہوں نے مضامین کو کھولا ہے اس کی نظیر کم ملتی ہے میں تیرہ سو برس کے مصنفوں میں تین کا نام لے سکتا ہوں تیسرے ابن سینا ہیں اپنے فن کا بڑا لکھنے والا ہے۔ ایسا احاطہ خیالی طور پر مضامین کا کرتا ہے کہ ڈاکٹر بڑی محنت اور جدوجہد کے بعد کوئی بات نکالتے ہیں تو اس کے احاطہ سے باہر نہیں۔

اس زمانہ میں تحریر ایک خاص فن ہے ہمارے حضرت کو اللہ تعالیٰ نے خاص توفیق بخشی تھی تحریری رنگ میں آپ کو اعجازی نشان دیا گیا تھا۔ میں بھی آپ کی زندگی میں کچھ لکھ دیا کرتا تھا مگر

آپ کے بعد ایک اور ضرورت کو میں نے مد نظر رکھا ہے اور اس سے فرصت نہیں ہوتی وہ کیا؟
میں تمہارے لئے دعا کرتا ہوں۔

پس اب نہ مجھے کسی لمبی تقریر کی ضرورت ہے اور نہ تحریر کی میں چند باتیں تمہاری بھلائی اور
تمہارے فائدہ کے لئے کہتا ہوں اور خدا کی رضا کے لئے کہتا ہوں۔

اختلاف کا نظارہ:
میں دیکھتا ہوں تم یہاں تھوڑے سے آدمی ہو مگر سب کی پگٹیاں الگ
کوٹ الگ جوتے جدا جدا ہیں۔ طرز غذا الگ ہے چہرہ کے خط و خال

قد آواز سب جدا جدا ہیں۔ اس طرح پر تو یہ اختلاف اور بھی بڑھا۔ پھر ہر ایک کی صحبتیں الگ،
مذاق الگ، کتابوں کے مطالعہ الگ، خیالی سلسلے الگ اور اب یہ دائرہ اختلاف اور بھی وسیع ہو گیا اور
اگر غور کرو تو یہ اختلاف پیدائش سے ہی شروع ہے کسی کی ماں کسی تمدن کی ہے اور کسی کی کسی رنگ کی۔
میری ماں ایک اعوانی عورت تھی ان میں مردوں کی تعلیم کی طرف بھی توجہ نہ تھی۔ چہ جائیکہ عورتوں کی
طرف ہو مگر میری ماں خدا کے فضل سے پڑھی ہوئی تھی۔ غرض ہر ایک کے ماں باپ کی تربیت جدا۔
پھر محلہ کے لڑکوں کی صحبت کا اثر جدا۔ اسی سے آگے چل کر سکولوں اور بورڈنگ ہاؤسوں میں ایسی
تعلیم کی ہوا چلتی ہے کہ ہمارے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں، شیطان کو ہوگی۔ پھر کلبوں، ڈبھیوں، ناولوں
اور اخباروں کے موثرات۔ پھر ہر مضمون پر اس قدر رسالے اور اخبارات ہوتے ہیں کہ بعض وقت
انسان حیران ہو جاتا ہے مجھے بھی کتابیں پڑھنے کا جنون ہے مگر آجکل اس قدر رسالے، اخبارات
اور کتابیں نکلتی ہیں کہ ان سب کا پڑھنا آسان نہیں۔ پھر ہر ایڈیٹر اخبار کا فرض ہے۔ خدا کا فرض ادا
ہو یا نہ ہو مگر وہ قوم کے لئے ایک فرض رکھتا ہے اگر اسے ادا نہ کیا گیا تو قوم کو سخت نقصان پہنچے گا اور
وہ ہلاک ہو جائے گی اور قوم نہ رہے گی وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی پر زور تحریروں سے فلاں کو ہلاک کر دیا
اور فلاں کو بگاڑ دیا۔ وہ اوروں کے بگاڑنے اور بنانے کے مدعی ہیں مگر اپنا کچھ نہیں بنا سکتے۔ غرض ان
اخبارات اور رسالوں کی اس قدر کثرت ہے کہ میں تو ان کی طرف توجہ بھی نہیں کر سکتا۔ کتابیں پڑھنے
کا مجھے ایسا خیال اب بھی ہے کہ لاہور میں داخل ہوا تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ میری جیب میں کچھ
روپیہ ہیں۔ کچھ بیوی کو دے دوں گا اور کچھ بچوں کو دے دوں گا اور کچھ میرے پاس رہیں گے ان

سے ایک کتاب منگوائی اس کے بیسیوں نسخے کیا شاید سو کی تعداد میں ہمارے ہاں ہوں۔ مگر میں نے اس کا ایک نسخہ اور منگوا لیا باوجود اس وسیع تجربہ کے میں دیکھتا ہوں کہ اگر میں کچھ کہوں تو شاید میری بات مانو یا نہ مانو۔

میرے بھی اختلاف ہیں عمر، علم، مجلس، صحبت کتابوں کے مطالعہ کی کمی بیشی کے لحاظ سے ہزاروں ہی اختلاف ہیں اور سچ تو یہ ہے کہ یہ اختلاف کا نظارہ مٹ نہیں سکتا۔ اختلاف تو دنیا میں رہے گا ہی لَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (ہود: ۱۱۹) مگر باوجود اختلاف کے گورنمنٹ کی تلوار نے کیسا جھکایا ہوا ہے۔ تمہارے ساتھ کی قومیں ایچی ٹیشن پھیلاتی ہیں اور بعض اوقات اپنے خیال کے موافق فائدہ بھی اٹھاتی ہیں اور انارکسٹ پیدا ہوتے ہیں اور ایسی باتوں سے بزعنم خود کچھ حقوق پیدا کر لئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تمہارا نام و نشان مٹا دیں مگر خدا کا فضل ہے کہ تم ان حرکات سے بچے ہوئے ہو اور ایسی راہوں سے الگ ہی رہنا چاہئے کیونکہ اسی میں برکت ہے۔ غرض اختلافات کا سلسلہ وسیع اور اختلاف کا نظارہ دلربا ہے۔ اختلاف دنیا سے مٹ نہیں سکتا۔ وہ رونق عالم کا موجب ہے جبکہ ایک وحدت کے نیچے ہو۔

پس میں تمہیں تمہارے خالق کا کلام سنانے کو میری غرض درس کلام الہی ہے: کھڑا ہوا ہوں۔ وہ تمہاری فطرتوں کا خالق ہے

اور فطرت کا صحیح اور کامل علم رکھتا ہے۔ اس خالق الفطرت نے تمہیں کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو تم نہ کر سکو بلکہ وہ احکام دیئے ہیں جو تمہاری طاقت اور مقدرت کے نیچے ہیں۔ چنانچہ وہ فرماتا ہے لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا أَوْسَعَهَا (البقرة: ۲۸۷) انسان کی تمکن، وسعت اور فعل اور ترک فعل کی جو مقدرت اسے حاصل ہے۔ اسی وسعت ممکن کے ساتھ ہم حکم کرتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں کہتے جو کہ طاقت سے باہر ہو۔ یہ بالکل جھوٹ ہوگا اگر کہہ دو کہ فلاں امر و حکم ہماری طاقت سے باہر ہے کیونکہ یہ آیت قرآنی شہادت ہے۔

پس اگر میں کچھ کہوں تو تم کہہ سکتے ہو کہ تم فطرت سے آگاہ نہیں۔ لیکن جب میں کلام الہی سناتا ہوں جو خالق و عالم فطرت کا کلام ہے تو تمہارا یہ اعتراض بھی اڑ جائے گا۔ فسوس ہے لوگوں

نے فطرت کے معنی بھی گندے کر لئے ہیں اور فطرت کو شرارت کا مفہوم قرار دے دیا ہے مگر یاد رکھو فطرت دینِ قیوم کا نام ہے۔ پس تمہارا یہ عذر کہ ہماری طاقت سے باہر یا فطرت کی استعداد کے خلاف ہے میری اپنی تقریر پر تو ہو سکتا ہے مگر خالق و مالک کے کلام پر نہیں اور میں وہی پیش کرتا ہوں۔

اس کلام کا علم اور قدر جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی وہ اس سے ظاہر ہے جو قرآن کریم کے متعلق فرمایا ذَلِكِ الْكِتَابُ لَارْيَبَ فِيهِ (البقرة: ۳) یہی ایک کتاب ہے جس میں کوئی ہلاکت کی راہ نہیں یا شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ رَيْبَ کے دو معنی ہیں شک و شبہ اور ہلاکت اور دونوں ہی یہاں خوب لگتے ہیں۔ قرآن کریم میں شک و شبہ نہیں بالکل درست ہے اس کی ساری ہی تعلیم یقینیات پر مبنی ہے ظنی اور خیالی نہیں یا آجکل کی اصطلاح میں یوں سمجھ لو کہ قرآن مجید میں تھیوریاں نہیں بلکہ بصائر ہیں وہ يَهْدِي لِيَّتِي هِيَ اَقْوَمُ (بنی اسرائیل: ۱۰) ہے۔

پھر قرآن مجید میں ہلاکت کی راہ نہیں یہ بھی سچ ہے کیونکہ اس میں تَوْشِعَاءُ لِلنَّاسِ ہے۔ غرض کلام الہی کی تعریف کی حد کر دی کہ یہی ایک کتاب ہے اور کتاب ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا عمل کیا کہ اس کے سوا اور کوئی کتاب دیکھی ہی نہیں۔ تورات ممکن تھی مگر اس کے لئے بھی کہتے ہیں فَاتَّبُوا بِالنُّورِ (ال عمران: ۹۴) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم ہی لاؤ اور پڑھو۔ پس میں اسی کتاب کی چند آیتیں سناتا ہوں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

متقی بنو:

(ال عمران: ۱۰۳) ایمان والو، متقی بن جاؤ اور جو تقویٰ کا حق ہے وہ ادا کرو

اور نہ مریو مگر اس حالت میں کہ تم فرمانبردار ہو۔ گویا تم موت کو کہہ دو کہ آجب تیری مرضی ہے تو ہم کو مسلمان پائے گی۔

موت کا کسی کو کیا علم ہے کہ کب آجائے گی اور یہاں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تمہیں ایسی حالت میں موت آوے کہ تم کامل فرمانبردار ہو۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے جو کبھی طے نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہر گھڑی انسان موت کے لئے تیار اور فرمانبردار نہ ہو۔ موت کے وقت انسان کی کیا حالت ہوتی

ہے۔ طب کے لحاظ سے جو ۱/۲۰ مجھے آتی ہے میں بتاتا ہوں۔ ۱/۲۰ میں نے اس لئے کہا کہ کچھ حصہ تو ڈاکٹر لے گئے جو سرجری کے متعلق ہے اور کچھ عورتوں اور بوڑھیوں کے حصہ میں آئی کچھ دانیوں اور حلوائیوں کے حصہ میں آئی ہے کچھ کمانگروں، عطانیوں، کنجروں اور کنجریوں اور پہلوانوں کے حصہ میں آئی ہے۔ ۱/۲۰ ہمارے حصہ میں بھی آیا ہے۔

اس طب کی رو سے میں کہتا ہوں کہ اس وقت بعض غشی کی حالت میں ہوتے ہیں گھر والے کہتے ہیں حضور اس قدر روپیہ دیتے ہیں صرف ایک بات کرا دو۔ مگر وہ ایک بات بھی نہیں کر سکتے۔ فہم بھی باقی نہیں رہتا تمام حواس اور طاقتیں زائل ہونے لگتی ہیں۔ بڑی بڑی پیاریاں آتی ہیں۔ ماں کہتی ہے۔ بیٹا! تم پہچانتے ہو میں کون ہوں۔ بہن کہتی ہے بھائی میں کون ہوں وہ منہ بھی ادھر نہیں کرتا۔ آنکھ جواب دے دیتی ہے اور کان کام نہیں کرتے جبکہ انسانی زندگی کا ہر لمحہ موت کے قریب کر رہا ہے اور حکم یہ ہے کہ مسلم مرو، تو انسان کو چاہئے کہ اس کی تیاری کرے اس تیاری کے لئے قرآن مجید نے ایک راہ بتائی ہے کہ متقی بنو۔

آج جو کام کر رہے ہیں اس کی کل تیاری کی تھی اور آج جو کر رہے

سلسلہ علت معلول:

ہیں یہ کل کی تیاری ہے یہ سلسلہ حکماء نے نامتناہی مانا ہے بات وہ بھی پتا کی کہتے ہیں۔ مثلاً غور کرو ہم کل یہاں آئے کیوں؟ ایک عمارت کی ایک اینٹ رکھنی تھی۔ ایک شخص متمول ہو پھر وہ تاجر ہو، لاہور کا باشندہ ذی وجاہت ہو، ہمارے ساتھ اس کا تعلق ہو۔ وہ ایک عمارت بنوائے اس عمارت میں قوم کا بھی حصہ ہو اور پھر اس نے کہا کہ آ کر دعا کرو۔ تو ہم آگئے۔ ہمارا یہاں آنا کس قدر اسباب اور نتائج کا سلسلہ رکھتا ہے پھر وہ قوم جس کا اس کی عمارت میں حصہ ہے کیونکر بنی؟ ایک مرزا (علیہ السلام) آیا اس نے لوگوں کو نصائح کیں اور اشتہار دیئے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور و مرسل ہو کر آیا ہے۔ اس تاجر نے اس کو قبول کیا اور اس کی وفات کے بعد اس نے ہمارے ساتھ تعلق کو قائم رکھا۔ مرزا صاحب نے ایسا کیوں کیا۔ پھر یہ بے انتہا اسباب اور نتائج کا سلسلہ ہے۔ غرض ان اسباب کے ماتحت ایک بات ہوئی کسی نے تم کو خط لکھے تم آگئے۔ پھر تمہارے آنے کے مختلف اغراض ہیں کوئی اس لئے آگیا کہ اس تقریب پر میں کیا کہتا ہوں اسے سن

لیں۔ کسی نے کچھ سوچا اور کسی نے کچھ زیر نظر رکھا۔ ایک ایڈیٹر ہے وہ اس واقعہ کو تاریخ سلسلہ کا ایک واقعہ قرار دے کر تاریخ کا ایک ورق بڑھانا چاہتا ہے۔ میں کہتا ہوں اچھا ہے تم بھی ایک ورق تاریخ میں الٹا دو۔ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ کیا ہوگا اور کیونکر ہوگا۔ غرض ہر شخص مختلف اسباب کے نیچے یہاں آیا۔ اور پھر مختلف نتائج ان اسباب سے پیدا ہوں گے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ علت معلول کا سلسلہ ایک لبا سلسلہ ہے۔ پس میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم بھی مسلمان ہو کر مرنا۔ اور اس کے لئے اگر آج تیاری نہیں کرتے تو مسلمان ہو کر مرنا تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر کہو کہ مرنے کے وقت مسلمان ہو جائیں گے اور کلمہ پڑھ لیں گے تو یہ ایک خیال باطل ہے آج ہی کچھ تیاری کرو گے تو کچھ بنے گا۔

اس وقت جو حالت ہوتی ہے وہ میں تمہیں طبی تجربہ سے بتا چکا ہوں۔ ایک **ایک مثال:** مثال کے ذریعہ اور بھی واضح کرتا ہوں۔ ایک کنجی تھی میں نے اس کو بہت نصیحتیں کیں آخر میں نے اس کو کہا کہ تم بدکاری سے توبہ کر لو۔ میں جوان تھا وہ اپنے خوبصورت حصہ کو زیور سے خوب آراستہ کر کے میرے پاس آتی رہی اور مجھے یہ بھی کہتی تھی کہ توبہ کر لی۔ آخر وہ کوئی تین چار ماہ غائب رہی اور پھر بڑے تزک و احتشام سے آئی اور مجھے کہا کہ مولا! توبہ اور بھوک سے مرنے لگے تھے اس واسطے اب کے ہولی میں توبہ توڑ دی۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں جوش پیدا ہوا اور میں نے معلوم کیا کہ اس نے کوئی بڑی بدکاری کی ہے اور اس طرح پر اس نے توبہ کی تذلیل کی ہے۔ اس نے کہا کہ وہاں سے ہم کو چار سو روپیہ ملا۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرے دل میں سخت جوش آیا اور میں نے کہا یہاں سے چلی جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا رحم کیا ہے تم مجھ کو گرفتار کرنا چاہتی تھیں وہ داؤ نہیں چلا۔ اب توبہ کی حقارت کرتی ہو یا درکھو اب تمہیں توبہ نصیب نہ ہوگی۔ جب وہ گھر گئی تو اس پر فالج لگ کر اور زبان بند ہو گئی۔ اس کا لٹکا دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور کہا کہ یہ حالت ہے وہ روپیہ لائی تھی کہیں رکھ دیا ہے اور بتا نہیں سکتی۔ اس کو اس کے مرنے کا جو غم تھا وہ تھا ہی اس کے ساتھ ایک اور مصیبت تھی کہ پانچ سو روپیہ روٹی پر پہلے دینا پڑتا تھا۔ میں نے اس کو کہہ دیا کہ وہ بات نہیں کر سکتی مگر اس نے بہت منت کی کہ آپ دیکھیں تو سہی مگر مجھے یقین تھا کہ توبہ

نصیب نہ ہوگی۔ میں نے اس کو کہہ دیا کہ زبان تو چل نہیں سکے گی۔ البتہ اگر تم میری بات مانو تو تمہیں ایک نکتہ بتاتا ہوں۔ تمہارا پانچ سو روپیہ بیچ جاوے گا غرض میں اس کے ساتھ گیا اور دیکھا کہ زبان پر بھی فالج تھا میں نے اس کو کہا کہ اس کو آواز دو۔ اب کانوں میں کچھ نہیں سامنے ہو کر دیکھ لو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں۔ میں یہ تماشا قدرت کا دیکھ رہا ہوں تم اب کسی اور کو بلا کر علاج کراؤ۔ میں علاج نہیں کر سکتا۔ اس وقت میں نے ان کو کہا کہ تمہارے گھر میں فلاں عورت ہے اس کو بلاؤ۔ وہ نہایت خوبصورت اور نوجوان تھی جب وہ آئی تو میں نے اس کو مرنے والی کی حالت دکھا کر کہا۔ اس کو دیکھ لو اگر توبہ کر لو تو بہتر ہے ورنہ میں اور فتویٰ دیتا ہوں۔ یہ لوگ ایسی باتوں کے بہت معتقد ہوتے ہیں وہ ڈرگئی اور اس نے کہا کہ توبہ کرتی ہوں۔

تب میں نے اس لڑکے کو کہا کہ اگر تم وہ پانچ سو روٹی پر صرف ہوتا ہے خرچ نہ کرو تو کجگر ہی برا کہیں گے کوئی شریف برانہ کہے گا اور مادہ فاسد اب توبہ کرتی ہے تم کھانا موقوف کر دو۔ اب خواہ ان کجگروں کی تعریف حاصل کر لو خواہ شرفاء کی۔ خدا نے اس کو سمجھ دے دی اور اس نے مان لیا اور کہا کہ پانچ سو بیچ گیا دوسرے بھائی کو کہا اس نے بھی مان لیا۔

مسلمان مرو: میری غرض تمہیں داستان سنانا نہیں اس واقعہ سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں مرتے وقت توبہ کر لیں گے وہ جھوٹے ہیں اس وقت کس کو ہوش رہتی ہے۔ اس وقت کوئی فہم نہیں ہوتا۔ ہاں خدا تعالیٰ کے بعض بندے ہوتے ہیں جن کو دیکھا ہے کہ مرتے ہوئے بھی کچھ کہتے جاتے ہیں ان میں ہندوؤں کو بھی دیکھا ہے۔

جب یہ حالت ہے کہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں کہ مرتا ہو مسلمان مرے تو اس کی آج فکر کرو۔ مسلمانی کی موت تب ہی ہو سکتی ہے۔ ابھی سے تیاری ہو پھر جس وقت چاہے موت آ جاوے۔ اس کا گراں آیت میں بتایا ہے کہ متقی بن جاؤ۔ مسلمان مرنے کا طریق تقویٰ ہے۔ پس میں بھی چاہتا ہوں کہ تقویٰ اختیار کرو اور ایسا تقویٰ جو تقویٰ اللہ کا حق ہے۔

عقائد اسلامی: تقویٰ کیا ہے؟ عقائد صحیحہ ہوں اور ان کے موافق اعمال صالحہ ہوں اور اخلاق فاضلہ ہوں۔ عقائد صحیحہ کیا ہیں؟ ہمارے عقائد بہت آسان ہیں۔

اول ایمان باللہ! اللہ تعالیٰ کو تمام صفات کاملہ سے موصوف اور تمام محامد اور اسماء حسنیٰ کا مجموعہ اور مسمیٰ اور تمام بدیوں سے منزہ یقین کرنا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور وجود اور ہستی سے امید و بیم نہ رکھنا اور کسی کو اس کا شریک اور ند نہ ماننا وہ اپنی ذات میں یکتا اپنی صفات میں بے ہمتا۔ اپنے اسماء اور افعال میں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (الشوریٰ: ۱۲) ہے اٹھتے بیٹھتے اسی کا نام لینا اسی کو نافع اور ضار یقین کرنا اور کسی سے اللہ کے سوا تعلق نہ ہو۔

پھر ملائکہ پر ایمان لانا ضروری ہے جو تمام نیک تحریکوں کے محرک ہیں اور ان پر ایمان لانے کی یہی غرض ہے کہ انسان ان پاک تحریکوں پر عمل کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے پھر اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً دنیا کی اصلاح اور بھلائی کے لئے اپنے پاک نبیوں کو بھیجا۔ اور ہم ان تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے یا جن کا ذکر نہیں ہوا اور ان انبیاء کی نبوت اور بعثت میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ اس پاک گروہ نے خدا تعالیٰ کا کلام مخلوق کو پہنچایا پھر جزا و سزا پر ایمان لانا یعنی مسئلہ تقدیر کو ماننا کہ وہ حق ہے جزا و سزا حق ہے۔ حشر نشر، پل صراط، جنت و نار سب حق ہیں یہ تو عقائد صحیحہ ہیں۔

اس کے بعد ایمان صالحہ ہیں کیونکہ زندہ اور مٹھرا ایمان وہی ہے جس کے ساتھ اعمال صالحہ ہوں۔ ان میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج اور روزہ ہے۔ اخلاق فاضلہ کو حاصل کرنا اور رذائل سے بچنا ہے قرابت داروں، یتیمی، مساکین سے اپنے مال سے سلوک کرنا، مسافر نوازی کرنا۔ بعض اوقات مسافروں کے ریل پر پیسہ نہیں رہتے ایسے لوگوں سے سلوک کرنا ضروری ہے۔ نمازوں کو قائم رکھنا۔ عسر یسر مقدمہ ہو یا صلح، راحت ہو یا رنج، افلاس اور غریبی ہو یا امیری۔ ان تمام مرحلوں میں اللہ کو ناراض نہ کرنا یہ تمام امور مختصراً تقویٰ کے اصول ہیں۔ جو شخص ان پر کاربند ہوگا وہ متقی ہوگا۔ تقویٰ کے نتائج بہت ہیں مگر ایک ان میں سے یہ ہے کہ متقی کی موت مسلمان کی موت ہوگی۔

اس اصل کو قائم رکھنے کے لئے ایک اور قاعدہ اللہ تعالیٰ نے
اعتصام بحبل اللہ: بتایا ہے اور وہ یہ ہے **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا**

تَفَرَّقُوا (آل عمران: ۱۰۴) سب کے سب حبل اللہ کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو۔ مدرسوں میں

رسہ کشی کا ایک کھیل ہوتا ہے اور تم نے دیکھا ہوگا اس میں دو پارٹیاں ہوتی ہیں۔ ایک ایک طرف دوسری دوسری طرف۔ جس طرف کے لڑکے وحدت کے ساتھ مل کر زور نہ لگائیں وہ جیت نہیں سکتے۔ یہ لڑکوں کی فطرت میں ایک امر رکھ دیا ہے۔ مسلمانوں کو بھی ایک حبل اللہ دیا گیا ہے ان کا فرض ہے کہ وہ سب کے سب مل کر زور لگائیں۔ اب قرآن کریم کے اعتصام کے مسلمان مدعی ہیں۔ ایک طرف جڑ کاٹنے کے لئے آریہ، برہمنو، سناتنی، مسیحی، دہریہ، ملحد اس رسہ کو کھینچ رہے ہیں اور زور لگا کر اپنی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف تم نے اس حبل اللہ کو پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے ان مخالف اقوام میں سے برہمنو سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے نرم ہیں مگر میں ان کو سب سے بڑا دشمن اسلام سمجھتا ہوں۔ کیونکہ انبیاء علیہم السلام کو مکالمہ الہی میں دغا باز اور جھوٹے قرار دیتے ہیں (نعوذ باللہ) اور یا پگل اور کم عقل کہتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ وہ دروغ مصلحت آمیز پر عمل کرتے تھے اسی طرح ملائکہ کے وجود کو شرک قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ نبوت کے کارخانہ کا مدار ملائکہ پر ہے اور بھی باتیں ہیں جن کے بیان کی اس وقت ضرورت نہیں۔ مجھے برہمنو لوگوں سے گفتگو کرنے کا اتفاق ہوا ہے انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے۔

ایسا ہی سناتن لوگ پہلے اعتراض نہ کرتے تھے مگر اب وہ بھی کرنے لگے ہیں۔ مسیحی لوگوں نے تو اس قدر کوشش کی ہے کہ عقل، وہم، فکر میں نہیں آسکتی۔ تین ہزار اعتراض انہوں نے اسلام پر کیا ہے اور شبہ ڈالتے ہیں۔ مالی طمع دیتے ہیں اور بہت سے ذریعے لوگوں کو مسیحی بنانے کے اختیار کر رکھے ہیں۔ ضلع سیالکوٹ میں ایک شخص پر خطرناک مقدمہ تھا۔ اس کو کہا گیا کہ عیسائی ہو جاؤ تو شاید بچ جاؤ۔ چنانچہ وہ مسیحی ہو گیا اور روئید مقدمہ میں یہ امر بھی آ گیا کہ مسیحی ہونے کی وجہ سے شبہ کیا جاتا ہے اور گواہی میں مخالفانہ شہادت تعصب مذہبی کے باعث ہے۔ اس سے وہ بچ گیا کیونکہ جسٹریٹ نے فیصلہ میں لکھ دیا کہ گو شہادت قوی ہے مگر مذہبی عداوت کا رنگ رکھتی ہے۔ بعد میں اس نے چاہا کہ مسجد جو اس نے بنائی تھی اسے توڑ کر گر جا بنا دے۔

میرا ایک دوست لاٹ صاحب سے ملنے گیا ملاقات کے دوران میں لاٹ صاحب نے خود اٹھ کر ایک نہایت خوبصورت بائبل لا کر دی۔ اس امیر نے مجھ سے ذکر کیا تو میں نے کہا کہ کیا کبھی تم نے

بھی کسی اپنے ملنے والے غیر مذہب کے آدمی کو کہا کہ قرآن پڑھا کرو۔ وہ بولا ہم تو یہ کام ملائوں ہی کا سمجھتے رہے ہیں۔

اب مسیحیوں نے اپنے مذہب کی اشاعت کا جدید طریق اختیار کیا ہے۔ سڑکوں پر دائرہ اور تکیہ بناتے ہیں تاکہ وہاں آنے جانے والوں کو تبلیغ کریں۔ سوچو کہ وہ کس قدر کوششیں قرآن کریم کے برخلاف کر رہے ہیں۔ مگر مسلمانوں کی حالت اس سے بالکل جدا ہے۔ انہیں خبر بھی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ پس یاد رکھو کہ اگر پوری طاقت و ہمت اور یکجہتی سے اس جبل اللہ کو مضبوط نہ پکڑو گے تو مخالفین اسلام اس رسہ کو لے جائیں گے (خدا نہ کرے ایسا ہو)

اس رسہ کو مضبوط پکڑنے سے یہ مطلب ہے کہ قرآن مجید تمہارا دستور العمل ہو۔ تمہاری زندگی اس کی ہدایتوں کی ماتحت ہو۔ تمہارے ہر ایک کام، ہر حرکت و سکون میں جو چیز تم پر حکمران ہو وہ خدا تعالیٰ کی یہ پاک کتاب ہو جو شفا اور نور ہے۔

یاد رکھو! دنیا ایک مدرسہ ہے اس مدرسہ کی رسہ کشی میں وہی کامیاب ہوگا جو جبل اللہ کو ہاتھ سے نہ دے گا۔ پس اس وقت ضرورت ہے کہ تم میں عملی زندگی پیدا ہو اور تفرقہ نہ ہو۔ میں پھر تمہیں اللہ کا حکم سناتا ہوں۔ **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا** (ال عمران: ۱۰۴)۔

افسوس ہے کہ مسلمانوں میں اب ان امور پر سوچنے کی بھی فرصت نہیں ان کے مشاغل ہی اور

مسلمانوں کی موجودہ حالت:

ہیں۔ کہیں وہ لپٹی پیکل امور میں الجھے ہوئے ہیں اور کہیں انجمنوں کے فکر ہیں۔ کوئی کہتا ہے قوم اس وقت سدھر جاوے گی جب وہ دوسری قوموں کی طرح تبحر پیش کرے گی اور اپنے حقوق کے لئے اپنی طاقت پر بھروسہ کرے گی۔ دوسرا کہتا ہے نہیں قوم کو جو نقصان پہنچا ہے وہ اس لئے پہنچا ہے کہ وہ سو نہیں لیتی مسلمانوں کا لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ رائیگاں جاتا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ اخبار میں یہ آرٹیکل نہ لکھا تو کچھ نہیں۔ دوسرا کہتا ہے کہ یہ رسالہ نہ ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قوم میں اگر کوئی خوبی پیدا ہو سکتی ہے تو اسی راہ سے ہوگی۔ غرض جو جس کے جی میں آتا ہے کہہ دیتا ہے۔

میں تمہیں کہتا ہوں یہ نجات کی راہیں نہیں۔ ان باتوں سے کچھ نہ بنے گا ایک ہی راہ ہے کہ

حبل اللہ کو مضبوط پکڑو جب تک قرآن مجید کی ہدایات کے مطابق تمہارا عمل درآمد نہ ہوگا۔ اور اس حبل اللہ کو مضبوطی سے نہ پکڑے رہو گے تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پس تفرقہ نہ کرو۔ تم اعداء تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ایک ہوئے اور خدا تعالیٰ کے فضل سے آگ کے کنارے سے نکلے ہو۔ آئندہ اس آگ سے بچو۔

بحث خلافت: تم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمارے بادشاہ حضرت مسیح موعودؑ

کے ذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک کیا اور پھر اس کے بعد میرے ہاتھ پر تم کو تفرقہ سے بچایا۔ اس نعمت کی قدر کرو اور نکمی بحثوں میں نہ پڑو۔ میں نے دیکھا ہے کہ آج بھی کسی نے کہا کہ خلافت کے متعلق بڑا اختلاف ہے حق کسی کا تھا اور دی گئی کسی اور کو۔ میں نے کہا کہ کسی رافضی کو جا کر کہہ دو کہ علی کا حق تھا ابو بکرؓ نے لے لیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی بحثوں سے تمہیں کیا اخلاقی یا روحانی فائدہ پہنچتا ہے جس کو خدا تعالیٰ نے چاہا خلیفہ بنا دیا اور تمہاری گردنیں اس کے سامنے جھکا دیں۔ خدا تعالیٰ کے اس فعل کے بعد بھی تم اس پر بحث کرو تو سخت حماقت ہے۔

میں نے تمہیں بارہا کہا ہے اور قرآن مجید سے دکھایا ہے کہ خلیفہ بنانا انسان کا کام نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ آدم کو خلیفہ بنایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً (البقرة: ۳۱) اس خلافت آدم پر فرشتوں نے اعتراض کیا کہ حضور وہ مفسد فی الارض اور مسفلت الدم ہے مگر انہوں نے اعتراض کر کے کیا پھل پایا۔ تم قرآن مجید میں پڑھ لو کہ آخر انہیں آدم کے لئے سجدہ کرنا پڑا۔ پس اگر کوئی مجھ پر اعتراض کرے اور وہ اعتراض کرنے والا فرشتہ بھی ہو تو میں اسے کہہ دوں گا کہ آدم کی خلافت کے سامنے مسجود ہو جاؤ تو بہتر ہے۔

اگر وہ اپنی اور استکبار کو اپنا شعار بنا کر ابلیس بننا ہے تو پھر یاد رکھے کہ ابلیس کو آدم کی مخالفت نے کیا پھل دیا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اگر کوئی فرشتہ بن کر بھی میری خلافت پر اعتراض کرتا ہے تو سعادت مند فطرت اسے اسجُدْ وَاِذْ بَارِئُ (البقرة: ۳۵) کی طرف لے آئے گی اور اگر ابلیس ہے تو وہ اس دربار

سے نکل جائے گا۔ پھر دوسرا خلیفہ داؤد تھا **يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ** (ص: ۲۷) داؤد کو بھی خدا ہی نے خلیفہ بنایا۔ ان کی مخالفت کرنے والوں نے تو یہاں تک ایچی ٹیشن کی کہ وہ انارکسٹ لوگ آپ کے قلعے پر حملہ آور ہوئے اور کود پڑے مگر جس کو خدا نے خلیفہ بنایا تھا کون تھا جو اس کی مخالفت کر کے نیک نتیجہ دیکھ سکے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خلیفہ بنایا۔ رافضی اب تک اس خلافت کا ماتم کر رہے ہیں مگر کیا تم نہیں دیکھتے کروڑوں انسان ہیں جو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر درود پڑھتے ہیں۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے بھی خدا ہی نے خلیفہ بنایا ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جس نے میرے دل کو بہت خوش کیا اس کے بانوں اور امداد کنندوں کے لئے میں نے بہت دعا کی ہے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ میری دعائیں عرش تک پہنچی ہیں۔ پس اس مسجد میں کھڑے ہو کر جس نے مجھے بہت خوش کیا اور اس شہر میں آ کر اس مسجد میں آنے سے خوشی ہوئی ہے میں اس کو ظاہر کرتا ہوں کہ جس طرح پر آدم و داؤد اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے خلیفہ بنایا ہے۔

اگر کوئی کہے کہ انجمن نے خلیفہ بنایا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ اس قسم کے خیالات ہلاکت کی حد تک پہنچاتے ہیں تم ان سے بچو۔ پھر سن لو کہ مجھے نہ کسی انسان نے نہ کسی انجمن نے خلیفہ بنایا اور نہ میں کسی انجمن کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ وہ خلیفہ بنائے۔ پس مجھ کو نہ کسی انجمن نے بنایا اور نہ میں اس کے بنانے کی قدر کرتا اور اس کے چھوڑ دینے پر تھوکتا بھی نہیں اور نہ اب کسی میں طاقت ہے کہ وہ اس خلافت کی ردا کو مجھ سے چھین لے۔

اب سوال ہوتا ہے کہ خلافت حق کس کا ہے؟ ایک میرا نہایت ہی پیارا محمود ہے جو میرے آقا اور محسن کا بیٹا ہے پھر دامادی کے لحاظ سے نواب محمد علی خان کو کہہ دیں پھر خسر کی حیثیت سے ناصر نواب کا حق ہے یا ام المؤمنینؓ کا حق ہے جو حضرت صاحب کی بیوی ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو خلافت کے حق دار ہو سکتے ہیں مگر یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جو لوگ خلافت کے متعلق بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا حق کسی اور نے لے لیا وہ اتنا نہیں سوچتے کہ یہ سب کے سب میرے

فرمانبردار اور وفادار ہیں اور انہوں نے اپنا دعویٰ میرے سامنے پیش نہیں کیا۔ مجھے بدر کے ایک فقرہ سے بہت رنج ہوا کہ کوئی مرزا صاحب کا رشتہ دار نور الدین کا مرید نہیں۔ یہ سخت غلطی ہے جو کی گئی ہے مرزا صاحب کی اولاد دل سے میری فدائی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ جتنی فرمانبرداری میرا پیارا محمود، بشیر، شریف، نواب ناصر، نواب محمد علی خان کرتا ہے تم میں سے ایک بھی نظر نہیں آتا۔ میں کسی لحاظ سے نہیں کہتا بلکہ میں ایک امر واقعہ کا اعلان کرتا ہوں ان کو خدا کی رضا کے لئے محبت ہے۔ بیوی صاحب کے منہ سے بیسیوں مرتبہ میں نے سنا ہے کہ میں تو آپ کی لونڈی ہوں۔

ایڈیٹر بدر کا فرض تھا کہ وہ ایسی تحریر کی فوراً تردید کرتا اور لکھ دیتا کہ یہ جھوٹ ہے میاں محمود بالغ ہے اس سے پوچھ لو کہ وہ سچا فرمانبردار ہے۔ ہاں ایک معترض کہہ سکتا ہے کہ سچا فرمانبردار نہیں مگر نہیں میں خوب جانتا ہوں کہ وہ میرا سچا فرمانبردار ہے اور ایسا فرمانبردار کہ تم میں ایک بھی نہیں جس طرح پر علی، فاطمہ، عباس نے ابو بکر کی بیعت کی تھی اس سے بھی بڑھ کر مرزا صاحب کے خاندان نے میری فرمانبرداری کی ہے۔ اور ایک ایک ان میں سے مجھ پر فدا ہے کہ مجھے کبھی وہم بھی نہیں آ سکتا کہ میرے متعلق انہیں کوئی وہم آتا ہو۔

سنو! میرے دل میں کبھی یہ غرض نہ تھی کہ میں خلیفہ بننا۔ میں جب مرزا صاحب کا مرید نہ تھا تب بھی میرا یہی لباس تھا۔ میں امرا کے پاس گیا اور معزز حیثیت میں گیا مگر تب بھی یہی لباس تھا مرید ہو کر بھی میں اسی حالت میں رہا۔ مرزا صاحب کی وفات کے بعد جو کچھ کیا خدا تعالیٰ نے کیا۔ میرے خیال وہم میں بھی یہ بات نہ تھی مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت نے چاہا اور اپنے مصالح سے چاہا مجھے تمہارا امام اور خلیفہ بنا دیا اور جو تمہارے خیال میں حقدار تھے ان کو بھی میرے سامنے جھکا دیا۔ اب تم اعتراض کرنے والے کون ہو۔ اگر اعتراض ہے تو جاؤ خدا پر اعتراض کرو۔ مگر اس گستاخی اور بے ادبی کے وبال سے بھی آگاہ رہو۔ اس اخبار کو جس نے ایسا غلط واقعہ لکھا ہے اب بھی تلافی کرنی چاہئے اور ایسے طور پر کہ ہمارے پیارے محمود اور اس کے بھائیوں سے پوچھ کر تلافی کرے۔ میں کسی کا خوشامدی نہیں مجھے کسی کے سلام کی بھی ضرورت نہیں اور نہ تمہاری نذر اور پرورش کا محتاج ہوں

اور خدا تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ ایسا وہم بھی میرے دل میں گزرے۔

اللہ تعالیٰ نے مخفی در مخفی خزانہ مجھے دیا ہے کوئی انسان اور بندہ اس سے واقف نہیں۔ میری بیوی بچے تم میں سے کسی کے محتاج نہیں اللہ تعالیٰ آپ ان کا کفیل ہے تم کسی کی کیا کفالت کرو گے جبکہ تم فقرا ہو۔ **وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَانْتُمْ الْفُقَرَاءُ** (محمد: ۳۹)۔ جو سنتا ہے وہ سن لے اور خوب سن لے اور جو نہیں سنتا اس کو سننے والے پہنچا دیں کہ یہ اعتراض کرنا کہ خلافت حقدا رکونہیں پہنچی رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ اس سے توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے جس کو حقدا رک سمجھا خلیفہ بنا دیا۔ جو اس کی مخالفت کرتا ہے وہ جھوٹا اور فاسق ہے فرشتے بن کر اطاعت و فرمانبرداری اختیار کروا لیں نہ بنو۔

مسئلہ اکفار: دوسرا مسئلہ جس پر اختلاف ہوتا ہے وہ اکفار کا مسئلہ ہے اپنے مخالفوں کو کیا سمجھنا چاہئے؟ اس مسئلہ کے متعلق تم آپس میں جھگڑتے ہو۔ ہمارے بادشاہ ہمارے آقا مرزا صاحب نے اس کو کھول کر بیان کر دیا ہے مگر تم پھر بھی جھگڑتے ہو۔ سنو! ایک امام مثنوی روم کے مصنف ہیں وہ علم کلام کی کتاب ہے مگر وحدت وجود والے ان کے ہر قول کو وحدت وجود میں لے آتے ہیں۔ اس نے ایک جگہ مذاہب کے اختلاف کو بیان کر کے لکھا ہے۔

وحدة اندر وحدة است این مثنوی

کیا مطلب مثنوی ایک راہ بتائے گی اور یہ مثنوی وحدت سے باہر نہیں جائے گی۔ آگے اس کے معنی کوئی اور کرے یہ اس کا اختیار ہے ایک جگہ وہ کہتا ہے۔

بشواز نئے چوں حکایت مے کند

وز جدائی ہا شکایت مے کند

نہ میں کوئی بولتا ہے تو وہ بھی بولتی ہے۔ یہ انبیاء علیہم السلام کی شان ہے وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے بلکہ خدا تعالیٰ کے بلانے سے بولتے ہیں اسی لئے قرآن مجید میں فرمایا:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (النساء: ۸۱)

خدا تعالیٰ کے رسولوں کی اتباع خدا تعالیٰ کی اتباع ہے اور ان کی اتباع سے منحرف ہونا اور انکار کرنا اللہ تعالیٰ کا انکار ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی ہستی کا اقرار کبھی مکمل اور موثر نہیں ہوتا۔ جب تک انبیاء

علیہم السلام کی نبوت پر یقین اور ایمان نہ ہو۔ انبیاء علیہم السلام کی غرض یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو خدا تعالیٰ کا پتا لگ جاوے اور چونکہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے وقت لوگ خدا تعالیٰ سے غافل اور دور ہوتے ہیں اور ان میں اور خدا تعالیٰ میں ایک تفرقہ اور جدائی ہوتی ہے اس لئے

وزجدائی باشکایت مے کند

وہ نبوی نئے اس تفرقہ اور جدائی کی شکایت کرتی ہے۔ یہ بہت دقیق اور طویل مضمون ہے اس وقت اس پر زیادہ نہیں کہتا۔ انبیاء کی ضرورت اور ان پر ایمان کے متعلق قرآن مجید نے کھول کر بیان کیا ہے۔

غرض مثنوی کے مصنف نے ایک حکایت لکھی ہے کہ پچھلی قوم کو ایک ہادی کے ماننے میں سہولت ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کس وقت آتے ہیں؟ ان کی آیات، کرامات، معجزات کیا ہوتے ہیں؟ کیونکہ پہلے انبیاء کی ایک جماعت آچکی ہوتی ہے مگر پہلوں کو مشکل ہوتی ہے ان کے مقابلہ میں پچھلوں کو سہولت اور آسانی ہوتی ہے۔ وہ پہلوں کی تعلیم پیش کر دیتا ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ باوجود یہ کہ پہلے نبی پچھلوں کے لئے راہ صاف کر جاتے ہیں مگر پھر بھی پیچھے آنے والوں پر ان کی قوم اعتراض کر دیتی اور ان کا انکار کر دیتی ہے۔ پس یہ کیسی صاف راہ ہے ہر نبی کے زمانہ میں لوگوں کے کفر اور ایمان کے اصول کلام الہی میں موجود ہیں۔ جب کوئی نبی آیا اس کے ماننے اور نہ ماننے والوں کے متعلق کیا وقت رہ جاتی ہے؟ اسچا پچی کرنی اور بات ہے ورنہ اللہ تعالیٰ نے کفر، ایمان اور شرک کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ پہلے نبی آتے رہے ان کے وقت میں دو ہی قومیں تھیں، ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ کیا ان کے متعلق کوئی شبہ تمہیں پیدا ہوا؟ اور کوئی سوال اٹھا کہ نہ ماننے والوں کو کیا کہیں جو اب تم کہتے ہو کہ مرزا صاحب کے نہ ماننے والوں کو کیا کہیں؟

قرآن مجید میں ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي اُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ اَلْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يَتَّبِعُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاَلْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

وَفِي الْآخِرَةِ وَيُصَلِّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (ابراہیم: ۲۵ تا ۲۸) فرمایا ایمان ہو یا کفر ہو، شرک ہو، فسق ہو، نفاق ہو ان کی مثال ایک درخت کی سی ہے۔ ایمان کی مثال ایک پاک درخت کی سی ہے اور کفر، شرک، فسق، نفاق وغیرہ کی مثال ایک خبیث درخت کی سی ہے جب وہ زمین میں بویا جاوے تو ایک لونگتی کوئی اس کو دیکھ کر نہیں کہہ سکتا کہ گھاس جتنا ہو گا یا بڑے کے درخت جتنا ہو گا۔ پھر وہ بڑھتے بڑھتے ایک زمانہ میں اپنی حقیقت خود بتا دے گا۔ جب وہ بڑکا درخت ہو گا تو بڑکی طرح بڑھے گا اور پھلے گا اور آخر بڑ ہی کہلائے گا اب اگر اس کے ایک دو پتہ توڑ ڈالو تو کیا کہہ دو گے کہ بڑ سوکھ گیا۔ جب ہزار دو ہزار پتہ توڑ کر لے آؤ گے تو اسی درجہ تک اس کی حیثیت کم ہو جائے گی پھر جب لاکھ دو لاکھ پتے اتار لو گے تو اور بھی گھٹے گا پھر جب اس کی ڈالیاں اور شاخیں کاٹ دو گے تو اور بھی۔ دیکھو اونٹوں والے پیپل کے درخت کو کاٹ لیتے ہیں۔ ڈالیاں کاٹنے سے ابھی درخت موجود ہوتا ہے اور جڑ کٹ جاوے تو کچھ نہیں رہتا۔ اسی طرح کفر، شرک، فسق اور نفاق ہے۔

ایک شخص اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا۔ دوسرا کہے مانتا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ کو ماننے والا مقدم ہے اب ایک اور ہے جو اللہ تعالیٰ کو ماننے کے ساتھ ساتھ کہتا ہے بت کو بھی سجدہ کر لو مگر دوسرا کہتا ہے بت پرستی نہیں کرنی چاہئے۔ اب یہ موحد اس مشرک کے مقابل میں مقدم ہے پھر ایک اور ہیں جو نبیوں کو مانتے ہیں اور دوسرے نہیں مانتے اب نبیوں کو ماننے والا منکر سے مقدم ہوگا۔ ایک قوم ہے جو اداریس اور تکلی کو مانتی ہے قرآن شریف ان کو صابی کہتا ہے یہ قوم اب بھی ہے۔ یہود بہت سے نبیوں کو مانتے ہیں مگر مسیح کا انکار کرتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو مسیح کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ پس جو مسیح کو مانتے ہیں وہ ان کے منکروں سے قریب ہو گئے۔ پھر عیسائیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اقرار کر دیا۔ ابوبکر ان سب سے افضل ہو گیا۔ اب صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، چشتی، قادری، سہروردی ہوں یا نقشبندی ہوں، رفاعی ہوں یا احمدی ہوں ان میں راستبازوں کے ماننے والے اور ٹھٹھے کرنے والے اپنے مراتب رکھیں گے جو انکار راستباز کا کرتا جاوے گا وہ گرتا جاوے گا۔

یہ بنیاد رافضیوں نے رکھی ایک رافضی نے مجھے ایک رسالہ دکھایا جس کا نام طریق نجات تھا اس نے تمام اولیاء پر ایک لعنت کا باب الگ رکھا ہے تمام محدثین پر لعنت کا باب الگ۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا کہ تم نے حد کر دی ہے تمہیں کچھ بھی نصیب نہ ہوگا وہ جھوٹا ہی مر گیا۔ جیسا میں نے ابھی کہا ہے یہ فرض کا شبہ ہے جو خلافت کی بحث تم چھیڑتے ہو۔ یہ تو خدا سے شکوہ کرنا چاہئے کہ بھیرہ کا رہنے والا خلیفہ ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے خلیفہ کرتا ہی کیا ہے؟ لڑکوں کو پڑھاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ کتابوں کا عشق ہے اسی میں مبتلا رہتا ہے۔ ہزار نالائقیوں کا مجھ پر تھوپو۔ مجھ پر نہیں یہ خدا پر لگیں گی جس نے مجھے خلیفہ بنایا یہ لوگ ایسے ہیں جیسے رافضی ہیں۔ جو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر اعتراض کرتے ہیں۔ غرض کفر و ایمان کے اصول تم کو بتادیئے گئے ہیں۔

حضرت صاحب خدا کے مرسل ہیں اگر وہ نبی کا لفظ اپنی نسبت نہ بولتے۔ تو بخاری کی حدیث کو نعوذ باللہ غلط قرار دیتے جس میں آنے والے کا نام نبی اللہ رکھا ہے پس وہ نبی کا لفظ بولنے پر مجبور ہیں۔

اب ان کے ماننے اور انکار کا مسئلہ صاف ہے۔ عربی بولی میں کفر انکار ہی کو کہتے ہیں ایک شخص اسلام کو مانتا ہے اس حصہ میں اس کو اپنا قریبی سمجھ لو۔ جس طرح پر یہود کے مقابلہ میں عیسائیوں کو قریبی سمجھتے ہو اسی طرح پر یہ مرزا صاحب کا انکار کر کے بھی ہمارے قریبی ہو سکتے ہیں اور پھر مرزا صاحب کے بعد میرا انکار ایسا ہی ہے جیسے رافضی صحابہ کا کرتے ہیں۔

ایسا صاف مسئلہ ہے مگر نکلے لوگ اس میں بھی جھگڑتے رہتے ہیں۔ نکلے لوگ ہیں اور کام نہیں ایسی باتوں میں لگے رہتے ہیں ایک تو وہ ہیں جو قلعے فتح کرتے ہیں اور ایک یہ ہیں۔

کیا کوئی خلافت کے کام میں روک ہے: تیسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے اور وہ میرے دوست

کہلاتے ہیں اور میرے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ خلافت کے کام میں روک لاہور کے لوگ ڈالتے ہیں۔ میں نے قرآن کریم اور حدیث کو استاد سے پڑھا ہے اور میں دل سے اسے مانتا ہوں۔ میرے دل میں قرآن اور حدیث صحیح کی محبت بھری ہوئی ہے۔ سیرۃ کی کتابیں ہزاروں روپیہ خرچ کر

کے لیتا ہوں ان کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے اور یہی میرا ایمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔

آدم اور داؤد کا خلیفہ ہونا میں نے پہلے بیان کیا اور پھر اپنی سرکار کے خلیفہ ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کا ذکر کیا اور یہ بھی بتایا کہ جس طرح پر ابوبکر اور عمر خلیفہ ہوئے رضی اللہ عنہما اسی طرح پر خدا تعالیٰ نے مجھے مرزا صاحب کے بعد خلیفہ کیا اب اور سنو **ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ** (یونس: ۱۵) تم سب کو بھی زمین میں اللہ تعالیٰ نے ہی خلیفہ کیا یہ خلافت اور رنگ کی ہے پس جب خلیفہ بنا نا اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے تو کسی اور کی کیا طاقت ہے کہ اس کے کام میں روک ڈالے۔

لاہور میرا گھر نہیں میرا گھر بھیرہ میں تھا یا اب قادیان میں ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ لاہور کا کوئی آدمی نہ میرے امر خلافت میں روک بنا ہے نہ بن سکتا ہے پس تم ان پر بدظنی نہ کرو۔

قرآن مجید میں فرمایا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ** (الحجرات: ۱۳) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کم و الظن فان الظن اکذب الحدیث۔ (صحیح بخاری . کتاب الوصایا . باب قول اللہ تعالیٰ من بعد وصیة یوصی ..) اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیم دی ہے بدظنی سے ہٹ جاؤ۔ یہ بدکار کر دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدظن بڑا جھوٹا ہوتا ہے پس تم بدظنی نہ کرو۔

اب بھی میرے ہاتھ میں ایک رقعہ ہے وہ لکھتا ہے کہ لاہور کی جماعت خلافت میں ایک روک ہے۔ میں ایسا اعتراض کرنے والوں کو کہتا ہوں کہ یہ بدظنی ہے اس کو چھوڑ دو۔ تم پہلے ان جیسا اپنے آپ کو مخلص بناؤ۔ لاہور کے لوگ مخلص ہیں حضرت صاحب سے انہیں محبت ہے۔ غلطی انسان کا کام ہے۔ اس سے ہو جاتی ہے ان سے بھی غلطی ہوتی ہے یہ جُدی بات ہے مگر ان لوگوں نے جو کام کئے ہیں تم بھی کر کے دکھلاؤ۔

میں بلند آواز سے کہتا ہوں کہ جولاہوریوں پر بدظن ہے کہ وہ خلافت میں روک ہیں اسے یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بدظنی کرنے والے کو یہ سر و پامتا ہے ان الظن اکذب الحدیث اور اللہ جل شانہ نے فرمایا: **اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ** وہاں

سے اٹم کا خطاب ملتا ہے۔ بدظنی سے پھر غیبت نصیب ہوتی ہے اور اس کے متعلق فرمایا: لَا يَغْتَابُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا (الحجرات: ۱۳) پس مخلصوں پر بدظنی کرتے ہو اور میرا دل دکھاتے ہو۔ خدا سے ڈرو۔ تمہارے لئے میں دعائیں کرتا ہوں ان سے محروم نہ بنو۔

اگر مان لیا ہے تو شکر کرو۔ نہیں تو صبر کی دوام موجود ہے۔ میں باوجود اس بیماری کے جو مجھے کھڑا ہونا تکلیف دیتا ہے اس رقعہ کو دیکھ کر سمجھتا ہوں کہ خلافت کیسری کی دوکان کا سوڈا واٹر نہیں۔ تم اس بکھیڑے سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ نہ تم کو کسی نے خلیفہ بنانا ہے اور نہ میری زندگی میں کوئی اور بن سکتا ہے۔ میں جب مر جاؤں گا (اللہم متعنا بطول حیاتہ۔ ایڈیٹر) تو پھر وہی کھڑا ہوگا جس کو خدا چاہے گا اور خدا اس کو آپ کھڑا کر دے گا۔ تم نے میرے ہاتھوں پر اقرار کئے ہیں تم خلافت کا نام نہ لو۔ مجھے خدا نے خلیفہ بنا دیا ہے اور اب نہ تمہارے کہنے سے معزول ہو سکتا ہوں اور نہ کسی میں طاقت ہے کہ وہ معزول کرے۔ اگر تم زیادہ زور دو گے تو یاد رکھو میرے پاس ایسے خالد بن ولید ہیں جو تمہیں مرتدوں کی طرح سزا دیں گے۔

دیکھو! میری دعائیں عرش میں بھی سنی جاتی ہیں میرا مولیٰ میرے کام میری دعا سے بھی پہلے کر دیتا ہے۔ میرے ساتھ لڑائی کرنا خدا سے لڑائی کرنا ہے۔ تم ایسی باتوں کو چھوڑ دو اور توبہ کر لو۔ وہ اخبار نویس جو لکھتا ہے کہ کوئی رشتہ دار میرا معتقد * نہیں توبہ کر لے وہ مرزا صاحب کے رشتہ داروں سے پوچھ لے۔ مرزا سلطان احمد صاحب کی بیوی اور بچے تک تو میرے مرید ہیں۔ اور وہ آپ حضرت صاحب کی زندگی میں بھی میرا معتقد تھا۔ پس جو ایسا کہتے ہیں کہ رشتہ دار میرے مرید نہیں جھوٹ کہتے ہیں۔

☆ حاشیہ: برادر صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مخلص خدام میں سے ہیں اور حضرت خلیفۃ المسیح صاحب کے ساتھ انہیں ارادت تامہ ہے انہوں نے جو مضمون ریسان پنجاب میں سے نقل کیا تھا گواس کی اجمالی تردید پہلے صفحہ پر کی تھی مگر اس سے وہ شبہ جو حضرت خلیفۃ المسیح نے ظاہر کیا باقی رہتا تھا اس لئے حضرت خلیفۃ المسیح نے غلط فہمی سے لوگوں کو بچانے کے لئے اس پر زور دیا اور برادر صادق کی محبت اور ایمان نے ایک لحظہ کے لئے بھی گوارا نہ کیا کہ اس کی تردید نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے اسی روز شام کو اس کی تردید میں ایک اشتہار شائع کر دیا جو بدر ۴ جولائی ۱۹۱۲ء کے ساتھ ضمیمہ ہوا۔ جزاہ اللہ احسن الجزاء (ایڈیٹر الحکم)

کیا کفر کا لفظ بھیانک معنی رکھتا ہے اور کفر بمعنی انکار نہیں؟ اگر کہو کہ لاہور کے لوگ خلافت میں روک ہیں تو میرے مخلص دوستوں پر بدظنی ہوتی ہے اسے چھوڑ دو جو شخص کسی پر بدظنی کرتا ہے وہ نہیں مرتا جب تک اس میں مبتلا نہ ہو۔ میں سنتا ہوں تم آپس میں اختلاف کرتے ہو۔ اختلاف انسان کی فطرت میں ہے یہ ہٹ نہیں سکتا مگر اس کو شغل نہ بناؤ۔ جس امر پر اللہ تعالیٰ نے تم کو جمع کر دیا ہے اس وحدت کے مرکز کو نہ چھوڑو۔

کبھی کبھی مجھے ان حالتوں کو دیکھ کر بددعا کا جوش آتا ہے مگر پھر رحم سے کام لیتا ہوں۔ تو بہ کر لو۔ ہماری زندگی میں چھوڑ دو۔ تھوڑے دن صبر کرو۔ پھر جو پیچھے آئے گا اللہ تعالیٰ جیسا چاہے گا وہ تم سے معاملہ کرے گا۔

سنو! تمہاری نزاعیں تین قسم کی ہیں۔ اول ان امور اور مسائل کے متعلق ہیں جن کا فیصلہ حضرت صاحب نے کر دیا ہے جو حضرت صاحب کے فیصلہ کے خلاف کرتا ہے وہ احمدی نہیں جن پر حضرت صاحب نے گفتگو نہیں کی۔ ان پر بولنے کا تمہیں خود کوئی حق نہیں جب تک ہمارے دربار سے تم کو اجازت نہ ملے۔ پس جب تک خلیفہ نہیں بولتا یا خلیفہ کا خلیفہ دنیا میں نہیں آتا ان پر رائے زنی نہ کرو۔ جن پر ہمارے امام اور مقتدا نے قلم نہیں اٹھایا تم ان پر جرات نہ کرو۔ ورنہ تمہاری تحریریں اور کاغذ ردی کر دیں گے۔ تم میں سے کوئی تصنیف کرتا ہے اور اگر کہو کہ تمہارا قلم نہیں لکھ سکتا تو کیا ہم بھی نہ لکھیں تو نور الدین، تصدیق، فصل الخطاب، ابطال الوہیت مسیح کو پڑھو۔ مجھے لکھنا آتا ہے اور خوب آتا ہے مگر خدا تعالیٰ کی ایک مصلحت نے روک رکھا ہے اور ہاں خدا نے روکا ہے۔

اب بھی تمہارے رسائل میں غلطیاں ہوتی ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ ان میں غلطیاں ہوتی ہیں مگر خدا نے چاہا ہے کہ خاموش رہوں۔ تم کیا ہستی رکھتے ہو کہ جو نہ میرے دربار سے اجازت ہوتی ہے نہ خدا کی طرف سے تمہیں امر ہوتا ہے اور تم جرات کرتے ہو۔ دیکھو یا درکھو! تمہاری کوئی جماعت نہ بنے گی تم لکھ رکھو کوئی ایسی جماعت نہ بنا سکو گے۔

پس میری بات کو یاد رکھو اور بدظنی چھوڑ دو۔ تفرقہ نہ کرو۔ حضرت صاحب نے جو فیصلہ جس امر میں کر دیا ہے اس کے خلاف نہ کہو نہ کرو۔ ورنہ احمدی نہ رہو گے۔ یہ خیال چھوڑ دو کہ لاہور

کے لوگ خلافت کے امر میں روک ہیں۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو پھر خدا مسلمہ کا سا معاملہ کرے گا۔ جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھو۔ درود اور استغفار پڑھو۔ حلال طیب کماؤ اور کھاؤ۔ ان بیہودہ باتوں سے کوئی نفع نہیں اٹھا سکتے۔

خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان نکما نہیں بیٹھ سکتا۔ میں نئے تجربہ کی سپارش نہیں کرتا بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ حالت ایسی ہی ہے کہ اگر بیوی اچھی خوبصورت مل گئی تو صرف شہوانی کام رہ گیا۔ اسی شہر میں ایک بڑا آدمی گزرا ہے۔ ایک انگریز اس سے ملنے کو آیا اس کو اس نے اپنی فوج کا معائنہ کرایا۔ رسالے، پیادے، توپخانہ وغیرہ دکھا کر پوچھا کہ کیسی فوج ہے اس نے شکر یہ ادا کیا اور اظہار مسرت کیا۔ فوج سامنے کھڑی تھی مگر حکم دیا کہ خاصہ کی فوج لاؤ۔ اندر سے بڑی خوبصورت عورتیں ہتھیار لگائے ہوئے آگئیں اس انگریز سے پوچھا کہ ایسی فوج بھی دیکھی ہے اس نے کہا کبھی نہیں۔ اس پر اس رئیس نے کہا کہ پہلی فوج میری ہے اگر وہ بغاوت کر دے تو میں اکیلا اسے تباہ کر سکتا ہوں، مگر اس فوج کے مقابلہ میں ہمیشہ شکست کھاتا ہوں۔

غرض کچھ مسلمان تو اس کام میں لگے ہوئے ہیں اور تیار ہیں اور کچھ وہ ہیں جو نکلے ہیں سارا دن مباحثات کرتے ہیں ان سے پوچھو فرشتوں نے اعتراض کر کے کیا لیا تھا۔ پس تم ان جھگڑوں کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ** (ال عمران: ۱۰۵)

تم میں ایسے لوگ ہوں جو خیر مسلم کی طرف بلانے والے ہوں۔ پسندیدہ اور بھلائی کے کاموں کا امر کریں اور ناپسندیدہ باتوں کو روکیں اور وہ مظفر و منصور ہوں گے۔ اب میں پھر نصیحت کرتا ہوں میرے بڑھاپے اور بیماری کو دیکھ لو اپنے اختلافوں کو دیکھ لو کیا یہ تمہیں خدا سے ملا دیں گے۔ اگر نہیں تو پھر ہماری بات مانو اور محبت سے رہو۔ اور اس طرح پر رہو کہ میں تمہیں دیکھ کر اسی طرح خوش ہو جاؤں جس طرح پر مسجد کو دیکھ کر خوش ہوا۔ جس طرح شہر میں داخل ہو کر مسجد کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی۔ خدا کرے کہ جاتے ہوئے مجھے یہ آواز دے کہ تم باہم ایک ہو اور تم محبت سے رہتے ہو۔ تم بھی دعاؤں سے کام لو میں بھی تمہارے لئے دعا کروں گا۔ وباللہ التوفیق

(الحکم ۲۱، ۲۸، جون ۱۹۱۲ء۔ صفحہ ۱۳ تا ۲۲)



احسان عام کی اسلامی تعلیم

﴿تقریر فرمودہ ۱۶ جون ۱۹۱۲ء بوقت ۶ بجے شام﴾

۱۶ جون ۱۹۱۲ء کو چھ بجے شام کے حضرت خلیفۃ المسیح نے ایک پبلک تقریر فرمائی جس کے لئے ایک اعلان شائع کیا گیا تھا۔ وقت مقررہ پر آپ نے احمدیہ بلڈنگز کی مسجد میں کھڑے ہو کر مندرجہ ذیل تقریر فرمائی چونکہ وقت بہت تنگ تھا اس لئے اکی صبح کو ایک تیسری تقریر اور آپ نے کی۔ یہ تقریر بھی حسب معمول حضرت خلیفۃ المسیح کی اصلاح کے بعد شائع کی جاتی ہے۔ (ایڈیٹر)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مِلَّةِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝
 اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ
 الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ۝ (الفاتحة: ۷۲-۷۴)

یہ چند آیات جو میں نے پڑھی ہیں۔ یہ قرآن کریم کے ابتداء میں لکھی ہیں۔ غالباً ہر ایک مسلمان یا یوں کہو کہ ہر ایک مسلمان جو کبھی نماز پڑھتا ہو ان کو یاد رکھتا ہے۔ یہ آیتیں تمام مذاہب اسلام میں جس قدر بھی وہ ہوں اور تم جانتے ہو کہ کم از کم میں مذاہب اسلام کو جانتا ہوں وہ شیعہ ہوں یا ناصبی ہوں، سنی ہوں یا صوفی ہوں۔ مذاہب اربعہ کے پابند ہوں یا گروہ اہل حدیث سے ہوں۔ سب کے سب عملی طور پر نماز میں اس سورۃ کو پڑھتے ہیں۔ بعض اس کے پڑھنے میں لفظ فرض کا کہہ لیتے ہیں اور بعض واجب کا۔ پھر بعض ائمہ فرض اور واجب میں فرق نہیں سمجھتے اور بعض کچھ فرق نکال کر اعتقادی طور پر فرق کر لیتے ہیں نہ عملی طور پر۔

اس سورۃ میں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ
 اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی دعا واقع ہوئی ہے اور اس سورۃ پر غور اور تدبر

کرنے سے مجھے ایک اور ایک دو کی طرح (اور اس سے بھی زیادہ کیونکہ کہتے ہیں آنکھ کے ایک مرض میں ایک کے دو نظر آتے ہیں) کامل یقین ہے کہ اسی آیت نے دنیا پر احسان عام کرنا چاہا ہے۔

یہ آیت ایک مسلمان کو نوع انسان کے تمام راستبازوں اور برگزیدوں کی اتباع کی تعلیم دیتی ہے۔ وہ خواہ کسی ملک اور کسی قوم میں ہوتے ہوں کیونکہ اس میں یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں کی راہ بتا دو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہیں یا صحابہ اور تبع تابعین کے تابع ہیں یا ان کی راہ جو اجماع اور قیاس صحیح کے قائل ہیں یا احادیث کے قائل ہیں یا صوفی مشرب ہیں کسی خاص قوم اور فرقہ کا نام نہیں لیا بلکہ کوئی ہوں۔ ہاں منعم علیہ ہوں۔ وہ یہودیوں میں ہوں، عیسائیوں میں ہوں، مجوسیوں میں ہوں، آریہ ورت میں ہوں۔ کینفوشس لیوٹ کے تابع ہوں، کسی قوم اور کسی ملک میں ہوں۔ کتنا وسیع خیال اور عام احسان ہے۔ جس کی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ جو نعمت تیرے حضور مسلم ہے اور جو انعامات تو نے اپنے اس برگزیدہ لوگوں پر خواہ وہ کہیں بھی ہوں کئے ہیں۔ انہیں لوگوں کی راہ ہم مانگتے ہیں کہ اس کی آگاہی عطا کرو۔ یہ تو تم جانتے ہو کہ زمین گول ہے۔ اور یہ بھی جانتے ہو کہ ہر جگہ ہر وقت کوئی نہ کوئی نماز کا وقت ضرور رہتا ہے۔ کہیں عصر، کہیں مغرب، کہیں ظہر، کہیں عشا اور کہیں فجر۔ غرض ایک جگہ ایک نماز کا وقت، دوسری جگہ دوسری نمازوں کے اوقات ہوں گے۔ پس گویا ہر وقت یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ اس غور و فکر کے بعد میں نے اپنی خوشی کی کئی باتیں اس سے نکال لیں۔

اول۔ تمام مذاہب میں جن سے میری مراد تاریخی مذہب ہیں یا صاف الفاظ میں یوں کہو جو کسی نبی کے ماتحت سمجھے جاتے ہیں۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کا انکار کیا جاوے تو ساری نبوتیں باطل ہو جاتی ہیں کیونکہ نبوتوں کی بنیاد ہی دعا پر ہے۔ میں آپ بھی دعاؤں کا بہت ہی قائل اور معتقد ہوں اور میں نے دعاؤں کی قبولیت کے ایسے نظارے دیکھے ہیں کہ کوئی فلسفہ اور سائنس میرے سامنے دعا کو باطل نہیں کر سکتا۔

دوم۔ اس دعا نے دنیا کے تمام راستبازوں اور برگزیدہ لوگوں کی تعظیم و اطاعت کی تعلیم ہر مسلمان کو دی ہے۔ اب جبکہ رات اور دن کا کوئی وقت نہیں گزرتا جبکہ یہ دعا نہیں مانگی جاتی کہ منعم علیہ کی راہ دکھا دو اور تمام مذاہب دعا کے قائل ہیں اور یہ دعا اس قدر مانگی گئی ہے جس کی حد نہیں کم از کم پانچ نمازوں میں جو ہر وقت دنیا میں پڑھی جاتی ہیں۔ مسلمان یہ دعا مانگتے رہتے ہیں

اور دعا میں یہ خاصیت ہے کہ جب وہ اضطراب اور توجہ تام سے مانگی جاوے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔
دعا اور کوشش: بعض لوگ دعا کے منکر ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ زبان سے کہہ دینے سے کیا
 بنتا ہے مگر مجھے تعجب ہے کہ تمام خواہشیں جب دل سے اٹھتی ہیں تو پھر وہ

زبان پر آتی ہیں اور اس کے بعد ان کا اثر تمام اعضاء پر پڑتا ہے۔ کم سے کم بعض معاملات میں وکلاء
 کو اور کورٹ فیس کے لئے روپیہ دینا پڑتا ہے۔ یہ تمام کرشمے اس ایک خواہش کے ہیں۔ جو دل میں
 پیدا ہوئی۔ پھر کیا یہ تعجب کی بات ہے کہ دل کی خواہش باقی اعضاء پر متاثر ہو کر ان کی مساعی سے
 بار آور ہو جاوے اور زبان سے اگر اللہ تعالیٰ کے حضور التجا اور دعا کی جاوے، تو وہ کامیاب نہ ہو اسے
 بے اثر اور فضول قرار دیا جاوے۔ وہ تمام مساعی جو ایک شخص کسی مطلب کے لئے کرتا ہے اور ادھر
 ادھر ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک شخص جو بیٹھا ہوا سر بگرہاں کسی امر کے متعلق سوچ رہا
 ہے۔ یہ سب کے سب دعا ہی کے عجائبات ہیں۔ مگر ایک محبوب انسان سمجھ نہیں سکتا۔ یہ غور و فکر اور
 کوشش ایک محبوب کی دعا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑگڑانا اور پکارنا عارف کی دعا ہے۔ جس
 سے انکار نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ جھوٹے ہیں جو نبیوں کے بتائے ہوئے اصل سے انکار کرتے ہیں۔

کوشش کو مقدم کیا ہے اور دراصل کوشش بھی ایک قسم کی دعا ہی ہوتی ہے لیکن یہ ابتدائی درجہ دعا
 کا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ پر ایمان لاتا ہے اور اسباب کی زنجیروں سے نکل جاتا
 ہے وہ اس کی عارفانہ زندگی ہوتی ہے۔ اس مقام پر وہ بے اختیار ہو کر **إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** ہی پکارتا ہے۔
وضو: غرض یہ دعا ہی ہے۔ مسلمان جب دعا کے لئے تیار ہو کر آتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام وضو
 ہے۔ غالب گناہ ہاتھ پاؤں کے متعلق ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کو وضو میں دھوتا ہے۔

گویا یہ بتاتا ہے کہ جہاں جہاں میرا ہاتھ پہنچتا ہے۔ میں اس کو دھونے کو تیار ہوں۔ باقی کے لئے
 آپ مدد کریں۔ وضو کی ظاہری حالت **إِيَّاكَ نَعْبُدُ** کے نیچے ہے اور اس کی اصل حقیقت اور روح جو
 اندرونی طہارت اور باطنی پاکیزگی ہے۔ وہ **إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** کے ماتحت ہے۔

پھر نماز میں آنے سے پہلے کوشش کی اور بھی
اذان میں اصول اسلام کا اعلان: حد کردی۔ پانچ وقت نمازوں کے یا اس اصل

کے موافق جو میں نے ابھی بتایا ہر وقت ہی دنیا کے ہر حصہ میں اسلام کے اصول پیش کرتا ہے اور وہ یہ کہ بلند مناروں پر چڑھ کر اذان دیتا ہے۔ اس کے معنی اعلان کے ہیں۔ پہلے بتاتا ہے کہ ہم ہیں کون؟ اللہ اکبر کہہ کر بتاتا ہے کہ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو اللہ کو سب سے بڑا سمجھتی ہے۔ تمام صفات کاملہ سے موصوف اور تمام بدیوں سے منزہ اسے یقین کرتی ہے۔ اسی کا ہم دنیا میں اعلان کرتے ہیں اور بڑی بھاری شہادت چار مرتبہ ہوتی ہے۔ اس لئے یہ بھی اللہ اکبر چار مرتبہ کہتا ہے۔ پھر اور تشریح کرتا ہے کیونکہ شاید کوئی اور بھی اللہ اکبر کہتا ہو اس لئے بتاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو تمام حاجت روائیوں کا مرکز اور اپنے آپ کو کامل محتاج یقین کرتے ہیں اس لئے دل سے کہتے ہیں۔

اشھد ان لا الہ الا اللہ

اس کلمہ نے ایک مومن مسلمان کو تمام دنیا سے ناامید کر دیا ہے۔ کیونکہ اللہ کے مفہوم میں داخل ہے کہ کوئی معبود نہیں کوئی محبوب اور مطاع نہیں۔ مگر اللہ

پھر دنیا میں راستباز ضرور آئے ہیں اور انہوں نے
نبی کریم کی خاص عظمت:
خدا تعالیٰ کی عظمت کے اظہار کے لئے کوئی کسر نہیں

رکھی۔ اس مقصد کے لئے عزت، آبرو، جان و مال اور عزیز وطن کی کوئی پرواہ نہیں رکھی۔ اس کو پہنچایا اور بہتوں کو منوایا۔ مگر تھوڑا ہی عرصہ ان پر گزرا کہ ان کے متبعین نے ان کو معبود قرار دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخر میں آئے۔ آپ نے سوچا کہ میرے بہت سے بھائی جو لا الہ الا اللہ کے خادم تھے۔ بڑے خاکسار اور شریف الطبع اور نہایت ملنسار اور بااخلاق طبیعت کا انسان مسیح تھا۔ مگر عقلمندوں نے ان کو بھی خدا بنا کر چھوڑا۔ اس دانش و عقل پر کہ ایک انسان کو خدا بنا لیا۔ اب کہتے ہیں ہمارے ذریعہ روشنی پہنچتی ہے۔ یہ اچھی روشنی ہے روشنی کا قاعدہ جہاں تک مجھ کو معلوم ہے۔ اس کے اندر کار بن ہوتی ہے اور وقتاً فوقتاً تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ملت ابراہیمی کے مقتدا اور مقتدی اولاد ابراہیم تھے مگر انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا لیا۔ اس غلطی میں دنیا کو مبتلا دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے متعلق ہمیشہ کے لئے شرک کی بنیاد اکھیر دی اور ہر وقت اس کا عام اعلان کرایا۔ اشھد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس پاک کلمہ نے ایسی احتیاط

کردی کہ آئندہ یہ غلطی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے یہ کھول کر بتا دیا کہ میں عبد ہوں اور رسول ہوں۔ اذان میں اس کلمہ کو رکھنے سے یہی غرض ہے کہ ہادیان مذہب کو معبود بنانے کی غلطی اس قوم میں پیدا نہ ہو۔ پھر جامع تعظیبات الہیہ کی دعا نماز ہے اور تمام ان راہوں سے جو مظفر و منصور ہونے کی راہیں ہیں حسی علی الفلاح کہہ کر واقف کیا۔ اس کو اس قدر بلند آواز سے پہنچایا کہ خلقت کو کبھی شبہ نہ رہے۔

مخفی مذاہب: میں نے ایسے مذاہب دیکھے ہیں جو اپنی تعلیم کو مخفی رکھتے ہیں۔ ان میں بڑا مذہب فری میسن ہے۔ اس کی تعلیم اور حالات عام نہیں ہوتے۔ اس میں

بعض مصالح ملکی بھی ہیں۔ اس لئے بڑے بڑے عہدہ دار اس میں شامل ہوتے ہیں۔ لوگوں نے فری میسنری کے متعلق عجیب عجیب باتیں سنائی ہیں۔ مگر فری میسن ان کو سن کر ہنس دیتے ہیں۔

شاکت مت: پھر ہندوؤں میں ایک قوم ہے جو اپنے مذہب کو مخفی رکھتی ہے۔ لاہور اور امرتسر میں وہ دو تین ہوں گے۔ وہ بھی اپنے مذہب کو بہت ہی مخفی رکھتے ہیں۔

میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جو تعلیم تعظیم الہیہ اور شفقت علی خلق اللہ پر مبنی اصول رکھتی ہو اس کے چھپانے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ میں نے بہت سوچا ہے مگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لئے ان تمام مخفی مذاہب کے مقابلہ میں اسلام پانچ وقت روزانہ بلند آواز سے اپنے کل عقائد کو کھول کر بیان کرتا ہے۔

اسلام کا امتیاز: کیونکہ اسلام میں کوئی مخفی راز نہیں اگر کسی نے شخصی ضرورتوں کے لئے کوئی ایسی انجمن بنائی ہو تو اس کا ہمیں علم نہیں مگر یہ میں جانتا ہوں کہ اسلام

کسی مخفی سوسائٹی کی تعلیم نہیں دیتا اور جہاں تک میں نے اسلام کو سمجھا ہے اس کی کوئی ایسی بات نہیں جو مخفی رکھی گئی ہو۔ بہر حال ہمارا مذہب تو ایسا کھلا ہے کہ پانچ وقت پہنچایا جاتا ہے۔ زمین چونکہ گول ہے اس لئے یہ کہنا درست ہے کہ ہر وقت اس کے اصولوں کو کھول کر سنایا جاتا ہے۔ اس پر تین سال گزر گئے ہیں اور یہ برابر سنایا جاتا ہے۔

غرض اس آیت میں اسلام کے احسان عام کی تعلیم ہے جس سے دنیا میں ایک امن اور سلامتی پیدا ہو سکتی ہے جبکہ یہ تعلیم دی ہے کہ ہمیں منعم علیہ کی راہ دکھاؤ۔ اس میں کسی قوم اور ملک کو مخصوص نہیں

کیا۔ پس ہم کہتے ہیں جو بھی تیرے حضور اَنَعَمْتَ ہیں ان کے قدم بقدم چلاؤ۔

پھر ایک اور احسان عام اسلام
اسلام کی تعلیم میں عالمگیر صلح کا دوسرا اصل:

تعلیم دی۔ لَا تَسْبُوَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ (الانعام: ۱۰۹)۔ فرمایا کوئی معبود کسی قوم کا ہو کسی کو گالی مت دو۔ قرآن کریم چونکہ اپنے دعویٰ کے ساتھ دلائل بیان کرتا ہے۔ اس لئے اس تعلیم کی خوبی عقلی دلیل سے سمجھائی کہ جو لوگ اللہ کے سوا اور معبودوں کو پکارتے ہیں تم ان کے معبودوں کو گالی نہ دو۔ کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے۔ اس عقلی دلیل سے ہماری قوم کو بتایا ہے کہ کسی دوسری قوم کے معبود کو ہم گالی نہیں دے سکتے اور یہ نخر صرف قرآن مجید کو حاصل ہے۔ کوئی کہے تم کیا جانتے ہو؟ میں کہتا ہوں کہ میں نے بائبل کو پڑھا ہے اور کثرت سے پڑھا ہے۔ اس میں یہ تعلیم نہیں۔ تین وید پڑھے ہیں (پڑھوا کر سننے ہیں) اور خوب پڑھے ہیں۔ ژنداوستا، گاتھ، سفرنگ کو خود پڑھا ہے اور خوب پڑھا ہے مگر یہ تعلیم کہ کسی اہل مذہب کے معبود کو گالی نہ دو۔ ان میں نہیں۔ قرآن کریم نے صداقت اور ہدایت کے لئے مسلمانوں کو ایسا وسیع الحوصلہ ہونے کی تعلیم دی کہ اَنَعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی دعا سکھائی۔ تمام مذاہب پر یہ احسان عام کیا کہ ان کے معبودوں کو گالی دینے سے منع فرمایا۔ اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ معبودان باطلہ کی تردید منع کی۔ اس کے لئے الگ اصول اور طریقے تعلیم کئے۔ یہاں صرف وہ بات بتائی جو امن اور سلامتی کو قائم رکھتی ہے۔ پھر ان احسانات کے ساتھ ایک اور احسان اسلام نے کیا جو میرے خیال میں دنیا کے کسی ریفارمر اور مصلح کو نہیں سوجھا وہ یہ ہے۔

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدَمَتْ صَوَابِعُ وَبِيعَ وَصَلَوَاتٌ وَ

مَسْجِدٌ يَذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا (الحج: ۴۱)

ہم بعض اوقات خود حفاظتی کا حکم دیتے ہیں اور اس سے غرض یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو گر جے تباہ ہو جاویں۔ دھرم سالے اور یہودیوں کے معبد تباہ ہو جاویں اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ تباہ ہوں۔ کیا یہ سنہری اصل دنیا کی کسی مذہبی کتاب میں پایا جاتا ہے؟ اگر یہ فقرہ انجیل میں ہوتا تو مسیحی لوگوں

نے جو سلوک اپنے مخالف لوگوں کے معبدوں سے کیا ہے وہ نہ ہوتا۔ میتھالوجی کو پڑھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ مسیحی لوگوں سے پہلے کس قدر معبد تھے۔ جن کا آج نام و نشان بھی نہیں۔ مثلاً پڑاموں کا بڑا عظیم الشان مندر تھا۔ جہاں سکندر اعظم پیادہ حج کرنے آیا تھا۔ مگر آج کوئی بتا نہیں سکتا کہ وہ مندر کہاں تھا؟

اس قدر تنگ دلی، ضد اور تعصب اور ہٹ اسلام پسند نہیں کرتا کہ معبد گرا دیئے جائیں۔ مسلمانوں نے جہاں آٹھ سو برس، ہزار اور بارہ سو برس بھی راج کیا ہے۔ اس ملک کے معاہد اب تک موجود ہیں اور ان کو تباہ نہیں کیا مگر بڑی روشنی سکھانے والی قوم سے پوچھیں کہ پڑاموں کا مندر کہاں تھا؟ تو نہیں بتا سکتے نشان تک مٹا دیئے بلکہ یروشلم جیسی جگہ جو بائبل میں بھی مقدس سمجھی گئی تھی۔ پاشا پاش کر دی گئی اور وہاں سور کی قربانی کی گئی۔ شاید کوئی کہہ دے کہ سور ناپاک نہیں۔ مگر بائبل پڑھیں گے تو اس کے خلاف پائیں گے۔ اس کے بالمقابل دیکھو کہ سپین اور فلسطین میں کیسی پُرشوکت اسلامی سلطنت تھی مگر دیکھ لو پرانے سے پرانے معبدوں کو چھیڑا نہیں بلکہ فاروق اعظم کے زمانہ میں جب وہ یروشلم تشریف لے گئے تو وہاں کے بپشپ نے کہا کہ یہاں نماز پڑھ لو۔ انہوں نے فرمایا کہ تم بڑے ناعاقبت اندیش ہو اگر میں یہاں نماز پڑھ لوں تو مسلمان اس گرجے کو مسجد بنالیں گے۔ ہماری سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نجران کے عیسائی آئے اور اتوار کا دن تھا۔ آپ نے فرمایا میری ہی مسجد میں گرجا کر لو۔ وہ لوگ رومن کیتھولک ہوں گے مگر کس حوصلہ کے ساتھ ان کو اجازت دی۔ اس سے پایا جاتا ہے جہاں وہ احسان عام کرتے تھے وہاں ابقائے عام بھی ان کا مذہب تھا۔ خواہ ہندوستان میں پہلی صدی ہجری میں عرب آئے اور کم از کم ساڑھے گیارہ سو سال تک اسلامی سلطنت یہاں رہی۔ قصہ تو مشہور ہے کہ عالمگیر سوامن جینو روزانہ اترا کر کھانا کھاتے تھے مگر یہ الزام دینے والوں سے اگر حساب پوچھیں کہ تم حساب دان ہو۔ مہربانی کر کے بتاؤ کہ سوامن جینو پنپنے والے کس قدر انسان ہوتے ہیں اور عالمگیر کی سلطنت پر اس حساب کو پھیلائیں تو پھر ہندوستان کیا ساری دنیا کو بھی پورا کر دیتے۔ اس عرصہ دراز میں ہندوستان کے معاہد پر اسلامی سلطنت نے کیا اثر کیا؟ ان کی موجودگی خود ظاہر کرتی ہے۔

ہاں آزادی کو نہیں روکا۔ قبول مذہب میں اسلام نے آزادی کو قائم رکھا جب کہ کہا۔
 لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (البقرة: ۲۵۷) اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے اسلام میں داخل ہو جاوے تو اس کا
 اختیار ہے۔ پھر بھی بڑے بڑے قیود سا تھر رکھے۔ ظاہر میں اگر مسلمان ہو اور دل میں نہ ہو ہم لوگ
 اسے منافق کہیں گے اور اس کے متعلق فتویٰ پر ہے۔ **إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ
 النَّارِ (النساء: ۱۳۶)** ایسے لوگ کبھی کسی اعزاز اسلام میں شریک نہیں کئے جاتے۔ غور کرو کیسی
 خطرناک قید ہے۔ سوائے اس کے کہ شرح صدر سے داخل اسلام ہوں کوئی تحریک مسلمان بنانے کی
 نہ تھی اور میرے خیال میں تو اسلام میں داخل ہونے کے لئے کچھ روکیں بھی تھیں۔

جزیہ: منجملہ ان کے ایک جزیہ ہے نا واقف لوگوں نے جزیہ پر اعتراض کئے ہیں مگر میں کہتا
 ہوں کہ جزیہ تو اسلام سے روکنے کا موید تھا۔ جزیہ ایک ٹیکس ہے جو ہر ایسے شخص سے
 وصول کیا جاتا جو مسلمان نہ تھا مگر مسلمانوں کے ملک میں امن اور چین سے تجارت کرنا چاہے تو جہاں
 مسلمانوں کو ۱/۲۰، ۱/۱۰، ۱/۱۰ اپنے اموال کا دینے کا حکم ہے وہاں اس غیر مسلم کو ۱/۴ ماشہ سونے سے
 زیادہ نہ دینا پڑے اور حسب حیثیت کم ہو جاوے۔ مسلمانوں کے مقررہ حصہ زکوٰۃ کے علاوہ اور
 صدقات بھی دینے پڑتے بلکہ جان بھی دینی پڑتی مگر اس قوم کو جو مسلم نہیں اپنی حفاظت جان و مال
 کے بدلہ میں ایک نہایت ہی خفیف ٹیکس دینا پڑے اور اس پر بھی اعتراض ہو تعجب!

میں نے کہا ہے جزیہ اسلام سے روکنے کی تائید کرتا ہے۔ غور کرو کہ ایک مسلمان جس کے پاس
 دس کروڑ ہو تو وہ پچیس لاکھ زکوٰۃ دے۔ مگر جو مسلمان نہیں وہ صرف ساڑھے چار ماشہ سونا جو چھ سات
 روپے کا ہو دے کر مخلصی کرا سکتا ہے۔ اب ایک دنیا دار تو یہی کہے گا کہ جزیہ دینا ضروری ہے کیونکہ
 مسلمان ہونے سے بڑی بھاری مالی قربانی کرنی پڑے گی اور اگر اس پہلو کو چھوڑ کر بھی جزیہ پر غور
 کریں تو کوئی متمدن سلطنت ایسی نہیں جو ٹیکس کو ضروری نہ سمجھتی ہو اور آج کل تو ٹیکسوں کی وہ بھرمار
 ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے اور پھر وہ سب ضروری ہیں۔ روز بروز تمدنی ضروریات کی وجہ سے
 رنگ برنگ کی تدبیروں سے ٹیکس لگاتے ہیں۔ ہوا، مکانات، پانی پر ٹیکس، حروف پر ٹیکس، مکانوں پر
 ٹیکس، خوردنی اشیاء پر ٹیکس، گاڑیوں پر ٹیکس، کتوں پر ٹیکس، جانوروں پر ٹیکس مگر جس قدر جزیہ کو برا سمجھا

جاتا ہے ٹیکس کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ محض تعصب اور ہٹ کانہیجہ ہے۔ انصاف اور غور کو اس میں دخل نہیں ورنہ یہ جزیہ بھی احسان عام میں داخل سمجھا جاتا۔

یہ تو جزیہ کی حقیقت ہے۔ رہیں لڑائیاں، وہ الگ چیز ہیں۔ ان کے تعلقات دین سے نہیں ہوتے۔ مثلاً آج

اسلامی جنگوں پر ایک نظر:

جو تم لوگوں کے خیال میں روشنی کا زمانہ ہے اور امن اور صلح کا عہد ہے۔ کیا لڑائیاں مٹ گئیں بلکہ جس قدر بحری اور بری لڑائیوں کے ہتھیاروں کی ایجاد ہوئی ہے۔ پہلے زمانوں میں اس کی نظیر بھی نہیں ملتی۔ سمندر میں جاؤ، ہوا میں جاؤ، قاتل ہتھیار تمہارے لئے موجود ہیں۔ بعض ہتھیاروں کے موجد سے کہا گیا کہ یہ بد امنی کی راہ ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ان ہتھیاروں سے جنگ کا دامن لمبا نہیں ہوتا جلد فیصلہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب ہم غور کرتے ہیں تو کیا کوئی زمانہ لڑائیوں سے خالی گیا ہے۔ اگر عام جنگیں نہ ہوں تو خانہ جنگیاں ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ بوزوں کی جنگ ابھی چھڑی نہ تھی۔ ایک میرے دوست نے کہا کہ اب جنگ کا خاتمہ ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد بوزوں کی جنگ چھڑ گئی۔ تب میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں صاحب جنگ کا خاتمہ ہو گیا؟ بہر حال پھر میں نے کہا کہ دونوں ہی پرائسٹنٹ ہیں۔ اس نے کہا ہاں آپ کا اعتراض درست ہے۔ جاپان کو کچھ اگر معزز بنایا تو جنگ نے غرض جنگ دنیا سے کبھی دور نہیں ہوئی اور یہ ایک اٹل چیز ہے اس کے اسباب الگ ہیں۔

ہندو اگر جنگوں پر اعتراض کرتے ہیں تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کرشن جی پہلے تھے یا رام چندر جی۔ جب مہابھارت اور گیتا کو

ہندو قوم میں جنگیں:

پڑھتے ہیں تو رام اوتار کا ذکر نہیں پاتے اور رامائن کو پڑھتے ہیں تو اس میں کرشن جی کا ذکر نہیں۔ بالک مفصل تاریخ رام کی ہے اور تلسی رامائن عام فہم تاریخ ہے مگر اس میں کرشن دیو کا ذکر نہیں اور مہابھارت گیتا میں کرشن کا بہت بڑا تذکرہ ہے مگر رام اوتار کا نہیں۔ ان دونوں کے متعلق جب ہم غور کرتے ہیں تو بڑے ہی ہر دل عزیز ہیں۔ جوگ، بششٹ سے رام چندر جی کی تعلیم کا پتا لگتا ہے وہ ان کے استاد کی کتاب ہے وہ بہت نرم چلنے والے تھے اگر گرم ہوتے تو بن باس کے وقت فوج کو گانٹھ سکتے تھے اور اوجو دھیا میں خون کی ندیاں بہا دیتے۔ عورت کا مقابلہ چیز ہی کیا تھا۔ مگر اپنا وطن

چھوڑ دیا۔ جنگل میں رہنا اختیار کیا۔ باوجود اس نرمی کے دیکھو جنگ کیسی اٹل ہے جنگل میں بھی جنگ کرنی پڑی اس حد تک مخالف قوموں کو نیچا دکھایا کہ دکن کی جن لوگوں نے سیاحت کی ہے۔ وہاں دہیڑ قوم چوہڑوں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ وہ راون کے طرفدار تھے۔ اب رام لیلا پر چاہے مسلمانوں سے مقدمات کریں مگر مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ ایک جگہ بڑی رام لیلا ہوتی تھی ایک بڑے عالم و ودان اس میں شریک نہ تھے۔ میں نے پوچھا کہ آج آپ نہ تھے اس نے کہا کہ وہ بڑے پلیچھ ہیں۔ برہمن کو مارا اور یہ بھی کہا کہ راجہ سے پوچھو کہ رام لیلا کے بعد پراشچت کیوں کرتا ہے۔ دوسرے دن مجھے موقع ملا تو میں نے اس رئیس سے پوچھا کہ کل بڑا تماشا ہوا اس نے کہا ہاں اگلے سال زندہ رہے تو پھر راون کو ماریں گے۔ اس پر میں نے کہا کہ آپ تو بڑے مضبوط ارادے رکھتے ہیں۔ مگر رات کو کیا رسم ہوئی تھی۔ کہا ہاں پراشچت ہے۔ راون برہمن تھا برہمن کو مارنا بڑا گناہ ہے اس لئے پراشچت کرنی پڑی۔ میں نے کہا آپ گناہ بھی سمجھتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ تو کہا یہ اور بات تھی اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑائیاں اور چیزیں ان کے اسباب الگ ہوتے ہیں اور وہ اٹل ہوتی ہیں۔ کرشن جی گوپال تھے۔ مٹھرا میں بارش کے دنوں میں عجیب نظارے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے ایک قوم کے آگے ایک قوم کی سفارش کی تھی اور سفارش بھی اتنی کہ ان کو پانچ گاؤں دے دو، کورو کے سامنے پانڈو کی سفارش کی تھی مگر مصلحت ملکی سے انہوں نے نہ مانا۔ آخر مہابھارت کی جنگ جیسی خطرناک تھی۔ اسے ہمارے ہندو دوست خوب جانتے ہیں ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ بڑا ظلم کیا مگر اس وقت کیا ہوا۔

سکھوں کا عہد: ہماری آنکھوں کے سامنے پنجاب اور پھر لاہور ہے۔ گرو گرنٹھ صاحب کے بچن کیسے نرم ہیں اور باوا صاحب کے شاگردوں کا نام سکھ تھا جو اچھی باتیں سیکھ کر عمل کرتے ہیں مگر دسویں خلیفہ کے وقت بات کہاں تک جا پہنچی۔ سکھ کی بجائے آئندہ سنگھ کہلائے جس کے معنی شیر کے ہیں یہ جنگی رنگ تھا۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ جنگی امور اور مصالحوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہے کہ اسلام میں مروت عام ہے اور وہ مذاہب کا ابقا چاہتا ہے پھر اگر کوئی کہے کہ جنگ کیوں کئے تو میں نے تاریخی واقعات سے بتایا ہے کہ صوفیوں کو بھی کرنے پڑے ہیں۔

اب وہ قوم باقی ہے جو کہتی ہے مبارک وہ جو دل کے غریب اور حلیم ہیں اور عیسائی قوم: ایک گال پر طمانچہ کھا کر دوسری پھیر دو۔ کوئی چادر مانگے تو گرتا بھی دے دو۔ ایک میل بگار کے لئے لے جاوے تو دو میل چلا جاوے۔ مگر باوجود اس تعلیم کے گولیوں، ریفلوں، جنگی جہازوں اور تار پیڈو دیکھ لئے۔ آئے دن کی جنگی ایجادوں کو دیکھ لو۔ پھر پتا لگ جاوے گا وہ تعلیم اب کہاں ہے؟ غرض تمام مذاہب جو اسلام کی جنگوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ خود اس میں مبتلا ہیں باوجود اس کے اسلام کی لڑائیاں دفاعی تھیں چنانچہ فرمایا: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (البقرة: ۱۹۱)۔

تاریخ ہند کی غلطیاں: ہاں ہمارے بچے بہت معذور ہو سکتے ہیں۔ میں نے ایک بچے کے ہاتھ میں تاریخ ہند دیکھی اس میں سیواجی مرہٹہ اور عالمگیر

کے حالات کو دیکھا۔ سیواجی نے کہیں خوشامد سے کام لیا ہے اور کہیں دھمکی سے، مورخ وہاں کہتا ہے کہ سپاہیانہ طرز ہے۔ سیواجی بڑا بے نظیر سپاہی تھا۔ کیسی ترکیب کی ہے پہاڑوں اور راستوں کا بڑا ماہر تھا۔ فلاں موقع پر کیسا مخفی ہوا۔ پھر وہی لفظ جب عالمگیر کے متعلق استعمال کرنے پڑے تو کہتا ہے گربہ مزاج کیسا شتر مرغ سا کام کیا ہے۔ میں نے اس بچے سے پوچھا تم نے تاریخ پڑھی ہے۔ سیواجی بڑا تھا یا عالمگیر، اس نے کہا سیواجی بڑا بہادر سپاہی تھا وہ بڑا تجربہ کار اور ہوشیار تھا اور عالمگیر مکار تھا۔ اس کا کام گربگی کا ہے۔ میں نے جب سیواجی کے متعلق اس کو وہی کام دکھائے جو عالمگیر کے نام پر آنے سے مکاری بنتے ہیں اور سیواجی ان کے ذریعہ بہادر اور تجربہ کار سپاہی بتایا جاتا ہے۔ تو وہ حیران سا ہو گیا اور کہا کہ دونوں کی ایک ہی بات ہے پھر میں نے کہا کہ یہ کیوں فرق کرتا ہے۔ دواں کی سوانح عمری پڑھ کر بتاؤ اس نے کہا میں نے سمجھ لیا ہے۔ دونوں کو لڑاتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارا نکتہ یاد رکھو جب تم بہت پڑھ لو گے تو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔

اسلامی تاریخ کا ایک واقعہ: غرض قوموں میں ایسے انقلاب آجاتے ہیں کہ انہیں جنگ سے کام لینا پڑتا ہے۔ میں نے تاریخ میں

پڑھا ہے کہ مسلمانوں کے وقت امتحان اور مقدمات کتنی جلد طے ہوتے تھے۔ اصمعی ایک بڑا لغت کا امام تھا۔ بخاری اور مسلم بھی اسے لغت کا امام مانتے ہیں۔ اصمعی کے استاد نے ہارون رشید کے حضور کہا کہ اصمعی تیار ہو گیا ہے اس کا امتحان لے لینا چاہئے۔ ہارون رشید نے کہا کہ جب ہم کل سوار ہوں تو اس کا امتحان لیں گے ایک افراتفری اس پر پڑی کہ خدا جانے کس چیز پر سوار ہوں بہر حال وقت مقررہ پر ہارون رشید باہر آیا۔ لغت کے استاد کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اصمعی کو پیش کیا۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ کیا تم تیار ہو اس نے جواب دیا کہ ہاں۔ تب ہارون رشید نے گھوڑے کے پٹھے میں ہاتھ رکھ کر کہا کہ اس کو کیا کہتے ہیں۔ اصمعی نام بتاتا گیا اور اس کی سند میں شعر پڑھتا گیا۔ ہارون رشید نیچے تک ہاتھ لے گیا اور اصمعی فوراً بتاتا گیا۔ جب ختم کر چکا تو پھر پٹھے پر ہاتھ رکھ کر آگے کی طرف چلا گیا اور کہا کہ منہ تک جاؤ اور نام لیتے جاؤ کہا کہ جلدی کرو کہ میں نے باہر جانا ہے۔ اصمعی بتاتا گیا۔ آخر ہارون نے کہا پاس امام اللغت، ایک آن میں امتحان بھی ہو گیا نتیجہ بھی نکل آیا اور ڈپلومہ بھی مل گیا۔ اب دیکھ لو کہ جس قدر روشنی بڑھتی جاتی ہے مشکلات بڑھ رہے ہیں۔ مقدمات کے متعلق جو حال ہے وہ تم جانتے ہو۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ سویلیزیشن کے کیا معنی ہیں؟ اس نے کہا کہ ایک روپیہ کے مقدمہ کے لئے پریوی کنسل تک پہنچے۔

ملکی مقدمہ بازی اور سویلیزیشن پر ریمارک: جس قدر تو میں تمہاری نگاہ میں تہذیب سے گری ہوئی

ہیں ان میں مقدمہ بازی نہیں ہوتی وہ اپنی پنچایت آپ کر لیتے ہیں۔ مگر جلسازی، جعلی نوٹ اور چیک بنانا یہ سویلیزیشن کا کام سمجھا گیا ہے۔ ایک شخص تین مہینے تک میرے گھر میں رہا اور خوب کھاتا پیتا رہا۔ آخر کہا کہ مہمان نوازی بھی سویلیزیشن کے خلاف ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ تو ہمیں احمق بناتا ہے۔ اس پر اس نے بڑی بڑی کہانیاں سنائیں کہ فدائی دوست اور عزیز بھی ہوں تو بھی سویلیزیشن کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہوٹل میں اتریں ان کا مخلص دوست زیادہ سے زیادہ یہ کرے کہ اپنے دوست کے آرزو میں ایک ڈنر دے دے۔ اس طرح پر اس نے انگریزی سوسائٹی کے آداب اور مشکلات کو سنایا۔ میں نے ان کو کہا کہ تم نماز کی پابندی نہیں کرتے اور قرآن مجید کے قوانین کی

پابندی نہیں کرتے۔ حالانکہ سوسائٹی کے قوانین تو قرآن مجید سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ بڑی مشکل سے ان قوانین تہذیب کو سیکھا ہے۔ اب میں چھوڑ سکتا ہوں؟ غرض دنیا کی عجیب حالت ہے، بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ میں بتا رہا تھا کہ اسلام احسان عام کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے ضمن میں اسلامی جنگوں کی بحث آگئی۔ تب مجھے جنگ کی عام حالت پر کچھ کہنا پڑا۔

اسلام نے اس سورۃ میں **اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ** کی راہ کی ہدایت کی دعا سکھائی ہے اور پھر عمل سے بھی بتایا اور کہا۔ **فَاَمَّا يَا تَبِيتُكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنِ تَبِعَ هَدَايَ فَلَا**

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرہ: ۳۹)۔ عمل بڑا کارخانہ ہے اور دنیا ایک عملی دنیا ہے جو انسان ہدایت کی اطاعت کرتا ہے وہ کبھی خوف و حزن میں مبتلا نہیں ہو سکتا اور الہی ہدایت ہمیشہ دنیا میں آتی رہتی ہے۔ حزن گذشتہ کا خوف ہوتا ہے اور خوف آئندہ کے نقصان کے لئے ہوتا ہے۔ اسی خوف و حزن پر ساری دوستیوں اور مخلوق کا مدار ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ خوف اور حزن سے بچنے کی ایک راہ ہے اور وہ اتباع ہدایت۔ **فَاَمَّا يَا تَبِيتُكُمْ مِّنِّي هُدًى** سے ظاہر ہوتا ہے۔ میری طرف سے ہدایت نامے ملا کریں گے۔ ہدایت نامہ تو ایک ہی ہوتا ہے مگر زمانہ کی نیرنگیاں، نئی تعلیم، ترقی، منزل، زبان کی حالت چاہتی ہے کہ پیرایہ جدید ہو۔ اس لئے فرماتا ہے **مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ** (النساء: ۳)۔ یہ معلم فطرت کو جگانے کے لئے آتے ہیں۔ اس لئے ان کا نام ذکر ہوتا ہے وہ آکر فطری قومی کو جگاتے ہیں۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ جو ہدایت نامہ تم نے مانگا تھا۔ وہ قرآن مجید کی صورت میں دیا گیا ہے اور بتایا کہ **لَا رَيْبَ فِيْهِ** (البقرہ: ۳)۔ ریب کے دو ترجمہ ہیں (۱) ہلاکت، (۲) شک و شبہ اور دونوں درست ہیں۔ تعلیمات الہیہ میں کوئی تعلیم ایسی نہیں جس سے ہلاکت کی راہ پیدا ہو بلکہ قرآن کے بیان سے یہ یقیناً ثابت ہوتا ہے کہ وہ یقیناً شفاء للناس ہے اور اس کے عمل درآمد سے میں علی وجہ البصیرۃ کہتا ہوں کہ اس پر عمل کرنے سے انسان **فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ** کا مصداق ہو سکتا ہے۔ ہاں اس تعلیم کی خلاف ورزی سے غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے نقصان اس کو اٹھانے پڑتے ہیں۔ جہاں تک میری نظر جاتی ہے اور میں نے غور کیا ہے یہ بالکل امر

واقعی ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے علوم، تجربے اور معلومات میں وسعت ہو۔ ہو سکتا ہے میرے بیان میں کمزوری ہو۔ ہو سکتا ہے تمہیں ایک واقعہ معلوم ہو اور مجھے نہ ہو مگر یہ بات کہ میری عمر بڑی ہو چکی ہے اور قوی ضعیف ہو چکے ہیں اگرچہ میرے کان، زبان، وہ طاقت نہ رکھتے ہوں مگر یہ یقینی بات ہے کہ قرآن مجید پر عمل انسان کو خوف و حزن سے نکال دیتا ہے۔ میں نے اپنی تمام عمر میں تجربہ کیا ہے اور جہاں تک میں قرآن کریم کی تعلیم کو سمجھتا ہوں انسان خوف و حزن سے بچ جاتا ہے۔ میرے دوست بے شک کہہ دیں کہ کیا میں کبھی غمگین ہوا ہوں یا انہوں نے مجھے کسی خوف سے روتے دیکھا ہے۔ وہ برسوں سے میرے پاس رہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے خوف اور حزن میں نہیں دیکھا پس اگر تم خوف و حزن سے بچنا چاہو اور اس کا علاج کرنا چاہو تو قرآن کریم کی اتباع سے ہوتا ہے مگر ایک شرط سے۔ وہ یہ ہے کہ علم صحیح ہو اور اس کے ساتھ عمل ہو۔ علم بدون عمل کے کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ مثلاً یہاں کنواں ہے کوئی شخص جو اس کا علم صحیح رکھتا ہے وہ اس میں نہیں گرے گا۔ مسلمانوں کو یہ صحیح علم ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم کے ذریعہ وہ خوف و حزن سے محفوظ رکھے گئے لیکن جب تک عمل نہ ہو کچھ فائدہ نہیں۔

میں اب بس کرتا ہوں ایک تو وقت ایسا تنگ ہے کہ بولنے کی زیادہ گنجائش نہیں۔ (ایڈیٹر۔ مغرب کا وقت قریب ہو گیا تھا) دوسرے جب سننے والوں میں کسی وجہ سے گھبراہٹ ہو تو بولنے والے کو خود مزہ نہیں آتا۔

(البدرد ۱۸ جولائی ۱۹۱۲ء صفحہ ۳ تا ۷)



منعم علیہ اور مغضوب وصال

﴿ تقریر فرمودہ ۱۷ جون ۱۹۱۲ء صبح بمقام مسجد احمدیہ بلڈنگس لاہور ﴾

دوسری تقریر کا تتمہ۔ بعد اصلاح حضرت خلیفۃ المسیح شائع ہوئی۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝ (الفاتحة: ۷، ۶، ۷)

کل میں نے یہی آیت پڑھی تھی مگر انہوں نے ایسا وقت رکھا کہ بولا جانا
انعامات الہیہ: مشکل معلوم ہوا۔ اللہ تعالیٰ عدم سے ہم کو نکال کے لاتا ہے اور وجود بخشتا

ہے یہ بھی اس کا انعام ہے ہم پر، جو انعامات الہیہ ہیں ان کی کوئی حد نہیں۔ ایک آیت پر غور کرنے
سے یہی معلوم ہوتا ہے فرماتا ہے **إِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا** (ابراہیم: ۳۵) اگر
تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ہرگز اس کے شمار و حد بست پر قادر نہیں ہو سکتے۔ پھر یہ کس
قدر اس کے فضل کی بات ہے کہ تمہاری تمام فطرتی خواہشوں کے سامان اس لئے عطا فرمائے ہیں۔
وَأَنْتُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ (ابراہیم: ۳۵) جو کچھ تمہاری حالت نے مانگا اس نے
عطا کیا۔ خدا تعالیٰ کے انعامات بے حد۔ ایک طرف انسان کی فطرتی ضرورتوں کا پورا ہونا دوسری
طرف، پھر میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مجید میں فرماتا ہے۔ **هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ**
(الانعام: ۱۹) اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر حکمران ہے۔ اس آیت پر تدبر کرتے ہوئے ایک مرتبہ میں
حیران ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ تو تمام کائنات کے ذرہ ذرہ پر حکمران ہے۔ جمادات، نباتات، حیوانات،
فرشتوں، سورج، چاند تمام فلکیات پر حکمران ہے۔ یہ کیا فرمایا خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر حکمران ہے؟

میں اس آیت پر بہت سوچتا رہا آخر میں اس
طرف متوجہ کیا گیا کہ قرآن کریم کا طرز استدلال:

کیا ہے؟ یورپ، امریکہ، ہندوستان اور چائنا کے متکلم ہمیشہ استدلال بالمثل کرتے ہیں۔ مثلاً وہ

کہتے ہیں کہ سٹیم نے فلاں جگہ یوں کام کیا ہے۔ اس لئے یہاں اس طرح پر ہوگا کیونکہ اسی قسم کے سامان موجود ہیں۔ اسی استدلال بالمثل میں بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور صحیح نتائج پیدا نہیں ہوتے۔ قرآن کریم اپنے استدلال کے طریق میں استدلال بالاولیٰ سے کام لیتا ہے۔ مثلاً ایک شمع مصفاً اگر فرض کریں کہ دو بالشت سے ایسی روشنی دیتی ہے کہ انسان آسانی سے اس میں پڑھ سکتا ہے پھر اگر اسی حیثیت کی شمع اس جگہ جمع کر دیں تو اس کی روشنی بدرجہ اولیٰ اتنی ہوگی کہ انسان آسانی سے پڑھ سکے۔ یہ استدلال یقینی ہوتا ہے اور قرآن مجید اسی سے کام لیتا ہے۔ میں قرآن مجید سے اس کی ایک دو مثالیں دیتا ہوں تاکہ تم اچھی طرح سمجھ جاؤ۔

ایک جگہ فرمایا کہ ماں باپ کی ایسی عزت کرو کہ ان کو اف تک نہ کہو۔ جب اف کی اجازت نہیں تو مارنے کی کس طرح ہو سکتی ہے؟ یہ استدلال بالاولیٰ ہے۔

پھر ایک جگہ ایک قوم نے اپنے ہادی سے کہا کہ ہمیں بھی ایسے ٹھا کر بنا دو جیسے دوسری قوموں کے ہیں تاکہ ہم بھی ان بتوں کی پوجا کریں۔ ان کے اس لغو خیال کی تردید یوں فرمائی۔ **إِنِّي كُنْتُ مِنَ الْهَادِقِينَ** (الاعراف: ۱۴۱) یعنی یہ بت جن چیزوں سے بنے ہیں وہ تو تمہاری خادم ہیں یا وہ چیزیں جن کی یہ پرستش کرتے ہیں تمہاری خادم ہیں جیسے آگ، پتھر، مٹی، سورج، چاند وغیرہ یہ سب تمہارے خادم ہیں۔ پھر خادم تو محدود نہیں ہو سکتے معبود کیونکر ہوں گے؟ اس طرح پر بت پرستی کی تردید کی۔

اس طریق استدلال بالاولیٰ کے رنگ میں یہاں **هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ** (الانعام: ۱۹) میں نکتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان تمام دنیا کی چیزوں پر حکمرانی کرتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ ہاتھی کو انگوٹھے سے چلاتا ہے، اونٹ کو ایک نیکیل سے اور گھوڑے کو لگام سے۔ بیل کے ناک میں رسی ڈال کر اس سے کام لے لیتا ہے۔ پہاڑوں کو کاٹ لیتا ہے، سمندروں پر جہازوں کے ذریعہ حکمرانی کرتا ہے۔ عناصر کی کوئی چیز نہیں جو اس کے قبضہ و اقتدار میں نہ ہو۔ انسان کی اتنی بڑی طاقت بتا کر کہا کہ ہم ایسے غالب حکمران ہیں کہ عناصر پر حکومت کرنے والے انسان پر بھی ہماری ہی حکومت ہے۔

انسان کو ایسا عجیب مخلوقات پیدا کیا ہے کہ پرندوں جنگلی
انسان کی بلند پروازیاں: درندوں پر حکومت کرتا ہے۔ کبوتر ہوا میں چلے جاتے ہیں

میں نے ایسے کبوتر دیکھے ہیں جو چوبیس گھنٹے تک ہوا میں اڑتے رہتے ہیں۔ مگر انسان کے حکم کے نیچے وہ اڑتے ہیں۔ شیر کیسا خطرناک جانور ہے، چیتے کا حملہ نہایت چستی سے ہوتا ہے مگر انسان شیر سے شکار کرتا ہے پھر وہ مالک کے حکم کے انتظار میں رہتا ہے اگر کہہ دے چھوڑ دو تو چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور اگر کہا جاوے کہ اس کو پکڑے رکھو تو کھڑا رہتا ہے۔ باز کیسا ہوا میں اڑتا ہے انسان کے قابو سے نکل جاتا ہے باوجود اس آزادی کے شکار پکڑتے پکڑتے اگر اس کو کہہ دیا جاوے کہ واپس آ جاؤ تو چھوڑ کر آ جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی طاقت دی ہے کہ وہ کائنات پر حکومت کرتا ہے۔

پھر جب سے انسانی نسل جاری ہوئی ہے حفظ صحت اور حفظ بقا کے لئے اس نے کیا کیا تجویزیں کی ہوں گی۔ بادشاہوں نے اپنے رنگ میں، انبیاء و اولیاء نے اپنی دعاؤں کے رنگ میں اس کی بقا کا انتظام سوچا مگر قاہر علی العباد کی زبردست حکومت کا کتنا بڑا اثر ہے کہ موت کا ہاتھ سب پر چلتا ہے۔

بعض لوگوں نے اپنی غلط فہمی سے مسیح کو موت سے مستثنیٰ کیا تھا مگر مرزا کی جماعت نے اس پر بھی حملہ کر دیا اور ایسا حملہ کیا کہ اب مسیح کی حیات کا ماننا ایک نادانی کا کام رہ گیا ہے۔

غرض انسان بڑی طاقت اور قدرت کا نام ہے اس نے تمام دنیا پر حکومت کی ہے اور کائنات کی کسی چیز کو اس نے بے تراش خراش نہیں چھوڑا۔ تمہارے اس شہر میں ایک شخص نے کسی سے کوہ نور ہیرا لیا تھا مگر جب اسے کام میں لانے لگے تو اس پر تراش خراش کا عمل جاری ہوا۔ یہ جو مبارک حویلی ہے یہاں ہی اس کا سودا ہوا تھا بکنا کیا تھا اس کی قیمت پوچھی تھی تو جواب میں جوتی کھوسڑا ہی بتایا گیا۔

غرض تمام اشیاء پر انسان کی حکومت ہے اور جناب الہی کی اس پر بھی حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر بڑے بڑے انعامات کئے ہیں۔ یہ کیا کم انعام ہے کہ اس کو ایسی قوت دی کہ تمام چیزوں پر حکمرانی کرتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ سورج کی کرنوں اور ایتھر سے حالانکہ اس کو دیکھا

نہیں کام لیتا ہے۔ ایتھر کی چمک سے بڑے بڑے کام نکالتا ہے۔ بڑی بڑی آفتوں کے علاج سوچتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ **أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ** کی ایک جماعت ہے۔

ایک بیمار تندرستی کے انعام کو چاہتا ہے۔ مقدمہ باز مقدمہ جیتنے کا، مفلس مفلسی کے دور ہونے اور آسودگی، محبت حصول محبوب کے لئے کوشش کرتا ہے۔ غرض ہر شخص مختلف انعام چاہتا ہے اور انعام اس قسم کی چیز ہے کہ انسان اس کو گن نہیں سکتا۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ انسان پر بڑے بڑے انعام کئے ہیں۔ اس دعا کا سلسلہ اس واسطے بڑا وسیع ہے۔ مفلس آرام و دولت چاہتا ہے۔ پورٹ بلیر والا چاہتا ہے کہ ایسی تقریب پیدا ہو کہ واپس آ جاؤ۔ تاجر بڑا منافع چاہتا ہے۔ زمیندار چاہتا ہے زمین آباد ہو جائے غرض **أَنْعَمْتَ** کے نیچے سارا جہان چلتا ہے کسی کی اولاد ہے ہزاروں مصیبتیں کھڑی ہیں لڑکانیک ہو بدکار نہ ہو۔ ایسی جگہ شادی ہو کہ لڑکی نیک اور تندرست ہو پھر اس کی اولاد نیک ہو بڑھاپے میں آرام پاؤں۔ کس قدر مطالب ایک ایک چیز سے وابستہ ہیں۔ پھر خود انسان کی اپنی حالت پر غور کریں تو کس قدر اعضاء بدن میں ہیں ہر ایک عضو نشوونما کا محتاج ہے۔ پٹھوں کی کثرت کی انتہا نہیں یہ سب کی صحت چاہتا ہے۔ ایک انعام انبیاء، صدیق، شہداء اور صالحین پر ہوتا ہے۔ اس کا بھی محتاج ہے پھر کبھی یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے انعامات کے سلسلہ میں کوئی مصیبت آ جاتی ہے۔ مثلاً لڑکا با اقبال ہو، آسودہ اور معزز ہو۔ وہ کسی بیماری یا مقدمہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تب ساری خوشی غم سے مبدل ہو جاتی ہے۔ سارا گھراسی سے وابستہ ہے اس لئے سب حیران۔ غرض انسان انعامات کا محتاج ہے بڑے بڑے متکبر جنہوں نے خدا تعالیٰ کی ہستی نہیں مانی گھبرا کر وہ بھی انعام ہی چاہتے ہیں لیکن جیسا کہ ابھی اوپر کہا ہے کہ بعض وقت انعامات میں ایک تکلیف پیدا ہو جاتی ہے۔ اس دعا کی تکمیل اس طرح پر فرمائی کہ

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (الفاتحة: ۷)

ہم منعم علیہ تو ہو جاویں مگر انعام پا کر مغضوب اور ضال نہ بن جاویں۔

مغضوب اور ضال کس کو کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ

مغضوب و ضال:

سچائی کو خوب جانتے ہیں۔ برہم لوگوں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ ساری سچائیوں کا علم انسان کے

اندر ہی ہے۔ قانون اور شریعت پھر تجربہ اور عبرت بتاتی ہے ایک کو کسی فعل سے تکلیف ہوئی تو دوسرا سمجھتا ہے کہ ایسا فعل ہم نہ کریں۔ انسان کا خاصہ ہے کہ کبھی انعام سے غضب کے نیچے آجاتے ہیں۔ پہلے مسلمانوں کو دیکھو کیسے فاتح اور معزز و مکرم تھے لوگ ان پر رشک کرتے تھے ان پر بڑے بڑے انعامات تھے۔ جدھر توجہ کرتے تھے ایک مہینے کی دور راہ پر لوگ کانپ اٹھتے تھے۔ آج ان کی جو حالت ہو رہی ہے وہ ظاہر ہے ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ غرض مغضوب علیہم وہ ہوتے ہیں جن کو علم ہوتا ہے مگر اس علم پر عمل نہیں ہوتا یا بے جا غضب اور عداوت کا شوق ہوتا ہے۔ امرتسر میں ایک شخص میرا بڑا ہی معتقد تھا۔ دس بجے تک میں باہر رہا اور وہ میرے ساتھ رہا جب ہم واپس لوٹے تو کہنے لگا کہ آپ کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے آپ سنت کے متبع نہیں۔ میں نے کہا کہ ہزاروں صدائیں میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہیں۔ انہوں نے تمہیں کچھ فائدہ نہیں دیا۔ بولا میں تو یہی دیکھتا رہا مجھے خبر بھی نہیں آپ نے کیا بیان کیا؟ میں اسی میں لگا رہا کہ آپ بدعت کرتے ہیں کیونکہ پاجامہ گھٹنے سے نیچے پڑا ہوا تھا۔ اس قسم کا بغض بے جا ہوتا ہے جو انسان کو مغضوب بنا دیتا ہے یہ بغض بے جایا تو بد فطرت و بد صحبت کے سبب سے پیدا ہو جاتا ہے یا انسان نکمی کتا میں پڑھتا ہے ان سے متاثر ہو جاتا ہے اور محرکات بد ہوتے ہیں۔ میرا پاجامہ اب بھی نیچے گرا ہوا ہے میں تعہد بھی کرتا ہوں شاید تم اس کو سولائیزیشن (Civilization) کے خلاف کہو کہ میں اب تمہارے سامنے اس کو درست کرتا ہوں (ایڈیٹر۔ کیا ہوا صدیق کا تہ بند بھی گرا رہتا تھا۔ یہ کچھ ایسی ہی مماثلت معلوم ہوتی ہے) پس بے جا عداوت یا علم ہو اور اس پر عمل نہ ہو یہ مغضوب لوگوں کا خاصہ ہے۔

تم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو مرزا صاحب کی جماعت میں داخل **بحث کفر:** سمجھتے ہیں اب غور کرو۔ مولوی تو ہم پر کفر کا فتویٰ دیتے ہیں اور عوام بھی ان کی

پیروی سے ہمیں کافر کہتے ہیں۔ ہم ان کا پتھر جب ان کو واپس دیتے ہیں تو پتھر بھی ہم پر ہی اعتراض کرتے ہیں کہ تم ہم کو کافر کہتے ہو۔ ہم پتھر کہتے ہیں کہ جو نعمت تم نے ہمیں دی تھی ہم تو وہی واپس کرتے ہیں مگر ہمیں کافر کہنے کے لئے تو بڑی جرأت کرتے ہیں اور ہمارے اس پتھر کو واپس کرنے پر چلا تے ہیں۔ حالانکہ میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے کہ وہ اسماء حسنیٰ کا مسٹی اور نقائص سے منزہ ہے وہ واحد حقیقی ہے اور میں اسے ایسا ہی یقین کرتا ہوں۔

اپنے عقائد: اپنے عقائد میں اس کے اسماء، افعال، صفات میں کسی کو شریک نہیں مانتا اور اس کی تعظیم میں خواہ وہ عادتاً یا عبادتاً شریک نہیں مانتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کو خاتم الانبیاء اور خاتم کمالات انسانی مانتا ہوں اور قرآن مجید کو خاتم الکتب۔ ایسا ہی جزاء و سزا کو حق اور جنت و نار کو حق۔ ملائکہ اور کتب الہی پر ایمان رکھتا ہوں۔ باوجود اس کے بھی جو ہمیں کہتا ہے کہ تم بڑے بے ایمان ہو تو ہم اسے اتنا ہی کہیں گے کہ تم ہمارے دل کے ذمہ دار نہیں۔ ہم کو تمہارا خوف اور طمع کیا ہے؟ میں اپنی جان میں دل سے شہادت دیتا ہوں کہ اپنی آنکھ سے فرشتوں کو دیکھا ہے اس لئے میں انکار نہیں کر سکتا۔ تم اس بات کو سن کر خواہ ہنس دو مگر میں تو اپنی آنکھ سے انہیں دیکھ چکا ہوں اور ان کی محبت و احسان کو اپنی آنکھ سے دیکھا اور اپنے کانوں سے انہیں یہ کہتے سنا ہے۔

نَحْنُ أَوْلَىٰكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (حَمَّ السَّجْدَةِ: ۳۲)

تم کہتے ہو مگر پتا لگے گا میں کہتا ہوں کہ ہم نے تو اسی دنیا میں دیکھا ہے۔ ان کی پاک محبت، پاک تحریکوں اور احسان کو دیکھا ہے میں ان کی قدر کرتا ہوں اور ایمان لاتا ہوں۔ جو کہتے ہیں کہ ملائکہ صرف قوتیں ہوتی ہیں میں ان کی اس بات کو کیونکر تسلیم کر لوں جبکہ میں نے اپنی آنکھ سے انہیں دیکھا ہے قوتیں کہنے والے خود جائیں۔

پھر میں اللہ کے انبیاء علیہم السلام میں سے ہر ایک کو محبوب سمجھتا ہوں ان میں جامع کمالات انسانی، مکانیہ، زمانیہ اور جامع کمالات نبوت خاتم الرسل اور خاتم الانبیاء بلکہ خاتم کمالات انسانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے بادشاہ مرزا صاحب کو جو کچھ ملا ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور کامل محبت سے ملا ہے اور یہی ختم نبوت کا راز ہے کہ آئندہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں گم اور فنا ہونے کے بغیر کوئی نبوت نہیں مل سکتی۔ الہی فضل کی کوئی بھی راہ نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور راہ کے خلاف مل سکے۔ حضرت مرزا صاحب اسی امر کا ایک نشان اور ثبوت تھے۔ انہوں نے خود ظاہر کیا کہ جو کچھ انہیں ملا ہے۔ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل محبت اور آپ پر درود شریف پڑھنے سے ملا ہے خدا تعالیٰ نے قبل اس کے کہ وہ دعویٰ کرتا اس کا نام ہی غلام احمد رکھا (علیہ الصلوٰۃ والسلام) آپ کو اس نام سے ایسی محبت تھی کہ آپ نے احمد کے سوا کسی اور نام سے بیعت نہیں لی۔ اس واسطے مرزا صاحب کی نبوت نبوت محمدی سے الگ کوئی

مستقل چیز نہیں۔ بلکہ نبوة محمدیہ کا ایک پھل اور نتیجہ ہے اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں اس کا نام نبی اللہ رکھا۔

پھر جزا و سزا کو بھی ہم مانتے ہیں۔ نمازیں اسی طرح فرض جانتے ہیں جس طرح مسلمانوں میں پیشتر سے فرض ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ، حج اور رمضان کے روزہ کو اسی طرح فرض جانتے ہیں جس طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ کر دکھا دیئے۔ باوجود ان باتوں کے جو ہمیں کافر کہتے ہیں۔ ہم یہ ان کی نعمت کفر ان کو ہی واپس کرتے ہیں تم ہی رکھو یہ ہمارے کام کی چیز نہیں۔ ہم اس امر میں ابتدا نہیں کرتے۔ اگر مرزا صاحب کو خدا کا مامور و مرسل ماننے سے تم ہم کو کافر بناتے ہو تو تم خود سوچ لو کہ ایک مامور مرسل کے انکار سے تم کیا بن سکتے ہو۔

کفر تو نہ ماننے کا نام ہے ماننے والے تو مومن ہی کہلاتے ہیں۔ غرض اَنْعَمْتِ کے مقابل میں جب انسان بے جا عداوت کرتا ہے اور علم کے بعد عمل نہیں کرتا تو مَعْصُوب ہو جاتا ہے۔ پس میں تمہیں جو مرزا صاحب کو نہیں مانتے کہتا ہوں کہ مرزا اَنْعَمْتِ عَلَيْهِمْ کا مصداق ہے تم اس سے بے جا عداوت کر کے مَعْصُوب نہ بنو۔ اس نعمت کی قدر کرو۔ پہلے انکار کرنے والوں نے کیا پھل پایا جو تم امید کرتے ہو اور تم جو مرزا صاحب کو مان کر مخالف مولویوں کے منہ سے اور ان کے اتباع سے عام لوگوں سے کفر کا فتویٰ بھی سنتے ہو اور پھر اس نعمت اور سچائی کی اطلاع رکھ کر علم کے موافق عمل نہیں کرتے ہو تو اندیشہ ہے کہ تم بھی مَعْصُوب نہ بن جاؤ۔ پس نہ ماننے والے خدا تعالیٰ کے اس مامور کے انکار سے مَعْصُوب ہو جائیں گے اور ماننے والے اگر عمل نہ کریں گے تو وہ بھی خطرہ سے خالی نہیں۔ اس لئے ڈرنے کا مقام ہے۔

مجھے تعجب ہے کہ تمہارے اس شہر میں کل مذاہب کے لوگ ہیں۔ دہریہ گورو بھگوان کی باضابطہ ایک جماعت ہے ان کی کتابیں اور رسالے شائع ہوتے ہیں۔ ایک اخبار جاری ہے۔ آری سناتن، سکھ، براہمو، شاکت سب موجود ہیں۔ یہ شاکت لوگ ایک وقت گائے کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ انہیں شاکت لوگوں میں ایک شخص نے دو سو آدمی کا کھانا پکایا۔ آدمی زیادہ تھے۔ گرو سے جب کہا گیا تو اس نے کہا کہ کچھ حرج نہیں میں نے سمجھا کہ کوئی کرامت

ہوگی کھانا بڑھ جاوے گا۔ جب اندھیرا ہو گیا اور لوگ آنے لگے میں تو حیران ہو گیا جب معلوم ہوا کہ موچی دروازے کے نان بائوں سے کھانا لے آئے ہیں۔ میں نومرید تھا اس لئے سمجھا کہ شاید منتر سے شدہ کر لیا ہوگا۔ پھر عیسائی موجود ہیں۔ یہودی جن کا گندے سے گندہ نمونہ اسی شہر میں ہے۔ آزاد الخیال لوگ بھی ہیں جو ہم کو دقیانوسی کہتے ہیں۔ بی، ٹی پڑھ کر ہمیں کہتے ہیں کہ اولڈ فیشن اور اس کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ انگریزی پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ ان کے اعمال دیکھو تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ دنیا کی حرص کتنی ہے اور اپنے اغراض کو دین کے مقابلہ میں کتنا مقدم کرتے ہیں۔ ان سب کو اتنا برا نہیں سمجھتے جس قدر ہمیں۔ مگر ہم اس کی پروا نہیں کرتے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ایک صادق کو مانا ہے۔

لیکن تم جو مانتے ہو اپنے آپ کو دیکھو اگر تم بھی انہیں باتوں میں مبتلا ہو جن میں یہ لوگ ہیں تو پھر تم میں اور ان میں کیا فرق؟ مولویوں نے تم پر کفر کے فتوے دیئے اور تم اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے الگ بھی ہوئے مگر تم نے کوئی پاک تبدیلی نہ کی تو کیا فائدہ؟

میں دیکھتا ہوں چھوٹی سی جماعت ہے پھر آپس ہی میں مقابلہ ہوتے
جماعت کو نصیحت:
 ہیں اور مباحثہ ہوتے ہیں۔ یہ احمق اتنا نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ نے

تمہیں مامور نہیں کیا کہ مباحثہ کرو۔ میرے پاس بڑے بڑے جو شیلے خط آتے ہیں کہ فلاں نے یوں کیا اور فلاں نے ووں۔ کیا میں لکھ دیتا ہوں تم کب ٹھیکہ دار ہو تم خود نمونہ بنو۔ میں نے سیاہ کار لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ دوسروں پر اعتراض کر دیتے ہیں اور اپنے کسی معاملہ پر ریویو نہیں کرتے۔ اس لئے میں تم کو محبت اور پھر درد دل سے کہتا ہوں کہ اللہ کے راضی کرنے میں کوشش کرو۔ ہمیں وقت ہی کب مل سکتا ہے کہ دوسروں سے جھگڑتے رہیں۔ حلال کی کمائی کرو۔ خود کھاؤ اور کھلاؤ۔ والدین اور بچوں کی خدمت سے فارغ ہو کر اللہ کی کتاب پڑھو اور عمل درآمد کرو۔ نکلے کاموں کے لئے پھر تمہیں وقت کب مل سکتا ہے؟

میں حیران ہوں کہ میں اس قدر آسودگی رکھتا ہوں کہ تمہارے خیال میں بھی نہیں آسکتی۔ باوجود اس کے کہ سولہ، سترہ، اٹھارہ گھنٹہ روزانہ کام کرتا ہوں۔ پھر بعض ایسے نکلے ہیں کہ وہ اپنے

کاموں میں ایسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں کہ گویا دہریہ ہیں۔ میں نے بہت سے جیل خانے اس غرض سے دیکھے ہیں کہ غیر قوموں کی تعداد زیادہ ہے یا اپنی قوم کی تو مسلمانوں کی تعداد زیادہ پائی۔ اپنی قوم اس لئے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ پھر ہماری قوم میں کیوں داخل نہیں (ایڈیٹر۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس شعر کی تشریح ہے۔

اے دل تو نیز خاطر ایناں نگہدار

کا خر کنند دعویٰ حُبِ پیبرم)

غرض مَعْصُوب کون ہوتے ہیں جو بے جا عداوت کریں یا علم رکھ کر عمل نہ کریں۔

اب تم خود سوچ لو کہ کیا تمہیں خدا تعالیٰ کے کسی مامور و مرسل سے محبت ہے یا بے جا عداوت اور اس کے بعد اپنے لئے آپ فیصلہ کر لو۔ ہم کسی کلمہ گو کو کافر کہنے کی ابتدا اور جرأت نہیں کرتے مگر تم آپ اپنے حال پر نظر کرو اور دیکھو کہ مامور کے انکار سے تم کیا بن گئے ہو؟ اور اگر تم نے کسی مامور کا انکار نہیں کیا بلکہ مرزا صاحب کو مان کر اس کی جماعت میں داخل ہو تو پھر دیکھو کہ تمہارے گھر کے جو لوگ عاقل بالغ ہیں کیا ان کا عمل درآمد انہیں ہدایتوں پر ہے جو مرزا صاحب نے دی ہیں۔ مرزا صاحب نے جو اسی طرح کے رسالے لکھے ہیں تم نے عمل درآمد کر کے دکھا دیا۔

کیا تمہارے اشغال ان لوگوں کے سے تو نہیں جو سلسلہ میں داخل نہیں؟ کیا تمہارے حسد و کینہ اور بغض اسی قسم کے تو نہیں؟ میں تو جب رات کو سوتا ہوں تو کسی کا بغض اور کینہ لے کر نہیں سوتا۔ دنیا سے بالکل الگ ہو کر سوتا ہوں۔ اس وقت بی بی، اولاد، یا رو بیگانہ کسی کی کوئی فہرست نہیں ہوتی۔ بعض وقت بی بی کہتی ہے کیا کرتے ہو تم تو کسی آدمی سے ملنا ہی نہیں چاہتے۔ میں کہہ دیتا ہوں کہ پھر جئیں گے تو ملاقات کر لیں گے اب تو مرنے کو ہیں۔ تم اس طرح کا حال بناؤ اور حضرت صاحب کی کتابوں کے ماتحت اپنا چال چلن بناؤ۔ جب تم ایسے ہو جاؤ گے تو تمہارے سارے کاموں کا ذمہ وار اللہ تعالیٰ ہوگا۔

پس اب تم سمجھ گئے کہ مَعْصُوب کس کو کہتے ہیں۔ بیجا عداوت اور سچائی کا علم ہو اور عمل نہ ہو

یہ دونوں باتیں مَغْضُوب بنا دیتی ہیں۔

آج کل عام مسلمانوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی مگر ان کی حالت اپنی کر توت کا نتیجہ ہے
 فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ (الشوریٰ: ۳۱) مسلمانوں کی کیسی گت بن رہی ہے۔ سارا جہاں بکیرہ روم
 میں پھرتا ہے مگر رومیوں کے ایک سپاہی کو بھی اجازت نہیں۔ ابھی ایک نے جانا تھا لوگوں نے اس کے
 پیچھے پولیس لگادی۔ کچھ پولیس واقف نہیں ہوتی اس لئے اس نے ایک جگہ آکر فرانسسی لباس پہن لیا اور
 نوکر کوتر کی لباس پہنایا۔ جب ہوٹل میں آئے تو اسے فرانسسی سمجھ کر چھوڑ دیا اور نوکر کو پکڑ کر لے گئے۔

خود تمہیں معلوم ہے کہ حسین کامی کے اشتہار میں حضرت صاحب نے لکھا تھا کہ حرین ان کی
 حفاظت کرتے ہیں یہ حرین کے محافظ کیا ہوں گے۔ جب تک اسلام کے نام لیوار ہے کچھ بنا ہوا
 تھا۔ مگر جب دستوری حکومت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اسلامی حکومت نام نہیں رکھتے تاکہ یورپ
 شورش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے نَاتِي الْأَرْضِ نَنْقُصَهَا مِنْ أَطْرَافِهَا (الرعد: ۴۲) کا نظارہ
 دکھا دیا اور یورپ نے دبوچ لیا۔ اب جوتے کھا کر عربی تعلیم کو جاری کیا۔

اب امید ہے کہ تم نے سمجھ لیا ہوگا کہ مغضوب کون ہوتا ہے؟ عداوت کے لئے یوں تو انسان کوئی
 وجہ تراش لیتا مگر وہ جھوٹی ہی ہوتی ہے۔ اس لئے بیجا عداوت سے بچو اور حلم پر عمل کرو۔

ضال کون ہوتے ہیں؟
 ضال کون ہوتے ہیں؟ جو علوم الہیہ سے بالکل بے خبر
 ہوں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ وہ علوم الہیہ کی طرف توجہ

ہی نہیں کرتے۔ میں نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ نماز کے وقت اس نے اپنے کورس کی کتاب کھول کر
 سامنے رکھی۔ نماز تو اس نے پڑھنی تھی کیونکہ مجبور تھا مگر میں نے دیکھا کہ وہ رکوع سجد میں کتاب ہی
 پڑھتا رہا۔ میں نے کہا کہ کیا آج ہی ڈپٹی کمشنر بنا تھا۔ کہا کہ کچھ تو بنوں گا ہی اسی واسطے محنت کرتا
 ہوں۔ میں تمہیں کیا سناؤں آخر وہ محکمہ وٹرنری میں کمپونڈر ہوا۔ مجھے ایک مرتبیل گیا تو میں نے پوچھا
 کہ کیا وہ بات یاد ہے کہنے لگا ہاں خوب یاد ہے۔ پھر میں نے کہا وہ بنی تو نہیں۔ اس نے کہا جو روپیہ
 جمع کرتا ہوں جب سو کے قریب ہو جاتا ہے تو کوئی افسر آجاتا ہے اور وہ لے جاتا ہے وہ افسر ہوتا ہے
 میں اس سے مانگ نہیں سکتا۔ جب اس کی تبدیلی ہوتی ہے تو کسی کی چار پائی اور کسی کی کوئی اور ایسی

ہی چیز مل جاتی ہے اور میں ویسا ہی رہ جاتا ہوں۔ میں نے کہا تم روپیہ دینا چھوڑ دو۔ کہنے لگا شرم آ جاتی ہے۔ میں نے کہا شرم نہیں اس کا سزا اور ہے تم جو دولت کے پیچھے ایسے پڑے کہ نماز چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب تک ہم نہ دیں کچھ نہ ہوگا۔

پس علوم الہیہ سے بے خبری ضال کا نشان ہے۔ بعض ہم کو بھی پھر احمق سمجھتے ہیں جب انہیں ایسی نصیحت کرتے ہیں۔ ہمارے گول کمرے میں ایک مرتبہ کچھ انگریزی خوان جمع تھے اوپر میری چارپائی تھی رات کو بڑی دیر تک ٹریں مارتے رہے میں نے تھک کر آخر وہاں سے چارپائی اٹھوائی۔ جب رات کو اتنی دیر تک جاگتے رہیں تو فجر کی نماز کے لئے پھر کس نے اٹھنا ہے۔ اس واسطے صبح کو اٹھنے کی میعاد آٹھ، نو، دس بجے رکھی ہے۔ ایسی عادتوں کو چھوڑ دو۔

پس ایسے لوگوں کو سچے علوم سے کب بہرہ مل سکتا ہے اور آج کل ایک اور مصیبت ہے۔ کچھ تو لوگوں کو علوم الہیہ کی طرف توجہ نہیں اور کچھ جو پڑھے لکھے ہیں ان کی سبھی کاروں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ علم کا نتیجہ ہے۔ ان کی سبھی کاریاں انہیں معظّم نہیں ہونے دیتیں۔ اس لئے وہ دلیل پیدا کر لیتے ہیں کہ ان علوم کا پڑھنا ہی بے فائدہ ہے۔

میں نے ایک آدمی کو کہا تم کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے تم قرآن پڑھو تو اس نے کہا کہ میری شان کے موافق مجھے کوئی حائل دو۔ میرا مولیٰ تو مجھے ہر قسم کے انعامات سے نوازتا ہے۔ اس نے مجھے ایک نہایت عمدہ حائل بھیجی۔ میں نے اس کو دی۔

یہی واقعہ میں نے اس لئے بتایا کہ لوگ دنیا کے لئے ہزاروں روپیہ خرچ کرنے کو تیار رہتے ہیں مگر قرآن مجید کے لئے باوجود مقدرت کے بھی مضائقہ کرتے ہیں۔ اسی طرح کالجوں کے طالب علم بعض وقت لکھ دیتے ہیں کہ میں نے امتحان میں عربی لی ہے کتابیں بھیج دو۔ انگریزی کی کتابیں تو بے انت لینے کو تیار ہیں مگر عربی کی کتابیں مانگتے ہیں۔ میں نے ایسے طالب علم ایم اے کے دیکھے ہیں۔

ان حالات سے تم اندازہ کر سکتے ہو کہ الہی علوم کی طرف سے کس قدر غفلت ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ بیجا محبت میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ ان کو اس لئے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں۔

پس تم سورۃ فاتحہ کو پڑھو اور دیکھو کہ اَنْعَمْتَ کی راہ پر چلتے ہو یا مغضوب اور ضال کی راہ پر۔ اس کے لئے تم دعا سے کام لو تا کہ تمہیں اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی راہ کا علم ہو۔ پھر اس علم کے مطابق عمل ہوتا کہ تم مَغْضُوب نہ ہو جاؤ۔ کسی مامور سے بیجا عداوت نہ کرو۔ اس سے بھی مَغْضُوب ہو جاؤ گے۔ یہ بڑی ضرورت ہے کہ تم علوم الہیہ سے بے علم نہ رہو۔ کسی سے بیجا محبت نہ کرو۔

اس سے پہلے چالیس مرتبہ اقرار کیا ہے۔ فرض اور سنت نفل ملا کر چالیس رکعت نماز میں، سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس دعا میں اقرار کیا ہے کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس معاہدہ کو دیکھو اور آٹھ پہر کے عملدرآمد کو دیکھو ہاتھ باندھ کر اور قبلہ رخ ہو کر معاہدہ کیا ہے کہ قبلہ کی طرف سے جو آواز آتی ہے اس کے فرمانبردار ہیں۔

اول تو بدوں علم کے یہ چیز نہیں آسکتی۔ لوگ آج کل کے فلسفہ کو مشاہدات پر رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری تعلیم تو یہی ہے۔ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ (العصر: ۴)۔ پھر اعمال کی ضرورت ہے دیکھو تمہارے معاملات کیسے ہیں؟ دو بیویاں ہیں تو عدل کیا کرتے ہو۔ لین دین ہے تو کیا لینے میں دینے کا خیال رہتا ہے۔ ملازمت ہے تو کیسی چستی سے کرتے ہیں۔ حرفہ والا دیکھے کہ جھوٹ نہیں کرتے۔ یہ سب باتیں نیک صحبت میں بیٹھنے سے حاصل ہوتی ہیں اور دعا سے حاصل ہوتی ہیں خود کرو۔ نہیں تو کسی سے کراؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نیک اعمال کی توفیق دے۔ آمین

میں لاہور میں داخل ہوا تو اس مسجد کو دیکھ کر بڑی ہی خوشی ہوئی۔ اس کا اظہار
آخری بات: میں الفاظ میں نہیں کر سکتا۔ آج میں یہاں سے جانے والا ہوں اگر ارادہ الہی

ہوا۔ میرا جی چاہتا ہے جیسے آتے ہی خوشی ہوئی ہے اب جو میں جانے والا ہوں کچھ بڑھاپا ہے اور کچھ ایک عجیب زخم ہے۔ کچھ بیمار رہتا ہوں۔ مگر دل کی خواہش ہے کہ جاتے ہوئے بھی تم سے بہت خوش ہو کر جاؤں۔ اس کا ایک ذریعہ ہے۔ مجھے روپیہ کی ضرورت نہیں نہ آج نہ اس سے پہلے اور نہ آئندہ۔ مجھے اپنے مولیٰ پر بھروسہ ہے۔ مجھے اپنی ذات کے لئے اپنے فضل و کرم سے بہت کچھ دیا اور رحم کیا ہے۔ مجھ پر اتنی نعمتیں نازل کیں کہ سچ مچ لا تعداد کا مصداق ہیں۔ بہت ہی فضل میرے ساتھ ہوئے۔

ایک وقت مجھے کسی نے کہا کہ کوئی ایک دعا کرو منظور ہوگی۔ میں نے اس وقت کہا کہ عمر چھوٹی ہے دشمن نہیں، دوست نہیں، بیوی بچہ نہیں کیا دعا ہوگی۔ مگر اس نے کہا کہ جھٹ پٹ کوئی دعا کر لو۔ تب میں نے کہا کہ یہ دعا کرتا ہوں کہ ضرورت کے وقت میری دعائیں قبول ہو جاویں۔ پس میں مخلوق سے خدا کے فضل سے بے پرواہ ہوں۔ تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ آتے ہوئے تو مسجد کو دیکھ کر خوش ہو اور جاتے ہوئے یہ آواز میرے کان میں آوے کہ ہم نے بغض کینے چھوڑ دیئے ہیں۔ تمہیں اور رسالے کتابیں تصنیف کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت صاحب کی کتابیں تھوڑی ہیں وہ پڑھو۔ قرآن پڑھو، بخاری ہے اسے پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں باہم محبت عطا کرے اور آپس کے بغض اور کینہ دور ہو جاویں۔ (آمین)

(الحکم ۲۱، ۲۸ جولائی ۱۹۱۲ء صفحہ ۶ تا ۲)



قرآنی قسموں کی حقیقت

﴿تقریر فرمودہ ۱۷ جون ۱۹۱۲ء قبل از نماز مغرب بمقام امرتسر﴾

لاہور سے واپسی پر چند گھنٹہ کے لئے حضرت خلیفۃ المسیح نے جون ۱۹۱۲ء کو امرتسر قیام فرمایا۔ امرتسر کے قیام میں آپ کی غرض صرف یہ تھی کہ وہاں کی جماعت کو خصوصیت سے کچھ نصائح کریں جو باہمی اتحاد اور اصلاح حالت پر مبنی ہو مگر جماعت امرتسر کی بد قسمتی کہ وہ ان قیمتی ہدایتوں سے محروم رہی۔ ان کے لئے یہ ایک فضل تھا کہ ان کا امام سخت گرمی میں باوجود اس ضعف اور پیرانہ سالی کے ان کے گھر گیا مگر وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ بعض لوگوں سے تو ایسی حرکت سرزد ہوئی جو میرے اپنے ایمان کے موافق سخت بیہودہ اور خلاف ادب مرشد ہے۔ انہوں نے تَرَكَوْكَ قَائِمًا (الجمعة: ۱۲) کا نمونہ دکھایا۔ امرتسر کے وہ لوگ جو اس نوٹ کو پڑھیں وہ انہیں نصیح دینی کے لئے سمجھائیں کہ وہ استغفار کریں اور صدقہ دیں ورنہ اندیشہ ہے کہ ایسے لوگ کسی دکھ میں مبتلا ہوں یا ایمانی رنگ میں نقصان اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ آمین

بہر حال حضرت خلیفۃ المسیح کی خدمت میں بعض غیر احمدی لوگوں کی تحریک پر ایک تقریر کے لئے عرض کیا گیا تو آپ نے قبل مغرب جبکہ عصر کی نماز سے فارغ ہو چکے تھے سورۃ عصر پر وعظ فرمایا۔ (ایڈیٹر) میرے دوستوں نے مجھے کچھ وعظ کہنے کے لئے فرمائش کی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی توفیق دی ہے کہ تم لوگوں کو کچھ سنادوں۔ میں اترا بھی اسی غرض سے ہوں کہ کوئی آدمی کوئی بات سن لے اور اللہ تعالیٰ نفع دے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ وَالْعَصْرِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ ۝
اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوٰصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوٰصَوْا بِالصَّبْرِ ۝
(العصر: ۳ تا ۱)

یہ ایک چھوٹی سی سورۃ ہے اور میں نے اسی نظارہ پر اس کو پڑھا ہے کہ اس میں عصر کا ذکر آتا ہے۔

یہ وقت عصر کا ہے اور دن کا آخری حصہ ہے اور میں اس سورہ شریف کو عصر کے وقت شروع کرتا ہوں۔ اس نظارہ نے مجھے ادھر ہی متوجہ کر دیا کہ شاید اتنے وقت میں پوری ہو جاوے جو سورج غروب ہو۔ اس سورہ کے ابتداء میں عصر کا لفظ آیا ہے۔ عصر مطلق زمانہ کا نام ہے۔ ہماری زبان میں بھی یہ لفظ ان معنوں پر بولا جاتا ہے۔ فلاں میرا، معصر ہے۔

اخبار نویس بھی یہ لفظ بولتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے عصر نے یہ لکھا ہے۔ غرض زمانہ کو بھی عصر کہتے ہیں۔ پھر عصر نچوڑنے کو کہتے ہیں۔ اِنَّ اَرْبِيَّ اَعَصِرُ حَمْرًا (یوسف: ۳۷) عصر اس حصہ کو کہتے ہیں جو ظہر کے بعد نماز کے لئے مقرر ہے۔ یہ وہی وقت ہے جس کی ابھی نماز پڑھی ہے۔ پس عصر کے تین معنی ہیں۔ زمانہ، نچوڑنا اور بعد ظہر نماز کا وقت۔

قسمہائے قرآنی کی حقیقت: قرآن کریم میں جہاں بڑے بڑے عجائبات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بعض سورتوں کے شروع میں اور بعض

کے درمیان قسموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی ان قسموں پر بڑا غور کیا ہے تو میں نے یہ پایا ہے کہ قرآن مجید کی قسمیں معجزانہ رنگ رکھتی ہیں اور وہ یہ ہے کہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے دنیا میں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ عوام، پھر ان سے بڑھ کر سمجھدار پھر ان سے بھی بڑھ کر حکومت پیشہ لوگ۔

عوام میں یہ بات مشہور ہے (اگرچہ اس زمانہ میں اس کے خلاف ثبوت موجود ہے) کہ قسم کھانا جھوٹوں کا کام ہے۔ پڑھے لکھے نو تعلیم یافتہ بھی کہتے ہیں کہ سویلریشن کے خلاف ہے، بیہودہ امر ہے۔ بہت قسمیں کھانے والے کا اعتبار نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں بھی ایک جگہ اس کی طرف اشارہ ہے۔

لَا تَطْعَمُ كُلُّ حَلَّافٍ مَّهَيِّنٍ (القلم: ۱۱)

مگر باوجود اس کے قرآن میں قسمیں موجود ہیں۔ میری سمجھ میں ان قسموں میں کچھ حصہ عوام کا ہے کچھ خواص کا اور کچھ حکام کا ہے۔

عرب میں اس جہالت کا دور دورہ تھا ان کا اعتقاد تھا کہ قسم ذلیل کر دیتی ہے۔ ان میں ایک ضرب المثل یا کہاوت تھی۔ کہاوت یا ضرب المثل ایک فقرہ ہوتا ہے جو بڑے تجربوں کا نچوڑ ہوتا ہے۔ وہ ضرب المثل جو عربوں میں قسم کے متعلق تھی یہ ہے۔ ان الایمان تدع الارض بلا قع۔

قسمیں ملک کو ویران کر دیتی ہیں اور قسمیں کھانے والے کی عزت نہیں رہتی۔ اب قابل غور یہ امر ہے کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ قسمیں ذلیل کر دیتی ہیں اور ملک کو تباہ کر دیتی ہیں ان کے سامنے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے قسمیں نکلوائیں اور اس طرح پران کے اپنے مسلمہ عقیدہ کے رو سے حجت پوری کی کہ عوام کے خیال کے موافق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (نعوذ باللہ) ذلیل اور ہلاک ہو جاتے مگر آپ روز افزوں ترقی کرتے گئے یہاں تک کہ آپ کے اقبال سے شاہان وقت لرزہ کھا جاتے تھے۔ پس عوام کے لئے یہ معجزہ آیت اللہ اور سلطان مبین ہے۔

حکام کے لئے بادشاہ وقت تک تخت پر بغیر قسم کے نہیں بیٹھ سکتا۔ وزراء، پارلیمنٹ کے ممبر قسم کے بغیر اپنے عہدہ پر متعین نہیں ہوتے۔ بڑے بڑے عہدہ داران جیسے چیف کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج ہیں ان سے بھی قسم لی جاتی ہے۔ یہ شخصی بات سہی مگر ہماری فاتح قوم نے تو حد کر دی اس کے قانون میں یہ بات لازم ہے کہ مسیحی آدمی قسم کھائے اور باقی کے لئے اقرار صالح کافی ہے۔

غرض عوام کا وہ حال ہے اور حکام کا یہ۔ بیچ میں رہے فلاسفرز لوگ ان کے لئے قرآن کریم کی قسمیں عجائبات پر مبنی ہیں۔ سنن الہیہ یا لازآف نیچر سے جب قرآن کریم استدلال کرتا ہے تو فلسفی کا دماغ بھی اس کے ماننے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قسم میں فلسفی مضمون ہوتا ہے جس کے ماننے میں عقلمند کو مضائقہ نہیں ہوتا اور یہ قسمیں بطور شواہد اور دلائل کے ہوتی ہیں۔ میں قرآن مجید سے ایک دو قسموں کے مقام تمہیں سناتا ہوں۔

وَإِلَّيْلٍ إِذَا يُعَشِّي ۝ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ۝ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ۝ إِنَّ سَعْيَكُمْ

لَشَتَّى ۝ (آیل: ۵۲۲)

اس سورۃ کو بھی قسم سے شروع کیا ہے اور اس میں رات دن کے قدرتی مناظر اور ان کے مختلف نتائج اور عورت و مرد کے باہمی تفاوت اور پھر تعلقات اور نتائج کو بطور شاہد پیش کر کے مسئلہ جزائے اعمال کا ثبوت دیا ہے کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کا کیا پتا ہے۔ نیکیوں کو دکھ اور بدوں کو سکھ مل جاتے ہیں۔ اس مضمون کو ایک فقیر نے ادا کیا ہے اس کے معنی تو لطیف ہو سکتے ہیں مگر عوام نے اس سے اباحت اور جرأت سیکھی ہے۔

اوتھے گھاڑ گھڑ بندے ہو۔ پکڑن سادھتے چھڈن چور

لیکھا بے پروائیاں دا

یعنی دنیا اعتبار کے قابل نہیں ایسے مضامین کبھی لوگ غلط سمجھ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حقائق صحیحہ اور نتائج صحیحہ واقعی ہیں یا وہم ہیں۔

اس پر دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جو مذہب کے پابند ہیں اور بعض مذہب کے پابند نہیں رہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مذہب کا بڑا پابند ظاہر کرتے ہیں اور اگر ذرا بھی بے ادبی اپنے مقتدا کے خلاف دیکھیں تو جان تک خطرہ میں ڈال دیتے ہیں مگر عمل کچھ نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عملی رنگ میں جزا و سزائے اعمال کے منکر ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس سورۃ میں اس عقیدہ باطلہ کو رد کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ جیسے اسباب مہیا کرو گے ویسے ہی نتائج ہوں گے۔ اس دعویٰ کا ثبوت ایک قدرتی نظارہ سے دیا جاتا ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ - رات کی طرف دیکھو اس کے صفات اور آثار الگ ہیں۔ جو باغ دن کو راحت بخش ہیں اور جن سے دن کو آکسیجن نکلتی ہے وہی باغات رات کو راحت بخش نہیں اور اب انہیں درختوں سے کاربن نکلتی ہے جو قاطع حیات ہے اور بچوں کے لئے تو وہ خوبصورت درخت رات کو ہوئے نظر آتے ہیں۔ دانا کہتے ہیں کہ درختوں سے رات کو کاربن نکلتی ہے۔ مذہب منع کرتا ہے کہ رات کو درختوں کے نیچے نہیں سونا چاہیے۔

دن کی تاثیریں اور عجائبات بالکل جدا ہیں۔ وہی درخت جو رات کو کاربن نکالتے تھے دن کو آکسیجن چھوڑتے ہیں اور ہندوؤں نے تو درختوں کے متعلق مذہبی قواعد بنا دیئے بہت دانائی اور عاقبت اندیشی کی۔ اس گرم ملک میں بڑا اور پھیل خدا کی نعمت ہے ان کی حفاظت ایسی نہ ہوتی جیسی اب مذہبی پیرائے میں ہو رہی ہے۔

غرض رات اور دن کے جدا جدا لوازمات ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ رات کو درختوں کے نیچے سویا کریں تو وہ نقصان اٹھائے گا۔ دن کو باغات کی سیر کرنے اور ان کے نیچے سونے کو پسند کیا جاتا ہے اور اس سے طبیعت میں خوشی پیدا ہوتی ہے۔ پھر اگر کوئی اتنا باریک علم نہ رکھتا ہو تو دن اور رات کے خواص اور تاثیرات پر فلسفی نظر نہ رکھتا ہو تو فرمایا۔ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ -

عورت اور مرد کی بناوٹ پر غور کرو۔ دو جدا جدا ہستیاں ایک ہی نوع کی ہیں مگر ہر دو کے

اعمال اور قدرتی فرائض جدا جدا ہیں۔

آج کل تھوڑی تعلیم کے لوگ مساوات کی بحث کرتے ہیں وہ صریح غلطی پر ہیں۔ میں ایک مرتبہ کشمیر میں ایک دوست کے مکان پر بلا تکلف چلا گیا۔ وہاں ایک بڑا ڈاکٹر موجود تھا۔ ڈاکٹر سے مراد علم طب کا ماہر نہیں بلکہ عالم مراد ہے۔ اس نے عورتوں اور مردوں کے حقوق کی مساوات پر بحث کی۔ اس نے دو مرتبہ کہا کہ عورت اور مرد باہم برابر ہیں۔ تب میں نے اس کو مخاطب کیا اور پوچھا۔ آپ کا کوئی بیٹا ہے؟ پہلے تو اس نے مکروہ سمجھا کہ میں نے بدوں انٹروڈیوس اس سے خطاب کیا مگر جب اس نے دیکھا کہ صاحب مکان میری تکریم کرتا ہے تو اس نے جواب دینا پسند کیا اور بڑی خوشی سے کہا کہ ہاں۔ میں نے نہایت بے تکلفی سے اس کی چھاتی پر ہاتھ مار کر ٹٹولا اور کہا کہ اب تو آپ کی باری بچہ جننے کی ہوگی۔ میری اس حرکت سے اس نے سمجھ لیا کہ یہ بڑی جرأت والا آدمی ہے اس لئے اس نے گھر والے سے پوچھا کہ یہ کون ہے۔ اس نے کہا کہ یہ آپ ہی کہہ دیں گے میری تو جرأت نہیں کہ بتاؤں۔ پھر اس کو پتا لگ گیا۔ میرے اس عملی اعتراض پر وہ بہت گھبرایا اور آخر اسے ماننا پڑا کہ عورت اور مرد باہم مساوی نہیں۔ غرض اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرد اور عورت کے خواص الگ ہیں اور ان کے فرائض جدا جدا۔ اگر ان امور پر تم نظر کرو گے تو تمہیں صاف معلوم ہو جائے گا اِنَّ سَعِيَكُمْ لَشَتٰی۔

جب کام جدا جدا ہیں تو ان کے نتیجے بھی الگ الگ ہوں گے۔ اسی طرح پر نیکی اور بدی میں تفاوت ہے۔ نیکی کا نتیجہ نیک اور بدی کا نتیجہ بد ہوگا۔ اس کے مطابق اب مسئلہ سزا و جزا کا حل ہو گیا۔ اس طرح پر قرآن مجید کی قسمیں بڑے بڑے مسائل کا حل کرتی ہیں۔ ۳۵ مقامات پر قسمیں آئی ہیں اور وہ حقیقت مدعا کی مثبت ہیں۔

وَالْعَصْرِ
میں جو قسم ہے وہ بھی ایک امر کی مثبت ہے۔ فرمایا عصر کو دیکھو۔ انسان گھٹیل حالت میں ہے۔ ہر گھڑی جو اس پر آتی ہے وہ اس کو کچھ کم ہی کرتی ہے۔ ماں کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے

اور پھر وہ ایک دو سال کا ہوتا ہے تو لوگ مبارک باد دیتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو گیا مگر غور کرو تو دو سال اس کی عمر سے کم ہو گئے اور دن بدن وہ گھٹتا جاتا ہے۔ انسان گویا برف کا سوداگر ہے ہر لحظہ اس کو کم کر رہا ہے اسی طرح پر انسان کی عمر گھٹتی چلی جاتی ہے تو اب سوال ہوتا ہے کہ کیا اس کی تلافی کا بھی کوئی انتظام ہے؟ خواہ عصر کے کچھ ہی معنی کرو۔ یہاں بتایا ہے کہ اس کی تلافی کی صورت ہے وہ کیا؟

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ (العصر: ۴)

کچھ لوگ ہیں جو گھٹاٹے سے بچائے جاتے ہیں وہ کون ہیں جو مومن اور اعمال صالحہ کرنے والے ہیں۔ اب اگر عصر کے معنی زمانہ کے کرو تو اس سے یہ مراد ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کو عصر سے تشبیہ دی ہے کیونکہ پہلے تو ایک نبی آتا تھا اور شریعت لاتا تھا اور نئی راہیں خدا کی رضامندی کی ظاہر ہوتی تھیں مگر اب تو عصر کا وقت ہے پھر سورج غروب ہوگا۔ آپ جامع کمالات نبوت، جامع کمالات انسانیت اور خاتم کمالات نبوت اور خاتم کمالات انسانیت تھے پھر عصر کے لفظ سے یہ بھی ظاہر ہے کہ نچوڑنے سے مصفیٰ چیز الگ ہو جاتی ہے اور اس کا ردی حصہ تہ نشین ہو جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے وہ خالص اور تمام صداقتوں کا نچوڑ ہے۔ دنیا میں کثرت سے انبیاء آئے ہیں۔ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ (المؤمن: ۷۹)۔ پھر جو آئے ہیں تو کچھ معلوم نہیں کہ ان کی کتابیں محفوظ ہیں یا نہیں۔ پھر وہ کتابیں کمی بیشی، تغیر و تبدل سے پاک ہیں یا نہیں؟ غرض بیسیوں شہادت وارد ہوتے ہیں۔ پھر انسانی تاریخ کا پتا نہیں۔ عیسائی تو پانچ چھ ہزار برس سے پرے کچھ کرنے نہیں دیتے۔ حد سات ہزار برس بتاتے ہیں۔ آریوں نے چار ارب کے اندر خدا کی بادشاہی کو محدود کیا ہے۔ زرتشت کے اتباع نے مہاں سنکھ کے آگے سترہ صفر بڑھادیئے ہیں۔ مگر ہمارے مولا کے خالق، مالک، حئی، قیوم اور رازق ہونے کے لئے کسی وقت کی حد بست کرنا سخت جہالت ہے۔ اس لئے ہماری مقدس کتاب قرآن کریم نے کوئی تاریخ نہیں دی۔

پھر نچوڑنے کے معنوں کو مد نظر رکھ کر فرمایا۔ فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ (البینة: ۴) تمام صداقتوں کا مضمون قرآن مجید میں موجود ہے۔ کوئی صداقت اس پاک کتاب سے باہر نہیں۔ ہم نے مختلف

رنگوں میں دنیا کے سامنے اس سوال کو پیش کیا ہے کہ تم کوئی صداقت بتاؤ جو قرآن کریم میں نہ ہو۔ اولاد، بیوی، والدین، اپنی قوم اور دوسری قوموں کے تعلقات اور خدا کے ساتھ تعلقات کی کوئی جامع کتاب بتاؤ۔ میری عمر بہت ہوگئی ہے اور مذاہب کی تحقیقات کا اتنا شوق رہا ہے کہ میں نے اپنے ہم جولیوں میں نہیں دیکھا۔ پھر مدد الہی ایسی پہنچی کہ دوسرے مذاہب کی کتابوں کے خریدنے کے لئے اموال کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسا فضل کیا کہ وہ مجھے ایسے مخفی طور سے دیتا ہے کہ انسان کی طاقت نہیں کہ معلوم کر سکے۔ ان تمام اسباب سے میں نے اس صداقت کو ہمیشہ لانظیر پایا۔ **فِيهَا كُتِبَ قِيَمَةٌ**۔

غرض اس سورۃ وَالْعَصْرِ میں تلافی کے چار قاعدے بتائے جن پر عمل کرنے سے انسان خسارہ سے محفوظ رہ سکتا ہے۔

اول۔ ایمان ہو۔ سچی باتوں کا علم ہو۔ عقائد صحیحہ ہوں۔

دوم۔ اس علم اور عقائد کے موافق اعمال ہوں۔

سوم۔ وہ سچی باتیں اور عقائد صحیحہ۔ پاک تعلیمات جن پر ایمان لاتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ دوسروں کو پہنچائے اس کا نام وصیت الحق ہے۔

چہارم۔ چونکہ سچائی کے پھیلانے میں دشمن ضرور ہوں گے اس لئے اس کی مخالفت میں صبر و استقلال سے کام لے۔

یہ چار قاعدے ہیں جو شخص ان پر عمل کرے گا وہ خسارہ سے محفوظ رہے گا۔ اس نسخہ کو صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اکابر اولیاء و ائمہ نے استعمال کیا۔ اس زمانہ میں ہماری سرکار مرزا صاحب نے تجربہ کیا لیکن جب مسلمانوں نے اس نسخہ کو چھوڑنا شروع کیا اسی وقت سے ان پر زوال آنے لگا۔ سب سے پہلے مسلمانوں نے ایسی جامع کتاب کا پڑھنا چھوڑ دیا۔ ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں میں ہاں! ہندوستان کے سات کروڑ مسلمانوں میں سے کتنے ہیں جو اس کو پڑھتے ہوں اور پھر اس کے مطلب کی تہ کو پہنچ کر عمل کرتے ہوں؟ پھر اس کے حقائق پہنچاتے ہوں اور ان حقائق کے پہنچانے میں جو تکلیفات پیش آئیں صبر و استقلال سے اس کا مقابلہ کرتے ہوں؟

موجودہ حالت: چار قومیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک زمیندار ہیں جو صبح سے شام تک گویا مزدوری پیشہ ہیں۔ ان کو کون سا وقت ملتا ہے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھیں اور سمجھیں۔ پھر امراء ہیں انہوں نے اول تو نماز چھوڑ دی ہے اگر پڑھیں بھی تو انہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے۔ گھر میں موقع مل گیا تو پڑھ لی نہیں تو نہیں۔ ہاں ایسا دیکھا ہے کہ اگر کوئی افسر مال ہو اور وہ نماز پڑھنے لگے تو کم از کم ذیلدار پڑھ لیتا ہے وضو ہو یا نہ ہو۔ پھر علماء اور گدی نشینوں کے قبضہ قدرت میں بڑی مخلوق ہے۔ ان کا جو حال ہے اس کو دنیا خوب جانتی ہے۔ ایک چیز ان کے بغل میں ہے کفر کا فتویٰ یا عورتوں کے حلالے کرنا۔ اسی سے ان کا کام خوب چلتا ہے۔ رہی عزت وہ جو کچھ بھی ہے لوگ خوب جانتے ہیں۔ رہے گدی نشین۔ میں خدا کے فضل سے دونوں میں داخل ہوں۔ اللہ کا فضل دستگیری کرے تو بات بنتی ہے۔ کوئی سات سو برس کی بات ہے۔ ایک نازک خیال فہیم کہتا ہے۔

مشکلے دارم ز دانشمند مجلس باز پرس

توبہ فرمایاں چرا خود توبہ کمتر می کنند

بڑے دانوں اور ان کی مجلسوں کے پریسڈنٹوں سے پوچھو مجھے تو بڑی حیرت ہے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ توبہ فرما آپ کیوں توبہ کم کرتے ہیں۔ ساری کتاب میں اس سوال کا جواب نہیں دیا گیا وہاں ایک جگہ وہ چوٹ کر کے کہتا ہے۔

واعظاں کیں جلوہ بر محراب و منبری کنند

چوں بہ خلوت روند آں کار دیگر می کنند

اس کو شناس سمجھتے ہیں۔ اب قرآن کریم کا پڑھنا اور پھر اس پر عمل کرنا اور پھر دوسروں کو پہنچانا اور بالمقابل جب لوگ فتویٰ دیں اور توتیاں بجانے والوں کے مقابلہ میں صبر کرے تو گھائے میں نہیں رہتا۔

یہ بھی شہر ہے اور بہت بڑا شہر ہے۔ بہت مخلوق اس میں ہے یہاں مسلمانوں کے کئی گروہ ہیں۔ ایک گروہ غزنویوں کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ایک اہل فقہ کی جماعت ہے۔ کچھ حصہ ثناء اللہ کے

ساتھ ہے اور کچھ پیر کشمیر سے آجاتے ہیں۔ ان میں باہم بغض و عناد اور دشمنی ہے اور قرآن مجید سے اس کا پتا لگتا ہے۔ فَتَسُوْا حَظًا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ فَآغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ (المائدہ: ۱۵)

تو جن میں دشمنیاں تو ہم دیکھتے ہیں پھر شاید یہ بے ادبی ہو اگر ہم ان کو کہیں کہ تم نے قرآن چھوڑ دیا ہے مگر ہم کیا کریں ایسا کہنے پر ہم بھی مجبور ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید یہی فرماتا ہے اگر کوئی عداوت اور کینہ ہے تو صاف ظاہر ہے کہ قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے۔

میرا ارادہ تھا کہ تمہیں والعصر سنادوں۔ خدا کے فضل اور توفیق سے میں نے سنادی ہے البتہ میری یہ خواہش ہے اور زبردست خواہش ہے کہ جب مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں تو وہ اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں پھر وہ لوگوں کو پہنچائیں اور اگر مخالفت ہو تو صبر و استقلال سے مقابلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ہی توفیق سے یہ ہو سکتا ہے۔

مجھے کبھی بھی اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ سننے والے بہت آدمی ہیں یا تھوڑے وہ اعلیٰ طبقہ کے ہیں یا عوام ہیں۔ خدا تعالیٰ نے میرے دل سے ان باتوں کو نکال دیا ہے۔ میں تو خدا کا کلام پہنچانا چاہتا ہوں خواہ کوئی ایک ہی سننے والا ہو۔ یہ بھی یاد رکھو کہ جو بڑے آدمی ہیں وہ ہمارے ساتھ سردست تعلق نہیں رکھ سکتے ہاں وقت آجائے گا کہ بڑے بڑے لوگ اس سلسلہ میں داخل ہوں گے۔ ہماری سرکار (حضرت مسیح موعودؑ) سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ مگر اس وقت یہ نہیں ہو سکتا کہ جارج پنجم قادیان میں آجاوے اور آ کر مرید ہو جاوے کیونکہ اگر وہ آئے تو اس کے آنے سے پہلے سڑک، مکان، تارگھر وغیرہ سب کچھ فوراً تیار ہو جاوے اور جب وہ وہاں آ کر یہ سوچے کہ میرے آنے سے قادیان والوں کو کیا فائدہ ہو اور مجھ کو قادیان سے کیا فائدہ ہو؟ تو یہی کہے گا کہ ان غریبوں کے پاس پہلے ہی کیا تھا۔ میری وجہ سے ان کو یہ فائدہ پہنچا، وہ نفع ہوا وہ اس پاک صحبت کی قدر نہیں کر سکتا۔ پس یہی حال بڑے آدمیوں کا ہوتا ہے۔ اس لئے سنت اللہ اسی طرح پر چلی آتی ہے کہ جب کوئی مامور و مرسل دنیا میں آتا ہے تو اولاً اس کو غریب اور ضعیف لوگ قبول کرتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ قطع تعلق کر لیتے ہیں۔

كَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكْبَرَ مُجْرِمِيْهَا (الانعام: ۱۲۴) اکابر ماموروں کے

ساتھ نہیں ہوئے۔ غریب اور مسکین ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر ان چھوٹوں کو ان سے نفع پہنچتے ہیں۔ میں بھی ایک نمونہ ہوں۔ میرا گھر جہاں تھا میرے اب وہ وہم و گمان میں بھی نہیں آتا۔ میری ماں اعوان قوم کی ایک زمیندارنی تھی۔ اپنی قوم میں وہ اکیلی پڑھی ہوئی تھی اور کوئی مرد یا عورت پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ قرآن مجید سے اس کو بہت محبت تھی اور ہمیشہ قرآن پڑھایا کرتی تھی۔ خدا تعالیٰ نے میری غذا بھی کلام پاک ہی بنائی ہے میں ہمیشہ اس کو سنا کر جیتا ہوں۔

میرا باپ ایک غریب اور مسکین آدمی تھا۔ اپنی ضرورت کے موافق تجارت کر لیتا تھا۔ میں اپنا حال جانتا ہوں اور میں خوب سمجھ سکتا ہوں کہ مرزا صاحب کی صحبت میں میں نے کیا پایا۔ میں نے وہ کچھ پایا جو اہل دنیا اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ مرزا نے مجھے کتنا بڑا آدمی بنا دیا۔ جارج کی سمجھ ہی میں یہ بات نہیں آسکتی۔ اس لئے ارادہ الہی اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ غرباء کو ماموروں کی صحبت میں بھیج دیتا ہے اور اکابران فیوض سے محروم رہ جاتے ہیں۔

عبداللہ بن ابی بن سلول اور ابو جہل بڑے آدمی تھے وہ اگر مسلمان ہو جاتے تو پھر اپنی ہی خوبی جتاتے۔ اسلام کے احسان اور فضل کو کبھی تسلیم نہ کرتے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے غرباء کو ساتھ کر دیا اور وہی غرباء آخرمقوس اور ہرقل کے مقابلے میں آئے اور دنیا کے فاتح کہلائے۔ میرے تو دل میں کبھی آتا ہی نہیں کہ امیر کیوں الہی سلسلوں میں نہیں آتے۔ پس میں تمہیں اللہ ہی کے سپرد کرتا ہوں۔

(الحکم ۱۴، ۲۱، اگست ۱۹۱۲ء۔ صفحہ ۱۴ تا ۱۴)



اتباع قرآن کے منافع

﴿تقریر فرمودہ ۱۹ جون ۱۹۱۲ء بمقام بٹالہ﴾

حضرت خلیفہ المسیح نے جو تقریر بٹالہ میں کی تھی اسے اپنی یادداشت اور نوٹوں سے اپنے الفاظ میں لکھ کر ہمارے مکرم دوست ماسٹر محمد طفیل خاں صاحب نے اخبار میں چھاپنے کے واسطے ہمارے پاس بھیجا ہے جسے ہم شکریہ کے ساتھ ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔ ماسٹر صاحب اپنے خط میں لکھتے ہیں۔

”اسے اپنے اخبار کے کسی کالم میں جگہ دیں تاکہ تمام احباب اس سے فائدہ اٹھا سکیں یہ اس لیکچر کا اقتباس ہے جو کہ حضور نے یہاں خدام کی استدعا پر بٹالہ میں بتاریخ ۱۹ جون ۱۹۱۲ بوقت ساڑھے چھ بجے شام دیا تھا“۔ (ایڈیٹر الحکم)

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ۔ أَمَّا بَعْدُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَىٰ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ
قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا
بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (البقرة: ۹۲)

مسلمان ایک گروہ کا نام ہے جس طرح تمہارے ملک میں ہندو ایک گروہ کا نام ہے اسی طرح
مسلمان بھی ایک گروہ ہے۔ اب اس وقت مسیحی لوگ جس طرح سے اپنے مذہب کی اشاعت کرنے
میں کوشش کرتے ہیں۔ آپ بالکل یک دل اور یکسو ہو کر سوچیں کہ کیا اس سے بڑھ کر بھی اور کوئی
ترکیب ہے جس ترکیب پر وہ عمل کر رہے ہیں؟ اگر آپ سوچیں اور کتنا ہی سوچیں اس سے بڑھ کر اور

کوئی ترکیب نہ سوچھے گی۔ ایک میرا دوست تھا اس کو ایک دفعہ جناب نواب لفٹننٹ گورنر بہادر پنجاب سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ جب وہ نواب صاحب بہادر سے ملاقات کر چکا اور اٹھنے کا وقت قریب ہوا تو نواب صاحب بہادر موصوف نے پوچھا کہ کیا آپ اردو فارسی بھی پڑھے ہوئے ہیں اس نے کہا حضور پڑھا ہوا ہوں۔ اس پر اس نے ایک خوش وضع اور خوش نما جلد کی اور نہایت عمدہ کاغذ پر خوشخط چھپی ہوئی ایک انجیل دی اور کہا کہ اگر آپ میری محبت کی قدر کرتے ہیں تو میں اپنی محبت کے لحاظ سے آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ اسے ضرور پڑھیں گے۔ وہ مسلمان تھا اور بڑا امیر با اثر اور صاحب ثروت مسلمان تھا۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے نواب صاحب بہادر موصوف کی اس بات سے کچھ فائدہ بھی اٹھایا یا نہیں؟ اس نے جواب دیا کہ اس سے میں نے صرف اتنا ہی سمجھا ہے کہ یہ لوگ نہایت کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کچھ ہی کیوں نہ ہو اپنے مذہب کی اشاعت ضرور ہو۔ میں نے کہا کہ دیکھو یہ کتنے بڑے بادشاہ ہیں۔ جناب نواب لفٹننٹ گورنر بہادر کی حکومت سکھوں کے بادشاہ کی حکومت سے کئی درجے بڑھ کر ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانہ میں سرحد میں ستلج کا دوسرا کنارہ اور اٹک علیحدہ تھی اسے نصیب نہ ہوا کہ دہلی پر بھی حکومت کر سکے۔ ناٹھ۔ جیند وغیرہ ریاستوں پر بھی تصرف نہ تھا۔ مگر یہ شخص اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو کر اپنی کتاب کی اشاعت میں کس طرح لگا ہے۔ تم بھی امیر ہو با اثر ہو، صاحب ثروت اور وجاہت ہو، اللہ کے فضل سے تمہیں سب کچھ میسر ہے پر سچ کہنا کہ کیا قرآن کریم کے لئے بھی تم نے کبھی ایسی کوشش کی ہے جیسی یہ لوگ کر رہے ہیں؟

میرے عزیزو! تم جواب یہاں بیٹھے ہو۔ ذرا انصاف سے خدا لگتی کہنا یہ بچے تو کیا سمجھیں گے تم میں سے جو ذرا عمر میں بڑے ہیں البتہ وہ غور کر سکتے ہیں وہ خوب غور کریں اور بتائیں کہ کیا یہ جواب ہم کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اگر ایسی ہی اور اسی جوش اور سرگرمی سے پچھلے زمانے کے بڑے بڑے آدمی بھی کوششیں کرتے تو کیا اسلام پھیل سکتا؟ کیا اس کی اشاعت یوں دنیا بھر میں ہو جاتی کیا اس کی آواز بٹالہ تک پہنچ جاتی؟ نہیں نہیں ہرگز نہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ مہتمم بالشان اور مہتمم بالارادہ اشخاص نہایت ہی عظیم الشان کوششیں کرتے تھے اور یہ انہی کی قابل تعریف کوششوں کا

نتیجہ ہے کہ اسلام کو اب تم اپنے گھروں میں پاتے ہو۔ آج خود گھر کے لوگ اس پر ہنسی اڑاتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ اسلام دنیا میں پھیلا ہی کیوں اور کس طرح؟ کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے (جو کہ اسلام کو پیش کرتا ہے) پڑھنے سے نہ تو ملازمت ہی ملتی ہے نہ آسودگی ہوتی ہے نہ مکان عالی شان ملتے ہیں پھر اسے پڑھیں تو کیوں پڑھیں۔ ایک شخص انگریزی پڑھنے میں اس قدر محو تھا کہ وہ ہر وقت انگریزی ہی کو رٹتا رہتا۔ اگر وہ نماز کے لئے بھی اٹھتا تو قیام میں بھی انگریزی، رکوع اور سجود میں بھی انگریزی۔ غرض ہر وقت اور ہر حال میں انگریزی ہی پڑھتا دکھائی دیتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں تو ایسا کرتا ہے اس نے جواب دیا کہ انگریزی اس وقت ہماری گورنمنٹ کی زبان ہے دفاتر کی زبان ہے اس کے پڑھنے سے ہماری بہتری ہے بتائیے کہ ہمیں اور کہیں سے کیا مل سکتا ہے؟

ہماری یہ حالت کیوں ہوئی ہم نے اپنی یہ حالت خود بنائی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ہم عصر قومیں ترقی کر رہی ہیں اور ہم خواب غفلت میں پڑے خراٹے لے رہے ہیں۔ وہی قومیں جو ذلیل تھیں اور جن کو ہم ذلت اور حقارت سے دیکھتے تھے آج وہ ہماری سردار ہیں۔ دیکھو ایک پکوڑے بچپتا ہے تم اس پر ہنسی کرتے ہو۔ پھر چند دنوں کے بعد تم سب اسے شاہ جی شاہ جی کہنے لگ جاتے ہو اور اس کے سامنے اپنی ساری ضرورتیں لے جا کر اس سے روپیہ طلب کرتے ہو۔ میں جس وقت مسلمانوں کی حالت پر غور کرتا ہوں تو میرا دل لرز جاتا ہے۔ اپنے اپنے افعال اور اعمال کا خوب خوب موازنہ کرو اور دیکھو کہ اگر دنیا کے خراب لوگ چوری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زنا کرتے ہیں، غصب حقوق کرتے ہیں، جو اٹھیلے ہیں، قمار بازی کرتے ہیں اور دیگر زمانے بھر کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں تو کیا تم لوگ وہ ساری باتیں نہیں کرتے؟ کیا تم میں ایسے بہت سے لوگ نہیں جو نہایت فنیج افعال کے مرتکب ہوتے ہیں؟ اللہ کریم نے ہمیں ایک کتاب بخشی تھی جن بزرگوں نے اس پر عمل کیا وہ تو سربرآوردہ ہو گئے۔ دنیا ان کا لوہا مان گئی۔ دنیا اور اس کے بادشاہوں کے لئے وہ باعث رشک ہو گئے اپنے گھروں میں ہوتے یا بادشاہوں کے درباروں میں جاتے ہر ایک جگہ ان کا رعب ہوتا اور بڑا رعب ہوتا۔ اب وہ کتاب تو موجود ہے جس سے یہ تمام برکات پیدا ہوئی تھیں جس

سے یہ رعب اور یہ عزت ہم کو ملی تھی۔ مگر بات تو یہ ہے کہ اب اپنا اس پر عملدرآمد ہی نہیں رہا۔ اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ جب کبھی اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے تو جواب یہ ملتا ہے کہ ہم غریب ہو گئے، نادار ہو گئے، بے سروسامان ہو گئے اس لئے اب اتنی فرصت ہی نہیں کہ اس کے درس تدریس کا سلسلہ باقاعدہ جاری رکھا جاوے۔ دیکھو تم اپنی رسموں کے پورا کرنے کے لئے تو روپیہ کو پانی کی طرح بہا دو اور اپنے بیاہ شادی کے موقع پر اس قدر خرچ کر دو کہ مقروض ہو جاؤ مگر جس بات پر تمہاری ترقی، تمہاری عزت، تمہاری بہبودی منحصر ہو اس کا خیال تک بھی نہ ہو۔

وہ تو میں جو کبھی تمہارے خیال میں ذلیل تھیں وہی تم کو اب بڑی حقارت سے دیکھتی ہیں کیا تم جانتے ہو کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تم اس عظیم الشان کتاب کی حقیقت سے بگلی بے بہرہ ہو گئے ہو۔ یہ کتاب تمہیں بڑا بنانے کے لئے آئی تھی۔ بڑا بنانا تمہارے اختیار میں ہے۔ صحابہ کرام قرآن کریم کی اتباع سے کتنے بڑے آدمی بن گئے۔ اس نسخہ پر اب پھر بڑی بھاری عملدرآمد کی ضرورت ہے۔ جو صحابہ کرام کے زیر عمل تھا۔ اللہ کریم فرماتا ہے یہی ایک کتاب ہے جس کی ساری کی ساری باتیں حکمت سے بھری ہوئی ہیں۔ اسے تم شروع سے لے کر اخیر تک بڑے غور سے پڑھا جاؤ مگر تمہیں ایک بھی ایسی بات نہ ملے گی جو ہلاکت کی راہ بتاتی ہو۔ جو کچھ بھی وہ بتاتی ہے تمام سکھ کی راہیں بتاتی ہے۔ کیا اس میں کوئی ایسی بات ہے کوئی ایسا عمل ہے جس پر کار بند ہونے سے ہمارا نام ۹ نمبر یا ۱۰ نمبر کے بد معاشوں میں لکھا جاوے۔ کیا کوئی ایسی راہ ہے جس پر چلنے سے ہم آتشک میں مبتلا ہو جاویں۔ میں بوڑھا ہوں، ۴۷ برس سے یا ۵۰ برس سے طب کرتا ہوں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ قرآن کریم کی تعلیم اور اس پر عملدرآمد کرنے سے کوئی شخص آتشک یا ایک خاص قسم کا سوزاک ہے اس میں مبتلا ہو گیا ہو۔ پر کیا مسلمانوں میں اب آتشک نہیں؟ کیا کوئی مسلمان اب اس سوزاک میں مبتلا نہیں؟ کیا کوئی مسلمان جیل میں نہیں؟ پھر کیا بات ہے قرآن کریم تو اس لئے نازل ہوا تھا کہ تم کو مسلمان اور بڑا بنا دے، سکھی بنا دے، امن چین کے راستے پر قائم کر دے پر تم بڑے کیوں نہیں بنے، سکھی کیوں نہیں ہوئے؟ غور کرو اور خوب غور کرو کہ کیا یہ ذلت، یہ خفت، یہ بربادی، یہ ہلاکت اس کے احکام پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔ قرآن کریم

میں تو ہلاکت کی راہ ہی نہیں یہ تو ہمیں امیر، باعزت، صاحب جاہ و جلال اور بڑا بنانے کے لئے نازل ہوا تھا نہ کہ ذلت دینے اور ذلیل کرنے کو۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آج درس تدریس کرنے والے اذل ترین مخلوق سمجھے گئے ہیں۔ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ میں ایک طبیب ہوں۔ طب کا بڑا حصہ تو ڈاکٹروں کے پاس ہے۔ پھر اس کا بہت سا حصہ عورتوں نے لے لیا۔ کچھ حصہ دایوں کے پاس ہے، کچھ حلوائیوں کے پاس پھر کچھ حصہ کنجروں، ڈوموں اور مراسیوں نے لے لیا ہے۔ ہمیں بھی ایک حصہ ملا ہوا ہے اس حصے کے ذریعے سے امیر، غریب، شریف، رذیل، نیک، بد، بچے، جوان، بوڑھے غرض ہر قسم کی مخلوق سے ملاقات رہی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ امراء کے لئے کوئی شریعت نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عیش و عشرت کرنے اور گل چھڑے اڑانے کے لئے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم نے رنڈی بازی کرنی ہے اور ہم نے شراب بھی پینی ہے۔ وہ محلہ میں مسجد کے ملا سے مل کر کسی عورت کا نکاح دو دفعہ کرا دیں، چار دفعہ کرا دیوں کوئی ان کے روبرو انہیں مطعون نہیں کرتا۔ امیر مسجد میں جاتے ہی نہیں۔ ان میں سے جو نیک ہیں وہ نماز اگر پڑھتے بھی ہیں تو گھروں ہی میں کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں مگر مسجد میں آنے کو وہ باعث خفت و حقارت سمجھتے ہیں۔ امامت جو بڑا عظیم الشان کام تھا وہ اب اذل ترین کام سمجھا جاتا ہے۔ میں نے سادات سے پوچھا ہے کہ تم نے امامت کیوں چھوڑ دی؟ جواب میں مجھے ہر دفعہ یہی بتایا گیا کہ یہ شرفا کا کام نہیں۔ یہ تو کمینہ قوم کے لوگوں مشنڈے، جولا ہوں، ملانوں وغیرہ کا کام ہے۔ اس کو یہاں تک حقیر سمجھا گیا ہے کہ بڑے بڑے سادات اور امیر نمازوں میں آنا عار سمجھنے لگے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احکام کتاب اللہ پر عملدرآمد جاتا رہا۔ یہ تو ان کا ذکر ہے جو کچھ زمانہ دیکھ چکے ہیں جو آگے تیار ہو رہے ہیں ان کی حالت اللہ کے سپرد ہے۔ کئی لاکھ لڑکے کالجوں میں پڑھتے ہیں ان کو کبھی برائے نام بھی خدا کی ذات و صفات کے متعلق فکر کرنے کا موقع نہیں ملتا سوائے اس کے کہ اپنے لباس کا خیال ہو۔ اپنے کوٹ، پتلون، بوٹ کا خیال ہو یا اپنی انگریزی تعلیم کا خیال ہو انہیں اور کوئی خیال ہی نہیں ہوتا۔ ہزاروں ہزار مسلمان لنڈن کو جاتے ہیں، جب وہ اپنے سفر کے متعلق ذکر کرتے ہیں تو پہلے اپنی ٹھاٹھ کا ذکر کرتے ہیں اور بڑے مزے سے چٹکیاں لے کر کہا کرتے ہیں کہ ہمیں اسٹیشن پر چھوڑنے کے لئے اس قدر مخلوق تھی۔ اس

قدر تھی کہ سارا اسٹیشن ہی بھرا پڑا تھا۔ پھر بمبئی کا ذکر کرتے ہیں پھر آگے چل کر پورٹ سعید کا ذکر کرتے ہیں مگر مکہ شریف کا ذکر ان کی زبان پر کبھی آتا ہی نہیں۔ گویا مکہ شریف ان کے راستے ہی میں نہیں پڑتا۔ کیا کبھی آپ نے ان کی زبانی اس پاک اور مقدس جگہ کا نام بھی سنا؟ نہیں پھر یہ کیوں؟ اس لئے کہ انہیں اسلام سے محبت نہیں، درد نہیں، وہ نام کے مسلمان ہیں۔ قرآن کریم کی محبت کے سرد ہونے کا نقشہ قرآن کریم نے یوں کھینچا ہے فرمایا کہ جب حضور فخر کائنات اور فخر رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو مضطرب پائیں گے تو فرمائیں گے۔ **يَرْبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا** (الفرقان: ۳۱)۔ آپ لوگوں کی یہ حالت بد انہیں کیوں دیکھنی نصیب ہوگی۔ اس لئے کہ آپ نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا اس کی تعلیم سے آپ نے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔

اپنے گھر کی حالت کو دیکھو ہر ایک چیز کا وزن کرو تمہاری عورتوں کو کپڑے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ زیور وہ پہنتی ہیں پھر ظاہری بناؤ سنگار کے لئے انہیں منہ دیکھنے کے شیشے کی بھی ضرورت ہے مگر قرآن کریم سے ان کو مس نہیں۔ اس کی اتباع کی انہیں فکر نہیں۔ کیوں؟ اس لئے کہ وہ اپنے خاوندوں کو اپنے بیٹوں کو اور اپنے بھائیوں کو دیکھتی ہیں کہ ان کو بھی عزیز و مجید کتاب سے محبت نہیں۔ قرآن کریم جو ہمیں بڑا بنانے کے لئے، خوشحال بنانے کے لئے، بادشاہ بنانے کے لئے، باعزت اور با اثر بنانے کے لئے آیا تھا اس کی حقارت ہوتی ہے اگر آج قرآن کریم سنایا جاتا ہے تو صرف مُردوں کو سنایا جاتا ہے یا ان مریضوں کو جو قریب المرگ ہو گئے ہیں۔ میں نے ایک ملاں کی زبانی سنا کہ جس طاعون سے ہمیں مرزا ڈراتا ہے وہ طاعون تو ہمارے لئے نعمت ہے۔ مجھے تعجب ہوا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ آپ حیران کیوں ہوتے ہیں کوئی بیمار اچھا ہو یا نہ ہو ہمیں تو اپنے مطلب سے مطلب ہے۔ ہم تو اپنے ختم قرآن کی پوری رقم لے ہی لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کو پڑھتے بھی ہیں وہ اپنے آپ کو آپ کی نظر میں قابل اعتبار بنا کر نہیں دکھا سکتے اب اگر لوگوں کو قرآن کریم کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی خواہش ہو تو کیونکر اور کس طرح پر؟ جو نمونہ وہ قرآن کریم کے پڑھنے والوں کا پاتے ہیں وہ تو ایسا ہے ہی نہیں کہ جس پر چل کر انسان کسی قسم کی کامیابی کی امید کر سکے۔

شروع شروع میں جب میں مدرس تھا۔ سکول میں چار سو لڑکا پڑھتا تھا۔ ان دنوں کوئی فیس مقرر نہ تھی تھوڑے دنوں کے بعد فیس کے جاری کرنے کا جو حکم ہوا اور ہم نے فیس کے لئے عادت ڈالنی چاہی تو صرف پندرہ آنے ان چار سو لڑکوں سے وصول ہوئے بس پر بھی ایسی دقت کا سامنا ہوا ایسی مصیبت اٹھانی پڑی کہ سارے کے سارے شہر کے لوگ غل مچانے لگے اور چاروں طرف سے شور اٹھا کہ لڑکے اپنے کھانے پینے کے لئے جو پیسے گھر سے لے جاتے ہیں انہیں استاد جھین لیتا ہے ایک تو وہ وقت تھا کہ ۴۰۰ لڑکوں سے ۱۵ (آنے) بھی مشکل سے وصول ہوئے اور ایک یہ وقت ہے کہ آج اگر عمر (ایک روپیہ) فی لڑکا بھی لیا جائے (جو نہایت ہی کم درجہ کی اوسط ہے) تو کم از کم چار سو روپیہ فیس کا ہو جاتا ہے اور لوگ خوشی سے دیتے ہیں یہ کیوں؟ اس لئے کہ لوگوں نے مدرسہ کی تعلیم سے بڑے بڑے فائدے اٹھائے اور عمدہ عمدہ نتیجے دیکھے۔ اب چاہے گھر بک جاوے مگر لوگ اپنی بہتری اسی میں دیکھتے ہیں کہ تنگ ترش رہ کر بھی اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں اور خوب اعلیٰ تعلیم دلائیں۔ میں نے ایک زمیندار کو دیکھا اس نے اپنی ساری زمین بیچ کر اپنے لڑکوں کو ولایت بھیجا کسی نے کہا کہ تم نے بڑی غلطی کی۔ اس زمین کی طفیل تم نواب بنے بیٹھے تھے اس نے کہا کہ بے شک ہے تو یونہی مگر میں نے اس وقت اسی میں فائدہ دیکھا کہ اپنے بچوں کی خاطر زمین کو قربان کر دوں اگر ان کی قسمت میں ہے تو وہ خود اپنی لیاقت اور علم سے نوابی کو حاصل کر لیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا جب وہ لڑکے ولایت سے واپس ہوئے تو انہوں نے اپنی لیاقت اور اللہ کریم کے فضل سے کئی کئی لاکھ بیگھ زمین پیدا کی اور اصلی معنوں میں نواب بن بیٹھے۔

لوگ دنیاوی تعلیم کا نتیجہ دیکھتے ہیں اسی لئے اس کے حصول کے لئے اس قدر ہاتھ پاؤں مارتے ہیں۔ مسجد کے ملاں دکھا نہیں سکتے کہ اسلام کیا ہے اور اس کے اصول کی پابندی سے انسان کیسا عظیم الشان انسان بن جاتا ہے اور وہ دکھائیں بھی کیا؟ آئے دن انہیں مقدمات رہتے ہیں جن سے انہیں فرصت ہی نہیں ملتی پھر وہ کریں تو کیا کریں؟ بڑی مصیبت کا وقت ہے اگر کان رکھتے ہو تو سنو! اور خوب غور سے سنو کہ یہ تو میں تم کو حقارت سے دیکھتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ سوچو۔ میرے ایک دوست نے منصفی کا امتحان دینا تھا میں نے اس سے کہا کہ دس برس سے کوئی مسلمان اس

امتحان میں پاس نہیں ہوا اس لئے تم بھی پاس نہیں ہو سکتے۔ پہلے تو اس نے اس بات کو معمولی جانا مگر جب وہ پاس نہ ہوا تو پھر اسے بڑا ہی تعجب ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کو غیب کا علم ہے۔ میں نے کہا ممتحن ایک ہندو ہے اس نے اپنے دل میں وعدہ کیا ہوا ہے کہ کسی مسلمان کو پاس نہ کروں گا اس لئے کوئی مسلمان پاس نہیں ہوتا۔ جب مسلمانوں کے واہیلہ مچانے سے وہ ممتحن الگ کیا گیا تو کہنے لگا کہ کیا ہوا میں اپنے فرائض کو بڑی اچھی طرح سے ادا کر چکا ہوں۔ آج تک میں نے ہندو منصف صاحبان کے توسط سے (جن کو میں نے پاس کیا ہے) مسلمانوں کے برخلاف کروڑوں ڈگریاں کروا ڈالی ہوں گی۔ مسلمانوں کی یہ گت کیوں ہوئی اس لئے اور محض اس لئے کہ انہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ اگر میں تمہارے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کر پوچھوں کہ اس کا کیا مطلب ہے تو مجھے خوف ہے کہ تم سے بہت ہی کم ایسے نکلیں گے جو اس کا مطلب بیان کر سکیں۔

صحابہ کرامؓ نے قرآن کریم کو پڑھا سمجھا اس پر عمل درآمد کیا وہ صرف بادشاہ ہی نہ بنے بلکہ بادشاہ ان کے خدمت گزار بنے۔ یہ کیوں اس لئے کہ انہوں نے اپنے عمل کو قرآن کریم کی تعلیم سے عین مطابق کر دکھایا۔ اب اپنی عملی حالت کا اندازہ اس طرح سے ہو سکتا ہے اول تو تم نماز پڑھتے ہی نہیں اگر پڑھتے بھی ہو تو نہایت کسل اور بے دلی سے۔ ایک عورت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس آئی اس نے حضور کو ایک سو روپیہ دیا اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی بھی تھی جو اس کی دختر تھی میں نے اسے کہا تم نے ایک بڑی رقم حضور کو دی اس نے کہا کہ ہاں جی۔ آپ بھی دعا کریں کہ میرے ہاں اولاد ہو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ لڑکی کس کی ہے۔ کہنے لگی لڑکی تو میری ہی ہے پر پر ایسا مال ہے یہ میری کیا لگتی ہے۔ دعا کریں کہ میرے گھر اولاد ہو۔ میرا جی چاہا کہ اسے سمجھاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک لڑکی تھی یہ سادات کی اتنی بڑی قوم اسی کی اولاد ہے اس لئے میں نے کہا کہ مائی! کیا تو میرے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں تو نہیں جانتی علم والے جانتے ہوں گے اس کے اس جواب سے میں بہت حیران ہوا جو میں نے تجویز اس کے سمجھانے کے لئے سوچی تھی وہ غلط نکلی۔ پھر میں نے کہا کہ تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سمجھتی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں سمجھتی۔ پڑھے ہوئے جانتے ہوں

میرا میاں شاید اسے پڑھا کرتا ہے مجھے اور بھی حیرانی ہوئی پر میں نے سوچا کہ اسے کسی نہ کسی طرح ضرور سمجھانا چاہیے اس لئے میں نے بات کو اس طرح سے چلایا۔ میں نے کہا کہ بھلا بتلاؤ تو زمین اور آسمان کو کس نے بنایا؟ اس نے کہا بنانے والے جانتے ہوں گے مجھے تو ان کے بنانے والا کبھی ملا نہیں۔ اب میری حیرانی کی کوئی انتہاء نہ رہی اور میں نے کہا کہ بھلا اب اسے میں کس طرح سمجھاؤں الغرض مجھے ایک اور بات سوچی اور میں نے کہا کہ اچھا مرزا کو تم نے سو روپیہ کیوں دیا؟ اس نے کہا کہ میرا میاں کہتا ہے کہ وہ اچھے آدمی ہیں یہاں بھی میرے علم نے کام نہ کیا۔ پر میں نے پوچھا کہ تم ان کو کیا سمجھتی ہو اس نے کہا کہ مجھے کیا خبر مجھے تو وہ آدمی ہی دکھائی دیتے ہیں۔ ایک اور آدمی سے میں نے پوچھا کہ بھائی کیا تم بتا سکتے ہو کہ میں کس طرح اس عورت کو سمجھاؤں؟ یہی حالت اب مسلمانوں کی ہے ایک سو روپیہ تو نذر کا دیا پر عقل یہاں تک کہ اتنی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ بیٹی بھی اولاد دہوا کرتی ہے۔ پھر میں نے اس عورت کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ تم نے جو کچھ کیا اچھا کیا پر حضرت صاحب لڑکی کا لڑکا تو نہیں بنا سکتے۔

تم کو اس سے زیادہ کیا نصیحت کروں کہ مسلمان بنو اور قرآن کریم کی اتباع سے وہ تمام منافع حاصل کرو جو اصحاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کئے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہم تو سب کچھ مانتے ہیں۔ قرآن کریم کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں۔ اسی لئے ہم کسی کی بیعت کرنا پسند نہیں کرتے نہ ہم کو کسی سے ارادت کی حاجت ہے ان کی ایسی ہی مثال ہے جیسے ایک درخت ہو اس کی کسی شاخ کو کاٹ کر پانی میں ڈال دو۔ مگر وہ کسی جڑ سے وابستہ نہ ہو اگر چہ وہ شاخ پانی میں رہے گی ہر طرح سے اس کی حفاظت کا سامان مہیا ہوگا مگر وہ ہر روز خشک ہوتی رہے گی وہ ممکن نہیں کہ نشوونما پاسکے اور پتوں اور پھل والی بن سکے۔ ہمیں ایک نہ ایک امام اور پیش رو کی ضرورت ہے۔ دنیا اور اس کے کارخانے پر غور کرو۔ ہر گھر میں ایک بااثر شخص ہوتا ہے ہر محلہ میں ایک چودھری ہوتا ہے۔ ہر گاؤں میں ایک نمبر دار اور ایک ذیلدار ہوتا ہے۔ ہر کمیٹی کا ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے اور اللہ کریم نے حکام کے اوپر حکام بنائے۔ فرض کرو کہ ایک شخص ایک جرم کرتا ہے اس کے جرم کرنے کے موقع پر صاحب ڈپٹی کمشنر موجود ہیں۔ کیا صاحب بہادر اس مجرم کو اس

جرم کے ارتکاب سے روک دیں گے۔ نہیں ہرگز نہیں بلکہ وہ بھی کہیں گے کہ جب مقدمہ ہمارے پاس آئے گا ہم دیکھ لیں گے اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمارا کانسٹیبل ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روحانیت کا سلسلہ بھی ایسا بنایا ہے۔ میرے آقا رسالت مآب کے ساتھ ایک بڑی مخلوق وابستہ تھی جب آپؐ کا وصال ہوا آپ کی وفات پر فوراً اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ایک سردار قائم کر دیا جس کے سامنے سب کی گردنیں جھکا دیں اور مسند خلافت پر حضرت ابو بکر صدیقؓ کو بٹھا دیا مجھے اور لوگوں کی طرح زیادہ تفریر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں بات کو خواہ مخواہ رنگارنگ کی مثالوں سے طول دینا نہیں چاہتا۔ میں نے ایک بات بتلائی ہے اور نہایت ضروری بات بتلائی ہے۔

وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھو، سنو، سمجھو اور اس پر عمل کرو۔

میں شاید اور کہتا۔ پر اصل بات یہی ہے جو میں کہہ چکا۔ دنیا میں میں نے دیکھا ہے کہ لیکچرار اپنے اپنے لیکچروں کو کئی قسم میں تقسیم کر دیتے ہیں ان لاکھوں قسموں میں سے ایک حصہ میں نے بھی چن لیا ہے میرا جی یہی چاہتا ہے کہ اپنے گھر کے لوگوں..... اور متعلقین میں اسی کا وعظ کہوں اور کہتا ہوں کہ

قرآن کریم پڑھو، قرآن کریم پڑھو اور اس پر عمل کرو

اللہ کریم تم سب کو توفیق دیوے۔

(البدرد ۲۵ جولائی ۱۹۱۲ء صفحہ ۵۳۲)



ترکی چندہ کے متعلق قول فیصل

میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں کا خیال ہے کہ ترکی چندے کے متعلق میں نے کوئی قول فیصل نہیں دیا۔ یہ تمہاری نا فہمی ہے۔ میں کھول کر سناتا ہوں کہ ہر نیک کام میں چندہ دینے کو میں اچھا سمجھتا ہوں ادنیٰ سے ادنیٰ نیکی میں بھی میں آپ چندہ دینا چاہتا ہوں لیکن یہ معاملات مجھے معلوم نہیں ہوتے اس لئے ان میں معذور ہوں۔ تمہارا خیال ہوگا کہ میں چپ بیٹھا ہوں ہرگز نہیں۔ دیکھو میں نے بہت کوشش کی تاکہ مجھے یہ معلوم ہو سکے کہ غریب مسلمانوں کا روپیہ ضائع نہ ہو اور ترکی مجروحین کو پہنچ جانے کا ثبوت مل جائے اس لئے میں نے کراچی، مدراس، کلکتہ، برہما، کولمبو، قوٹلہ، نصلو، کوٹلہ، ضروری خطوط لکھے۔ ان میں سے کسی نے جواب نہ دیا۔ ہاں البتہ کولمبو والے نے اتنا جواب دیا کہ عبدالحمید ظالم تھا اب جو بادشاہ ہیں بڑے نیک ہیں۔ میرا بڑا جی چاہا کہ اگر ایک بھی اور گواہ ہو جائے مگر مجھے تو میسر نہ ہوا۔ البتہ اب تم اگر اس سے زیادہ تحقیقات کر کے اطمینان حاصل کر سکتے ہو کہ یہ روپیہ ترک مجروحین کو پہنچ جائے گا تو اس چندے میں حصہ لو۔ اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ تم سے دو کروڑ مانگا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر چودہ کروڑ بھی دینے سے ایک مسلمان سلطنت بچ جائے تو پھر بھی یہ سودا سستا ہے۔ کشمیر کو قریباً کروڑ روپے سے ہندو راجہ نے مول لیا تھا۔ ترکی سلطنت اگر دو کروڑ سے بچتی ہے تو خوشی کی بات ہے۔

میں نے مولوی محمد علی سے کہا تھا کہ **تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى** (المائدہ: ۳) نہایت پاک کلمہ ہے۔ ہر ایک نیکی میں، نیک کام میں، تقویٰ میں مدد کرنا چاہیے۔ اگرچہ تاریخ میں میں نے نہیں سنا کہ جب ہندوستان کے مسلمان غرق ہونے لگے تھے تو ترکوں نے کچھ ہماری مدد کی تھی اور کیا کچھ چندہ دیا تھا۔ لیکن ہم کو صرف اتنی سی بات سے نیکی کرنے سے نہیں رکنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ نیک سلوک نہ کیا لیکن یہ اطمینان ہونا ضروری ہے کہ چندہ وہاں پہنچتا ہے اور پھر وہ مجروحین ہی

کی مرہم پٹی میں دیانت و امانت کے ساتھ خرچ ہوتا ہے۔ دوم: یہ کہ ریا و سمعہ سے نہ ہو۔ نہ تو اس سے طلب شہرت مقصود ہو۔ جیسا کہ میں آج کل یہ مرض پھیلا ہوا دیکھتا ہوں اور نہ اس میں کوئی اور ذاتی غرض ہو۔ سوم: مَا ذَا يُنْفِقُونَ کے جواب میں قُلِ الْخَفْوُ (البقرہ: ۲۲۰) فرمایا یعنی اپنی حاجات سے زیادہ۔ دیکھو! میں نے ابھی سنا ہے کہ مدرسہ احمدیہ کے بہت سے بورڈ راس جاڑے کے موسم میں رات کو بغیر لحاف و تو شک کے سوتے ہیں۔ تمہارا خیال ترکی چندہ تک تو جا پہنچا مگر گھر کی خبر نہیں۔ ان کے لئے تم نے کیا انتظام کیا؟ ان کے منتظم سے میں نے پوچھا اس نے کوئی معقول جواب نہیں دیا۔ یہ کہا کہ صدر انجمن کی طرف سے جواب ملا گنجائش نہیں۔ اجی گنجائش نہیں تو کیا تم نے چندہ کی فہرست کھولی۔ اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو پھر ان کو یہاں قید کیوں کر رکھا ہے۔ ملک خدا تک نیست۔ میں تو طالب علم کو روٹی کھلا دینا، بستر کا انتظام کر دینا سب سے ضروری سمجھتا ہوں۔ تم نے اس سے کوتاہی کی۔ اسی طرح سلسلہ کی ضرورتیں ہیں۔

اور یہ جو قربانیوں کی نسبت کہتے ہیں۔ قربانی چھوڑنا ہرگز جائز نہیں۔ یہ لوگ قسطنطنیہ سے ہی فتویٰ منگا دیکھیں کیونکہ حالت تو وہاں کی نازک بیان کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے قربانیاں ان کو چھوڑنی چاہئیں۔ پھر مکہ معظمہ میں کئی لاکھ قربانیاں ہوتی ہیں۔ پہلے وہ قربانیاں موقوف کراتے۔ مصر ہی سے فتویٰ منگاتے۔ ہم نے تو ترکی چندے کے متعلق مصر بھی خط لکھا مگر اس کا تشفی بخش جواب نہ آیا۔ دیکھو تم ایسی ایسی باتوں پر اختلاف نہ کیا کرو۔ میں ترکی چندے کا ہرگز مخالف نہیں البتہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں جو غریب ہیں رات کو اوڑھنے کے لئے بھی نہیں رکھتے اور ہمارے پاس زخمی بھی آجاتے ہیں۔ دیکھو۔ ابھی کل مولوی محمد علی کے ایک آدمی کو زخم لگا ہے۔ ان کے لئے تو تمہیں جوش نہیں آتا اور وہاں کے لئے جوش ہے۔ کیا اس میں کوئی ریا و سمعہ تو نہیں۔ یہاں تو ذات الریہ سے مرجائیں تمہیں فکر نہ ہو۔ اور ایسی جگہ کے لئے جہاں چندہ پہنچنے کا یقین بھی نہیں تم مجھ سے استفتاء کرتے ہو۔ یہاں کی ضرورتوں اور یہاں کے مجروحوں کے لئے تمہاری جیبوں میں کچھ نہیں مگر باہر کے لئے ہے۔ مجھے تمہارے اختلافوں کی خبر سن کر بہت دکھ پہنچتا ہے اور جب تم اس میں حد سے بڑھنے لگتے ہو تو مجھے الزام دیتے ہو کہ میں قول فیصل نہیں دیتا۔ حالانکہ میں حق کہنے سے نہیں ڈرتا اور

نہ کسی سے دیتا ہوں۔ اہل فقہ نے لکھا ہے کہ میں موم کی ناک ہوں اور خواجہ صاحب کے آنے سے پہلے مجھے فتویٰ دے لینا چاہیے۔ میں بارہا تم کو سنا چکا ہوں کہ میں تمہارے نذرانوں، تمہارے سلاموں، تمہارے اٹھنے بیٹھنے کا ذرہ بھی محتاج نہیں۔ مجھے خدا تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے اور میں تم میں سے کسی کا بھی احسان مند نہیں جسے یقین نہ ہو وہ مقابلہ پر آ کر دیکھ لے۔

(الحکم ۱۴ دسمبر ۱۹۱۲ء صفحہ ۷)



قرآن کو دستور العمل بناؤ۔ دین کو دنیا پر مقدم کرو

﴿ تقریر فرمودہ ۲۵ دسمبر ۱۹۱۲ء بعد نماز ظہر بمقام مسجد اقصیٰ قادیان ﴾

جلسہ کے موقع پر یہ حضرت صاحب کی پہلی تقریر ہے جسے مخدومی اخویم محمد اکبر شاہ خان صاحب نے ساتھ ساتھ لکھا تھا اور اب صاف کیا ہے۔ چھپنے سے قبل حضرت خلیفۃ المسیح کو اس کا مسودہ دکھلایا گیا ہے اور میں خان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایسا عمدہ اور صحیح لکھا ہے کہ حضرت نے بہت کم کہیں درست کیا ہے۔ (ایڈیٹر البردر)

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلِتُكِنَ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(آل عمران: ۱۰۳ تا ۱۰۵)

یہ آیت شریفہ جس کو میں نے پڑھا ہے چوتھے پارہ اور دوسری سورۃ آل عمران میں ہے۔ میرے خیال میں اس وقت اس آیت کے پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس میں ایک علاج لکھا ہے۔ اس پر عملدرآمد کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کے خیال پر میں نے بھی اس آیت کریمہ کو پڑھا ہے۔ یہ بات تو تم جانتے ہو کہ پاک مقدس نیک آدمی کبھی ناپاک اور غیر مقدس کے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتا۔ پلید اور پاک کا تعلق محال ہے۔ خدا تعالیٰ ہر ایک عیب، ہر ایک نقص اور ہر ایک بدی سے پاک ہے۔ پس جہاں تک کوئی نقصوں کو دور کرتا چلا جائے اسی قدر بے نقص سے قرب حاصل کر سکتا ہے۔ وہ انسان جو تندرستی کا طالب ہے ایسی جگہ کو جو نشیب اور رطوبت والی ہو اور جہاں موذی جانور

بہت رہتے ہوں چھوڑنا ضروری سمجھتا ہے۔ نشیب میں بیماریاں بہت ہوتی ہیں۔ اسی طرح جہاں موذی جانور بہت رہتے ہوں وہاں بھی بیماریاں بہت ہوتی ہیں۔ اسی طرح جہاں ہوا کا گزر کم ہے یا جو مکان تنگ و تاریک ہے بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے۔ اس کے لئے مختصر ضروری، متفق علیہ علاج اونچی جگہ جہاں ہوا مصفا ہو، موذی جانوروں کا گزر کم ہو، رطوبت کم ہو، روشنی خوب ہو، یہ بڑے ضروری امور ہیں۔ موٹی سی ایک مثال اس وقت میرے خیال میں آئی ہے میں نے اپنے گھر کے بہت سے حصہ میں پگافرش رکھوایا ہے۔ جن کوٹھوں میں اور مکان کے جس حصہ میں زیادہ تر رہتا ہوں وہاں پگافرش ہے گودیاریں کچی ہیں۔ میں اکثر ان کو صاف کرتا رہتا ہوں مگر ہر روز ایک حصہ مٹی کا جس کو ہمارے یہاں کلر کہتے ہیں جھاڑ دینے والی نکالتی ہے۔ میں نے اس سے سوال کیا یہ کہاں سے آجاتا ہے؟ اس نے کہا ہر ایک چیز اسی طرح ہو جاتی ہے۔ اسی مٹی کو جب تنگ و تاریک جگہ سے نکال کر کھیت میں ڈالتے ہیں جہاں عمدہ ہوائیں چلتی ہیں۔ چار پانچ روز کے بعد وہ ایسی عمدہ زمین ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات دل چاہتا ہے کہ اللہ! تیرے آگے سجدہ کروں اور یہاں میں نماز پڑھ لوں۔ وہی جگہ ایک ہفتہ پہلے ایسی ناپاک تھی کہ اس کے پاس سے بھی گزرنا ناگوار تھا۔ یہ کیسی سیدھی مثال ہے۔ اسی طرح میں دیکھتا ہوں کہ مرغیوں، بطخوں کے رہنے کے مقام اور جہاں ہمارے گھریلو جانور گائے، بھینس، گھوڑے وغیرہ رہتے ہیں وہاں قسم قسم کی نجاستیں جمع ہو جاتی ہیں۔ جہاں مصفا ہوا اور کھلے میدان میں اس کو رکھا وہی حصہ بڑا عمدہ بن جاتا ہے۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ جس قدر کوئی عمدہ چیز سے تعلق پیدا کرتا جاتا ہے اس کا نقص گھٹتا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں جناب الہی نے جب انسان کی بناوٹ پر ذکر فرمایا ہے تو فرمایا ہے **خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ** (المؤمنون: ۱۳) یعنی تم کو خلاصہ در خلاصہ بنایا ہے۔ جب انسان کھانا کھاتا ہے اس میں سے بڑا حصہ ناپاکی کا علیحدہ کیا جاتا ہے۔ پیشاب الگ کیا جاتا ہے۔ قسم قسم کی بھاپ، پسینے، کان، آنکھ، ناک، منہ وغیرہ سے فضلے نکل کر کہیں کا کہیں خلاصہ بن کر آدمی کا نطفہ بنتا ہے۔ پھر ماں کے پیٹ میں بڑے تغیرات آتے ہیں۔ پھر وہ بچہ بنتا ہے انسان کا بچہ بنتا ہے۔ پھر ممکن ہے کہ وہ مسلم ہو اور ممکن ہے کہ وہ کافر ہو، دہریہ ہو۔ پھر کیسا عظیم الشان بن جاتا ہے۔ دریاؤں کے چیرنے کی طاقت رکھتا ہے، پہاڑوں کو اڑانے کی

کہتے ہیں پتا نہیں لگتا کہ دنیا کیا ہے؟ لاہور میں حضرت صاحب سے سید مٹھا میں ایک شخص مباحثہ کرنے آیا۔ اس نے کہا مجھ کو کوئی شخص ہر انہیں سکتا کیونکہ تم جو دلائل دیتے ہو ہم ان دلیلوں کے بھی قائل نہیں۔ میں بھی دور سے سنتا تھا تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھا۔ میں نے باہر جا کر اس سے کہا کہ آپ جیسے آدمیوں کے عقائد کا حال میں نے کتابوں میں پڑھا ہے مگر کوئی آدمی دیکھا نہیں تھا۔ اب آپ کو دیکھ کر میں خوش ہوا ہوں اور آپ سے ملنا چاہتا ہوں لیکن معلوم نہیں آپ کا دفتر کہاں ہے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ اس کو ابھی ہلاک کر دوں۔ اس نے کہا کوڑی باغ میں ہمارا دفتر ہے۔ کوئی آدمی انارکلی سے سیدھا فلاں سمت کو چلا جائے تو وہاں پہنچ جاتا ہے۔ میں نے اپنے دل میں سمجھا کہ یہ احمق ہے، میں نے اس سے کہا کہ آپ وہاں گئے بچے جاتے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں وہاں دس بجے جاتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ اب اس کو آگے چلانے کی ضرورت نہیں۔ تب میں نے کہا با بوساحب جیسے دس بجے دن کے ویسے دس بجے رات کے۔ جیسے دن کے بارہ بجے ویسے رات کے۔ جیسے انارکلی جیسے راوی کا دریا جیسا شاہدرہ جیسا کوڑی باغ۔ کیا آپ ہم لوگوں کی ہی طرح دس بجے نکلتے ہیں؟ کیوں آپ انارکلی سے کوڑی باغ میں ہی جا کر ٹھہرتے ہیں کبھی راوی کی طرف جا کر شاہدرہ جا کر ٹھہرا کریں ایک ہی ہے نا؟! مجھ کو دیکھ کر کہنے لگا میں آپ سے پھر ملوں گا۔ میں نے کہا کس جگہ ملو گے؟ پس پھر تو وہ شرمندہ ہو گیا اور چل ہی دیا میں نے دیکھا کہ عملدرآمد کرنے میں وہ ہماری طرح چلتا ہے۔

لاہور کا ایک بڑا پنڈت میرے پاس آیا، اس کا بچہ بیمار تھا۔ کوچہ بندی تک وہ اپنے بیٹے کی تکلیف بیان کرتا ہوا میرے ساتھ گیا۔ اس سے پہلے وہ بیان کر چکا تھا کہ اعتبار کے قابل کوئی چیز بھی نہیں۔ مسیح کے قتل کا فتویٰ جب یروشلم میں دیا گیا تو یروشلم میں اتفاق تھا، اب اس کو ظلم سمجھتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ ظلم تھا یا یہ ظلم ہے۔ سقراط کو جب زہر کا پیالہ پلایا گیا تو کوئی نہ بولا اب اس کو اچھا نہیں جانتے۔ ہم نہیں جانتے وہ سچے تھے یا یہ سچے ہیں۔ میں نے کہا پنڈت جی آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ کہا میرا بیٹا بیمار ہے۔ میں نے کہا جب قوم کی بات کا آپ کو اعتبار نہیں تو آپ کی بات کا ہم کیسے اعتبار کریں۔ کہنے لگا بیٹا کہتا ہے۔ میں نے کہا اچھا اب آپ دو ہو گئے۔ پھر.....

فَبَهَّتِ الذُّنُوبَ كَفَّرَ (البقرہ: ۲۵۹) معلوم ہوا خدائے تعالیٰ کی بات تو بڑی ہے نفس مخلوق پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا مخلوق ہر آن میں تباہ ہو جاتی ہے۔ میں نے اس سے بہت باتیں پوچھیں مگر کوئی حقیقت تک پہنچانے والی بات اس کے منہ سے نہ نکلی۔

اسی طرح میں دیکھتا ہوں کہ انسانی جماعت میں اس پاک گروہ کے بھی لوگ منکر ہیں جن کو انبیاء علیہم السلام کہتے ہیں اور جن کے سبب سے دنیا میں بڑے بڑے عیش اور امن اور راحتیں قائم ہیں۔ برہم لوگ انبیاء کی پاک جماعت کے منکر ہیں۔ ایک برہمن نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ہم بڑے پریم اور نرمی سے بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا تم بڑے ظالم ہو۔ کہا کبھی آریوں کو بھی سنا ہے؟ میں نے کہا آریہ تم سے بہت نرم ہیں۔ کہا مسلمان؟ میں نے کہا وہ تو تمہاری نسبت بہت ہی نرم ہیں۔ کہنے لگا ہماری پلیدی بتاؤ؟ میں نے کہا سچائی پھیلانے اور سچ قائم کرنے کے لئے دنیا کے ہر پردہ پر نبی آئے ہیں اور انہوں نے صداقت کو قائم کرنے کے لئے اپنی جانیں ہلاکت میں ڈالیں اور بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کیں۔ تم نے ایسا غضب ڈھایا کہ ان کو کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے باتیں نہیں کرتا۔ کیسا ظلم ہے کہ تم کہتے ہو یا انہوں نے (انبیاء نے) جھوٹ بولا، یا دھوکا کھایا یا دوسروں کو الٹو بنایا یا مصلحت عامہ کا خیال کیا۔ میں نے کہا تم نے نبیوں کے حق میں جھوٹ بولنے، دغا بازی کرنے، دھوکا دینے کے الزام لگائے اور پھر کہتے ہو ہم بڑے نرم ہیں۔ کہنے لگا پہلے تو ہم نے کبھی اس باریک بات کا خیال ہی نہیں کیا۔ میں نے کہا اب خیال کر لو۔ کہا ہاں بات تو زبردست ہے۔ میں نے کہا اچھا اب ماننے ہو؟ کہنے لگا نہیں بات کچھ ایسی ہی ہے۔ میں نے کہا تم ملائکہ کے ماننے کو شرک سمجھتے ہو اور کہتے ہو کہ ملائکہ کا ماننا مشرکانہ اعتقاد ہے حالانکہ ملائکہ کا ماننا بڑا پاک اعتقاد ہے۔ وہی راستہ اور پاک جماعت کہتی ہے کہ ہم سے ملائکہ نے باتیں کیں، ملائکہ ہم سے ملے، ملائکہ نے ہم کو فائدے پہنچائے اور تم ان کو جھوٹا کہتے ہو۔

ایمان بالملائکہ کا ایک نکتہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا ہے۔ میں نے بارہا اپنے دوستوں کو سمجھایا ہے لیکن لوگ بھلی بات کی طرف توجہ کم کرتے ہیں۔ کوئی وقت ہوتا ہے اور موقع نیکی کا ہوتا ہے اس وقت فرشتہ انسان کو نیکی کی تحریک کرتا ہے اور بدکاروں کو فرشتہ کبھی بدکاری کے وقت ملامت

کرتا ہے۔ اسی واسطے بعض بدکاروں کے کبھی بڑی نیک اولاد پیدا ہوتی ہے کیونکہ وہ ملامت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر انسان مَلِئَتْ کی اس تحریک کو مان لے تو مَلِئَتْ کو اس سے تعلق ہو جاتا ہے۔ وہ فرشتہ اپنے حلقہ کی تمام نیکیاں تحریک کرتا ہے۔ پھر وہ ایک دوسرے فرشتہ سے جو اس کا قریب کا ہوتا ہے تعلق کراتا ہے کہ تم بھی اس کو تحریک کرو۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی آدمی کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھتا جاتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اس سے تعلق پیدا کرو۔ اس طرح جبرائیلی رنگ کی مخلوق سے تعلق اور قبولیت کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب وہ قصہ ایک کہانی کی طرح ہو گیا۔ بدظنی مت کرو، بڑائی، شیخی اور فخر کے لئے نہیں تحدیثِ نعمت کے لئے کہتا ہوں کہ میں نے خود ایسے فرشتوں کو دیکھا ہے اور انہوں نے ایسی مدد کی ہے کہ عقل، فکر، وہم میں نہیں آسکتی اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ دیکھو ہم کس طرح اس معاملہ میں تمہاری مدد کرتے ہیں۔ انبیاء، اولیاء، غوث، ابدال کی پاک جماعت کا فرمانا اس معاملہ میں خلاف ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ جس طرح گنداکوڑا کرکٹ اعلیٰ مقامات میں جا کر اچھا ہو جاتا ہے اسی طرح اچھی صحبت میں گندہ انسان اپنی حالت کو تبدیل کر لیتا ہے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ** (التوبة: ۱۱۹) راستبازوں کا ساتھ ہونا کوئی معمولی بات نہیں۔ وہ نشن پوش عرب جو سوائے اونٹ چرانے کے کچھ نہیں جانتے تھے جب انہوں نے دنیا میں اسلام کا نور پھیلایا تو کس طرح خدائے تعالیٰ نے ان پر فضل و کرم فرمایا اور انہوں نے کیسی عزت حاصل کی۔ وہ صحبت کا نتیجہ تھا۔ یہ نہ کہو کہ خدا تعالیٰ کی رحمت کے خزانے خشک ہو گئے۔ یہ جناب الہی پر بدظنی ہے۔ خدائے تعالیٰ کے فضل و رحمت میں کبھی کوئی نقص نہیں۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں نیک آدمی کا ذکر آتا ہے آگے فرماتا ہے **وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ** (الانعام: ۸۵) ہر ایک محسن کے لئے ایسی ہی جزا ہے خدائے تعالیٰ کی رحمت کے خزانہ میں کوئی کمی نہیں، کوئی دریغ اور مضائقہ قطعاً نہیں۔ یاس اور ناامیدی خود بڑا خطرناک گناہ ہے۔ طالب علمی میں ہمارے ایک دوست تھے ہم کو ان پر بڑا احسن ظن تھا جتنے ہم ان کے ساتھ پڑھتے تھے ان کو بہت ہی نیک خیال کرتے تھے۔ حضرت صاحب کے دعوے کے وقت وہ مجھ کو ملے۔ میں نے کہا آپ نے مرزا صاحب کی آواز سنی ہے؟ کہنے لگے ہاں

وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہوں پھر کہا کہ آپ مجھ کو جانتے ہیں میں نے کبھی کوئی بدی نہیں کی اور ساری عمر نہیں کی لیکن مجھ کو کبھی الہام نہیں ہوا اور مرزا صاحب کو الہام ہو گیا۔ میں یہ سن کر کچھ دیر چپ رہا اور دعا مانگتا رہا کہ مولا اس کو کیا جواب دوں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ آپ ہم میں کیسا نیک نمونہ ہیں کہ ہم آپ کے لنگوٹیاں رہیں اور پھر بھی آپ کا کوئی عیب نہیں بتا سکتے۔ اب بتائیں آپ نے کبھی نماز میں الحمد شریف پڑھی ہے؟ کہا روز۔ میں نے کہا اس میں آپ نے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (الفتحہ: ۶، ۷) پڑھا انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کیا کوئی منعم علیہم ہیں؟ کہا ضرور ہیں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان سے باتیں کرتا تھا اور آپ سے نہیں کرتا؟ کہنے لگے بھلا ہم بدکاروں سے اللہ تعالیٰ کب بات کرتا ہے۔ میں نے کہا تو آپ بدکار ہیں؟ ہم کو تو علم نہیں تھا۔ کہا بندہ گنہگار سیہ کار ہے۔ میں نے کہا تو آپ ایسے بدکار اور سیہ کار ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں نہیں کرتا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ پر بدظنی کی اور یہ کہ آپ نے تمام نیکیاں کیں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نہیں بولا گویا وہ ظالم ہے۔ آپ نے تو بڑا ظلم کیا کہ اللہ تعالیٰ پر بدظنی کی پھر وہ کس طرح بولتا۔ کہا ہاں یہی سبب ہے۔ میں نے کہا تو پھر قصور تو آپ ہی کا ہے۔ ملائکہ اسباب الہی میں سے ایک سبب ہیں اور کتب الہیہ انسان کو آگاہ کرنے کے لئے بھیجی گئی ہیں اور انسان کو سچائی سمجھانے کے لئے نازل ہوئی ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (ال عمران: ۱۰۳)

حق تقویٰ کا ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک مقدس مطہر عیب سے بری ہے۔ وہ یکتا ہے۔ اپنے اوصاف و محامد میں بے ہمتا ہے۔ اللہ جل شانہ کے افعال و عبادات و تعظیبات میں کوئی بھی شریک نہیں وہ وحدہ لا شریک ہے۔ میری تحقیقات اور سمجھ نے جہاں تک کام دیا ہے قرآن کریم جیسی کتاب میں نے نہ دیکھی نہ سنی اور نہ کسی منہ سے کوئی چیز ایسی مجھ تک پہنچی۔

ایک مشہور برہمنو یہاں آئے میں نے ان سے کہا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ کہا کہ ہر ایک مذہب کی اچھی بات ہم لے لیتے ہیں۔ میں نے کہا بڑا اعلیٰ سے اعلیٰ اصل آپ کا کیا کیا ہے؟ کہا دعا اور یہی تمام مذاہب میں بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ میں نے کہا آپ نے تمام مذاہب کی دعاؤں کا انتخاب

کیا ہے ان میں اتفاق رائے سے جو سب سے اعلیٰ دعا ہو وہ مجھ کو سناؤ۔ کہنے لگے آپ اپنی دعا سنائیں۔ میں نے کہا آپ نے تو تمام مذاہب کی دعاؤں کا انتخاب کیا ہے تعجب ہے کہ اسلام کی دعاؤں کو نہیں جانتے۔ کہا ہاں یہ غلطی تو ہے پھر کہنے لگا کہ جنزل بوتھ نے دس گھنٹے دعا مانگی اور میرے سامنے مانگی۔ میں نے کہا اس دعا کا کوئی فقرہ آپ دس سیکنڈ میں سنا دیں کہنے لگا دور سے آواز نہیں آتی تھی۔ میں نے کہا ممکن ہے وہ شراب کے نشہ میں سو رہا ہو۔ غرض وہ ادھر نہ آیا یہی کہتا رہا وہ بڑی جماعت کا مقتدا ہے۔ میں نے کہا اس نے کوئی دعا نہیں کی ورنہ ایک فقرہ ہی سناؤ۔ میں نے کہا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو ایک آیت اونچی پڑھ دیتے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ فلاں سورۃ پڑھتے ہیں۔ انجیل میں مسیح کی آخری دعا تو یہی ہے کہ ایلسی ایلی لما سبقتنی او خدا تو نے مجھ کو کیوں چھوڑ دیا۔ میں نے اس کو بہت ہی مجبور کیا کہ اپنی دعا مجھ کو سناؤ لیکن اس نے کہا پہلے آپ سنائیں پیچھے میں سناؤں گا۔ میں نے کہا اچھا آؤ پہلے ہماری ہی دعا سنو پھر میں نے سورۃ فاتحہ انہیں (ہندوؤں کی) زبان میں جو مجھ کو کچھ آتی ہے ترجمہ کر کے سنائی۔ سن کر فوراً نوٹ بک نکال کر کہنے لگا کہ اس کو اپنے ہاتھ سے لکھ دیں اس جیسی تو کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے کہا اب تم سناؤ کہا کہ مجھ کو تو اب ان تمام دعاؤں سے شرم آتی ہے اس دعا کے مقابلہ میں ہرگز کوئی دعا سنانے کے قابل ہے ہی نہیں۔ ہم پر کیا احسان ہوا ہے۔ کیا شان ہے اس کتاب کی جس کی تعریف ہے

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ (حم السجدة: ۴۳) تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ (الواقعة: ۸۱)

اس کے آگے پیچھے بطلان آسکتا ہی نہیں سب تحقیقاتوں کے مقابلہ میں یہی قرآن ہے آئندہ جو ہوں گی ان کے لئے بھی یہی قرآن ہے۔ رب العالمین کی یہ تنزیل ہے۔ بہت سے لوگ انجمنیں بناتے ہیں وہ کیوں کامیاب نہیں ہوتے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اصل الاصول میں لا الہ الا اللہ کو نہیں رکھتے کوئی ہمدردی حیوانات، کوئی موت فنڈ، کوئی زندگی کا بیمہ۔ اگر سب سے مقدم خدائے تعالیٰ کو کر لیتے تو خدائے تعالیٰ ان کو مقدم کر لیتا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا

وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (ال عمران: ۱۰۳) تم فرمانبردار ہو کر مرو۔

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا (ال عمران: ۱۰۴)۔ اللہ تعالیٰ نے الزام کے طور پر ہر مدرسہ

میں رسہ کھینچنے کا ایک انتظام کیا ہے۔ یہ رسہ میری سمجھ میں اس لئے بنایا گیا ہے کہ اس آیت کی طرف توجہ ہو۔ یہ جناب الہی کا رسہ قرآن کریم آ گیا۔ ایک طرف تمام دشمنان خدا اور اعداء نبی کریم اس کو کھینچنا چاہتے ہیں کوئی تاریخی طور پر کوئی سائنس اور مشاہدہ کے ذریعہ سے الزام لگانا چاہتا ہے کوئی اس کو شش میں ہے کہ اس کے اسباب کے نتائج کا خلاف کیا جائے۔ خدا تعالیٰ اور اس کے نبیوں کے منکر ایک طرف کھینچتے ہیں۔ تمام مسلمانوں کو حکم ہے کہ تم ایک دم اپنا سارازور لگاؤ کیونکہ اس میں تمہارا بچاؤ ہے۔ اس میں توافق کر لو و لَّا تَفَرَّقُوا تَفَرَّقُوا تفرقے چھوڑ دو۔ آپس میں محبت بڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل ہوا ہے۔ تم لوگ کس طرح آپس میں عداوت رکھتے تھے۔ جناب الہی نے تم میں الفتیں پیدا کر دی ہیں۔ اندرونی مذاہب میں شیعہ تمام اصحاب کرام کو گالیاں دیتے ہیں اور خوارج اہل بیت کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان الفتیں پیدا کر دیں ہیں تو کم سے کم سورہ آل عمران کے زمانہ میں جس قدر صحابہ تھے وہ تو سب ضرور آپس میں محبت رکھتے تھے۔ جو اس کے خلاف کہتا ہے وہ قرآن کریم کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے اَلْف کے بعد اِخْوَانًا فرمایا ہے کیونکہ کبھی کبھی بھائیوں میں کدورتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ اس جماعت صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت معزز کیا ہے۔ اگر ان میں اختلاف ہوتا تو تمام بلاد کے فتوحات کس طرح ہوتے۔ اگر وہ ایک نہ ہوتے تو لا الہ الا اللہ کے خلاف ہوتا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے کہا بھلا تم کلینی تو پڑھ کر دیکھو۔ کہا اپنی تردید کے لئے یہی کافی ہے۔ خدا تعالیٰ کے اس فضل کو یاد کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کون کون لوگ تھے حبشیوں میں بلال، رومیوں میں صہیب، حسن بصری جیسے بصرہ کے۔ یہ اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لئے ہم نے عرب و عجم کی مخلوق ایک کر دی ہے۔ **كُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ** تم ایک آگ کے گڑھے پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ باتیں اس لئے سنائی ہیں کہ تم ہدایت پاؤ۔ اب بھی دیکھو لوگ باہم کس قدر نقار میں تھے۔ مقلد، غیر مقلد، شیعہ، خارجی، ایک گاؤں قادیان میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا۔ نمونے دکھادیئے۔ اب بھی وہی بن سکتے ہو جو پہلے صحابہ کرام بنے۔ یہ باتیں کیوں سناتا ہے؟ **لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ** (ال عمران: ۱۰۴)۔

اب تم سوچو حضرت صاحب کیوں آئے تھے؟ کیا غرض تھی کیا کام تھا کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ بہت سے لوگ یہ کہہ دیں گے۔ وفات مسیح کا مسئلہ حل کر دیا۔ وفات مسیح کے سارے صحابہ سارے آئمہ قائل ہیں۔ بیشک بطور غلطی کے یہ مسئلہ بھی تھا۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار پینچسہ فوٹ ہوئے ایک مسیح علیہ السلام بھی فوت ہو گئے تو کیا ہوا۔ حضرت صاحب ایک خاص غرض کے لئے آئے تھے۔ وہ غرض دین کو دنیا پر مقدم کرنا تھی۔ لوگوں نے دنیا کو دین پر مقدم کیا ہے اور ایسا مقدم کیا ہے کہ قرآن شریف کو پچھریوں میں جھوٹی فتیمیں کھانے کا آلہ بنایا گیا ہے۔ دھوکا دینے کے لئے قرآن شریف کو ذریعہ بنایا گیا ہے۔ ایک شخص کی کوہاٹ میں بدلی ہوئی۔ بڑا موٹا قرآن شریف اور ایک بڑی سی رحل اس نے خریدی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو قرآن کریم سے بڑی محبت ہے۔ کہنے لگا کہ سفر میں تو یہ میری گاڑی کا پائندان ہوگا اور وہاں جا کر رحل پر رکھ دوں گا سرحدی لوگ مجھ کو بڑا دیندار سمجھیں گے۔ میں قرآن شریف کو ماننا نہیں ہوں۔

اگر خشية اللہ ہو، اگر تقویٰ ہو، اگر انسان کا خدا تعالیٰ پر ایمان ہو، اگر مرنے کا اس کو خیال ہو تو یہ جھوٹ، یہ دغا، یہ فریب، یہ جعلسازیاں، یہ بد معاشیاں، یہ لین دین میں بد معاملگی کیوں ہو۔ تم خوب یاد رکھو کہ صرف منہ سے کہہ دینے سے آدمی مسلمان نہیں بنتا، منہ سے مسلمان تو منافق بھی بن سکتا ہے۔ تقویٰ اور عمل سے آدمی مومن بن سکتا ہے۔ اگر دنیا کو دین پر مقدم رکھتے ہو۔ اگر اپنے اغراض کو پورا کرنے کے لئے دغا، فریب اور بد معاشیوں کو روا رکھتے ہو تو یہ کوئی عقلمندی نہیں۔ ہمارے بزرگوں کے مکانات عرب میں بھی ہوں گے کیونکہ وہ عرب سے آئے تھے پھر انہوں نے بلخ میں کابل میں مکانات بنائے۔ پشاور اور یوسف زئی کے علاقہ میں وہ رہے پھر لاہور میں قصور میں مکانات بنائے۔ پھر کھنئی وال (علاقہ بہاولپور) اور میانوالی سکونت اختیار کی۔ بھیرہ میں خود میں نے اپنے ہاتھ سے مکانات بنائے۔ ان سب مقامات میں ہمارے مکانات تھے پھر یہاں (قادیان) بھی میں نے مکانات بنائے پھر کیا ان مکانوں کو میں سر پر اٹھا کر لے جاؤں گا؟ مومن دین کو دنیا پر مقدم رکھتا ہے دنیا کو مقدم نہیں کرتا۔ یہ معاہدہ کرنا کہ میں دین کو دنیا پر مقدم کروں گا اور جب معاملہ پڑے یا کوئی مقدمہ آجائے تو دنیا کو مقدم کر لیا۔ بھلا یہ معاہدہ ہی کیا ہوا؟

قرآن شریف میں ورثہ کا بیان فرماتے ہوئے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے تَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (النساء: ۱۴، ۱۵) یہ میری حد بندی ہے جو میری حد بندی پر نہ چلے گا میں اس کو ذلیل کر دوں گا۔ اب اپنے اپنے گاؤں کے حالات پر غور کرو۔ عورتوں کو حقوق کس قدر دیئے جاتے ہیں۔ تم لوگ اکثر عورتوں کو حصہ نہیں دیتے۔ عورت کی بھلائی کا قانون سوائے قرآن کریم کے اور کہیں دنیا میں ہے ہی نہیں۔ میں نے بڑے بڑے واقف کاروں سے پوچھا ہے لنڈن میں بھی عورتوں کی بھلائی کا کوئی قانون نہیں نکلا۔ ایک خاوند نہ چھوڑنا چاہے، نہ رکھنا چاہے اب عورت مجبور ہے زیادہ سے زیادہ یہ کہ نان و نفقہ کی ڈگری حاصل کرے پھر اس ڈگری کا اجرا کرنا دشوار۔ میں نے بڑی کوشش اور تلاش کے بعد بھی کوئی قانون ایسا نہیں دیکھا جس میں عورتوں کے حقوق کا لحاظ کیا گیا ہو۔ قرآن کے قاعدے خود مسلمانوں نے ہی چھوڑ دیئے ہیں۔ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ (البقرة: ۲۲۹) عورت کی بہتری کے سامان اسی قدر ہیں جس قدر تمہارے۔

ایک عورت مجھ سے کہنے لگی آپ کے قاعدے کے موافق آدھا مال خاوند کا ہے اور آدھا بیوی کا مگر اب تو تمام گھر کی مالک میں ہی ہوں۔ میں نے کہا کبھی تمہارے میاں تم پر ناراض بھی ہوئے ہیں۔ کہا ہاں ایک مرتبہ ناراض ہوئے تھے۔ چوٹی پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ میں نے کہا کبھی تم نے بھی اس کو گھر سے نکال دیا ہے یا تم صرف حفاظت ہی کرتی ہو اور دخل کچھ بھی نہیں۔ کہنے لگی ہاں اب سمجھ گئی ہوں۔ ہمارے ملک والوں نے عورت کا نام جوئی رکھا ہے حق وراثت میں کوئی حصہ اس کے لئے قائم نہیں۔

ایک عورت نے مجھ کو خط لکھا کہ مہدی بھی آیا، مسیح بھی آیا بتاؤ ہم کیوں مانیں اس نے ہمارا کیا کام کیا؟ میں نے اس کو لکھا کہ مسیح علیہ السلام قرآن کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اس نے لکھا کہ میرا خاوند قسم کھاتا ہے کہ میں تم کو کبھی سکھ کی حالت میں نہ دیکھوں گا۔ میں نے حضرت صاحب سے عرض کیا آپ ہنس پڑے اور کہا کہ لوگ قرآن مانیں۔ میں نے اس عورت کو لکھ دیا کہ تم چالیس دن

سچی استغفار اور توبہ کرو یا وہ مر جائے گا یا تمہارا چھٹکارا ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ نے تمہارے لئے ایسا واعظ بھیجا کہ دین کو دنیا پر مقدم کرو۔ ہم نے لوگوں کے کفر کے فتوے بھی اپنے اوپر لئے پھر بھی اگر تمہارے معاملات صاف نہیں تو تم نے دین کو دنیا پر مقدم کہاں کیا۔

ایک اور مشکل پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ جو لوگ معاہدہ کر کے خلاف کرتے ہیں ہم نے ان کی یہ سزا رکھی ہے کہ وہ منافق ہو کر مرتے ہیں اب ہم نے بھی تو اتنا بڑا معاہدہ (اقرار بیعت) کیا ہے۔ میرا دل نہیں چاہتا کہ ہماری جماعت میں منافق ہوں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میری بات کے سننے والے عمل کرنے والے ہوں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ منافق اکٹھے ہو جائیں۔ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا لَآ اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَآ اِنْ اَجْرِي اِلَّا عَلٰی اللّٰهِ (ہود: ۳۰) بلکہ اس عہدہ پر آ کر مجھ کو خرچ برداشت کرنا پڑتا ہے جو پہلے نہیں ہوتا تھا۔ ایک سائل آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ابھی جاتا ہوں اور میرے پاس خرچ سفر نہیں۔ اب میں اس سے یہ کہاں کہہ سکتا ہوں کہ میری چٹھی بنام انجمن لے جاؤ۔ انجمن کہے گی مہینہ کے بعد ہمارا اجلاس ہوگا۔ پھر بڑے اہلکار چھوٹے اہلکاروں کے نام حکم لکھیں گے اور اس طرح اس کی تعمیل میں مہینے گزر جائیں گے اور وہ فوراً رخصت ہونا چاہتا ہے۔ میں نے اس دکھ کو بڑا محسوس کیا ہے۔ جب دنیا کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے تم کو نمبر دار بنایا ہے۔ آپ کا ماہوار خرچ کیا ہوگا؟ میں نے کہا اے مولیٰ! تو نے مجھے کبھی کسی کا محتاج نہیں بنایا اور موت کے قریب بندوں کا محتاج بناتے ہو؟ مجھ کو بڑا مزہ آیا جب کہ میں نے ایک آدمی سے کچھ مانگا۔ چند عرصہ کے بعد اس نے کہا میں تو بھول ہی گیا میرا ایمان بہت بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا ہی فضل کیا ہے اور وہاں سے رزق دیا جہاں سے میرا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ باقی یہ کہ میں دو چار عربی کے فقرے اور ضرب المثلیں بیان کروں اس کی ضرورت نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دین کو دنیا پر مقدم کرو، لالچ، دغا، شرارت بالکل نہ کرو۔

قرآن کا سمجھنا بڑا ضروری ہے سمجھ کر اس پر عمل کرنا اور جناب الہی سے دعا مانگنا کہ اسی پر خاتمہ بالخیر ہو۔ یورپ میں بہت کتابیں نکلی ہیں کہ اگر نمونہ کے طور پر صرف ان کے ٹائٹل تیج کیا اگر ان کے ناموں کی فہرست بھی پڑھنا چاہیں تو طاقت نہیں۔ ان سب کے بالمقابل قرآن شریف کو پڑھو۔

یہ سب پر غالب اور سب سے بڑھ کر رہے گا۔ اس کتاب قرآن کریم کا ایک نمونہ دنیا میں آیا۔ اس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اس نے قرآن کریم پر عمل کر کے دکھا دیا کہ اس پر عمل کرنا انسان کی طاقت سے باہر نہیں۔ پھر آپ ہی عمل نہیں کیا بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی عمل کرا کر دکھا دیا حضرت عبداللہ بن مسعود کا مسجد کے قریب سے گزر ہوا اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے۔ آپ نے لوگوں کو فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے گلی میں اس آواز کو سنا وہیں بیٹھ گئے کسی نے پوچھا یہ کیا کیا؟ آپ نے کہا شاید مسجد میں جانے تک جان نکل جائے اور حکم کی تعمیل رہ جائے۔ کیا فرمانبرداری تھی۔ پھر اس فرمانبرداری کے ساتھ ایک دعویٰ بھی ہے اِنَّ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحِبِّكُمْ اللّٰهُ (ال عمران: ۳۲) اگر تم اللہ تعالیٰ کے پیارے بننا چاہتے ہو تو تم میرے تابع ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرے گا اللہ تعالیٰ کا محبوب بن کر انسان کو ذلت و رسوائی اور ناکامی نہیں ہو سکتی اور آدمی ذلیل ترین کبھی نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا اتباع نبی کریم پر منحصر ہے اور وہ اتباع انسان کر سکتا ہے۔ اس اتباع کے لئے صحابہ کرام کا نمونہ موجود ہے اور تم سب کر سکتے ہو۔ میں نے بارہا قرآن کریم اس غرض سے پڑھا ہے کہ اس میں کوئی ایسا بھی حکم ہے جس پر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ مگر میں نے کوئی قرآنی حکم ایسا نہیں دیکھا جس پر عمل کرنا دشوار ہو۔ قرآن کریم کے خلاف عمل کرنے میں روپیہ بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی فرمانبرداری میں روپیہ بھی زیادہ خرچ نہیں ہوتا۔ امریکہ جانے کا خرچ، پیرس، جرمن، لنڈن جانے کا خرچ اور اس کے مقابلہ میں مکہ جانے کا خرچ دیکھو۔ نماز کے خرچ اور اُسترے کے خرچ کا مقابلہ کرو۔ روزے اور شراب کے خرچ کا مقابلہ کرو پتا لگ جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں انسان جناب الہی کا محبوب بن سکتا ہے۔ مجھ کو آج تک کوئی بات ایسی نظر نہیں آئی کہ جناب الہی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری میں تکلیف ہو۔

ابھی چند روز ہوئے میں نے ایک کتاب پڑھی اس میں چوہڑوں کا نام حلال خور پڑھ کر قریب تھا کہ میری چیخ نکل جاتی۔ چونکہ مسلمان سو دخوار جعلا سازی سے حرام کھانے والے جھوٹ سے حرام کھانے والے ہر قسم کے حرام خور بن گئے اور وہ تو ایک ہی حرام کھاتے ہیں اس لئے ان کا نام

حلال خور رکھا۔ دین مہر کے ایک مقدمہ میں وکیل نے مہر مچل کی جگہ مہر موجل اور موجل کی جگہ مچل پڑھ کر قانون میں دکھا دیا۔ انگریزی پڑھے ہوئے آدمی دونوں لفظوں میں مشکل سے فرق سمجھ سکتے ہیں۔ آخر جج دھوکا کھا گیا اور غلط فیصلہ لکھ دیا۔ باہر نکل کر ایک آدمی نے اس وکیل سے کہا کہ یہ تو تم نے بڑا دھوکا دیا۔ وہ کہنے لگا یہی تو ہمارا کمال ہے۔ ایک شخص میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ فلاں خاندان میں مقدمات ہونے والے ہیں آپ کوشش کر دیں کہ فلاں وکیل فلاں جانب پیروی کرے۔ میں نے مقدمات کا حال سنا کہ ماں بیٹے میں جھگڑا ہونے والا ہے۔ میں نے کہا کہ جب ماں بیٹے کا معاملہ ہے تو مقدمات کی ضرورت ہی کیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ مقدمہ تو ہم ضرور کرادیں گے مگر اندیشہ صرف اس قدر ہے کہ محنت تو ہم کریں اور پھل کوئی اور کھا جائے۔ میں نے کہا کہ بس اب پھر میرے پاس نہ آنا۔ کہنے لگا کہ یہ تو ہم شرط باندھ کر کہتے ہیں کہ ضرور لڑادیں گے۔ دیکھو تو سہی کیسے مشکلات ہیں دین کو دنیا پر مقدم کرنا کس قدر دشوار ہے، نفاق کس قدر بڑھ گیا ہے۔ میرا ایک دوست تھا میں اس کے مکان پر اس سے ملنے گیا وہ پہلے سے ایک شخص کو کچھ نصیحت کر رہا تھا۔ میرے پہنچنے پر اس شخص نے کہا اچھا اب رخصت ہوتا ہوں۔ میرے اس دوست نے کہا کہ اچھا رخصت مگر ہماری نصیحت کو بھولنا نہیں۔ وہ چلا گیا تو میں نے پوچھا کہ آپ نے کیا نصیحت کی ہے؟ کہا میں نے اس کو سمجھایا ہے کہ تم جہاں تبدیل ہو کر جاتے ہو وہاں سب سے ملنا اور دل میں کینہ رکھنا، فلاں فلاں اشخاص سے خوب دوستی پیدا کر کے ان کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دینا۔ میں نے کہا یہ آپ نے خوب نصیحت کی یعنی نفاق کی تعلیم دی، کہا یہ پالیسی ہے۔ میں نے کہا آپ عالم فاضل ہیں ذرا پالیسی کے معنے بتا دیجئے کہ پالیسی اور نفاق میں کیا فرق ہے۔ کہا آپ نہیں جانتے دنیا میں غفلت بہت بڑھ گئی ہے۔

میرا ایک دوست اور شاگرد تھا۔ اس نے ایک انگریزی دان شخص سے کہا کہ ہم کو بھی اپنی سوسائٹی میں شریک کر لو۔ وہ انگریزی دان انگریزوں کی سوسائٹی میں شامل تھا ان میں ایک برات تھی۔ اس نے ان مولوی صاحب سے کہا کہ آپ ایک سوٹ باقاعدہ بنوائیں تو آپ کو برات میں شریک کریں گے۔ ان کے پاس ستر روپیہ تھے وہ اس کو دے دیئے اس نے ستر روپیہ میں ان کو ایک باقاعدہ سوٹ بنوایا اور اپنے ہمراہ برات میں لے گیا۔ جب برات پہنچی تو وہاں شکار کے لئے

سب لوگ گئے۔ مولوی صاحب سے کہا کہ آپ شکار کا سوٹ پہن لیں۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو وہی ستر روپیہ تھے اور تو کوئی سوٹ نہیں۔ اسی طرح وہاں فٹ بال کا علیحدہ سوٹ چاہئے تھا کھانے کا علیحدہ سوٹ تھا۔ ان کے دوست نے کہا کہ مولوی صاحب آپ بیمار بن جائیں اور لحاف اوڑھ کر لیٹ جائیں۔ وہاں تین دن برات ٹھہری اور مولوی صاحب بیمار بنے پڑے رہے جب برات رخصت ہوئی تو مولوی صاحب تندرست ہو گئے اور ان کا وہ سوٹ کام آیا۔ افسوس ان کو جھوٹ ہی بولنا پڑا۔

اسلام پر کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ جو لوگ کراچی، بغداد، دیار بکر، جرمن، آسٹریا وغیرہ ہوتے ہوئے لندن پہنچے اور پھر فرانس ہوتے ہوئے مصر کی سیر کرتے ہوئے گھر آئے ہیں میں نے ان سے حالات پوچھے ہیں اور دریافت کیا ہے کہ رستہ میں کوئی آواز سنی ہے کہ مکہ بھی ایک شہر ہے؟ کہا کچھ خیال ہی نہیں آیا۔ افسوس کس قدر غفلت اور نفاق ہے اور کس قدر مدد مہنت ہے۔ سود کے رسالے لکھے ہیں کہ جائز ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ اگر سود نہ لینے کا تیرا مسئلہ مان لیا جائے تو دنیا برباد ہو جائے۔ میں نے کہا تیرہ سو برس سے تو دنیا برباد ہوئی نہیں اب برباد ہو جائے گی؟ ایک مرتبہ ہمارے بورڈنگ کے بعض لڑکوں نے عرضی دی کہ آپ ہم کو اجازت دیں کہ صبح کی نماز تیمم سے پڑھ لیا کریں یا نماز معاف ہی کرادیں۔ میں نے کہا پانی گرم ہو سکتا ہے جواب دیا کہ وضو سے نکلانی خراب ہو جاتی ہے۔ آجکل جھوٹا گواہ بنا لینا ایک معمولی سی بات ہے۔ ایک واعظ آسٹریلیا تک تو جاتا ہے لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ **لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا** (ہود: ۵۲) حالانکہ خدا تعالیٰ کی راہ میں ایک کوڑی خرچ کرنے سے کروڑوں حاصل ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے والد ماجد نے اگر نبی کریم کی کوئی خدمت کی ہے تو یہی کہ نبی کریم کی دس بارہ برس مشکلات میں مدد کی۔ آج کوئی دیکھے کہ ایک سیدانی کے پیٹ سے بچہ نکلتے ہی سید کہلاتا ہے اور قیامت تک کے لئے یہ فخر حاصل ہے۔

قرآن کریم یہ بھی بتاتا ہے کہ تم میں اختلاف کیوں ہے **فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ** **فَاعْرَبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ** (المائدہ: ۱۵) جب ہمارے حکم

کو بھول گئے تو ہم نے ان کے درمیان بغض ڈال دیا۔ اپنے گھروں کو دیکھو اپنی برادری کو دیکھو اور دکھ سے کہتا ہوں کہ بعض بعض احمدیوں کو بھی دیکھو کہ ان میں بغض اور کینہ موجود ہے ابھی تم کچھ ہوئے بھی نہیں پھر بھی تم میں وہی فساد ہے جو پہلے تھا جب اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو بغض اور عداوت پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر تمہارے اندر بغض اور عداوت ہے تو تم نے اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کو چھوڑ دیا۔ ایک جگہ آتا ہے کہ کفار کو نجا کر عذاب دینے کے لئے ہم نے پیدا کیا۔ تمہارے مکان کی ذرا سی زمین تمہارے ہاتھ سے جاتی رہتی ہے تو تمہاری جان نکل جاتی ہے لیکن ملکوں پر ملک تمہارے قبضہ سے نکلتے چلے جاتے ہیں، سمرقند، بخارا، دہلی، لکھنؤ، مصر، مسقط، زنجبار، مراکش، تیونس، طرابلس، ایران وغیرہ بارہ سلطنتیں مسلمانوں کی میرے دیکھتے دیکھتے تباہ ہوئیں اور اب قسطنطنیہ پر بھی دانت ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ قرآن میں اس کا سب لکھا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَعَفَا اللَّهُ وَتَذَكَّرَ رَبِّيَ حَكْمًا (الانفال: ۴۷) باہم جھگڑے چھوڑ دو تم سست ہو جاؤ گے تمہاری ہوا بگڑ جائے گی یہ سب کچھ تم نے دیکھ لیا ہے تم کہو گے ہم نے طرابلس میں چندہ دیا۔ بیشک نیک کام کیا لیکن اصل چیز تو خشية اللہ تھی۔ تمہارے دل میں خشية اللہ پیدا ہوئی۔ تم نے قرآن کے جوے کے نیچے اپنی گردن کو رکھا؟ اس کا جواب نہیں۔ میرے ڈیرے میں لوگ بعض اوقات گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں کہ میری بیوی بیمار ہے، میرا بچہ بیمار ہے، میرا بھائی بیمار ہے۔ جب ان کو دیکھتا ہوں تو بے دین۔ میں نے بہتوں سے پوچھا ہے کہ تم کو ان کی بے دینی کا بھی غم ہے؟ کہا اس کے بے دین ہونے کا فکر نہیں مگر اس کے درد کا فکر ہے۔ جسمانی امراض، لباس، خوراک، مکانات کا تو فکر ہے لیکن روحانی امراض کا مطلق فکر نہیں۔ کیا انبیاء علیہم السلام دنیا میں عبث آئے تھے؟ شکر کے مقام میں ہر جگہ شکر ادا کرو اور صبر سے بھی کام لیا کرو۔ ہر جگہ خدا تعالیٰ پر ہی دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارے ساتھ یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا۔ اس کے احسانات و انعامات کو سوچو۔

اب مجھ کو خطرہ ہو رہا ہے کہ لوگ صبح سے لیکر سُن رہے ہیں بہت سے لوگوں کو پیشاب پاخانے کی بھی حاجت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو توفیق دی تو پھر سناؤں گا۔ اس وقت آیت کو پورا نہیں کر سکا اس کا قاعدہ آگے بتاتا ہے کہ تَمْلِحْ كَسْ طَرِحْ هُوَ وَ لَنْ تَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ

وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (ال عمران: ۱۰۵) کچھ آدمی بناؤ جو نیکی کی طرف لوگوں کو بلائیں جب تک ایسی جماعت تم میں نہ ہو کچھ فائدہ نہیں۔ تم کو ملالت نہ ہو اس واسطے اس تقریر کو ادھورا ہی چھوڑتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم کو اس بات کی توفیق دے کہ قرآن کریم تمہارا دستور العمل ہو، اللہ تعالیٰ کو رضامند کرنے میں خوب کوشاں رہو۔ تمہارا خاتمہ اسی میں ہو مجھ کو کوئی دنیا کی غرض نہیں۔ تم کو بہت سے درد سے سمجھاتا ہوں اگر وقت اور ہوتا تو یہ رکوع پورا کرتا۔

ہاں! ایک بات اور بھی ہے میں نے سنا ہے کہ لاہور میں لیکچر ہوئے ہیں عیسائیوں نے اس پر زور دیا ہے کہ ہماری سلطنت بڑھنے کا سبب اتباع انجیل ہے۔ میں نے انجیل کو دیکھا ہے اسی میں یہ نکتہ حل کیا ہوا ہے کہ شیطان نے حضرت مسیح سے کہا کہ اگر تم مجھ کو سجدہ کرو گے تو میں تم کو دنیا کی تمام سلطنتیں دے دوں گا۔ حضرت مسیح نے کہا کہ میں نہیں لیتا تو دور ہو جا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یورپ والوں نے اس نکتہ کو سمجھ لیا ہے اور شیطان کے آگے سجدہ کر کے وہ سلطنتوں کے مالک ہو گئے ہیں۔ پھر انجیل میں لکھا ہے کہ اونٹ اگر سوئی کے ناکے سے نکل جائے تو یہ ممکن ہے مگر یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا تعالیٰ کی بادشاہت میں دولت مند کا گزر ہو۔ پھر ایک اور جگہ مسیح نے فرمایا کہ تم اپنا خزانہ زمین پر نہ رکھو آسمان پر سارا خزانہ رکھو وغیرہ ان یورپین نے دیکھا کہ یوں تو بات نہیں بنتی۔ شیطان کو سجدہ کرنے سے کام چل جاتا ہے۔ مسیح کی تعلیمات کے خلاف تمام معاہدات کو توڑ کر عمل کرنا شروع کر دیا۔ انجیل کی اسی قسم کی چند آیتیں جمع کر کے ایک چھوٹا سا ٹریکٹ نکل جائے تو انشاء اللہ تعالیٰ مفید ہوگا۔

(البدرد ۳۰ جنوری ۱۹۱۳ء صفحہ ۳ تا ۸)



اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو آسان بنایا ہے نیز گزشتہ تقریر کا تمہ

(ایام جلسہ میں دوسری تقریر فرمودہ ۲۶ دسمبر ۱۹۱۲ء بعد نماز ظہر)

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
 أَمَّا بَعْدُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 (اس موقع پر کسی شخص نے ایک کارڈ پر پنسل سے یہ الفاظ لکھے ہوئے آپ کے سامنے پیش کئے۔ ”کچھ لوگوں کا منشاء ہے کہ آپ کچھ قرآن پڑھیں“ اس تحریر پر کسی کا نام نہ تھا اور چونکہ دست بدست کئی واسطوں سے پہنچی۔ اس لئے فرمائش کنندہ کا حال معلوم نہ ہوا کہ کون تھے۔ وہ کارڈ اس وقت موجود ہے)

کوئی مجھے کہتا ہے کہ تم قرآن شریف سناؤ۔ قرآن شریف سنانا اور خوش آوازی سے پڑھنا تو جوانوں اور قاریوں کا کام ہے۔ میں جو کچھ سنانا ہوں درد مند دل لے کر سنانا ہوں۔ میں ایک درد دل رکھتا ہوں مجھ کو کن رس باتوں سے دلچسپی نہیں۔ دل رس باتوں سے دلچسپی ہے۔ مگر قدرت کی بات ہے کہ اس وقت جو منشاء ظاہر کرنا تھا اس میں بھی تلاوت کا ہی لفظ آتا ہے۔ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿۲۱﴾ وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۗ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَ قُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَالْهُنَاءُ وَالْهَكْمُ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۲۲﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ۗ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَ مِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ۗ وَمَا يَجْحَدُ بِالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ إِلَّا الْكُفْرُونَ ﴿۲۳﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْلَوْنَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لِآرْتَابِ الْمُبْطِلُونَ ﴿۲۴﴾ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ۗ وَمَا يَجْحَدُ بِالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿۲۵﴾ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ

آيَاتٍ مِّن رَّبِّهِ ۗ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرْحْمَةً وَّذِكْرًا لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ (العنكبوت: ۵۲-۵۱)

کل کی تقریر پر ہی میں بقیہ بیان کرنا چاہتا تھا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی۔ فہم، فراست، وقت، زبان، صحت عطا ہوئی تو میں اس حصہ کے پورا کرنے کا اب بھی ارادہ رکھتا ہوں لیکن اس وقت کسی نے کہا قرآن پڑھ کر سناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو توفیق دی اور کہا۔ اَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ میری کتاب پڑھ دو۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب ایسی ہے لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ (حم السجدة: ۴۳) نہ آسندہ اس کو کوئی چیز باطل کرنے والی پیدا ہوگی نہ پہلے کوئی ایسی چیز پیدا ہوئی ہے جس سے یہ باطل ہوتی ہو۔ ایسی کتاب کے پڑھنے میں ہم کو کوئی شرم نہیں آتی جو مذہب ہم نے پیش کیا ہے اس کے پیش کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہو سکتا۔ میرے دل میں کامل ایمان اور یقین سے یہ بات ہے کہ اس کتاب کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف پر مجھے ایمان اور اس پر کامل محبت ہے اور اس کے کسی ایک حرف پر بھی مجھ کو کبھی اعتراض ہوا ہی نہیں۔ محبوب کی ساری کی ساری ہی ادائیں دلربا ہوتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے۔

ز فرق تا بقدم ہر کجا کہ مے مگر م

کرشمہ دامن دل میکشد کہ جا اینجاست

قرآن کریم میں جہاں دیکھتے ہیں دلربا بات موجود ہے میں نے اس کتاب کے سمجھنے میں دھوکا نہیں کھایا میں نے اس کے سمجھنے میں جلد بازی نہیں کی۔ میں نے قرآن کریم سے محبت کرنے میں عاقبت اندیشیوں سے کام لیا ہے۔ ایک سہل بات بتاتا ہوں اس کتاب پر عمل کر کے صحابہ کرامؓ دنیا میں کیسے عظیم الشان ہوئے۔ صحابہؓ نے اس پاک کتاب کی اتباع سے دنیا میں زلزلہ ڈال دیا۔ بڑے بڑے بہادر سورمان کے سامنے کس طرح ذلیل ہوتے تھے یہ نتیجہ اسی بات کا تھا کہ وہ اس کتاب پر عملدرآمد کرتے تھے۔ اس کتاب کو پڑھ کر ہزاروں غوث بن گئے قطب، ولی بن گئے۔ اس کتاب کی طفیل لوگوں نے خدائے تعالیٰ سے باتیں کیں اور خدا تعالیٰ نے ان سے کیں۔ یہ کہنا کہ ہم سائنس

پڑھیں تب اس سے نفع اٹھائیں غلط بات ہے۔ تم جانتے ہو وہ غوث، قطب، نبی، ولی جو کروڑوں مخلوق کے ہادی بنے کیا وہ سائنس پڑھ کر بنے۔ سائنس والے آج ایک بات پر زور دیتے ہیں، دوسرے دن اسی کو جھوٹ ٹھہرا دیتے ہیں۔ ایک یقین پر کبھی ٹھہرتے ہی نہیں۔ پُرانے لوگ کہتے ہیں زمین ساکن ہے آسمان متحرک ہے۔ اب کہتے ہیں آسمان ساکن ہے زمین متحرک ہے۔ یہ ان کا حال ہے بڑا مسئلہ ان کے نزدیک مادہ کا تھا۔ مادہ کی حقیقت بیان کرنے میں اگلے پچھلے سب حیران ہیں کہ وہ ہے کیا؟ اسی واسطے اس قوم کی کوئی جماعت دنیا میں قائم نہیں ہوئی۔ پھر خشية اللہ کا حصہ پاک عادات کا حصہ، خدائے تعالیٰ سے مکالمہ کا حصہ۔ خدائے تعالیٰ کی جناب میں دعاؤں کی قبولیت کا حصہ ان کو نصیب ہی نہیں ہوا۔ اس کتاب یعنی قرآن کریم کو ماننے والے کئی گروہ ہو سکتے ہیں۔ ایک عامی لوگ اگر اس کو مانیں اور اس پر عامل ہوں تو مکالمہ الہی سے مشرف ہو سکتے ہیں۔ سچی خوابیں آتی ہیں، فرشتے باتیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس بات کو نہ پہنچا ہو تو کم سے کم اس کی نسبت یہ تو ضرور کہا جاتا ہے کہ یہ نیک آدمی ہے، خدا پرست آدمی ہے یہ دعا باز آدمی نہیں، یہ بد معاش آدمی نہیں، یہ قابل اعتماد انسان ہے جو جھوٹ نہیں بولے گا، فریب نہیں کرے گا، دنیا کو دین پر مقدم نہیں کرے گا، کوئی جعل سازی نہ کرے گا، کسی کا حق نہیں رکھے گا۔ تو ایسی کوئی قوم نہیں کہ اس کو کہے کہ یہ بُرا آدمی ہے۔ پس قرآن کا عمل ہر شخص کے لئے بڑا دلربا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو صرف ونحو اور اس کی فصاحت و بلاغت کی طرف متوجہ ہیں۔ کوئی معانی و بیان و بدیع کی طرف متوجہ ہے۔ یہ تو دنیا میں اعلیٰ ترین مخلوق ہوئی۔ ایک وہ ہیں کہ ان کی فراست اور ان کے عملدرآمد کے قانون کے لئے قرآن کریم کافی کتاب ہے۔ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری کتاب ہے پڑھ کر سنادو۔ **أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقْرَأُ الصَّلَاةَ ۗ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ** اس کتاب سے نفع وہ اٹھاتے ہیں جو نماز کو بڑا مضبوط کرتے ہیں۔ نماز تمام بے حیائیوں سے روک لیتی ہے جو شخص سارے جہاں کو چھوڑ کر **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** (الفاتحة: ۵) کہے گا وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کب کر سکے گا۔ قرآن کریم میں ایک سورۃ کو خاص کیا ہے اس میں بار بار فرمایا ہے **وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ** (القمر: ۱۸) ہم نے تو بڑی آسان کتاب بھیجی

ہے عملدرآمد کے لئے بڑی سہل ہے۔ کوئی تم میں ہے جو قرآن شریف پر عمل کرنے کا نفع اٹھائے؟ قرآن کو تو بڑا ہی آسان بنایا ہے کوئی تم میں ہے جو اس بات کو سمجھے؟ میرا جی چاہتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔

پھر فرمایا کہ اپنے افعال، حرکات، سکنات، عملدرآمد میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا کرو اور حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کی مخالفت نہ کرو پھر دیکھو ہم تم کو کتنا بڑا بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے **وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ** اس کے پاس پہنچنے والا بھی **أَكْبَرُ** ہوا۔ یہ **أَكْبَرُ** ہونے کی کنجی ہے کہ اس یقین کو پیدا کرو۔ **وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ** باقی مباحثہ کرنا ہر ایک شخص کا کام نہیں۔ اول ان اپنے مذاہب سے تامہ واقفیت ہو۔ جن کی طرف سے یا جن کے ساتھ مباحثہ کرتا ہے۔ اپنی واقفیت تامہ کے بعد جس کو خطاب کرنا ہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو، ویدوں کا ماننے والا، گیتا کا پیرو، مہا بھارت کا پیرو ہو، جینیوں کی پہاڑیوں کو جانتا ہو، چارواک کو سمجھتا ہو۔ غرض کوئی ہو اس کی کتاب کا علم بھی جب تک نہ ہو گا تم مباحثہ نہیں کر سکتے۔ ہماری جماعت کا ہر ایک آدمی مختلف مذاق پیدا کرے جس فن میں اللہ تعالیٰ یمن و برکت دے اس میں مباحثہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ دوسرا کہہ دے کہ تم تو واقف ہی نہیں۔ یا پاس والے کہہ دیں کہ تم تو اسلام سے بھی واقف نہیں۔ اپنے ڈھکوسلوں سے مقابلہ نہ کرو۔ ظالم سے اعراض کرو، پرواہ ہی نہ کرو۔ اس کے سامنے کہہ دو **وَالْهَنَاءُ وَالْهَكْمُ وَاحِدٌ**۔ ہمارا تمہارا معبود ایک ہی ہے تم جھگڑتے کیوں ہو۔ اُلُو کے پٹھے سے آدمی کہاں مقابلہ کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے ایک شخص سے کہا کہ یہ معمولی سنن الہدیٰ میں سے ایک مسئلہ ہے چونکہ اس کے دل میں شرارت تھی وہ شرارت سے کہنے لگا کہ لوگو! سنت رسول تو سنتے رہے تھے اب سنت خدا سن لو۔ سنن الہدیٰ کو اس نے سنن خدا کہہ دیا۔ منکر کو کوئی کیا سمجھائے گا وحدت دنیا میں نبیوں سے ہوئی نہیں۔ آج سائنس کا ایک مسئلہ آ گیا اس کے مطابق کیا کل کو اس کی بجائے دوسرا مسئلہ سائنس نے نکالا تو پھر اس کے مطابق آیت چاہئے ایسے پارہ مزاج سائنس دانوں کے ساتھ تم کہاں تک مقابلہ کر سکتے ہو۔ اپنے فہم کے مطابق مباحثہ کرو۔ ہر شخص کو کہاں مجاز ہے کہ مباحثہ کرے **وَمَا كُنْتُمْ تَلْمِزُوهُ مِنْ قَبْلِهِ** فرمایا۔ شہر مکہ میں کوئی یونیورسٹی نہیں

جس میں تو پڑھا ہو۔ یہاں کوئی لائبریری بھی نہ تھی کوئی ترجمہ کا محکمہ بھی نہیں۔ ینابیع الاسلام کے لکھنے والوں نے اور بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو پختہ کر دیا۔ قرآن کریم کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے مشورہ سے بنایا؟ کوئی تمام زبانوں کا جاننے والا مکہ میں تھا؟ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے تو نے تو کسی کتاب کو پڑھا ہی نہیں۔ یہ مبطل کیا اعتراض کرتے ہیں؟ علم والے اس بھید کو سمجھتے ہیں اور ظالم تو انکار ہی کرتے ہیں۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا پاک انسان تھا کہ اپنی پاک قوتوں سے اپنی پاک تاثیرات سے عرب میں وحدت پھیلا دی۔ جناب الہی کے نام کو ایسا بلند کیا کہ بلند میناروں پر چڑھ چڑھ کر اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ ایک گارڈن پادری تھا مجھ سے بہت ملا کرتا تھا اور احمق اتنا تھا کہ ہر مرتبہ اس کو یقین ہوا کرتا تھا کہ نور دین اب کی مرتبہ ضرور پتہ سمہ لے لے گا ہمارے گھر کی باسی روٹیاں بھی کھا لیتا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا یورپ نے کیسی ترقی کی ہے۔ میں نے کہا ہم نے تو کوئی ترقی نہیں دیکھی۔ کہا آپ نے نہیں دیکھی؟ میں نے کہا ترقی یورپ کر ہی کیا سکتا ہے۔ میں نے کہا تو تو عالم اور پادری آدمی ہے میں کہتا ہوں کہ یورپ نے نہ ترقی کی ہے نہ آئندہ کر سکتا ہے۔ کہنے لگا یہ بات کیا ہے۔ میں نے کہا نادان انسان تو خداوند مسیح کو ماننے والا۔ بتا تو سہی کہ اکبر کے پرے کیا نام تجویز کر سکتے ہو۔ اکبر کے بعد ترقی کر کے کیا دکھلا سکتے ہو اور اس اکبر کو جس طرح ہم مسجد کے میناروں پر چڑھ کر سناتے ہیں۔ تم کیا سناؤ گے تم سوائے گھنٹے بجانے کے اور کیا جانتے ہو۔ اکبر کے لفظ نے ترقی روک دی۔ کہنے لگا دیکھو کپڑے کیسے بناتے ہیں۔ میں نے کہا جو لہا ہے بنے۔ کہنے لگا کیسے کیسے جہاز بنائے۔ میں نے کہا لوہا بنے۔ وہ رک گیا۔ میں نے کہا پادری دنیوی ترقی کو مسیح نے کب الہی قرب کی ترقی فرمایا ہے۔ میں نے کہا انجیل موجود ہے دیکھ لو۔ اکبر کے پرے کوئی لفظ نہیں قلم تو ٹوٹ گیا۔ تو اضع میں تم ہماری ہمسری نہیں کر سکتے۔ ہم زمین پر سجدہ کرتے ہیں۔ اب اس سے نیچے اور کہاں جائیں جہاں تک ہماری طاقت تھی ہم نیچے گر گئے اس سے زیادہ تم کیا کرو گے پھر ہمارے الفاظ کو دیکھو۔ سبحان ربی الاعلیٰ۔ سبحان ربی العظیم۔ سبحان سے آگے پاکیزگی کے لئے کونسا لفظ ہو سکتا ہے۔ وہ سن سن کر بھوچکا سا رہ گیا۔ **قَبِئَتِ الذِّمَى كَفَرَ** (البقرة: ۲۵۹) یاد رکھو جو

کچھ دین اسلام نے ہم کو سکھایا ہے وہ ایسا ہے کہ ہمارے مقابلہ میں دوسرا ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ نیوگ کی باریکی اور اس کی ضرورت کہاں مجلسوں میں بیان کی جاسکتی ہے۔ عیسائیوں کے خدا کی یہ حالت ہے کہ یہودیوں نے پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا اور خدا کی خدائی غارت کر دی۔ پھر وہ مجھ سے نبی کریمؐ کے معجزات کے متعلق کچھ کہنے لگا میں نے معجزات آنکھوں کے سامنے دکھلا دیئے **أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ** کیا ابھی ان کو یہ کتاب میری کافی نہیں جو ان کو کھل کر سنائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے میرا ایک بچہ ہے اس کو ایک آریہ نے پکڑا کہ مباحثہ کر لے اس نے کہا کر لے۔ میرے بچے کے ہاتھ میں کتاب اللہ تھی کہا یہ ہماری کتاب ہے اگر عربی نہیں آتی تو نیچے اردو ترجمہ لکھا ہے۔ تمہارے وید تو لجانوں میں چھپے ہوئے ہیں وہ کبھی باہر نکلے ہی نہیں۔ پھر اس آریہ سے کہا اچھا تو یہ بتا کہ تو نے وید کو پڑھا؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا ان کو سمجھا۔ کہا نہیں۔ یہ تو کافی کتاب ہے **يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ** چھپی ہوئی نہیں۔ جہان کے سامنے پڑھی جاتی ہے **إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ**۔ میں ساری رحمتیں دینے کو تیار ہوں میری بات کو مان لو بڑے سے بڑا بنانے کو تیار ہوں ایمان دار بنو اور میرے خط کو پڑھو۔ اب دیکھ لو بڑا حصہ زمینداروں کا ہے وہ قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں۔ بڑا حصہ تاجروں اور پیشہ والوں کا ہے وہ کتنا قرآن پڑھتے ہیں۔ پھر بڑا حصہ نوکر چاکر لوگ ہیں نو بچے تک سوئے ہوئے اٹھے دس بجے دفتر گئے وہاں سے چار بجے آئے تو چور ہو کر آئے۔ پھر ہوا خوری پھر دوست آگئے باتیں ہونے لگیں رات کے بارہ بج گئے یا گپیں لگاتے ہوئے دو بج گئے۔ قرآن کس وقت پڑھا جائے؟ کوئی موقع نہیں۔

قرآنی عربی زبان ایسی آسان زبان ہے کہ ابتداء سے انتہا تک میں نے بعض اشخاص کو چار ماہ میں پڑھادی، اب خوب پڑھ لیتے ہیں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ انگریزی کم سے کم کتنے دنوں میں پڑھ سکتے ہو۔ کہا دس برس میں۔ میں نے کہا عربی سہل ہوئی یا تمہاری انگریزی زبان۔ اور قرآن کریم اس سے تین مرتبہ سہل ہے کیونکہ ایک حصہ زیر زبر کے لئے ہے وہ لگے ہوئے ہیں پھر وہ الفاظ جن کے معنی سیکھنے ہیں دو ہزار کے قریب قریب ہیں۔ میری اصل زبان ضلع شاہ پور کی ہے مگر وہ اب مجھ سے بولی نہیں جاتی۔ کئی ہزار الفاظ مجھ کو اردو زبان کے یاد ہو گئے ہوں گے۔ قرآن کریم میں

صرف آٹھ سولفظ ہیں جو کہ نئے ہیں اگر انسان اس کو بھی نہ سمجھے تو لایس لومن الّا نَفْسَهٗ۔ ایک ہمارے دوست کا بچہ سامنے آ گیا ہے وہ اپنے باپ سے کہنے لگا کہ مولوی صاحب عالم ہیں مگر قرآن تو غلط ہی پڑھتے ہیں۔ یہ حافظ وقاری باپ کا بیٹا ہے۔ قرآن کریم خاص رحمت ہے۔ مومن کے لئے کافی ذخیرہ ہے۔ ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہم کو کوئی شبہ و تردید کبھی ہوا ہی نہیں۔ ایک وقت میں نے حضرت مرزا صاحب سے دریافت کیا تھا کہ مقابلہ کے وقت قرآن کے بعض مشکلات ہوتے ہیں ان کا کیا کیا جائے؟ کہنے لگے تم نے کیا سوچا۔ میں نے کہا یا تو ان کا ذکر ہی چھوڑ دیا جائے یا الزامی جواب دے کر ٹال دیا جائے ہنس کر کہنے لگے کہ جو بات خود نہیں مانتے دوسروں کو کیوں منواتے ہو۔ پھر فرمایا ہم تم کو ایک گرتائیں جو سوالات تم کو نہیں آتے ان کو خوشخط لکھ کر جہاں تمہارا زیادہ گزر رہے وہاں لٹکا دو تا کہ بار بار اس پر نظر پڑے خدائے تعالیٰ خود ہی سمجھا دے گا۔ میں نے اس کا مطلب صوفیانہ رنگ میں لے لیا کہ دل میں لٹکاتے ہیں یعنی ان سوالات کا ہر وقت تصور رکھیں گے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے سب سوالات سمجھا دئے جو میری تصانیف میں بھی موجود ہیں۔ مجھ کو خدائے تعالیٰ نے دو علم بخشے ہیں ایک قرآن کا اور دوسرا طب۔ اب تو میری بیوی نے بھی طب سیکھ لی ہے اب ہم دو کمانے والے ہو گئے۔ ۴۵، ۴۶ برس میں طب کے پیشہ کو کیا طب کا ۲۰ حصہ میرے حصہ میں آیا پھر بھی معقول گزارہ ہم کو مل جاتا ہے۔ اس ۴۶ برس میں ایک بھی نسخہ مجھ کو ایسا نہیں ملا جس کے چھپانے کی ضرورت ہوئی ہو۔ کوئی نسخہ ملا ہی نہیں جس کو حیض کی طرح چھپاؤں۔ ہاں کسی خاص بیمار سے خاص وقت میں ایک نسخہ چھپانا اور بات ہے اسی طرح خدائے تعالیٰ نے قرآن مجھ کو دیا۔ اس میں بھی کوئی چھپانے والی بات نہیں۔ پھر جو گرجھ کو حضرت صاحب نے بتایا وہ میں کہہ آیا ہوں۔ میں نے دل پر خوشخط لکھ کر لٹکا لیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایسا انشراح ہوا کہ **وَالْفَجْرِ۔** **وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ** کی تفسیر میری کتابوں میں دیکھو یہ اسی ترکیب کو استعمال کرنے کا نتیجہ ہے پھر اس کے بعد مجھ کو خدائے تعالیٰ نے الہام کیا کہ اگر کوئی منکر قرآن، قرآن پر تجھ سے اعتراض کرے اور تجھ کو نہ آتا ہو تو ہم اسی وقت تجھ کو اس کا مطلب بتا دیں گے۔ ہمارا معلم خدائے تعالیٰ ہے ہمیں کس کا ڈر ہو سکتا ہے۔ دھر مہال نے جب ترک اسلام کتاب لکھی تو اس میں اس نے مقطعات قرآنیہ پر

اعتراض کیا ہے۔ میں چھوٹی مسجد میں مغرب کی سنتیں پڑھ رہا تھا ایک سجدے سے سراٹھایا میں نے کہا۔ مولا! گو وہ سامنے نہیں مگر کتاب تو اس نے بھیجی ہے۔ پس دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے پہلے یعنی دونوں سجدوں کے درمیانی وقفہ میں سارے مقطعات قرآنی کا علم مجھ کو دیا گیا۔ میں نے جب لکھا تو میں خود بھی حیران تھا کہ میں نے اس کا ایسا جواب لکھا کہ کسی نے آج تک ایسا نہیں لکھا۔ میں تکبر نہیں کرتا، ریائیں کرتا یہ لعنتی کا کام ہے۔ میری غرض تم کو سمجھانے کی ہے قرآن کو کبھی مشکل نہ سمجھو۔ اگر دشمن کوئی اعتراض کرے تو اس کو لکھ کر لڑکا لو خدائے تعالیٰ ایسا علم عطا کرے گا کہ وہ دشمن لا جواب اور خاموش ہو جائے گا۔ جموں میں مجھ سے ایک آدمی نے حدیث نزول الرب کی بابت سوال کیا کہ زمین گول ہے اور کہیں نہ کہیں رات ہر وقت ہوتی ہے تو نزول رب بھی ہر وقت ہوا پھر الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰی (طہ: ۶) سے کیا مطلب ہوا؟ میں نے کہا پانچ سات روز کے بعد جواب دیں گے۔ اس نے کہا اچھا سات روز کے بعد ہی آپ جواب دیں۔ جوں جوں دن گزرتے میرا دل دھڑکتا۔ بَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ قبل از روز مقرر یا غمتان کے ملک سے بذریعہ ڈاک میرے پاس ایک کتاب آئی اس کو کھولا تو وہ اسی حدیث کی شرح تھی اور بڑے ہی فلسفیانہ مذاق کی تھی۔ میں نے اس کو پڑھا تو اس معترض کے تمام سوالات اڑ گئے۔ وہ معترض آیا کہ کیوں صاحب تیار ہو گئے؟ میں نے کہا ہاں تیار ہیں تم بھی تیار ہو جاؤ۔ میں نے جب اس کے سامنے بیان کرنا شروع کیا تو ابھی اس کتاب کا دو تین ہی صفحہ کا مضمون ادا ہوا تھا کہ وہ کہنے لگا۔ بس میری تسلی ہو گئی اب آپ اور زیادہ بیان نہ فرمائیں۔ میں نے کہا میں تو بڑا لمبا بیان کرنے کو تھا۔ بعد میں میں نے وہ کتاب چھپوادی۔ میں نے یہ بات خدائے تعالیٰ کے فضل کو بیان کرنے کے لئے کہی ہے۔ خدائے تعالیٰ بڑا قادر ہے وہ جب بندے کو سکھاتا ہے دیوار سے آواز آ جاتی ہے۔ ستون سے آواز آ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ میں ایک شہر میں تھا میرے پاس ایک پیسہ تک نہ تھا اور بھوک بھی بہت لگی۔ عشاء کا وقت ہو گیا، میں نماز کے لئے مسجد کو چلا۔ ایک سپاہی نے راستہ میں مجھ سے کہا کہ ہمارے آقا بلا تے ہیں۔ میں نے کہا میں تمہارے سردار کے پاس اس وقت تو نہیں جاسکتا۔ اس نے کہا کہ میں تو سپاہی آدمی ہوں میرے آقا نے آپ کو بلایا ہے۔ آپ خوشی سے نہ جائیں گے تو میں

جبراً لے جاؤں گا۔ خیر میں اس کے ساتھ اس کے آقا کے پاس چلا گیا۔ وہاں بہت سی جلیبیاں رکھی تھیں اس امیر نے کہا کہ آپ ان کو کھائیں۔ ہندوستان کا ایک حلوائی آ گیا ہے اس نے بنائی ہیں۔ میں نے اس لئے آپ کو بلایا کہ آپ ہی ان کو خوب پہچان سکتے ہیں۔ میں نے کہا نماز کا وقت ہے۔ اس نے کہا میرا آدمی مسجد کے دروازے پر کھڑا رہے گا۔ جس وقت تکبیر ہوگی وہ فوراً اطلاع دے دے گا آپ اطمینان سے کھانا شروع کریں۔ چنانچہ میں نے کھانی شروع کیں اور جب میں خوب سیر ہو چکا تو فوراً اس کے آدمی نے اطلاع دی کہ تکبیر اقامت ہو رہی ہے چنانچہ میں جلدی سے مسجد کو چلا گیا۔ دوسرے دن پھر سامان کوئی نہ تھا۔ تم یاد رکھو میں نے اس وقت تک کبھی کوئی نقدی گری ہوئی نہیں پائی۔ میں تو فارغ آدمی تھا روٹی کا فکر نہ تھا۔ میں چٹائی جھاڑ کر بچھانے لگا۔ چٹائی اٹھائی تو ایک اشرفی پڑی ہوئی نظر آئی۔ میں نے کہا یہاں کسی دوسرے آدمی کی آمد و رفت ہے ہی نہیں۔ میرا یہ مکان ہے۔ میں اب کس سے پوچھوں کہ یہ اشرفی کس کی ہے۔ پھر میری سمجھ میں آیا کہ رات میں نے جلیبیاں کھائی ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ہی نے بھجوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے پر آئے تو اس طرح دے دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُ كُفْرُ اللَّهِ (البقرة: ۲۸۳)**۔ تم تقویٰ اختیار کرو، ہم علم دیں گے۔ قرآن میں کوئی اشکال ہے ہی نہیں۔ اگر اتفاق سے کوئی مشکل آپڑے تو اس کو خوشخط لکھ کر ایسی جگہ لٹکا دو کہ بار بار پیش نظر ہو سکے اللہ تعالیٰ اس کا حل تمہارے دل میں ڈال دے گا۔ یہ ایسا گر ہے کہ ہر مشکل کے وقت تم کو مدد دے گا۔ اگر یہ جھوٹی بات ہوتی تو میں تم کو سناتا ہی نہیں۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ بڑے بڑے عالم اعتراض کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ خود ہی ناقص ہیں قرآن کریم کی مشکل کو اسی طرح حل کرو۔ مگر یاد رکھو خدائے تعالیٰ کو آزمانے کے لئے نہیں بلکہ ضعیف ہو کر، محتاج ہو کر، فقیر ہو کر مسائل بنو اور خدا تعالیٰ کا امتحان نہ کرو ورنہ وہ پرواہ نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ میں وزیر آباد کے اسٹیشن پر پہنچا۔ وہاں ایک وکیل ملا جو اس طرف کارہنہ والا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ کیا قرآن پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ کہا کہ ہم بچوں کی طرح قرآن پڑھیں۔ ہم سے اب صرف ونحو نہیں پڑھی جاتی۔ میں نے کہا کہ قرآن میں قَوْل نہیں پہلے ہی قِال موجود ہے

يَقُولُ نَبِيُّ قَوْمٍ يَهُودِيٍّ مِنْ قَبْلِكَ يَتْلُو عَلَيْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ مِنْ ذِكْرِهِمْ وَلَهُمْ آيَاتٌ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ میں نے کہا قرآن کریم میں زیر و بر پہلے ہی سے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہنے لگا، لغت۔ میں نے کہا کہ قرآن کے لغت مشکل نہیں۔ تم کوئی مشکل لغت پوچھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کی زبان پر یہ جاری کیا قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (الاحزاب: ۷۱) میں نے کہا یہ تو بڑی سیدھی بات ہے تمہارے جموں کی زبان میں ”گلا و گل سیدھی“ کہنے لگا تسلیمات۔ میں ضرور قرآن پڑھوں گا۔ حضرت صاحب کے پاس ایک آدمی آیا۔ بڑی جلدی جلدی اس کی زبان چلتی تھی۔ حضرت صاحب سے کہنے لگا کہ جیسی انگریزی زبان ہے ایسی اچھی آپ کی زبانیں نہیں۔ یہ بھی کہا کہ انگریزی زبان جیسی مختصر ہے آپ کی زبانیں اس قدر مختصر بھی نہیں۔ حضرت صاحب نے کہا۔ میرا پانی کی انگریزی کیا ہوتی ہے اس نے کہا مائی واٹر (My water)۔ حضرت صاحب نے کہا کہ صاحب ہماری زبان میں صرف مائی سے کام چل جاتا ہے، واٹر کی ضرورت نہیں۔ آپ کی زبان میں پورا ایک لفظ زیادہ بولنا پڑتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں کسی نے یہ وہم ڈالا ہو کہ قرآن کریم پر سائنس کے حملے ہوتے ہیں تو تم اس سے وہ اعتراض جو وہ بیان کرتا ہے دریافت کر کے خوشخط لکھ کر سامنے لٹکا لو اللہ تعالیٰ تم کو سمجھا دے گا۔ جو عام لوگ ہیں ان کو مباحثہ کی ضرورت نہیں۔

۲۵ دسمبر کا بقیہ مضمون
 کل کی آیت وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ

هُمُ الْمُفْلِحُونَ (آل عمران: ۱۰۵)۔ تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہئے جو نیکیوں کی طرف بلائے بدی سے تم کو بچائے قرآن کریم نے ہر ایک نیکی کو پسند کیا اور ہر ایک بدی کو ناپسند ٹھہرایا ہے یہاں ایک مدرسہ ہے وہ مدرسہ احمدیہ کہلاتا ہے اس میں لڑکوں کو جمع تو کر لیا ہے مگر ان کے کپڑوں کا ان کی روٹی کا کوئی بندوبست نہیں، ان کی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں۔ سردی کا موسم آیا تو انہوں نے میرے کپڑے اتارنے شروع کئے۔ وہ کب تک اس قابل بنیں گے اور واعظ ہوں گے۔ ہم تو نہ ہوں گے اگر ہماری عمر کے بعد بنے تو ہم کو کیا خوشی۔ تم میں سے عقلمند ایسا کرتے جب تک میرے پٹھے درست ہیں، میری زبان جب تک چلتی ہے، میرا دماغ کام کرتا ہے، میرا دل جب تک اللہ تعالیٰ

سے محبت کرنے والا ہے مجھ سے قرآن کریم پڑھتے۔ میں تین چار مہینہ میں قرآن شریف پڑھا سکتا ہوں۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ مجھ جیسے کو بھی آپ اتنی مدت میں قرآن شریف پڑھا دیں گے۔ میں نے کہا ہاں وہ چار ماہ کی چھٹی لے کر آیا اور مجھ سے قرآن پڑھا۔ کہنے لگا کہ اب میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ ایک چھوٹی سی جماعت ہو خواہ پانچ یا سات آدمی ہوں میں بعض کو تین ماہ میں پڑھا سکتا ہوں۔ قرآن کریم کو میں سمجھتا ہوں اور خوب سمجھتا ہوں۔ مجھ کو قرآن کریم سے محبت ہے۔ میں نے قرآن کریم پر ہونے والے اعتراض بھی بہت سنے ہیں لیکن مجھے کسی نے گھبرا یا نہیں۔ تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہئے جو نیکی کی ترغیب دے اور بدی سے منع کرے **وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ** وہ مظفر و منصور ہو جائیں گے۔ میں نے کل خواجہ صاحب کی تقریر کا آخری حصہ سنا ہے میں اس کو ذرا بھی مشکل نہیں سمجھتا روپیہ اس قدر کہاں سے آئے گا مجھ کو اس کی مطلق فکر نہیں۔ سائنس کا معاملہ میں لغو سمجھتا ہوں اگر سارا یورپ بھی ہمارے سامنے آئے تو توپ ان کے پاس ہوگی لیکن وہ انجیل کو ہمارے سامنے نہیں لا سکتے۔ میرے دوستو! تم میں سے ضرور کچھ نہ کچھ قرآن کے ماہر ہوں سب کا تو میں نہیں کہہ سکتا مگر ہاں کچھ نہ کچھ خرچ کا میں بھی متحمل ہو سکتا ہوں۔ ہمارے دوستوں کو واجب ہے کہ کوئی بات تو ہماری بھی مان لیں۔ دیکھو تیسرا سال ہے، میں بیمار تھا، آنکھ کے قریب اب بھی ناسور ہے۔ کل تھوڑا سا لکھا تو تھک گیا۔ اب بھی کبھی یہ پاؤں رکھتا ہوں کبھی دوسرا کبھی ٹیک لگاتا ہوں۔ یہ سب کمزوری کی بات ہے ورنہ میں پانچ پانچ گھنٹہ برابر کھڑے ہو کر بولتا رہا ہوں۔ تم کچھ صبر کرو اور شکر کرنا سیکھو اگر تم شکر گزار ہو تو اللہ تعالیٰ نعمت کو بڑھائے **كَالَّذِينَ شَكَرْتُمْ لَا زَيْدٌ لَّكُمْ** (ابراہیم: ۸)۔ اگر شکر کے عادی بنو گے تو ایک پیسے سے بیس پیسے، بیس سے سو، سو سے دو سو ہو جائیں گے۔ صبر بھی بہت کرو۔ تقویٰ اختیار کرو، قناعت اختیار کرو۔ سخاوت اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کا خوف، حسن خلق، سچائی اختیار کرو۔ کس قدر مقدمات میں جھوٹ بولا جاتا ہے؟ مقدمات سے بہت بچو۔ اخلاص اختیار کرو۔ خدائے تعالیٰ کے احسانات دیکھو۔ آنکھ، ناک، کان، زبان، اس کی نعمتوں کو کوئی شمار کر سکتا ہے؟ میں تو اتنا روپیہ نہیں رکھتا کہ تم کو چائے پلا دوں، تمہاری ضیافت کر دوں۔ ابھی اگر بارش ہو جائے تو میرے درس کے لئے کوئی مکان نہیں۔ سچائی، اخلاص، اللہ تعالیٰ

سے خوف ورجا رکھو۔ یہ دعوت ہے جو میں تمہاری کرنا چاہتا ہوں اگر ایک لقمہ بھی اس دعوت سے کھا لو تو پھر مجھ کو خط لکھو کہ تم کو اس سے نفع ہوا یا نقصان۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے علاج کے معاوضہ میں مجھ کو سکھوں کے زمانہ کا ایک پیسہ دیا۔ میں نے سمجھا کہ یہ تو خدائے تعالیٰ نے دیا ہے۔ میں نے کہا مولیٰ میں اس کو تیری راہ میں دے دوں تو اس کے ساتھ سو پیسے بن جائیں۔ میں نے وہ پیسہ بڑے شکر کے ساتھ لے لیا پھر مجھ کو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں روپیہ دیئے۔ شکر کرو، سخاوت کرو۔ یہ نعمت بڑھنے کا نسخہ ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا ہوگا۔ ہمیشہ اپنے آپ کو جناب الہی کا محتاج سمجھو۔ مخلوق کی تعریف کی پروا نہ کرو۔ مخلوق ہستی ہی کیا رکھتی ہے ہم نے بچپن میں ایک کتاب پڑھی تھی اس میں لکھا ہے: من نماغم ایں بماند یادگار۔ اب میں دیکھتا ہوں خدائے تعالیٰ نے اس کی بھی جڑ کاٹ دی کہ تم اس کو یادگار بناتے ہو۔ یادگار ہوتی کیا ہے؟ ہمارے کس قدر دوست حکیم ہیں، کس قدر ڈاکٹر ہیں۔ سوئی کے ناکے کے برابر زخم ہے تین سال سے وہ اچھا نہیں ہوا۔ مسلمانوں کو کبریائی اور تکبر نے بڑا نقصان پہنچایا ہے، ان کا رہ ہی کیا گیا ہے۔ لایعنی باتوں پر بہت غور کرنا، فخر کرنا یہ سب غلطیاں ہیں۔ دیکھو کسی کے ماں باپ کو بے ادبی کا کلمہ کہا جائے تو کس قدر جوش آتا ہے مگر خدا و رسول کی بے ادبی ہوتی ہے، ان بے ادبوں کے سامنے ایسا غیظ و غضب تم کو نہیں آتا۔ تم میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہئے جو نیکی کی طرف بلائے اور بدی سے روکے۔ یہ بھی یاد رکھو بدظنی کا کوئی علاج نہیں۔ ایک آدمی کے دل میں میری تقریر سن کر یہ خیال آئے کہ یہ ریا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے تم ہمارے اعمال کے اور ہم تمہارے اعمال کے ذمہ دار نہیں۔ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم بھلی بات تم کو بتادیں اور بتانے میں دھوکا نہ دیں۔ تم بڑی دور سے آئے ہو، ہمارے معتقد ہو، بعض نہیں بھی ہیں۔ میں تم سب کو یقین دلاتا ہوں کہ لا اِلهَ اِلَّا اللهُ پر ایمان رکھو۔ خدائے تعالیٰ کے مقابلہ میں کوئی پیارا محبوب نہ ہو لا اِلهَ اِلَّا اللهُ کے حقیقی معنی ہی ہیں کہ بندہ ہر آن میں اللہ تعالیٰ کا اس قدر محتاج ہے کہ ان محتاجی کی چیزوں کو گن بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرو۔ کتابوں میں قرآن شریف بے نظیر، پاک اور بے عیب کتاب ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو اس کی اتباع میں یہ شان ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے۔ قرآن شریف سیدھی سادی

کتاب ہے۔ قرآن شریف پر کوئی اعتراض کرے تو اس کے مقابلہ میں ذب کرنے والا بڑا نفع اٹھاتا ہے اسی طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی اعتراض کرے تو اس کا ذب کرنے والا بہت نفع پاتا ہے۔ جزاء و سزا مر کر بدلا ملے گا۔ ہمارے اعمال تو لے جائیں گے۔ ہر ایک چیز کی میزان ہوتی ہے تم بھی میزان سے غافل نہ رہو تمہارے اعمال کی میزان ہوگی تم نے ہمارے ساتھ بھی تعلق پیدا کیا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لین دین کے کچے، زبان کے کچے، ذرا ذرا سی بات پر وہی فساد کرتے ہیں جو قبل احمدیت انہوں نے کئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت کرو۔ ہماری پیاری پیاری باتیں سن کر ان کی قدر کرو، عمل کرو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرو۔ اللہ تعالیٰ تم کو راضی کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو۔ (آمین)

(پھر دعا ہوئی)

(البدرد ۱۳ مارچ ۱۹۱۳ء صفحہ ۱۰ تا ۱۴)



اسلام کیا چیز ہے؟

(تقریر فرمودہ ۲۲/مارچ ۱۹۱۳ء)

مورخہ ۲۲/مارچ ۱۹۱۳ء کو شیخ عبداللہ صاحب نو مسلم سابق ڈاکٹر بھگوان داس کشتہ، ستارہ ہند عیسائی ہیڈ ماسٹر سکول سہارن پور حضرت خلیفۃ المسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں مشرف باسلام ہونے کے لئے پیش ہوئے تو حضرت خلیفۃ المسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک وعظ فرمایا جس میں کلمہ اور اسلام کی حقیقت کو بیان فرمایا اس وعظ کا خلاصہ ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے۔ (ایڈیٹر البدر)

حضرت صاحب نے فرمایا کہ:-

اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس میں بھول بھلیاں نہیں ہیں۔ اسلام کا خدا وہی خدا ہے جس کے متعلق حضرت مسیح نے کہا کہ مجھے نیک نہ کہو، نیک وہی ایک ہے یعنی خدا۔ ہندوؤں میں اس کو پریم ایسور یعنی بڑے سے بڑا ایسور کہتے ہیں۔ اسلام اسی کو دنیا میں لایا ہے اور اس کو اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کے رنگ میں پیش کیا جس کے معنی ہیں کہ اللہ کے سوائے پرستش کے لائق کوئی چیز نہیں۔

دنیا نے درختوں کو، پانی کو، سورج و چاند کو، جانوروں کو، پتھروں اور آدمیوں کو معبود بنایا لیکن اسلام نے لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کہہ کر تمام شرکوں کی جڑ کاٹ دی کہ ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی پرستش کے لائق نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے گُرڈ (نیل کنٹھ) کو بھی خدا کہا ہے اور اس کو سب جانوروں کا بادشاہ کہتے ہیں اور عیسائیوں نے تو اور بھی غضب ڈھایا ہے کہ ایک آدمی کو جو کھانے پینے اور دیگر تمام حوائج انسانی کا محتاج تھا خدا بنا دیا اور انسان کو خدا بنایا۔ ایک پُرانا مسئلہ ہے جب کوئی پیشوا بن کر آیا اور اس نے اصلاح کی اور پھر وہ کامیاب ہو گیا تو اس کو خدا بنا دیا گیا لیکن افسوس ہے کہ حضرت مسیح تو کامیاب بھی نہ ہوئے بلکہ اس کو یہودیوں نے پکڑ کر صلیب پر چڑھا دیا لیکن پھر بھی اس کو خدا بنا دیا گیا۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کے معنی ہی یہی ہیں کہ صرف اللہ ہی ہے جو کہ انسان کی ضروریات کی تمام چیزیں مہیا کرتا ہے اور ان کو پیدا کرتا ہے اس کے سوا کسی اور کی پرستش نہ کرنا اور کسی اور کو معبود نہ جاننا اور اِلٰہ کے معنی معبود ہیں۔ خدا کے سوا غیر کو پوجنا اور سجدہ کرنا اس کا نام شرک ہے لیکن اسلام نے جہاں اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُہُ وَّرَسُولُہُ بھی رکھا ہے اور اس کا بھید یہ ہے کہ چونکہ دنیا میں جب کبھی

کوئی راستباز آیا تو تھوڑے عرصہ کے بعد اس کے ماننے والوں نے اس کو خدا ٹھہرایا۔ راجندر جی کو خدا بنایا گیا، کرشن جی کو خدا ٹھہرایا گیا اور حضرت مسیح کو بھی خدا اور خدا کا بیٹا بنایا گیا ہے حالانکہ حضرت مسیح نے کہا بھی تھا کہ مجھے اچھا نہ کہو بلکہ اچھا ایک ہی ہے جس کو خدا کہتے ہیں۔ اس لئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکتہ تجویز فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی ان کی ہی طرح بنایا جاوے تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ اپنا عبد اور رسول ہونا بھی رکھ دیا اور اسی امر کو مد نظر رکھا اور اس کی وجہ یہی ہے کہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ رکھا تھا تا کہ توحید ہمیشہ مد نظر رہے اور کسی زمانہ میں مجھے خدا نہ بنایا جاوے۔ لوگ قبروں پر طواف کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور بعض ملائوں نے لوگوں کی خوشامد کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنی دنیا میں کمی نہ آنے کی وجہ سے اس کو سجدہ تعظیم کہہ کر جائز بھی کر دیا حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ گویا لوگ توحید پر قائم ہونے کے بعد پھر عیسائی بنتے ہیں اور ان کی راہ کو اختیار کرتے ہیں۔ توحید اصل ہے اسلام کا اور اس امر کو پورا کرنے کے لئے یہ آواز بلند اذان میں اللہ اکبر، اللہ اکبر رکھا ہے اور اکبر ایسا کلمہ ہے کہ اس میں خدا کی اعلیٰ درجہ کی تعظیم ہے۔ اکبر سے بڑھ کر اور کیا لفظ ہو سکتا ہے پھر اسلام کا دوسرا پہلو شفقت علی خلق اللہ ہے۔ سوز کواۃ اور حج کا حکم کر کے عام لوگوں پر شفقت کرنا سکھایا اور نماز، روزہ کا حکم کر کے اپنی جان پر شفقت کرنا سکھایا۔ روزہ بڑی بابرکت چیز ہے اور اس میں انسان کو مشق کرائی جاتی ہے کہ وہ اپنی جان کے لئے ناجائز طور پر کوئی چیز استعمال نہ کرے کیونکہ جب روزہ میں جائز چیزوں کو چھوڑنا سیکھے گا تو محمد رسول اللہ کو سچا سمجھتا ہوا اس کی ناجائز کردہ چیزوں کو تو ضرور ہی چھوڑ دے گا۔ غرض نتیجہ کلمہ شہادت سے یہ نکلا کہ اللہ کے سوائے کسی اور کو معبود نہ جانو اور محمد اللہ کا رسول اور بندہ ہے اور نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ میں انسان کی اپنی جان کی بھلائی اور دیگر عام مخلوق کی بھلائی ہے ورنہ کسی کو اپنے مذہب میں داخل کرتے وقت پانی چھڑکنے سے کیا فائدہ، اور دنیا کے متعلق تو حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا آسان ہے لیکن دولت مند کا خدائی بادشاہت میں داخل ہونا مشکل ہے۔

آخر میں دعا فرمائی اور ماسٹر صاحب کا نام عبد اللہ پسند فرمایا۔

(الہدیر ۱۲ جون ۱۹۱۳ء صفحہ ۵)



تفرقہ کے اسباب اور چندہ کی چند تحریکیں

(پہلی تقریر جلسہ سالانہ ۲۷ دسمبر ۱۹۱۳ء)

حضرت خلیفۃ المسیح رضی اللہ عنہ کی تقریریں حسب معمول میں نے صاف کر کے بغرض اصلاح آپ کی خدمت میں پیش کر دی تھیں لیکن جب یہ تقریریں مجھے واپس ملیں تو پہلی تقریر کا صرف آخری حصہ ملا اور ابتدائی حصہ آپ کے کاغذات میں کہیں مل گیا یا کسی بچہ کے ہاتھ آ گیا اور وہ جاتا رہا۔ اس تقریر میں حضور نے تفرقہ کے اسباب پر بھی کچھ بحث فرمائی تھی اس لئے میں نے مناسب سمجھا کہ جس قدر حصہ بھی مجھے مل گیا ہے میں اسے شائع کر دوں یہ حصہ کسی قدر اپیل کے متعلق ہے اور سب سے پہلے جس کے لئے آپ نے اپیل کیا وہ آپ کا خادم الحکم ہے حضرت خلیفۃ المسیح رضی اللہ عنہ نے چھ ہزار روپیہ کا اپیل قوم سے کیا ہے؟ ایک حق پرست اور محسن کی قدر کرنے والی قوم اگر اس اپیل کو نام تمام رہنے دے گی تو وہ یاد رکھے کہ قیامت کو حضرت خلیفۃ المسیح کے سامنے بھی اسے ہونا ہے حضرت نے فرمایا تھا کہ سبکدوش کرنے کی فکر کرو یہ کام کسی شخص واحد کا نہیں بلکہ انجمنوں میں اس سوال کو پیش کر کے فیصلہ کرنا چاہئے۔ کیا ان کی زندگی میں یہ اپیل بلا جواب رہ سکتا تھا۔ میں دیکھوں گا کہ سب سے اول اس اپیل کے لئے کہاں سے صدائے لبیک بلند ہوتی ہے۔ (ایڈیٹر)

فرمایا:۔ مذہب کا تو جب بھی تفرقہ بڑھاتا ہے، آسودگی کا خیال بڑھ جاتا ہے تو پھر حاجتیں بڑھتی ہیں۔ ان کے پورا کرنے کے لئے بعض اوقات خود غرضیاں بڑھ جاتی ہیں عجز و کسل بڑھ جاتا ہے۔ اسباب میسر نہ کرنے کو عجز کہتے ہیں اور اسباب مہیا شدہ سے کام نہ لینے کو کسل کہتے ہیں۔ بعض دوست ایسے ہیں کہ وہ ان دونوں بیماریوں میں گرفتار ہیں نہ تو اسباب مہیا کرتے ہیں اور نہ مہیا شدہ سے کام لیتے ہیں۔ انکل بازیاں بھی مفید نہیں ہوتیں ہیں۔ میری جب نئی نئی دوسری شادی ہوئی تو ایک دن میں نے دیکھا کہ میری بیوی نقشہ بنا رہی ہے۔ میں نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ تو کہا ضبط اوقات کا نقشہ بنا رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ اس میں مجھے بھی شامل کر لو انہوں نے کہا تمہارا اس میں

کیا تعلق ہے۔ میں تو خاموش ہو رہا، انہوں نے نقشہ بنا لیا۔ میں نے ظہر کے بعد انہیں بلا لیا۔ اب دوسرے دن دیکھتا ہوں کہ وہ پھر بنا رہی ہیں۔ میں نے پھر دریافت کیا تو وہی جواب ملا۔ اب پھر میں نے کہا کہ ہماری شمولیت بھی کرو۔ انہوں نے کہا کہ کل کا انضباط تو درست نہ رہا اب ظہر کے بعد کا وقت آپ کے لئے رکھ لیا ہے، درست ہو گیا ہے۔ اتفاق ایسا ہوا دوسرے دن ایک دوست آ گیا۔ اس کی خاطر مدارات میں انتظام کرنے میں وہ نقشہ پھر بدل گیا۔ تیسرے دن پھر بدلنے لگی۔ میں نے کہا اب بھی ہمیں شریک کرو تو کہا کہ ہر روز آپ کے دوست تھوڑے آتے ہیں، کبھی کوئی آ گیا۔ اب یہ درست ہو جاوے گا مگر وہ ہر روز اسے بناتی اور ہر روز غلط ہو جاتا۔ آخر میں نے کہا اب بس کرو یہ نقشہ درست نہیں ہو گا جب تک مجھے شریک نہ کرو گی۔ جب اولاد ہو جاوے گی تو اور مشکلات بڑھ جائیں گی اور ابھی تو ایک بڑی بھاری منزل باقی ہے اس وقت تک میں نے ان کو اپنی پہلی بیوی سے نہیں ملا یا تھا۔ پوچھا وہ کیا میں نے کہا ابھی ایک اور پہاڑ ہے میری پہلی بیوی ہے۔ انہوں نے کہا پھر مجھے کیا تعلق؟ میں نے کہا یہ بھی بتائیں گے۔ غرض اٹکل بازیوں سے کام نہیں چلتا۔

غرض میں نے سنایا کہ اختلاف تو ہے اور رہے گا اور یہ اختلاف منشاء الہی کے ماتحت بہت سے مصالح پر مبنی ہے۔ باوجود اس اختلاف کے دنیا میں اتحاد بھی ہے، اس واسطے تم بھی اتحاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء، افعال اور عبادت میں متحد ہو جاؤ۔ ملائکہ کو ماننے اور ان کی پاک تحریکوں پر عمل کرنے میں وحدت اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے ماننے میں جزا و سزا کے مسئلہ کے ماننے میں وحدت اختیار کرو۔ پھر میں نے تمہیں وہ نکتے بتائے ہیں جن سے قرآن کریم سمجھ میں آتا ہے اور وہ اسباب بتائے ہیں جن سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے ان اسباب کا نمونہ پیغام صلح کی کھلی چٹھی ہے۔ اس گند کے دور کرنے کے واسطے ہمارے دوستوں کو بڑا خون جگر کھانا پڑا اور قربانیاں کرنی پڑیں۔ اگر پہلے ہی اس خبیث کا ہاتھ پکڑا جاتا تو اس قدر تکلیف کیوں ہوتی؟

ایک نکتہ اور بتاتا ہوں اور وہ بھی مجھے قرآن کریم ہی سے ملا ہے۔ میں نے قرآن کریم بہت پڑھا ہے اور اب تو میری غذا ہے اگر آٹھ پہر میں خود نہ پڑھوں اور نہ پڑھاؤں اور میرا بیٹا میرے سامنے آ کر نہ پڑھے تو میں اس کا وجود بھی نہیں سمجھتا۔ سونے سے پہلے وہ آدھ سپارہ مجھے سنا دیتا ہے۔

غرض میں قرآن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا وہ میری غذا ہے اس لئے اس نکتہ کو غور سے سنو!
 جہاں کوئی بڑی عمارت بنتی ہے جیسے یہی ہے (مدرسہ کی طرف اشارہ کر کے کہا) یہ کوئی بڑی
 عمارت نہیں میں نے تو ایک شخص کا اتنا بڑا گھر دیکھا ہے جس میں ساری قادیان آ جاوے۔ ساتھ جو در
 کا اتنا بڑا گھر تھا میں نے تو گھوڑے پر سوار ہو کر کوشش کی کہ اس کو ختم کروں گا مگر نہ کر سکا۔ ایک شاعر
 اس در کے پاس گیا اور اس سے سوال کیا میں اس شاعر کو جانتا ہوں وہ میرے پاس بھی آیا کرتا تھا
 رئیس اس وقت خالی ہاتھ تھا اس نے اس سے کہا کہ تم ہر وقت سوال کرتے رہتے ہو۔ اس نے جواب
 دیا کہ گلستان والا سکھا گیا ہے اس نے مصیبت میں ڈال دیا ہے وہ کہتا ہے۔

رزق ہر چند بے گماں برسد شرط عقل است جستن از در ہا

اس پر اس رئیس نے اپنے آدمیوں کو کہا کہ خواہ قرض لے کر دو کسی طرح دو، اس کو دو۔ چنانچہ
 اسے دیا گیا۔ پس میں اس وقت اللہ کی رضا کے لئے اور تمہیں نیکی سکھانے کے واسطے چند تحریکیں کرتا
 ہوں۔ میرا ارادہ ہے کہ اس تقریر کو پورا کروں اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور میں زندہ رہا اور پھر
 صحت و طاقت ملی اور قوت قائم رہی تو کل پورا کروں گا۔ بیچ میں کچھ ضرورتیں ہیں وہ پیش کرتا ہوں۔
 ایک ہمارے دوست ہیں، حضرت صاحب کے زمانہ سے دوست ہیں جماعت کے اول اتحاد
اول میں ہیں اور سلسلہ کی انہوں نے بڑی خدمت کی ہے۔ وہ صاحب الحکم ہیں۔ وہ اپنی غلطیوں
 سے (وہ سمجھتے نہیں اور نہ مانیں گے) ابتلاء میں ہیں۔ میں نے جب ان کے لئے دعا کے واسطے ہاتھ
 اٹھائے ہیں اور بڑی تڑپ سے ان کے لئے دعا کی ہے تو مجھ پر ظاہر ہوا کہ ابتلاء ہے۔ بہر حال
 الحکم زیر بار ہے اور انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے اپنے ہی اعمال سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس زیر باری
 کے دور کرنے کے واسطے چھ ہزار کی اپیل کرتا ہوں۔ نور دین کے پاس ہے یا نہیں وہ بھی ان کو
 سبکدوش کرنے میں قوم کے ساتھ شریک ہوگا۔ تم بتاؤ کیا تجویز ہے؟ اس کے پاس کتابوں کے ڈھیر
 ہیں مگر کتابوں کے متعلق میرا تجربہ ہے میرے پاس تو لاکھوں کی ہیں اگر ضرورت کے وقت ایک لاکھ
 پانچ سو کی بھی بیچنا چاہیں تو نہیں بکتیں۔ میں اس دوست کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جس قیمت پر بک سکتی ہیں
 بیچ دیں اور تم لوگ خرید لو اور فکر کرو کہ اس کو سبکدوش کر دیا جائے وہ استغفار بہت کریں تاکہ تلافی ہو۔ تمہیں

نصیحت کرتا ہوں کہ تم اس کو سبکدوش کرنے کی فکر بھی کرو اور خود بھی اس کے لئے دعا اور استغفار کرو۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے میں نے دنیا میں دیکھا ہے اور خود تجربہ کیا ہے کہ دعاؤں سے بڑے بڑے انقلاب ہو جاتے ہیں، یہ تو کیا چیز ہے۔ میں جموں سے جب آیا تو دو لاکھ کازیر بار تھا ایک لاکھ پچانوے ہزار ایک کا تھا اور پانچ ہزار ایک دوسرے کا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے یونہی ادا کر دیا۔ تو تم لوگ ان کے لئے دعا اور استغفار کرو۔

میں نے ایک کتاب ایک دفعہ **۱۳۵** کو لی۔ مجھے ضرورت تھی میں نے مولوی غلام نبی کو کہا **۱۳۶** پر بیچ دو اور ایک دفعہ **۱۳۷** کو ایک قیمتی پشمینہ کی چادر بیچ ڈالی اور اسے غنیمت سمجھا۔ پس ہمارے وہ دوست استغفار کریں اور دوسرے دوست بھی ان کے لئے استغفار کریں اور دعا کریں اور میں نے جو چھ ہزار کی اپیل کی ہے اس کے پورا کرنے کی فکر کرو۔

بدر کے متعلق بھی ایک مشکل پیش آئی ہے اور یہ مشکلات نئی نہیں ہر بڑے کام کے لئے **دوم** مشکل ہوتی ہے چند روز کے لئے تمہیں بدر سے صبر کرنا پڑے گا۔ لیکن خدا تعالیٰ اپنے فضل سے سب مشکلات دور کر دے گا۔ گورنمنٹ پنجاب اور گورنمنٹ کے پاس درخواست بھیجنی چاہیے۔ الحق پر بھی مشکلات ہیں۔ وہ جوان ہیں، شاعر ہیں، ہاشمی خون ان میں ہے مگر وہ میری **سوم** بات مان لیں کسی خاص شخص کو نشانہ نہ بنائیں۔ مامور کو اپنے اوپر قیاس نہ کریں اور اپنے لٹریچر کو بدل لیں۔ وہ کہتے ہیں **۱۳۸** ماہوار کا نقصان ہے یہ بڑی بات نہیں۔ اس کو پورا کر دو اور اس کے خریدار بڑھاؤ۔

ایک اور کام ہے۔ ہے تو بہت ضروری مگر میں افسوس کرتا ہوں کہ تم نے اسے اپنے ہاتھ **چہارم** میں نہیں لیا۔ امرتسر میں ایک انجمن ترقی تعلیم ہے وہ ہمارے احمدی بچوں کو بھی **۱۳۹** تعلیم کے لئے وظائف دیتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ڈاکٹر عباد اللہ کو بھی مدد دی ہے، اس میں چندہ دینا بیچ نہیں ہے۔

ایک اور مشکل ہے میرے پاس بعض سائل آتے ہیں اور کہتے ہیں تو سرکار ہے، بادشاہ **پنجم** ہے، میں کہتا ہوں غریب آدمی ہوں مگر وہ کب مانتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور

ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما بیت المال سے دو دو سو اونٹ بخش دیتے تھے اور کسی کی مجال نہ تھی کہ چوں کرے اور کہہ دے کہ ایک پیسہ نہ دیں گے۔ یہاں ایک مکان کے متعلق کسی نے مجھ سے رعایت چاہی تو کسی نے کہہ دیا کہ تو اپنے فرض کو نہیں سمجھتا۔ میں نے کہا کہ میں تو اپنے گھر کی کھاتا ہوں، میرے گھر میں لکڑی، آٹا، بھوسہ سب میرا اپنا ہوتا ہے اور میرا مولیٰ مجھے خوب دیتا ہے۔ بہر حال ایسے سائل آتے ہیں اور مجھے جواب دینے کی عادت نہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ حاجتمندوں کو مدد دوں۔

یہاں کے لڑکے سمجھتے ہیں کہ میں امیر المؤمنین ہونے کے ساتھ امیر بھی ہوں وہ میرے پاس کا پی اور کپڑوں کے واسطے درخواستیں دیتے رہتے ہیں اور ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں کہ ابھی **نشتم** ضرورت ہے۔ آپ لکھ دیں کہ دے دیا جاوے پھر ان کے بڑے بڑے بل آتے ہیں۔ ہمارے دوست اپنے بچوں کے اپنے پرانے کپڑے جوتے وغیرہ یہاں بھیج دیا کریں تاکہ ایسے بچوں کے کام آسکیں۔

لنگر خانہ ساڑھے چار ہزار کا مقروض ہے۔ ایک دوست نے لنگر خانہ کے متعلق خط لکھا **ہفتم** کہ قادیان میں جو لنگر سے کھاتے ہیں بڑے حرام خور ہیں۔ میں نے کہا کاش وہ یہاں رہتا تو اسے معلوم ہو جاتا اب تمہارے دل میں جو حیرت ہوگی کہ کیا دال ساڑھے چار ہزار کھا گئی؟ اس کے ساتھ ہی میں خوش خبری سناتا ہوں کہ ہمارا ایک دوست پرانا مخلص حامد شاہ سیالکوٹ کا رہنے والا ہے وہ اس قرض کے ادا کر دینے کا اقرار کرتا ہے کہ سیالکوٹ والے ادا کر دیں گے۔

یہ عمارت ہے جس کی کمروٹ گئی ہے اس کو ساڑھے سات ہزار میں نے دیا تھا اور کچھ شیخ **ہشتم** رحمت اللہ اور لاہوری حضرات نے اور ایک ہزار ایک اور مخلص دوست کو کہہ دیا اس نے دے دیا مگر اس کو دے دیا گیا ہے اور میرا اب بھی تینتیس سو ہے۔ غرض یہ عمارت آٹھ ہزار پچھلا مانگتی ہے اور اس کی کمر کے لئے مومیائی کی ضرورت ہے دو انجنین بول پڑیں تو یہ رقم پوری ہو جاوے۔

مقبرہ بہشتی اڑھائی ہزار کا مقروض ہے (حکیم محمد حسین مفرح غمبزی کے موجد کہتے ہیں کہ یہ لاہور کی جماعت ادا کر دے گی) اشاعت میں ایک ہزار اور سب سے **نہم** مقدم ایک مدرسہ ہے جو احمد کے نام پر قائم کیا گیا ہے اور وہ بارہ سو کا مقروض ہے (اشاعت کے لئے قادیان والوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم دے دیں گے اور مدرسہ احمدیہ کے لئے فیروز پور نے۔ اس کے بعد چندہ

ہونے لگا۔ ایڈیٹر)

آخری نصیحت
خدا کے فضل سے بہت سا حصہ تو اس قرض کا پورا ہو گیا اور باقی بھی تم خدا کے فضل اور توفیق سے پورا کر دو گے اب میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ بدظنی چھوڑ دو۔

سارے قرآن میں ابو جہل کا نام نہیں حالانکہ وہ بڑا دشمن تھا۔ یہ نام نہ اس نے خود نہ اس کے ماں باپ نے رکھا۔ اللہ پاک نے پسند نہ کیا کہ یہ نام قرآن میں ہوتا۔

ابولہب ایک لفظ قرآن میں آیا ہے لوگوں نے ایک شخص کو گڈا بنا لیا مگر مجھے تو پتا نہیں لگا کہ یہ کس کا نام ہے حَمَالَةَ الْحَطَب بھی کسی کا نام نہیں۔

میاں صاحب نے ایک خط کا ذکر کیا ہے یہ سچ بات ہے کہ وہ خط میں نے ہی ان کو دیا ہے وہ بڑا ہوگا تو اپنے گھر کا ہوگا۔ اب لوگ ٹوہ لگاتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ ایسی باتوں کو چھوڑ دو وہ صدر انجمن کا ممبر نہیں۔ بدظنی سے بچ جاؤ اور اس بُرے آدمی کی کھوج نہ لگاؤ۔ میاں صاحب نے اس کا نام نہیں لیا اور میں ان کو قسم دیتا ہوں کہ وہ نام نہ لیں۔ ممکن ہے یہ اس کو خط لکھیں تو سیدھا ہو جاوے اور اگر تم میں سے کوئی کچھ کہے تو شاید اس کی وہ حالت ہو جاوے۔ منہ توں لٹھی لوئی تو کیا کرے گا کوئی۔

بدظنی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت لفظ بولا ہے ایسا ظن ان الظن اکذب الحدیث (صحیح مسلم کتاب البر و الصلۃ) مجھے میرے مولا نے خوب سمجھایا ہے اور واقعات سے اس حقیقت کو کھول دیا ہے۔ ایک کتاب مجھے بہت پسند تھی اسے بہت پڑھتا۔ اس کو میں نے الماری پر رکھ دیا پھر جو دیکھا تو وہاں نہیں۔ برسوں تلاش کی مجھے بدظنی ہوئی کہ کوئی چرالے گیا جب جموں سے چلنے لگا اور اس الماری کو اکھاڑا تو پیچھے سے مل گئی اس واقعہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا کہ تم تو بدظنی کرتے تھے کہ کسی نے چرالی۔ ایسا ہی ایک ٹوپی کے متعلق خیال گزر ا مگر وہ ٹوپی ایک نیک بی بی نے میرے بستر کی ایک تہ کے نیچے رکھ دی تھی۔

غرض بدظنی نہ کرو اس سے بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ دوم تفرقہ نہ کرو۔ سوم کسی امر کو جو خوف یا امن کا ہو امام کے پاس پہنچاؤ۔ تم خود اس کو جماعت میں نہ پھیلاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق

دے۔ (آمین) (الحکم ۲۱/۲۸ فروری ۱۹۱۵ء صفحہ ۲، ۳)

پیدائش جسمانی اور تکوین روحانی کے مدارج ستہ

(تقریر فرمودہ ۲۸ دسمبر ۱۹۱۳ء بعد نماز ظہر بمقام مسجد نور قادیان)

حضرت خلیفۃ المسیح اول کی دوسری تقریر جو ۲۸ دسمبر ۱۹۱۳ء کو مسجد نور میں بعد نماز ظہر فرمائی تھی اور اب تک شائع نہیں ہوئی تھی۔ اس سلسلہ میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیر مطبوع مضامین شائع کر دیئے جائیں گے۔ (ایڈیٹر)

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
 أَمَّا بَعْدُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ
 عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاحِلُونَ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ
 لِأُفْئُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
 فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ ابْتَدَعَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾
 وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ
 يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ
 نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً
 فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ﴿١٤﴾ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ
 فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْحَثُونَ ﴿١٧﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ۗ وَمَا كُنَّا عَنِ
 الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿١٨﴾ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ بِقَدْرِ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْآرِضِ ۗ
 وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴿١٩﴾ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ

وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ
مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَبِغٍ لِللَّاكِلِينَ ۝ وَإِنَّ لَكُمْ فِي
الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ
وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۝ (المؤمنون: ۲۳ تا ۲۴)

کل میں نے تم کو ایک بات بتائی تھی اور وہ بات تھی ایمان کے متعلق اور

سلسلہ کلام

ایمان کے اصول بتائے تھے۔ ان میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء، صفات

اور افعال پر ایمان لانا اور ان میں کسی دوسرے کو شریک نہ سمجھنا اور نہ اس کی عبادت و تعظیم میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ پھر صفات الہیہ کے مظاہر اول ملائکہ پر ایمان لانا اور ان کی پاک تحریکوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا کیونکہ ان تحریکوں پر عمل کرنے سے ملائکہ کا تعلق بڑھتا ہے اور وہ نیکیوں کی اور تحریک کرتے ہیں۔ پھر نبیوں پر ایمان لانا پھر جزا و سزا کے مسئلہ پر ایمان لانا اور قیامت پر ایمان رکھنا۔ پھر بتایا تھا کہ قرآن کریم حبل اللہ ہے اس کو سب مل کر ایک وحدت کے نیچے مضبوط پکڑے رہنا اور یہ دو طرح پر ہوتا ہے اول قرآن کریم کی تعلیم و ہدایت کی فرمانبرداری اور عملی زندگی دوسرے قرآن کریم کے خلاف کوشش کرنے والوں کے حملوں کا دفعیہ۔ پھر قرآن کریم کے سمجھنے کے اصول بتائے تھے ان اصولوں کے سمجھنے سے ہی عملی زندگی اور قرآن کریم کے دشمنوں کے حملوں کے جواب کی توفیق ملتی ہے اور پھر جب انسان قرآن کریم کو سمجھتا ہے تو مومن بنتا ہے۔ اب اس مومن کو یہاں خطاب ہے۔ ایسے ہی مومن کو خطاب کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ پھر کامیابی اور مظفر و منصور ہونے کا دستور العمل کیا ہے؟ کل میرا مضمون نصف رہ گیا تھا آج اس ایمان کے برگ و بار، ثمرات یا یوں کہو کہ لوازمات و تکمیل کا ذکر کرتا ہوں اس رکوع میں اسی کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ مومن ہونے کے کل اصول بتائے تھے آج بتایا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ۔

مومن کی فطرت میں ہے کہ وہ کامیاب ہو جاوے۔ کامل مومن

ایمان کا میابی کی کلید ہے کبھی اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ پس اگر تم مومن ہو تو تمہاری بھی

کچھ خواہشیں ہوں گی اور ان خواہشوں کا خلاصہ ہوگا کہ تم اپنے مقاصد میں مظفر و منصور ہو جاؤ اور فتح مند

بن جاؤ۔ تمام کامیابیوں کا گریہاں بتایا ہے فتح مند ہونے کی لوگوں نے مختلف تدبیریں سوچی ہیں مگر فتح مندی کا تاج سر پر رکھنے کے لئے جو اصل قرآن کریم نے بتایا ہے وہ یقینی اور ناقابل خطا ہے۔ بعض تو اپنی جگہ سودے بناتے رہتے ہیں اور شیخ چلی کے سے منصوبے سوچتے رہتے ہیں۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ بازار میں سر اور انگلیوں کو ہلاتا چلا جاتا ہے مجھے پہلے خبر نہ تھی میں نے سمجھا کہ مصیبت میں مبتلا ہے اس سے نکلنا چاہتا ہے مگر معلوم ہوا کہ خیالی پلاؤ پکارا ہے۔ ہمارے ملک میں شیخ چلی کی ایک کہانی مشہور ہے کہ وہ کسی شخص کے مزدور ہوئے اور سر پر ایک ٹوکرا اٹھایا ہوا تھا۔ راستہ میں اس مزدوری کے پیسوں پر ایک خیالی سلسلہ جو مشہور ہے اور سب جانتے ہیں اس نے شروع کیا اور ایک موقع پر اسی سلسلہ میں وہ ٹوکرا گر گیا اور مالک کا نقصان ہو گیا۔ اس نے ڈانٹا تو کہا کہ تم اس اسباب کے نقصان کو روتے ہو میرا سارا کنبہ ہی تباہ ہو گیا ایسے لوگوں کا انجام اسی قسم کا ہوتا ہے۔ یہ خیالی تدبیریں اور منصوبے کامیابی کی منزل پر نہیں پہنچاتے ہیں۔ کامیابی مومن کا حصہ ہے جو لوگ محض بڑے بڑے خیالات اٹھاتے رہتے ہیں وہ کامیابی کا منہ نہیں دیکھتے۔ پس میرے دوستو! تم انکل بازیوں اور منصوبوں کو چھوڑ دو۔ کامیابی کا گروہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کیونکہ دنیا کے اسباب اور کامیابیوں کا آپ ہی خالق ہے اس لئے اللہ پر بھروسہ کرو۔

قَدْ أَفْلَحَ مَن بَدَأَ فِي سُبْحَانَ اللَّهِ
 قَدِّمْنَا فِي سُبْحَانَ اللَّهِ
 قَدِّمْنَا فِي سُبْحَانَ اللَّهِ
 قَدِّمْنَا فِي سُبْحَانَ اللَّهِ

یہ ہے کہ نمازوں میں خشوع کرو۔ نمازوں میں خشوع کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک حالت ہے جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل نازل ہوتا ہے اس کی مثال اور حقیقت اس طرح پر بیان کی ہے وَ تَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَاذًا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (الحج: ۶) زمین جب ویران ہوتی ہے نہ اس پر پودے اگتے ہیں نہ پھل پھول ہوتے ہیں اس میں کوئی دلربائی نہیں ہوتی، نہ سبزہ لہلہاتا ہے نہ پرند چہچہاتے ہیں۔ پس جب تم نماز پڑھو تو اپنے آپ کو ایسا ہی سمجھو جب تم اپنی حالت اس طرز کی بناؤ گے تو پھر جیسے اجڑی ہوئی زمین پر رحمت کی بارش ہو کر اسے سبزہ زار بنا دیتی ہے اور اس میں پڑے ہوئے بیجوں کو نشوونما بخشتی ہے اسی طرح پر

اللہ تعالیٰ کا فضل تمہاری ان مخفی قوتوں کو ایک نشوونما عطا کرے گا اور برکات کے ثمرات پیدا ہوں گے۔ پس پہلی تدبیر یہ کہ تم فرمانبردار ہو کر نمازوں میں خشوع پیدا کرو اور وہ دعا ہے۔ لوگ نماز کا ڈھانچہ تو بنا لیتے ہیں مگر اس ڈھانچے کے اندر حقیقت کی روح خشوع سے پیدا ہوگی اور خشوع کا پیدا کرنا عجائبات سے ہے۔ اس کا ایک قاعدہ ہے اور اس کو اسی رکوع میں اسی آیت کے بالمقابل رکھ کر بتایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ (المؤمنون: ۱۳)

روحانی اور جسمانی پیدائش اس روحانی پیدائش کے مقابل میں اس کا ایک مثیل جسمانی پیدائش کے رنگ میں دکھایا ہے ان عناصر میں نہ حسن ہے نہ دلربائی۔ لیکن جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اس اتحاد کی برکت سے ان میں ایک خاص صلاحیت پیدا ہو کر وہ غذا بنتے ہیں پھر اس کے ساتھ مختلف قسم کے مضرات بھی ہوتے ہیں لیکن جب وہی عناصر غذا کا رنگ اختیار کر کے انسان کے اندر جاتے ہیں پھر ان کا ایک تجربہ شروع ہوتا ہے اور مضرت یا اجزاء کو الگ کرنے کا ایک بہت بڑا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہیں پیشاب کے ذریعہ زہریں الگ ہو رہی ہیں، کہیں پاخانہ کے ذریعہ، کبھی پسینہ کے رنگ میں۔ غرض تمام مضراشیاء اس سے الگ ہو کر ایک مفید حصہ غذا کا خون بنتا ہے پھر وہ مختلف چکروں اور عملوں کے نیچے رہ کر اپنے مضراشیاء کو الگ کرتا ہوا حیوانات منی (سپر مٹوزا) کی صورت اختیار کرتے ہیں اب اگر اللہ تعالیٰ کے فضل کی بارش نہ ہو تو اس قدر عملوں کے بعد بھی وہ حیوانات منی کی شکل اختیار نہ کریں۔ بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو چالیس چالیس برس سے شادی کئے ہوئے ہیں اور بلا نامہ جماع کرتے رہے ہیں۔ مگر ایک جو تک بھی پیدا نہیں ہوئی۔ اس لئے یاد رکھو کہ جب تک فضل الہی کی بارش نہ ہو یہ حیات بھی حاصل نہیں ہوتی۔ جب اس کا فضل ہوتا ہے تو سپر مٹوزا پیدا ہوتے اور کام دیتے ہیں۔ پس اس روحانی پیدائش کے لئے ضروری ہے کہ تمہاری نمازوں میں خشوع ہو۔ جب پانچ دفعہ روزانہ تم خدا کے حضور خشوع کے ساتھ حاضر ہو گے تو ایک نطفہ کی صورت پیدا ہوگی۔ انسانی نطفہ جو ہوتا ہے اس کو بھی ہزاروں بلائیں جفائیں لگی ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ منی کا پانی اور لزوجت ہوتی ہے اس کو پھر ایک اور کمال عطا ہوتا ہے۔ نطفہ صراط مستقیم پر چلنے کا عادی ہوتا ہے اس مضمون کو ڈاکٹر لوگ شاید اچھی

طرح سمجھ سکیں اور بیان کر سکیں غرض وہ نطفہ صراطِ مستقیم پر چلنے کا عادی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ قسم قسم کی بلائیں جفائیں ہوتی ہیں مگر محبت ان قسم قسم کی چیزوں کو پھینک دیتی ہے یہ رحم کے باہر ایک میدان ہوتا ہے اس طرح پر نطفہ صراطِ مستقیم پر چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ رحم کے اندر کسی مقام پر جا کر عورت کے مادہ سے مل جاتا ہے اور ترقی کرتا ہے اس کے ہر ضلعے پر دائرہ ۲-۴-۱۶-۳۲-۶۴-۱۲۸ تک مل جاتے ہیں اور وہ لغو فضلوں کو الگ کر کے اسے جائز اور مناسب نشوونما عطا کرتا ہے یہاں تک کہ پھر ایک ۲-۳ اور ایک کے چار بھی دیکھے ہیں بچوں کی شکل میں پیدا ہوتا ہے۔ اب غور کرو عناصر کو انسان کی صورت میں ترقی کرنے کے لئے کس قدر منازل سے گزرنا ہوتا ہے اگر ہر منزل اور مرحلہ پر ان لغویات کو جو اس حالت اور حصہ میں ساتھ ہوتی ہیں وہ الگ نہ کریں تو اس قدر ترقی حاصل نہیں ہوتی اسی طرح پر انسان کا روحانی خلق اور نشوونما ہو نہیں سکتا جب تک وہ لغویات سے نہ بچے۔ والا وہ نطفہ گر جاتا ہے۔ اس کو اس پیدائش کے لئے رحم سے ایک تعلق رکھنا چاہیے۔ اس لئے مومنین کو بھی فرمایا کہ رحم سے تعلق ہو اور رحم سے تعلق کی مانع چیزوں کو ہٹا دے اور یہی وجہ ہے کہ روحانی تعلیم کے لئے اس کا نام علق رکھا۔ علق تعلق ہی سے نکلا ہے۔

دوسرا ذریعہ یا گُر اس لئے جیسے نطفہ کو اس سے ترقی کیلئے لغویات سے الگ رہنا ضروری ہے اسی طرح ایک مومن روحانی پیدائش اور نشوونما کے لئے خشوع کی حالت سے گزر کر آئندہ لغویات سے پرہیز کرے چنانچہ فرمایا: **وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ** مومن ہر چند نماز بھی پڑھتا ہو۔ لیکن ترقی کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اس کی نماز میں خشوع ہو اپنے آپ کو وہ بالکل ایک مردہ زمین تصور کر کے فضل الہی کی بارش کا امیدوار ہو۔ تب اس کے اندر خوبیوں کے بیج نشوونما پائیں گے اور ان تخموں کے نشوونما کے لئے ضروری ہے کہ مضر اور لغو حصوں سے الگ رہے۔ لغویات کو دور کرنے کا نظارہ بھی عجیب ہے۔ کسان کس طرح لغو چیزوں کو کھیتوں سے الگ کر دیتے ہیں اسی طرح مومن کے لئے ضروری ہے کہ وہ لغویات کو ترک کرے۔ اسی کا نام روحانی اصطلاح میں ترک شربھی ہے اور نواہی سے بچنا بھی ہے۔ پس کامیابی اور مظفر و منصور ہونے کا دوسرا گُر یہ ہے کہ لغویات سے بچ کر جناب الہی سے تعلق رکھے۔ یہی تعلق ہے جو جسمانی پیدائش

میں خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً (المؤمنون: ۱۵) کہلاتا ہے جناب الہی سے ایسا تعلق ہو کہ ہر حالت میں وہ جناب الہی کا سچا فرمانبردار ہو۔ کسی کی دوستی، دشمنی، غریبی، امیری، مقدمات غرض کوئی بھی حالت ہو جناب الہی کا فرمانبردار ہو اور ہر قسم کی نافرمانیوں سے بچنے والا ہو۔ ایک جگہ اس کی تصریح بھی فرمائی ہے۔
 وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ
 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (البقرة: ۱۷۸)

گویا مومن وہی ہوتے ہیں جو ہر قسم کے دکھوں تکلیفوں اور مقدمات میں اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتے۔ اب تم اپنی عمر کو دیکھو اور غور کرو کہ تمہاری زندگی میں جب اس قسم کی حالتیں تم پر آئیں تم نے کیا کیا؟

ہماری حالت کا نقشہ اور بھی سوچو کہ اپنے لحافوں میں گھستے ہوئے جب تک تم جاگتے ہو تم کیا کرتے ہو کیا اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہو یا منصوبے بازیوں میں وقت گزار دیتے ہو۔ میں تمہیں ایک مثال سناتا ہوں جس سے تم کو معلوم ہوگا کہ عَنِ اللّٰغُوِ مُعْرِضُونَ پر کہاں تک عمل ہوتا ہے۔ ایک جگہ میری چار پائی تھی اس سے نیچے ایک مکان میں انگریزی خوان احداث تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد میں جب اپنی چار پائی پر لیٹا تو ان میں سے ایک نے بڑی لمبی تقریر کی جب وہ ختم کر چکا تو دوسرے نے کہا او میری تو سنو! یہ کہہ کر وہ ایک بکو اس کرتا رہا۔ پھر تیسرے نے شروع کر دی۔ میں تنگ آ گیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ چار پائی یہاں سے دوسری جگہ لے چلو۔ اس نے کہا کہ ابھی تو یہ لوگ گرم ہوئے ہیں۔ خیر میں تو وہاں سے اٹھا اور سو گیا۔ مجھے دوسرے دن رپورٹ پہنچی کہ تین بجے سوئے تھے۔ یہ سب کچھ لغو تھا۔ ایسی باتوں سے اعراض کرنا چاہیے۔

ایسا ہی ایک شخص کو میں نے کہا کہ ملازمت کر لو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس نے خیالی منصوبے بنائے ہوئے تھے۔ کہنے لگا اس ملازمت سے کیا ہوتا ہے میں تجارت کروں گا۔ تین برس کے بعد وہ مجھے ملا میں نے اس کو کہا کہ کیا کمایا۔ کہنے لگا ابھی ایک دوست کا پانچ سو روپیہ تباہ کر کے آیا ہوں مگر اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تجارت اس طرح پر کرنی چاہئے۔ میں نے کہا کہ اگر تم ملازمت کرتے تو اس وقت تک دس روپیہ کے حساب سے تم کو تین سو ساٹھ روپیہ تو مل چکے ہوتے۔ اب

ایک ہزار کسی اور دوست سے لے کر غرق کرو۔ غرض لوگ صحیح اور درِ دل سے دیئے ہوئے مشورہ کو تو مانتے نہیں اور اپنی خیالی تجویزوں پر اڑے رہ کر نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہ اٹکل بازیاں بھی لغوی ہیں اور کامیابی کی راہ میں روک ہیں ان کو چھوڑ دو کیونکہ مومن لغو سے بچتا ہے۔ اسی طرح میں نے ایک دوست کو کہا کہ یہ کام کر لو مجھے کہنے لگا کہ اعلیٰ پیمانہ پر تجارت کروں گا۔ میں نے کہا کہ تجارت تو ایک علم ہے تم اس سے ناواقف ہو۔ مگر پرواہ نہ کی۔ تجارت فی الحقیقت ایک علم ہے۔ میں نے عربی میں ایک کتاب پڑھی جو کسی ماہر ایم۔ اے نے لکھی ہے وہ کہتا ہے کہ پانچ برس تک میں ایک کوٹھی میں تجارت کرتا رہا۔ تب سمجھ آئی کہ تجارت کیا چیز ہے؟ یہ ایک بڑا کارخانہ ہے اب میں دنیا کے ہر جگہ سے مال منگوا سکتا ہوں اور میں بھلے مانس اور بد معاش دیا نندار اور بد معاملہ تاجروں کو جانتا ہوں۔ پس جب تک اس علم سے انسان واقف نہ ہو تجارت کے اعلیٰ پیمانہ پر کرنے کی تجویزیں اور منصوبے لغویات ہوں گے۔

اس لئے تم یاد رکھو کہ کامیابی اور مظفر و منصور ہونے کے لئے دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ مومن لغویات سے بچتا رہے ایسا ہی ایک قسم لغو کی یہ بھی ہے کہ جب کوئی بات کہی جاوے تو اس پر بدظنی کر کے عمل نہ کیا اور اپنی ہوا و ہوس کے ماتحت ہو کر ایک بات کر لی اور جب کہا گیا تو ہنس کر کہہ دیا کہ غلط فہمی ہو گئی اس قسم کی باتوں سے پرہیز کرو۔ جب تک لغویات سے نہیں بچتے ہو کامیابی اور فتح مندی تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی۔

خلاصہ یہ ہوا کہ مومن کی دوسری شان یہ ہے کہ لغویات سے بچے۔ جیسے نطفہ مضراشیاء سے بچتا ہے۔ مومن نمازیں پڑھتا ہے اور نمازوں میں خشوع سے کام لیتا ہے اور پھر لغویات سے بچتا ہے کیونکہ اگر وہ لغویات سے نہ بچے تو جناب الہی سے تعلق نہیں ہوتا۔

ایک بات اور یاد رکھو دنیا کا ایک عام نظارہ ہے کوئی پھل، پتہ، درخت، ٹہنی اللہ تعالیٰ نے لغو پیدا نہیں کی۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا (آل عمران: ۱۹۲) بلکہ حق و حکمت سے بھرپور ہے۔ جن لوگوں نے حق و حکمت کی اس مخلوق سے کام لیا انہوں نے مالی اور مادی فائدہ اٹھایا۔ یہ مضمون بھی وسیع ہے اور تمام علوم پر حاوی ہے۔ دیکھو ایک قوم نے ان تمام اشیاء کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں

حقائق کے رنگ میں دیکھا اور ان کے خواص و صفات معلوم کر کے کس قدر فوائد ان سے حاصل کئے۔ آئے دن کی ایجادات اور مادی ترقیاں اسی کا نتیجہ ہے اور وہ تمام دنیا پر حکومت کر رہی ہے۔ لیکن جنہوں نے انادہی سمجھ کر چھوڑ دیا وہ مفلس اور محکوم ہے۔

پس جہاں تم لغو سے اعراض کرو وہاں حقائق الاشیاء کو ترک نہ کرو۔ اس واسطے جناب الہی کے حضور جب کہا جاتا ہے لغو سے بچو تو اس کی بڑی بڑی شانیں یہ سمجھی جاتی ہیں۔ خیالات بے جا، بے ہودہ ارادے، دوست بے ہودہ، اسی میں بے ہودہ کتابیں بھی داخل ہیں۔ بیہودہ دوست اسی طور پر دوست بنتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ ان کا وجود ہمارے دین دنیا کے لئے مفید ہے لیکن دراصل وہ سخت مضر ہوتے ہیں اور وہ دین و دنیا دونوں کو غرق کر دیتے ہیں۔ میں پھر یاد دلاتا ہوں کہ تم میں ایمان ہو۔ یہ حالت نطفہ سے مشابہ ہے کیونکہ نطفہ تھوڑی سی چیز ہی کو کہتے ہیں پھر جیسے نطفہ رحم سے تعلق رکھتا ہے اور اسے آئندہ ترقی اور نشوونما کے لئے ضروری ہے کہ رحم سے تعلق رکھے۔ اسی طرح مومن کو جناب الہی سے تعلق رکھنا چاہیے اور وہ تعلق نماز سے قائم رہتا ہے اور نماز میں خشوع ہو تو ترقی کے راستے کھل جاتے ہیں پھر جیسے نطفہ کو اپنے اس تعلق میں (برنگِ علقہ) لغویات سے الگ رہنا چاہیے ورنہ وہ گر جاتا ہے۔ اسی طرح اس مومن کو لغویات سے بچنا ضروری ہے و لا وہ اس ترقی سے رہ جاتا ہے جس کی طرف وہ ایمانی حالت کے بعد جا رہا تھا۔

تیسرا ذریعہ یا گھر

نطفہ رحم میں قرار پکڑنے کے بعد علقہ کی صورت اختیار کر چکنے کے بعد ایک وقت تک بڑھتا رہتا ہے اسی طرح انسان روحانی پیدائش میں ترقی

کرتے کرتے آگے چلتا ہے مال بھی انسان کے لئے ایک عجیب چیز ہے اور اس کے معاملات عجائبات سے بھرے ہوئے ہیں۔ صرف مال کے متعلق ایک الگ پہلو کی ضرورت ہے جب کسی قوم کے پاس مال آتا ہے تو اس کی حالت بدل جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ، حضرت مسیح علیہما السلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوموں نے کہا افلاس ہے لیکن جب انہیں کثرت اموال ہوئی تو پھر دیکھ لو کیا حال ہوا۔ دنیا کی رغبت جب انسان کو پیدا ہوتی ہے تو پھر عجیب و غریب کرشمے دیکھنے میں آتے ہیں۔ میں نے تو دنیا کما کر دیکھی ہے مگر اس میں مجھے کبھی مزہ نہیں آیا۔ ہر قسم کی سواریاں،

صحتیں، لباس، کھانے، مکانات اور مخلوقات دیکھی۔ گویا یہ شعر میرے ہی حق میں ہے۔

من بہر جمعیتے نالاں شدم! جفت خوشحالاں و بدحالاں شدم
ہر کسے از ظن خود شد یار من وز دروں من نجست اسرار من

مال کی وجہ سے عجیب عجیب واقعات دنیا میں آتے ہیں اور جبکہ قرآن مجید کامیابی اور فتح مندی کے اصول بتا رہا ہے تو قدرتی طور پر کامیابی کے ساتھ اموال کی ترقی ہونی ضروری تھی اس لئے اس کے مناسب حال یہ اصل اس سے آگے ترقی کا بتایا۔ **وَإِنَّ الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَجِلُونَ**۔

میں نے بتایا ہے کہ لوگ لغو سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے اور اس کے بالمقابل حقائق الاشیاء کو ترک کر دیتے ہیں تو ہر چیز کو لغو سمجھ کر چھوڑ دیتے اور اس کے مفاد سے بے بہرہ رہ جاتے ہیں اور یا تو بے ہودہ خیالات سوچتے رہتے یا بیہودہ مجلسوں میں بیٹھے ٹریں مارتے رہتے ہیں۔ سب سے بڑا درد مجھے ایک دفعہ ایک عالم کو دیکھ کر ہوا جو ایک جگہ بکواس کر رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا کم عقل تو کیا کرتا ہے۔ مجھے نہایت ہی افسوس ہوا جب اس نے کہا الگپ و الشپ طراوت المغز۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ عربی کہاں سے بنالی۔ ایک بیہودگی سے منع کرنے پر بجائے باز رہنے کے ایک اور لغو حرکت کر دی۔ میں نے کہا کہ تمہارا یہ بکواس کتنے نھسی سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ غرض لغویات سے بچ کر جب انسان ترقی کرتا ہے تو پھر تیسرا مرحلہ اس کے مال کے متعلق آتا ہے یہ حالت گویا جسمانی پیدائش میں مضغہ سے ملتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے تصرف کے نیچے آتا ہے۔

اسلام کے دو ہی عظیم الشان شعبے ہیں اور ایمان کی تکمیل انہیں دو سے ہوتی ہے تعظیم لامر اللہ اور شفقت علیٰ خلق اللہ۔ پہلے تعظیم لامر اللہ کے متعلق بتایا ایمان ہو اور اس کے بعد نمازوں میں خشوع ہو اور اس خشوع کے پیدا کرنے کے لئے لغویات سے احتراز ہو۔ اب بتایا کہ شفقت علیٰ خلق اللہ کے لئے زکوٰۃ دو۔ جس بد بخت میں مخلوق پر شفقت نہیں وہ کسی بھی کام کا نہیں۔

انفاق فی سبیل اللہ کی حقیقت اور اس کے اسرار قرآن مجید اور احادیث میں اور آثار میں بہت ملتے ہیں۔ ایک موقع پر فرمایا ہے **أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ** (البقرة: ۱۹۶)۔ فرمایا اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اگر نہیں کرو گے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں

ڈال دو گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا انسان کو ہلاکت سے بچاتا ہے مخلوق الہی سے احسان کرنے کے نتائج و ثمرات کے قصے میں تمہیں کیا سناؤں اور کہاں تک سناؤں ان سے تو ایک کتاب بنتی ہے تاہم میں تمہیں دو گواہیاں سناتا ہوں اور اگر اپنی شہادتیں سناؤں تو کہو گے باتیں بناتا ہے (نعوذ باللہ من ذالک۔ ایڈیٹر)

رابعہ بصری کے پاس ایک مرتبہ بیس مہمان آگئے۔ ان کے گھر میں اس وقت صرف دو روٹیاں تھیں انہوں نے سوچا کہ ان دو روٹیوں سے ان مہمانوں کو تو کچھ بھی نہ ہوگا بہتر ہے کہ اللہ سے سودا کر لوں۔ اتنے میں کوئی سائل آیا اور انہوں نے وہ دو روٹیاں اپنے نوکر کی معرفت اس کو دے دیں۔ نوکر حیران ہوا کہ دو بھی ہاتھ سے دے دیں۔ مگر رابعہ جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عَشْرُ امْتَالِهَا (الانعام: ۱۶۱) کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خادمہ کھانا لے کر آئی کسی بیوی نے ان کے گھر میں بھیجا تھا۔ رابعہ نے اس خادمہ سے پوچھا کہ کتنی روٹیاں ہیں اس نے کہا، ۱۸۔ تب رابعہ نے کہا لے جاؤ۔ یہ میری نہیں ہیں۔ انہیں تو اللہ تعالیٰ پر ایمان تھا کہ دو کی بجائے بیس آنی چاہئیں۔ غرض وہ خادمہ جب لوٹ کر گئی تو اس کی مالک نے اسے ڈانٹا کہ تو اتنی دیر کہاں رہی میں نے رابعہ کے گھر کھانا بھجوانا تھا۔ اس لوٹدی نے وہ قصہ سنایا تو مالک نے کہا کہ وہ حصہ تو رابعہ کا نہ تھا۔ پھر وہ بیس روٹیاں لے کر گئی تو رابعہ نے لے لیں اور ان مہمانوں کو کھلا دیں جس سے وہ سیر ہو گئے۔ بعض جگہ ایک روٹی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ ایک آدمی مشکل سے کھا سکتا ہے۔ میری خالہ اتنی بڑی روٹی پکاتی تھیں کہ محلہ میں بانٹ دیتے۔

غرض رابعہ جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَا (الانعام: ۱۶۱) وہ لوٹدی اس راز سے آگاہ نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کرشمہ دکھادیا۔

ایسا ہی ایک شخص کو پھانسی کا حکم ہوا اسے ایک آدمی راستہ میں ملا تو اس نے اس کو دو پیسے کا سوال کر دیا اس نے اس کو دو پیسے دے دیئے۔ سپاہیوں نے بھی تعرض نہ کیا وہ جانتے تھے کہ اب تو اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی ہے۔ آگے نان بائی کی دوکان تھی وہاں سے اس نے دو پیسے کی روٹی خرید لی جب اور آگے گئے تو اس کے کان میں ایک سوالی کی آواز آئی۔

تیرا دو ہیں جہاں میں بھلا ہو کچھ کھلا دے؟

اس نے اس کو دونوں روٹیاں دے دیں۔ ادھر یہ واقعہ پیش آیا کہ جب یہ شخص پھانسی کے مقام پر پہنچا اور اس کے تختہ پر قدم رکھا۔ بادشاہ کو کسی نے کہا کہ اس مقدمہ کی اصلیت تو یہ ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر فوراً سوار بھیجا کہ اس کو پھانسی نہ دی جاوے تحقیقات ہوگی اور اس طرح پر اس صدقہ نے اس کو بچا دیا۔ یہ واقعات ہیں مگر ان کے ماننے کے لئے ایمان کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے ایک ہمارا محسن اور آشنا تھا وہ مارا گیا۔ جس روز وہ مارا گیا اس کے ایک ملازم نے مجھے کہا کہ آج نہیں جانا میں نے انکار کر دیا راستہ میں اس کو دشمن نے مار ڈالا۔ ہمارے ساتھ اس کے بڑے بڑے سلوک تھے اس کے مقدمہ کی تحقیقات ہونے لگی۔ مجھے اس جج سے ملنے کا موقع ملا جس نے تحقیقات کی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس مقدمہ کی اصلیت ہم نے معلوم کر لی ہے اور کل اتنے آدمیوں کو پھانسی لگ جاوے گی۔ میں اس کے پاس سے اٹھا تو ایک غلبہ نیند کا ہوا۔ میں لیٹ گیا تو میں نے دیکھا کہ جن کے متعلق پھانسی کا حکم دیا گیا تھا۔ وہ چار پائی پر بیٹھے ہیں اور کچھ سکھ مجھ کو دکھائے گئے جو زمین پر بیٹھے تھے۔ میں نے اس کی تعبیر یہ کہی کہ یہ سب چھوٹ جاویں گے اور اس کے قاتل وہ سکھ ہیں جو سزا پائیں گے۔ میں نے اس جج سے جا کر کہا کہ آپ کا فتویٰ جھوٹ ہے اس نے کہا کہ کل ۹ بجے دیکھ لینا۔ میں نے اس کو کہا کہ ہم کو بھی کسی نے بتا دیا ہے۔ اس نے کہا تمہیں خبر نہیں میرے فیصلہ کی اپیل بھی نہیں وہ اب چھوٹ نہیں سکتے۔ میں نے کہا کچھ ہووہ مجرم نہیں قاتل اور ہیں اور یہ چھوٹ جاویں گے اور مرتے نہیں۔ ان گرفتاروں میں بعض میرے بھی آشنا تھے۔ ٹھیک ۹ بجے جب کہ ان کی پھانسی کا مقررہ وقت تھا۔ سیالکوٹ سے تارا گیا کہ اصل مجرم پکڑے گئے ہیں ان کو یہاں بھیج دو۔ مقدمہ یہاں منتقل کر دو۔ میں نے اس جج کو کہا کہ اب تو چھوٹ گئے۔ اس نے کہا کچھ پرواہ نہیں مقدمہ وہاں چلا جاوے۔ میں نے ایسے وجوہات لکھے ہیں کہ یہ بچ سکتے ہی نہیں۔ مگر وہاں تحقیقات پر مقدمہ نئی طرز کا ہو گیا اور وہ رہا ہو گئے۔ تب وہ جج کہنے لگا بڑا آتش چرج ہے۔ تب اس نے پوچھا کہ اب کون سزا پائے گا میں نے کہا دو سکھ ہیں۔ ان مجرموں میں ایک سرکاری گواہ وعدہ معافی پر بن گیا۔ وہ بچ گیا اور باقی پھانسی پا گئے۔ اس پر اس جج نے کہا کہ ایک تو بچ گیا۔ میں نے کہا

کہ مجھے تو یہ نہیں دکھایا گیا کہ یہ بچے۔ چنانچہ اس نے وہاں سے نکل کر خوشی میں شراب پی اور شراب پی کر ایک لڑکی کو چھپڑا۔ اس کے رشتہ داروں نے وہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔

اس قسم کے عجائبات بہت ہوتے ہیں۔ صدقات اور خیرات واقعی انسان کو بہت سے عذابوں سے بچا لیتے ہیں اور یہ انسانی فطرت اور عام اقوام کے طرز عمل میں داخل ہے جو لوگ اپنے اموال میں سے خیرات کا حصہ نہیں نکالتے وہ ہلاکت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس لئے قرآن مجید نے کامیابی کا یہ اصل تعلیم کیا کہ مومن کامیاب ہونے والے مومن اپنے اموال سے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس لئے مومن کا یہ کام ہونا چاہئے۔

اپنی سرگزشت
 رابعہ بصری کے قصہ کا میں آپ بھی تجربہ کار ہوں۔ طالب علمی کے زمانہ میں ایک مرتبہ میں نے نہایت عمدہ صوف لے کر دو صدیاں بنوائیں اور انہیں الگنی پر رکھ دیا۔ مگر ایک کسی نے چرائی۔ میں نے اس کے چوری جانے پر خدا کے فضل سے اپنے دل میں کوئی تکلیف محسوس نہ کی بلکہ میں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بنا دینا چاہتا ہے۔ تب میں نے شرح صدر سے اناللہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور اس صبر کے شکر یہ میں دوسری کسی حاجتمند کو دے دی۔ چند روز ہی اس واقعہ پر گزرے تھے کہ شہر کے ایک امیر زادہ کو سوزاک ہوا اور اس نے ایک شخص سے جو میرا بھی آشنا تھا کہا کہ کوئی ایسا شخص لاؤ جو طبیب مشہور نہ ہو اور کوئی ایسی دوا بتاؤے جس کو میں خود بنا لوں۔ وہ میرے پاس آیا اور مجھے اس کے پاس لے گیا۔ میں نے سن کر کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں صدری ہے۔ میں جب وہاں پہنچا تو وہ اپنے باغ میں بیٹھا تھا میں اس کے پاس کرسی پر جا بیٹھا تو اس نے اپنی حالت کو بیان کر کے کہا کہ ایسا نسخہ تجویز کر دیں جو میں خود ہی بنا لوں۔ میں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں کیلے کے درخت تھے میں نے اس کو کہا کہ کیلے کا پانی ۵ تولہ لے کر اس میں ایک ماشہ شورہ قلمی ملا کر پی لو۔ اس نے جھٹ اس کی تعمیل کر لی کیونکہ شورہ بھی موجود تھا، اپنے ہاتھ سے دوائی بنا کر پی لی۔ میں چلا آیا۔ دوسرے دن پھر میں گیا تو اس نے کہا کہ مجھے تو ایک ہی مرتبہ پینے سے آرام ہو گیا ہے۔ اب حاجت ہی نہیں رہی۔ میں تو جانتا تھا کہ یہ موقع محض اللہ تعالیٰ کے فضل نے پیدا کر دیا ہے اور آپ ہی میری توجہ اس علاج کی طرف پھیر دی۔ میں تو

پھر چلا آیا مگر اس نے میرے دوست کو بلا کر زربفت، کجواب وغیرہ کے قیمتی لباس اور بہت سے روپے میرے پاس بھیجے۔ جب وہ میرے پاس لایا تو میں نے اس کو کہا کہ یہ وہی صدری ہے۔ وہ حیران تھا کہ صدری کا کیا معاملہ ہے؟ آخر سارا قصہ اس کو بتایا اور اس کو میں نے کہا کہ زربفت وغیرہ تو ہم پہنتے نہیں اس کو بازار میں بیچ لاؤ۔ چنانچہ وہ بہت قیمت پر بیچ لایا۔ اب میرے پاس اتنا روپیہ ہو گیا کہ حج فرض ہو گیا۔ اس لئے میں نے اس کو کہا کہ اب حج کو جاتے ہیں کیونکہ حج فرض ہو گیا ہے۔ غرض اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا ہاں اس میں دنیا کی ملوٹی نہیں چاہئے۔ بلکہ خالصاً وجہ اللہ ہو اللہ کی رضا مقصود ہو اور اس کی مخلوق پر شفقت ملحوظ ہو۔ پس تم مظفر و منصور ہونے کے لئے نمازوں میں خشوع پیدا کرو۔ لغویات سے بچو اور پھر اپنے اموال سے زکوٰۃ دو۔

اس کے بعد ایک بہت بڑا معاملہ آتا ہے جس کے مقابلہ میں مال کی قربانی کچھ چوتھا ذریعہ بھی چیز نہیں۔ یہ ایک دوزخ کا نمونہ ہے انسان اس سے خدا کے فضل سے ہی بچتا ہے، یہ شہوت ہے۔ میں نے اس دوزخ کو دیکھا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے لئے وہ بہشت ہے۔ اس لئے مظفر و منصور ہونے کے بعد مال سے بھی زیادہ جس قربانی کی ضرورت ہے وہ شہوت کے مقابلہ میں عفت سے کام لینا ہے اور خدا تعالیٰ کی اس کتاب میں اس کو ان لفظوں میں ادا کیا گیا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْمَارِهِمْ حَفِظُونَ یہاں ایک جامع لفظ رکھا ہے۔ جن سوراخوں کے ذریعہ شہوت کی آگ تیز ہوتی اور انسان کو بھڑکاتی ہے ان تمام کی حفاظت ضروری ہے کبھی یہ کانوں سے آتی ہے۔ کبھی باتوں سے اور آنکھوں سے اور بالآخر ان فروج سے اس کی تکمیل ہوتی جو اس کے مظاہر ہیں۔ اس لئے خدا تعالیٰ کی مجید کتاب میں فروج کا لفظ بول کر تمام کی حفاظت و نگہداشت کی تعلیم دی۔ پس مومن کو چوتھے مرتبہ پر چاہئے کہ حفاظت فروج کرے۔ ہاں اپنی بیویوں اور مملوکہ پر وہ تمتع اٹھا سکتا ہے۔

جب انسان فروج کی حفاظت کرتا ہے تو اس کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو بڑھاتا ہے۔ اس لئے اس پیدائش کے مقابلہ میں ادھر رکھا فَكَسَوْنَا الْكِبْرَاءَ لِحَمَّا۔

میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ انسان اپنی فروج کی حفاظت سے بڑے نفع اٹھاتا ہے۔ میں نے ۳۰-۳۲ برس کی عمر میں شادی کی تھی اور میں ان مشکلات سے واقف تھا۔ اس لئے میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ بچوں کی شادی جلدی کر دو۔ میں نے اس سمندر کو تیر کر دیکھا ہے اور میں جانتا ہوں کہ کس قدر مشکل ہے۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بچایا۔ میری فطرت میں مطالعہ کتب کا شوق رکھ دیا۔ اس شوق کی وجہ سے میرا کوئی دوست نہیں بن سکتا تھا کیونکہ میں بناتا ہی نہ تھا۔ سمجھتا تھا کہ وقت ضائع ہوگا۔ مگر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ منزل بڑی سخت ہے۔ اس لئے تم اگر مومن ہو کر مظفر و منصور ہونا چاہتے ہو تو اپنی فروج کی حفاظت کرو اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ باہر ا نہیں ہو سکتا۔

پانچواں وچھٹا گُر اس کے بعد ایک اور مرتبہ ہے وہ ادائے امانت کا ہے انسان جب ان مدارج سے گزر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل اس کے شامل حال ہو جاتے ہیں۔ لوگ امانت کے معنی صرف اموال تک محدود کرتے ہیں مگر مجھے جو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے وہ یہی ہے کہ امانت کے معنی ماتحت، نوکر، رعایا، میں اس کے یہی معنی کرتا ہوں۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ نے جن وجودوں پر اسے حکومت دی ہے اور جن کو اپنے علم کے نیچے اس کے ماتحت رکھا ہے ان سے پاک سلوک کرے اور ان کے دین و دنیا کی بھلائی اور نفع رسانی میں کوشش کرے۔ ہاں اگر کوئی شخص کسی کے پاس کوئی امانت رکھے تو اس میں خیانت نہ کرے۔ پھر اس کے ساتھ ہی معاہدات کی رعایت بھی ضروری چیز ہے جب کسی قسم کی حکومت انسان کو ملتی ہے تو اس کے ساتھ ہی معاہدات کا باب بھی کھل جاتا ہے۔ اس لئے ان دونوں کو ایک ہی جگہ جمع کر کے فرمایا: **وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ۔**

معاہدات کی رعایت بڑی بات ہے۔ میں تمہارے معاہدات کا ایک ورق پیش کرتا ہوں۔ غور تو کرو تم کہاں تک اس کی رعایت و حفاظت کرتے ہو۔ ایک تو وہ معاہدہ ہے جو تم میرے ہاتھ پر کرتے ہو۔ پھر تم ہی میں سے وہ بد بخت بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ خلیفہ کیا چیز ہے بڑھاپے کی وجہ سے ہوش ماری گئی۔ دیکھو سنو اور یاد رکھو مجھے خدا تعالیٰ نے آپ خلیفہ بنایا ہے اور میں تم میں سے کسی کا بھی

خدا کے فضل سے محتاج نہیں اور میں نے اس سے دعا کی ہے کہ مجھے ارذل العمر کے نتائج سے محفوظ رکھے اور اس نے رکھا ہے۔ اپنے کلام کا فہم مجھے عطا فرمایا ہے یہ باتیں خدا تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں وہ میرے لئے ایک غیرت رکھتا ہے اس واسطے ایسے خیالات سے توبہ کرو۔ اس نے میرے قویٰ کو ہر طرح سلامت اور محفوظ رکھا ہے (الحمد لله على ذلك)

پھر یہ ایک کاغذ ہے جو میرے ایک دوست نے دیا ہے۔ اس کی دوکان سے گیارہ سو روپیہ کا قرض لیا اور وقت پر ادا نہیں ہوا جس کی وجہ سے دوکان مشکلات میں پھنس گئی۔ وہ کہتا ہے سپارش کرو لوگ قرضہ ادا کر دیں۔ میں تمہیں ایک بات سناتا ہوں لوگ کہتے کہ فلاں شخص نے جنازہ نہیں پڑھا۔ میں نے پوچھا جس نے پڑھا اس نے کیا پڑھا تو کہا اس کی خبر نہیں۔ آخر میں نیت خیر کہہ کر چلے آتے ہیں۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص مرجاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے کہ اس کے ذمہ قرض تو نہیں اگر کہتے ہے تو کہہ دیتے تم جانو! اور ایک کی بابت کہا کہ اس کے گھر میں مال ہے اور ایک کی نسبت ایک صحابی نے کہا کہ میں اس کے قرضہ کا ذمہ دار ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں تم سے لوں گا اور پھر جب صفیں درست ہوئیں تب پھر آپ نے مکرر اس صحابی کو کہا کہ تم سے لوں گا۔ جب اس نے مجبوراً اقرار کیا تو جنازہ پڑھا۔

میری اپنی یہ حالت ہے کہ تم میں سے ایک میرا دوست ہے وہ مجھے علیحدہ ملا اور اس نے مجھے دس روپیہ نذر کئے۔ میں نے کہا بہت روپیہ مل گئے ہیں تو کہا کہ آپ کی دعا سے کیا پرواہ ہے۔ اس پر میں نے اس کو کہا کہ تم نے فلاں شخص کے پانچ سو روپیہ دینے ہیں تم ہمارے دوست ہو، مرید ہو اس پانچ سو میں سے یہ دس دے دو لینے والا بھی یہاں ہی تھا۔ وہ میرے پاس سے اٹھ کر اس کے پاس گیا اور کہا کہ دو سو بھی لے لو۔ وہ لے کر دوڑتا ہوا میرے پاس آیا کہ مولوی صاحب تم نے اس کو کہا ہے۔ غرض میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس غریب مہاجر سے لیتے ہو تو دیتے کیوں نہیں اس کو ادا کر دو۔ وہ کہتا ہے میں نے کوٹ خریدے تھے فروخت کے لئے ان کی بھی سپارش کر دو۔ میں سپارش کرتا ہوں کہ خرید لو۔

الغرض امانات اور معاہدات کی رعایت کرو۔ اس سے تمہارے اندر ایک اور کمال پیدا ہوگا۔

جیسے نطفہ ترقی کر کے ایک انتہائی نقطہ پر پہنچتا ہے پیدائش جسمانی کے مراتب ستہ گزارنے کے بعد انسانیت کی روح اس کے اندر آتی ہے اسی طرح روحانی تکوین کے ان چھ مدارج کو طے کر کے بھی انسان کامل بنتا ہے اور اس کے مقابل میں **لَمْ أَنْشَأْهُ خَلْقًا آخَرَ** کو رکھا ہے۔

پھر روحانی کمال کا مرتبہ وہی نماز ہے جس سے شروع کیا اور اب اسی پر ختم کر کے کہا **وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ** جیسے بچہ پیٹ ہی میں سے گزر کر نکلتا ہے اسی طرح پر تم اگلے جہاں تک جانے میں اپنی عمر نماز ہی میں گزار دو اور پانچ وقت کی نماز سنوار کر پڑھو۔

یہ فروع ہیں جو میں ایمان پر مترتب سمجھتا ہوں۔ ان میں سے بعض انسان کے قوی اور جسم پر مؤثر ہیں بعض اس کے اموال پر۔ اس کے ساتھ ہی میں تمہیں کہتا ہوں کہ بدنظیاں چھوڑ دو بدنظی بہت بری بلا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ** (الحجرات: ۱۳) اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کم و الظن ان الظن اکذب الحدیث (صحیح بخاری کتاب الفرائض، باب تعلیم الفرائض) بدنظی کرنے والا جھوٹا ہوتا ہے۔ اور یہ جو کہا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو پھیلا یا نہ کرو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔

امن یا خوف کی کوئی بات تم پھیلانے کے مجاز نہیں بلکہ اسے اپنے امیر اور سرگروہ کے پاس پہنچا دو وہ جو مناسب سمجھے گا کر لے گا۔ دیکھو جس شخص نے اظہار الحق کے دو نمبر نکالے اور جنہوں نے کھلی چٹھی انصار اللہ کے نام شائع کی اور جنہوں نے خلافت کے متعلق مباحثہ کیا ان کا کوئی حق نہ تھا۔ اس کھلی چٹھی نے تو میرے دل کو کھول دیا۔ ایسا ہی ایک شخص نے ایک چھپا ہوا کارڈ میرے پاس بھیجا اور پوچھا کہ اشاعت کی اجازت دیتے ہو۔ میں نے کہا کمبخت تو نے قرآن کے خلاف کیا۔ چھاپ کر بھیجتے ہو اور پھر اشاعت کی اجازت مانگتے ہو۔ اس قسم کے لوگ قرآن کے خلاف کرتے ہیں اور وہ قوم میں جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک ہاتھ پر جمع کیا تھا تفرقہ ڈلوانا چاہتے ہیں ان سے بچو۔ پھر کسی نے کہا گھوڑی سے گرے ہیں، یہ گھوڑی خلافت کی گھوڑی ہے۔ استقامت میں فرق آ گیا۔ ایسے شریر جھوٹے ہیں خدا نے مجھے اس کا جواب سمجھا دیا ہے وہ لمبا جواب ہے۔ میں تمہیں پھر نصیحت کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے بچتے رہو اور بدنظیاں چھوڑ دو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

کہ جو مومن ان صفات کو اختیار کرتے ہیں وہ کامیاب اور بامراد ہو جائیں گے۔
 أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۖ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔

اب میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور تم میں سے جو رخصت ہونا چاہتے ہیں ان کے لئے
 بھی دعا کرتا ہوں۔ (اور دعا سے پیشتر شیخ رحیم بخش نو مسلم کی کتاب ”آیات بینات“ کی خریداری کے لئے
 سپارش کی اور آخر میں لمبی دعا کی جزاہ اللہ احسن الجزاء۔)

(الحکم، ۷، ۱۴ فروری ۱۹۱۵ء صفحہ ۳ تا ۸)



قرآن مجید کا نزول کیوں ضروری تھا؟

(مطبوعہ ریویو آف ریلیجنس ستمبر ۱۹۲۳ء)

پہلی ضرورت اللہ تعالیٰ کا وہ فضل، ارادہ، علم اور قدرت جس سے وہ مخلوق کو پیدا کرتا اور عزت کے لائقوں کو عزت دیتا ہے۔ اس کی تکمیل اور اس کا پورا ہونا ایک لابدی امر ہے کیونکہ اس کا کوئی مانع نہیں۔ جب سیدنا نبی عربؐ کو اس نے اپنے خاص فضل اور رحمت سے نبی رسول، رسولوں کا سردار، رسولوں کا خاتم بنایا اور اسے قرآن جیسی پاک کتاب دینی چاہی تو اس قادر مطلق کے فضل و ارادہ کا کون مانع ہے۔ یہ دنیا اور دنیا کے لوگ اس کا ملک اور ملک ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے ملک کی رعایا پر مختلف جسمانی حکام بنایا کرتا ہے تو کہ ان کا انتظام دنیا میں کسی قدر امن کو قائم رکھے۔ روحانی انتظام جسمانی انتظام سے زیادہ ضروری اور توجہ کے قابل ہے اگر دنیا کے انتظام کے واسطے اللہ تعالیٰ نے مختلف ناظم بھیج دیئے تو دنیوی انتظام سے زیادہ دینی روحانی انتظام کے واسطے کئی ناظموں کا آنا ضروری نہیں؟

دوسری ضرورت جزیرہ نما عرب کے لوگ الہیہ مواعظ سے مدت تک محروم رہے۔ توریت اور انجیل نے عرب کے جیتنے میں کوئی کامیابی نہ دکھائی۔ بھلا وید جس کی تعلیم سے ہم آریہ ورتی لوگ باوجود کوشش کے بھی واقف نہیں ہو سکے، کیونکر فائدہ اٹھاتے۔ تجربہ نے ثابت کر دیا ہے کہ تمام بلاد کے لوگ بیرونی یا اندرونی یادوںوں قسم کے معلموں کی تعلیمات کو قبول کرتے اور مان سکتے ہیں اور جیسی جسمانی فتوحات میں بیرونی لوگوں کے محکوم بن جاتے ہیں ویسے ہی روحانی فتوحات میں بیرونی فاتحوں کے ماتحت ہو سکتے ہیں۔

یورپ، افریقہ، امریکہ پر جو اثر شامی مذہب کا پڑا ہے اس سے ظاہر ہے کہ اصل اور پاک عیسائیت درکنار اور سیدنا مسیح علیہ السلام کا رسول ماننا کیا یہ لوگ ابن اللہ بلکہ خدا ماننے کو تیار ہیں۔ ہند، سندھ، افغانستان، چین کے حالات ظاہر ہیں کہ چین والے تو نہایت کمزور قوم آریہ ورتوں سے

ایک شخص گوتم کی تعلیم ماننے کے لئے بھی تیار ہیں اور بلاد کی حالت پر اگر نگاہ کو دوڑاؤ اور افریقہ کی اندرونی اس پھیلاؤ پر نظر کرو جس میں اسلام سر توڑ اور کچھ عیسائی مذہب ترقی کر رہا ہے تو میری اس عرض کی صداقت پر ناظرین کو کلام نہ ہوگا۔ تجربہ اور مشاہدہ نے صاف طور پر ظاہر کر دیا ہے کہ صرف عرب کے بلکہ قریش اور ان میں بھی حجازی اور اہل مکہ ہی خصوصیت اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن پر عام طور سے غیر قوموں کی ظاہری یا باطنی تاثیر نے اثر نہیں کیا (دیکھو یرمیاہ کی کتاب)۔

دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس کے مرکز پر بیرونی حملوں کے زد کا اثر نہیں پہنچا ہم نے ایشیا، یورپ، افریقہ، امریکہ، نیوہالینڈ، نیوزی لینڈ وغیرہ اور ان کی یروشلم اور پیٹراموں کے معبد، پارسیوں کے ایرانی آتش کدہ، بابل، کانشی، جی، لاسہ، انطاکیہ وغیرہ کو دیکھ لیا۔

کسی میں مکہ یا مکہ والوں کی آن نہ دیکھی جب دنیا پر اور دنیا کے ہادیوں پر اور ہادیوں کے جان نثار مشنریوں پر حجت کے طور پر ثابت ہو گیا کہ کوئی بھی عرب کے مرکز تک راستبازی کو کامل طور نہ پہنچا سکا۔

جب پہلے اُپدیشکوں اور مشنریوں نے اس قوم عرب کی نسبت یہ کمزوری دکھائی اور ان پر اتمام حجت نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم نے جوش مارا اور اس قوم کو محروم نہ رکھا بلکہ وہاں ایسا ہادی پیدا کر دیا اور اسے قرآن جیسی کتاب دی۔ جس کی قوی تاثیر نے وہ تمام صد اقسیم اور راستبازیاں جو دنیا بھر کے ملاموں کے پاس اور پاک کتابوں میں مندرج تھیں مرکز عرب کو بھی پہنچا دیں اور اس طرح جو الزام دنیا کے راستباز مشنریوں پر تھا کہ انہوں نے اپنا پورا کام نہ کیا یعنی مرکز عرب کو نہ جیتا اس کو اٹھا دیا اور ان راستبازوں اور راستبازیوں کے بدلہ میں حضرت نبی عرب اور قرآن کریم نے کفایت کی اور راستبازوں کے سچے ارادے کی تکمیل قرآنی ضرورت نے ثابت کر دی۔ ترقی چونکہ بتدریج دنیا میں پھیلتی ہے اس لئے وہ تمام صد اقسیم ہمارے سید و مولیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل اول عرب کے مرکز اور تمام عرب میں پھیلیں پھر اس کے جانشینوں کی وساطت سے اور بلاد میں پھیل رہی ہیں اور امید ہے آہستہ آہستہ تمام دنیا پر اس مجموعہ صد اقسیموں کی حجت قائم ہو جائے گی۔ چونکہ تجربہ، پھر مشاہدہ نے ثابت کر دیا ہے کہ اور لوگوں پر اور ان کے مرکز پر مختلف مشنریوں کا اثر پڑتا رہا

اور ان مشنریوں پر اور ان کے مرکز پر عرب کا اثر پڑ سکتا ہے تو اس نیچر کے تجربہ اور مشاہدہ سے پورا یقین ہے کہ تشریحی نبوت ختم ہو چکی کیونکہ اب کوئی براعظم نہیں رہا جس کے عام باشندے ایسے ہوں کہ ان پر کسی قوی الہمت مشن کا اثر نہ پڑ سکے بلکہ کل دنیا کا اثر دوسرے پر اور عرب کا اثر دنیا پر ثابت ہو چکا۔ اب موجودہ دنیا پر ثابت ہو چکا ہے کہ عرب کا درہ مستقل، وفادار، راستباز مشن قائم ہو تو تمام قومیں اس کی بات ماننے کو تیار ہیں اس مضمون کو قرآن کریم اس طرح بیان فرماتا ہے:-

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبْرُكًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۱۵۶﴾
تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴿۱۵۷﴾ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ۗ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ﴿۱۵۸﴾ (الانعام: ۱۵۶-۱۵۸)

(۲) لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿۱۵۹﴾ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴿۱۶۰﴾ فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ ﴿۱۶۱﴾ (البينة: ۱۵۹-۱۶۱)

عرب جو دنیا بھر کو عجم کا خطاب دیتے تھے کیا نہیں کہہ سکتے تھے ہم عجموں کو لوگوں کی کب مانیں۔ کس نے عرب کو واعظ صوموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداءً فالق بین قلوبکم کا حکم دے کر فأصبحتم بنعمتہ إخواناً (آل عمران: ۱۰۴) کا لقب دیا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (الاعراف: ۱۵۹) کس نے کہا۔ ذرا اس کا نشان دو۔

دنیا میں ہمارے سادات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے بقدر امکان راستی اور راستبازی کو دنیا میں پھیلا یا مگر ان کے ناعاقبت اندیش اور جھوٹے بلکہ ناسمجھ پیروؤں نے ان کی پاک تعلیم میں نافہمیوں کو ملا دیا اور اس میں اختلاف مچایا۔ ہندوؤں نے اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کئی اوتاروں کچھ چھ اور سوز کے اشکال پر دنیا میں آنا اعتقاد کیا۔

عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کے خاکسار بندے حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خدا یا خدا کا ازلی بیٹا

یقین کیا بلکہ ان میں رومن کیتھولک نے سیدنا مسیحؑ کی والدہ صدیقہ مریم کو بھی معبود ٹھہرایا۔ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات میں تشبیہ تک نوبت پہنچائی۔ آریہ بیچارے تو یہاں تک گرے کہ باری تعالیٰ کی ہمہ قدرت سرب شکستیمان ذات کو اپنے پر قیاس کر کے کہہ دیا جیسے بدوں میٹر اور مادہ کے مخلوق میں کوئی شخص کوئی چیز نہیں بنا سکتا، باری تعالیٰ سے بھی بدوں مادہ کے کسی چیز کا بننا آسنہو اور محال ہے اور اس فاسد قیاس کے باعث کروڑوں کروڑ ذرات عالم کو غیر مخلوق، کروڑ کروڑ ارواح کو غیر مخلوق کہہ بیٹھے۔

ابدی نجات کی سچی طلب ہر سلیم الفطرت کے قلب میں موجود ہے اس کے حصول کے واسطے لوگ کیسے بھول بھولیاں میں پڑے ہیں۔ یہود نے تو یقین کر لیا ہم ابراہیمؑ راستباز کے فرزند ہیں صرف اسی رشتہ کے باعث نجات پا جائیں گے جیسے کہتے ہیں۔ لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُودَةً (البقرة: ۸۱)

عیسائی تو ایسی حالت میں جا پڑے کہ اپنی ساری لعنتوں ملا متوں کے بدلہ میں حضرت سیدنا مسیحؑ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو معاذ اللہ ملعون بنایا۔ (دیکھو نامہ گلتیاں ۳ باب ۱۳۔) اور بعض نے مع بعض آریہ ورتی سادھوؤں کے رہبانیت اختیار کی۔ آریہ جو گھبرائے اور بھولے تو تاسخ کے قائل ہو کر ابدی نجات کے ہی منکر ہو بیٹھے۔ اور بعض آریہ ورتیوں نے تو اپنی نجات کے واسطے باری تعالیٰ کو سو راور کچھ اور مچھ تک اوتار لینے والا مان لیا۔

ایسے لوگوں کے واسطے ضرورت تھا کہ ایک زبردست ملہم والہام آوے جو ان لوگوں کو ان عظیم الشان غلطیوں سے بچاوے یا آگاہ تو کر دے اور وہ ہمارا ہادی اور ہمارا قرآن تھا۔ جس نے ان بطلانوں کا بطلان فرمایا۔ غرض ایسی ضرورت کی نسبت فرمایا۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقْضَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (النمل: ۷۷)
وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ۖ وَهُدًى وَرَحْمَةً
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (النحل: ۲۵)

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۖ وَمَاهُمْ بِالْمُهْزَلِ (الطارق: ۱۴، ۱۵)

اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے دنیا میں آئے اور انہوں نے الہی الہام سے
چوتھی ضرورت: لوگوں کو بت پرستی سے روکا۔ مگر آخر کار لوگوں کی سابقہ بت پرستی ہادیوں کی

حجت کے ساتھ ایسی ملی کہ ہادی ہی معبود بنائے گئے۔ دیکھو حالات حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام اور
 رام چندر جی اور سری کرشن جی کے۔ مگر ہادی اسلام نے اس دعوت تو حید کو اس طرح پورا کیا کہ اپنی عبودیت
 کو الہی تو حید کا لازمی جزو قرار دیا اور کھول کھول کر سنایا۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ
 أَنَّمَا إِلَهُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا ۗ وَوَيْلٌ لِلْمُصْرِكِينَ (حلم السجدة: ۷)

حضرات انبیاء اور رسولوں (صلوات اللہ علیہم و سلامہ) کی
پانچویں ضرورت: وساطت اور ان کے جان نثار پیروؤں کی کوشش سے صد اقتیں اور

راستبازیاں دنیا میں پھیلتی رہیں اور لوگوں کی استعداد اور ترقی مختلف ملکوں میں مختلف وقتوں پر اللہ تعالیٰ
 نے صد اقتوں کے لانے والے راستبازیوں کے پھیلانے والے پیدا کئے مگر ہر ایک ہادی نے جہاں
 وہ روحانی قوانین اور ضروری جسمانی قاعدے الہی الہام سے سکھائے جو انسانی نوع کے لئے
 مشترک النفع تھے وہاں ہر ایک نبی نے اپنی اپنی قوم کو کچھ قواعد و ضوابط مختص الزمان اور مختص المقام بھی
 تعلیم کئے۔

علاوہ بریں ترقی یافتہ قوم جس کو کبھی الہی الہام نصیب ہوا آخر وہ الہی نافرمانیوں کے باعث
 ادبار میں آگئی۔ ان سے الہام کی حفاظت ہی نہ ہو سکی یا وہ لٹریچر اور زبان ہی مرگئی جس میں وہ الہام
 ہوا تھا یہاں تک وہ قوم ادبار میں پھنسی کہ اس میں اپنے ہادی کے جانشین ملہم اور مقدس لوگ جو اس
 زبان کو ہمیشہ زندہ رکھیں اور تعلیمات کو مختلف تدابیر سے پھیلا یا کریں ان کا آنا بھی موقوف ہو گیا۔
 جیسے آریہ اور عیسائیوں میں اور ان کے بعد یہودیوں، پارسیوں وغیرہ میں مشاہدہ کیا جاتا ہے اور اس
 قدیم الہام کی تفاسیر بھی ایسی مختلط ہو گئیں کہ حق کا باطل سے جدا کرنا محال ہوا اور قوی التاثر مخلص
 ملہم جس کو اللہ کی طرف سے تائید ہو اس قوم میں پیدا نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ اور قوم کو جو صد اقتیں پھیلاوے
 الہام فرماتا ہے اور اسے قوت بخشتا ہے تمام قرآنی صد اقتیں اگر دنیا کی مختلف کتابوں اولڈ ٹیسٹمنٹ،
 نیو ٹیسٹمنٹ، سقراط کے ملفوظات، چاروید، ژند، وستا، دساتیر وغیرہ سے عبری، یونانی، ویدک، سنسکرت،

دری، کالڈی، چین وغیرہ السنہ سے لینی پڑتیں اور ان میں ان کے مفسرین کے غلط خیالات کو الگ کرنا پڑتا تو کیسا مشکل بلکہ محال کام ہوتا پھر اگر کوئی ایسا جان باز ہوتا بھی اور وہ شب و روز کی محنتوں سے کسی حد تک پہنچ بھی جاتا تو اس کو دوسروں کے تسلیم کرانے میں کتنی دقتیں ہوتیں تا مل کر و! جو کچھ کھیتیوں میں سے ہم لاتے ہیں جو لطیف دودھ خون و گوبر کے درمیان سے چار پاپوں کی وساطت سے ہمیں ملتا ہے جو لطیف لطیف میوے راحت بخش میوے ہم باغوں سے لاتے ہیں اور وہ نہایت صحت بخش چیز جو شہد کی مکھی کی وساطت سے ہمیں ملتی ہے اگر ہم اپنی کیمسٹری آلات کے ذریعہ لینا چاہتے تو کتنی مشقت، پھر غلطی و نا فہمی میں مبتلا ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام تعلیمات کو قرآن میں یکجا جمع کر دیا ہے اور ہمیں مختلف السنہ اور اقسام اقسام کی کتب کے جا بجا ایک آسان کتاب پڑھ لینا کافی ہے۔ الحمد للہ۔

اب ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ کوئی روحانی صداقت قرآن سے باہر نہیں اسی ضرورت کی طرف قرآن شریف اشارہ فرماتا ہے۔ (دیکھو پارہ ۱۴ سورہ نحل رکوع ۱۴) اور اس کے علاوہ

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ
فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ (المائدة: ۴۹) اور فرمایا۔ (۲) لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۗ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُوا
صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۚ فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ ۗ (البينة: ۴۲)

چھٹی ضرورت: جس میں سوال کے اس حصہ کا جواب بھی ہے کہ قرآن میں کیا ایسی صداقتیں بھی ہیں جو مادر کتب میں موجود تھیں۔ صداقتیں راستبازیاں قرآن کریم سے پہلے بھی دنیا کی مختلف اقوام کے پاس موجود تھیں گو محرف و مخلوط ہی کیوں نہ ہوں مگر پھر بھی وہ صداقتیں صرف دعوے ہی تھے جن کی عوام کو حاجت تھی۔ علی العموم سابقہ کتب میں ان دعوؤں کے دلائل موجود نہ تھے اگر کچھ ان دعوؤں کے دلائل تھے بھی تو پہلی کتابوں میں آنے والے باطلہ مذاہب کی تردید میں مدلل گفتگو کا سامان بخلاف قرآن کے موجود نہ تھا بلکہ یونہی کہتے کہ قرآن ایسی صداقتوں کی جامع کتاب نازل ہوا ہے جس کی جمعیت کے سامنے کسی نئی اور پرانی پستک کو

مقابلہ کی تاب نہیں۔ میں نے کئی دفعہ تمدن کے ایک ضروری مسئلہ نکاح پر عیسائیوں، سکھوں، ہندوؤں سے سوال کیا کہ کس رشتہ میں نکاح کی ممانعت ہے اس ممانعت پر کوئی خاص قول جناب سیدنا مسیحؑ کا یا اس کے رسول بنانے والے کا اپنی کامل کتاب انجیل سے پیش کرو۔ گورونانک جی کے گرنٹھ صاحب سے بتاؤ۔ وید کی خالص شرتی سے یا شرتی کے خاص ملہموں کے اقوال سے دکھاؤ کسی نے بھی آج تک تو کوئی نشان بھی نہیں دکھایا جب ایسے ضروری مسائل پر بھی بحث نہیں تو ہماری کل روحانی ضرورتوں کو کیونکر یہ کتابیں پورا کر سکتی ہیں اور اگر ایسے مسائل میں جن کا ذکر اوپر گزرا برہموؤں یا نیچرلسٹ لوگوں کے قواعد سے کام لینا ہے۔ تو اپنی کتاب کے کامل ہونے کا دعویٰ مت کرو۔ غرض اگر صدقاتوں کا یکجا جمع ہونا اور ان کا مدلل ہونا عقلاء کے نزدیک کوئی ضروری امر ہے اور ہے تو قرآن کریم کا نازل ہونا بھی ضروری ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ موجود ہے ایک ضروری مسئلہ ہے جس پر قرآن نے یہ دلیل دی ہے۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاٰخِثٰفِ الْاٰلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ (آل عمران: ۱۹۱)

اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ ایک دوسرا مسئلہ ہے اس پر قرآن فرماتا ہے۔ لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اِلٰهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا (الانبیاء: ۲۳)

قرآن کی کلام الہی ہونے کی دلیل، فرماتا ہے۔ اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ (البقرة: ۲۳) اور فرماتا ہے۔ قُلْ لِّیْنَ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰی اَنْ یَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا یَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظٰهِرًا (بنی اسرائیل: ۸۹) اور فرمایا ہے۔ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِیْهِ اٰخِثًا فَا كَثِیْرًا (النساء: ۸۳) یاد رہے، اختلاف دو قسم کا ہوا کرتا ہے۔ اول یہ کہ ایک آیت دوسری آیت کے خلاف ہو۔ دوم یہ کہ کوئی قرآنی مضمون نیچرل فلسفی یا کسی سچے علوم کے خلاف ہو۔ قرآن میں ہر دو قسم میں سے کسی قسم کا اختلاف نہیں اس تیرہ سو برس میں نیچرل فلسفی کی کتنی سر توڑ ترقی ہوئی مگر کچھ بھی قرآنی بیان کی غلطی ثابت نہ ہو سکی۔ ہاں عامہ قرآنی دلائل کو تو عامہ علماء اسلام اور متکلمین ملتہ خیر الانام علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام بیان کرتے رہے اور کرتے ہیں اور کریں گے مگر

قرآنی آیات بینات تو ایسے بھی ہیں کہ ان کی پرزور تاثیرات سے ہمیشہ ظلی طور پر اس قسم کے نمونے اسلام میں پیدا ہوتے رہتے ہیں جو اپنی پاک تاثیرات سے دنیا میں الہی سچی توحید اور اپنی کتاب کے فاضلہ اخلاق کو پھیلا کر تے ہیں اور غیر قوموں پر مختلف پیرائیوں سے اس الہی حجت اور فضل کو پورا کیا کرتے ہیں جن کے لئے ملامتوں اور کتابوں کا آنا الہی کتاب ماننے والے مذاہب میں ضروری ہے۔ ہمیشہ ہر صدی میں اس تحریف اور ایزاد اور نقص کو دور کرتے ہیں جو انسانی آزادی کے باعث سچے مذہب میں آجاتی ہے اور ہمیشہ قوم کو جگاتے اور اصل کتاب کو پھیلاتے ہیں۔ حال ہی کے اہل اسلام کو دیکھ لو کیسے کمزور ہیں ضعیف ہیں مگر اپنی کتاب کا درس اس کی اصلی زبان میں کس قدر دے رہے ہیں۔ عیسائی، آریہ، پارسی ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھیں اور منہ پر سے پردہ اٹھائیں۔ لاتزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق (صحیح بخاری، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال...) اور ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مائة سنة من یجدد لہا دینہا (سنن ابی داؤد، کتاب الملاحم، باب ما یذکر فی قرن المائۃ) کا مصداق بن کر اسلام کی طرح اپنی صداقت کو کون ظاہر کرتا ہے۔ عملی حالت پر نگاہ کرو ادھر کوئی اسلام میں شریک ہوا مسلمانوں کا بھائی بن گیا۔ جماعت اسلام میں شریک کھانے میں، مصافحہ کا ہاتھ ملانے میں آزاد، قرآن پڑھنے میں قوم کا مساوی مستحق، مسجد میں غرض ہر امر میں جماعت اسلام کے بادشاہ کا بھی اسلام میں ہم پلہ۔ یوروپین چرچ میں نیو عیسائیوں کے لئے عملی ممانعت، کھانے میں ان کی تحقیر کو ہم ذکر کر کے آریہ کے حالات سے چشم پوشی ہی کرنا مناسب سمجھتے ہیں کیونکہ آج تک انہوں نے نہ کسی غیر قوم کو وید پڑھایا اور نہ وید کو پڑھا کر اپنے ساتھ بے تکلف، آریہ کے حقوق میں کسی کو مساوی حقدار کیا۔ ایسی ہی عملی اور علمی ضرورتوں کے پورا کرنے کے واسطے قرآن نازل ہوا جیسے فرماتا ہے:-

فَدَجَاءَ كُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا (النساء: ۱۷۵) اور فرماتا ہے:-

فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا (آل عمران: ۱۰۴)۔

قرآن والی صداقتیں مختلف بلاد، مختلف کتابوں میں اگر مان لیں پہلے بھی
ساتویں ضرورت: موجود تھیں مگر اول تو ان کتابوں کا غیر محرف ہم تک بہم پہنچنا اور پھر

ان صدقتوں پر نہایت پرانی بولیوں کے ذریعہ واقف ہونا اور ان کی تفاسیر میں سے غلط کو صحیح سے الگ کرنا کیسا مشکل اور محال ہوتا۔ پھر آخر ان صدقتوں کے مجموعہ کو بھی کسی نہ کسی پیرایہ میں بیان کرنا ہی پڑتا۔ علاوہ بریں جو ایک پیرایہ میں نہ جانے اسے دوسرے پیرایہ میں بتانا بلحاظ رحم اگر ضروری ہے تو اسی ضرورت پر قرآن نے فرمایا ہے: **لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَهُمْ قَنَ تَذِيرٍ** (القصص: ۴۷) اور فرماتا ہے: **قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا** (الشوری: ۸)۔

آٹھویں ضرورت: جب اللہ تعالیٰ زمین و آسمان اور ان کے درمیان غرض جو انسانی ضرورت کی اشیاء تھیں پیدا کر چکا تو اس نے انسان کو جس کا وجود بقا ان اشیاء پر موقوف تھا پیدا کیا اور اس میں علاوہ ان قوی کے جو جمادات، نباتات میں موجود ہیں نیک و بد علوم و اخلاق کا مادہ بھی رکھ دیا۔

علمی حصہ میں انسان ان سوشل، مارل، پولیٹیکل قواعد و ضوابط کا محتاج تھا۔ جن کے باعث اکل، شرب، لباس، آسائش، آرام، جماع، اور تمدن و امن میں، ابتداء، انجام، نشیب و فراز، پھر شائستگی، آخر، افادہ و استفادہ ہی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ وہی علوم لینے کا حقدار ہو جاتا ہے اور عملی حصہ میں انسان ارادہ استطاعت کو لے کر کبھی باری تعالیٰ سے انس و محبت پیدا کر کے استقلال، استقامت، فراخ حوصلگی، نفع رسانی، عاقبت اندیشی سے ایسا پاکیزہ باطن بنتا ہے کہ ظاہری نجاست کے ساتھ بھی بارگاہ الہی میں مناجات نہیں کرتا، مگر کبھی انسان شتر بے مہار، ہر ایک ضرورت میں ناعاقبت اندیش، رہبان، فرعون، مضطرب، تنگدل، بخیل، ایسا گندہ کہ پاکیزگی کا نام بھی نہ جانے ہو جاتا ہے۔ فطرت کے موافق سچی آرام دہ اشیاء کا نام نیکی اور مخالف اشیاء کا نام بدی ہے مگر رسم، رواج، آب و ہوا، ناقص تعلیم، افلاس، دولت مندی، حکومت کی بری تاثیر انسان کو ایسے پھندے میں پھنساتی ہے کہ مخالف اشیاء کو موافق اور موافق کو مخالف سمجھ کر عقل و تمیز کو کھو بیٹھتا ہے۔ فطری میزہ قوت اور نور ایمان اور کائنات جسے نفس لوامہ کہتے وہ ایک بیج کی طرح ایسے کمزور ہو جاتی ہے کہ اس میں ایجاد کیا تمیز ہی نہیں رہتی۔

غرض جب ان اسباب سے جن کا ذکر اوپر ہوا تمیز ٹھیک نہیں رہتی تو انسان کو یقینی آرام دہ

مقتن و میتر کے ملنے کا سوال پیدا ہوتا ہے تب ہمہ قدرت، ہمہ فضل، ہمہ طاقت اللہ تعالیٰ جس کے گھر میں بجل نہیں اس کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ پھر جو کچھ ایک ملک میں الہام سے سکھا یا ممکن ہے دوسرے ملک میں اس الہامی تعلیم کا اثر نہ پھیلے اس لئے دوسری قوموں میں اللہ تعالیٰ ملہم بھیجتا ہے۔ جیسے فرماتا ہے: **وَإِنَّ هِنَّ أُمَّةٌ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ** (فاطر: ۲۵) اور فرمایا **وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْحَثَ رَسُولًا** (بنی اسرائیل: ۱۶)۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کو ملہم رسول بھیجے اور ان کو صد اقتیں بتائیں اور ان ملہموں کو ان صد اقتوں کے پھیلانے کی لوگادی مگر ان تعلیمات کے پھیلانے میں انبیاء و رسل کو کوئی اور حد بندی نہیں کر دی گئی کہ فلاں مدت تک فلاں ملک تک اس ہدایت کو پھیلاؤ پھیلاؤ پھیلاؤ کا ثواب ملے گا۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی مقدس روح بھی سُنْتَنَرِ آزاد بنائی گئی تھی۔ وہ مجبور نہیں تھی۔ جب ایک ملہم کے ہدایات و تعلیمات کے پھیلاؤ میں ظاہری یا باطنی یا دونوں صورت میں کچھ ذرا کمزوری ہوئی اور اس کا پورا اثر اس کی تلامیذ یا قوم یا ملک تک بھی ایسا نہ ہوا جس کے بعد قوم کا عذر نہ رہے تو اور پاک شخص اس عہدہ پر ممتاز کیا گیا۔

غور کرو حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کی تاثیر کیسی کمزور ثابت ہوئی۔ جناب کے حواریوں سے فسٹ نمبر کے حواری عیسائی کلیسیا کے فاؤنڈیشن سٹون سیدنا مسیح علیہ السلام کو ملعون کہہ بیٹھے اور جو کچھ یہود اسکر یوٹی نے سلوک کیا وہ دنیا سے مخفی نہیں اور جو کچھ روحانیت آپ کی پاک تعلیم سے آپ کی قوم کو حاصل ہے معلوم۔ سوچو! حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کا وہ قول کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے نکلنا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہت میں داخل ہو (متی ۱۹ باب ۲۴)۔ اور یورپ و امریکہ کی دنیا داری۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مخاطب ایسے تھے کہ جب ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے آہنی تور (یرمیا۔ ۱۱ باب ۴) سے نکال لائے اور حکم کیا کہ کنعان کو چلو تو انکار کر بیٹھے۔ قرآن کریم اس قصہ کو عبرت کے لئے نقل فرماتا ہے۔ آخر بدوں یوشع بن نون اور کالب بن یفنه کے کوئی بھی فرمانبردار نہ نکلا (دیکھو گنتی ۱۴ باب ۳۰)۔

سبحان اللہ کسی نے بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حکم ماننے میں دلیری نہ دکھائی۔
ویدوالے سورج، وایو، اگنی، اگھرہ کتنے ہیں ان کی نسبت کوئی شہادت نہیں دے سکتا۔ کون تھے

کہاں کے رہنے والے، کیسے چال چلن کے تھے اور یہ کہ انہوں نے اگر ملہم تھے اور وید سچے الہامات ہیں تو کس قدر ویدوں کا اثر دنیا میں پھیلا یا۔ رہے ان کے جانشین اور جانشینوں کے تعلیم یافتہ۔ سو موجب دعویٰ آریہ کے قریباً دو ارب برس گزرتے ہیں کہ ویدوں نے دنیا میں ظہور پایا اور اس عرصہ میں وید کے اتباع میں کسی نے ان کا صحیح ترجمہ بھی نہ کر دکھایا۔ دوسروں سے کیا اپنے لوگوں سے بھی اخفا کرتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ ویدوں پر عمل درآمد ہا سو آریہ کا چال چلن ہی بتاتا ہے کہ کس قدر وید پر عمل کرتے ہیں۔

غرض جب کسی نبی کی پاک تعلیم نے دنیا پر اپنا قوی اثر نہ دکھایا اور نہ اس نبی کے جانشین نے اپنی پاک تعلیمات کو جگت پر ظاہر کیا تو اللہ تعالیٰ کے رحم و فضل نے اور کو یہ عہدہ عطا کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک ایسا آدمی دنیا پر ظاہر ہوا جس نے ان تعلیمات کو پھیلا یا اور اشاعت میں جو کس باقی رہی اس کی تلافی وہ جانشین کرنے لگے۔ جن کی کرامات و پاک تاثیرات کے اثبات میں علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل (تفسیر الرازی۔ سورۃ فصلت ”حَمَّ السَّجْدَةَ“ زیر آیت: ۳۳ تا ۳۶) کی پیشین گوئی ہو چکی تھی اور چونکہ الدال علی الخیر کفاعلہ (سنن ترمذی، کتاب العلم، باب الدال علی الخیر کفاعلہ) کے رو سے جانشینوں کی پاک کوششوں کا ثواب ان ہادیوں کے نامہ اعمال میں بھی انصافاً درج ہوتا ہے اس واسطے یہ سب آپ کی کوششیں ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روحانی ہدایت و ترقی..... مخلوق کے فرد فرد کے لئے کسی مذہب میں ضروری نہیں۔ امید ہے کہ جس طرح عرب و شام و مصر و روم اور ہندو سندھ، تاتار پر بلا واسطہ یا بالواسطہ حجت قائم ہو گئی اسی طرح تمام دنیا پر حجت قائم ہو جائے گی۔ جب سب دنیا کو مجموعہ صد اقلتوں کا پہنچ گیا اور ان پر حجت قائم ہو گئی تو یہ حصہ احکام سنانے کا پورا ہو گیا۔ اب ان کی جزا سزا کا وقت آ جاوے گا اسی ضرورت کی طرف قرآن شریف اشارہ فرماتا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُرَكِّبُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَ إِن كَانُوا مِن قَبْلِ لَفِي صَلِّ مُبِينٍ (آل عمران: ۱۶۵)

(ریویو آف ریپبلیکن ستمبر ۱۹۲۳ء صفحہ ۱۸ تا ۱۹)



انڈیکس

خطبات نور

مرتبہ: محمد محمود طاہر صاحب

آیات قرآنیہ	۳
احادیث نبویہ	۱۲
کلید مضامین	۱۲
اسماء	۳۶
مقامات	۵۲
کتابیات	۵۹

آيات قرآنية

الفاتحة

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم (٢-٤) ٩٦
٥٥٠٥٣٤٢٩٨٢٩٥٢٨١٢٦٨٢٣٢١٢٥٨٢٥٣٢٥٣١٨٢

البقرة

الم ذلك الكتاب لا ريب فيه (٢-٩) ٩٨٩٦٨٤
٥١٨٢٩٣٢٦٣٢٩٥٢٦٣٢٦٣٢١٣١٥٢

في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً (٦) ٩٤٨٤

اولئك الذين اشتروا الضلالة (١٤) ٩٤

ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا (٢٣) ٥٩٢

كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا (٢٩) ٢٢

اني جاعل في الارض خليفة (٣١)

٢٤٠٢٣٥١٢٩١٢٤

وعلم آدم الاسماء كلها (٣٢) ٢٩٠

سبحنك لا علم لنا (٣٣) ٢٣٥

اسجدوا لادم (٣٥) ٢٤٠

فاما ياتينكم منى هدى (٣٩) ٢٩٣

اقيموا الصلوة واتوا الزكوة (٢٣) ٢٦٤

واذ نجينكم من ال فرعون (٥٠) ٢٦٨

اذ فرقنا بكم البحر فانجينكم (٥١) ٢٦٨

ثم اتخذتم العجل من بعده (٥٢) ٢٦٨

كلوا من طيبات (٥٨) ٣٢٢

واذ قلنا ادخلوا هذه القرية (٥٩) ٢٦٨

واذ قلتم يموسى لن نصبر على

طعام واحد (٦٢) ٢٦٨

لاخوف عليهم ولا هم يحزنون (٦٣) ٣٩٨

مخرج ما كنتم تكتمون (٤٣) ٣١٥

فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم (٨٠) ١٨٤١٨٣

لن تمسنا النار الا اياما معدودة (٨١) ٥٨٩

احاطت به خطيئته (٨٢) ١٠٦

أفتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون

ببعض (٨٦) ٣٠٩١٩٠٢٤٢٢٦

ما انزل على الملكين (١٠٣) ٢٢٢

مانسخ من آية او نسها (١٠٤) ٢٦٥

لن يدخل الجنة الا من كان هوداً او

نصرى (١١٢) ٢١٠٢٠٣

بلى من اسلم وجهه لله و هو محسن (١١٣)

..... ٢١١٢٠٣

واذ ابتلى ابراهيم ربه (١٢٥) ٢٢٨

ربنا وبعث فيهم رسولا منهم (١٣٠) ١٤٦١٥٨٤٦

اذ قال له ربه اسلم (١٣٢) ٢٢٨٢٦٣٢١٣٠٢٦٤

و وصى بها ابراهيم (١٣٣) ٣٦٢

صبغة الله و من احسن من الله صبغة (١٣٩) ٢٢٦

ان الله مع الصابرين (١٥٣) ٣٩٤٢٣٣

ولنبلونكم بشىء من الخوف و الجوع

(١٥٦) ٣٩٤٢٣٢٩

والذين امنوا اشد حباله (١٦٦) ٣٠٢

ليس البر ان تولوا وجوهكم (١٤٨)

..... ٥٤٢٢٣٤٢٣٠

كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت (١٨١)

..... ٢٥٤٢٥١

كتب عليكم الصيام (١٨٣) ٢٢٤٢٤٠

شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن (١٨٦)

..... ٢٢٨٢٤٠

وقاتلوا فى سبيل الله (١٩١) ٢٩١

المائدة

- يحكم ما يريد (٢) ١١
- تعاونوا على البر والتقوى (٣) ٥٢٨٣١٩
- اليوم اكملت لكم دينكم (٤) ٣٢٢١٩٢٨٦١٤
- فنسوا حظا مما ذكروا به (١٥) ٥٣٥٥١٢٢٠٣
- نحن ابناؤه وأحبّؤه (١٩) ١٨٦١٥١
- جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا (٢١) ٣٦٢٢٦٤
- انما يتقبل الله من المتقين (٢٨) ٢٣٢
- وانزلنا اليك الكتاب بالحق (٢٩) ٥٩١
- يا ايها الذين امنوا لاتخذوا (٥٢) ٣٠٢
- جعل منهم القردة والخنازير (٦١) ١٥١
- بلغ ما انزل اليك والله يعصمك من
الناس (٦٨) ١٩٣١٨٨١٣٠٩١٤
- ما المسيح ابن مريم الرسول (٤٦) ٢٥٠
- ولتجدن اقربهم مودة (٨٣) ٢٣٣
- جعل الله الكعبة البيت الحرام (٩٨) ٢٣٢
- الانعام
- هو القاهر فوق عباده (١٩) ٢٩٦٢٩٥
- ولقد ارسلنا الى امم من قبلك (٢٣) ٢٥٩
- وكذلك نجزي المحسنين (٨٥) ٥٣٦
- لاتدرکه الابصار (١٠٢) ٢
- لاتسبوا الذين يدعون من دون الله (١٠٩) ٢٨٦٣٩٢
- كلهم الموتى (١١٢) ٣٦١
- تمت كلمت ربك صدقا وعدلا (١١٦) ٢٢٠
- كذلك جعلنا في كل قرية اكبر
مجرميها (١٢٢) ٥١٦٣٣٥
- الله اعلم حيث يجعل رسالته (١٢٥) ١٢٩
- لهم دار السلم عند ربهم (١٢٨) ٣٩٥
- ربنا استمتع بعضنا ببعض (١٢٩) ٢٨٥

- وكذلك نولى بعض الظالمين (١٣٠) ٢١٦
- الم ياتكم رسل منكم (١٣١) ٢٢٣
- لاتقربوا مال اليتيم (١٥٣) ٢٣٦
- وهذا كتاب انزلناه مبرك (١٥٨-١٥٦) ٥٨٨
- من جاء بالحسنة فله عشر امثالها (١٦١) ٥٤٨

الاعراف

- ابغىكم لها وهو فضلكم على العالمين (١٢١)
٢٩٦٣٦٩
- انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا (١٢٩) ٢٥٦
- يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا (١٥٩)
٥٨٨١٥٢

الانفال

- واصلحوا ذات بينكم (٢) ٣٠٥
- ومارميت اذ رميت (١٨) ٣٦٥
- يحول بين المرء وقلبه (٢٥) ٣٠٨
- ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا (٣٠) ٢٣٣
- فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة (٣٤) ١٩٩٢٢٢
- ليهلك من هلك عن بينة (٢٣) ١٢٠
- ولا تنازعوا فتفشلوا (٢٤) ٥٣٦٢٣١٢٢٩٢٢٠٤
- وان يريدوا ان يخدعوك (٢٣-٢٢) ٣٩٤٢٥٣
- ان الذين امنوا وهاجروا (٤٣) ٣٠٢

التوبة

- ان الله يحب المتقين (٢) ٢٣٢
- اكثرهم فسقون (٨) ١٥١
- ان الله معنا (٢٠) ٨٢
- رضوان من الله اكبر (٤٢) ١٢١
- خلطوا عملا صالحا و اخر سيئا (١٠٢) ٢٢٢
- والذين اتخذوا مسجدا ضارا (١٠٤-١٠٩)
٢٥٠٣٤٩

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين (١٠٨) ١٨٠١٥٢

الحج

وترى الارض هامدةً (٦) ٥٤١
من كان يظن ان لن ينصره الله (١٦) ٤
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض (٣١) ٢٨٦

المؤمنون

قد افلح المؤمنون (٢٣٣٢) ٥٤٠٥٦٩
والذين هم على صلواتهم يحافظون (١٠) ٣٠٩
خلقنا الانسان من سلالة (١٣) ٥٣٢

النور

لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون (١٣) ٢٢٢
الخبيث للخبيثين والخبيثون للخبيثت (٢٤)
٢٢٥٢١٤

قل للمؤمنت يغضضن من ابصارهن (٣٢)

٣١٠٢٢٥

الله نور السموات والارض (٣٦) ٣٣٤

على كل شىء قدير (٣٦) ٣٣٤

انما كان قول المؤمنين (٥٢) ٣٠٢

قل اطيعوا الله واطيعوا

الرسول (٥٨٣٥٥) ٢

وعد الله الذين امنوا منكم و عملوا الصلحت

(٥٦) ٢٣٥٢٩٠٢٢٩١٨٢١٢٢٦

انما المؤمنون الذين امنوا بالله (٦٣) ٣٠٢

الفرقان

خلق كل شىء فقدره تقديراً (٣) ٣٠٦٢٠٩

يرب ان قومى اتخذوا هذا القرآن

مهجوراً (٣١) ٥٢٣١٩٣١٦٥٢٤٥٨

يبيتون لربهم سجداً وقياماً (٦٥) ١٥٣

بنى اسرائيل

سبخن الذى اسرى بعبده (٢) ١٣٤

يهدى لى هي اقوم (١٠) ٢٦٣

وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا (١٦) ٥٩٥

كلا نمد هؤلاء و هؤلاء (٢١) ٢٩٨

وقضى ربك الاتعبدوا الا اياه (٢٣) ٢٢٤

و من كان فى هذه اعمى فهو فى الآخرة

اعمى (٤٣) ١١٥

قل لئن اجتمعت الانس و الجن (٨٩) ٥٩٢

يخرون للاذقان يبكون و يزيدهم (١١٠) ١٥٣

الكهف

ويذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً (٦٥) ١٩١

نفخ فى الصور فجمعهم جمعاً (١٠٠) ١٩٠

يحسبون انهم يحسنون صنعاً (١٠٥) ١٩٢

مريم

انى اخاف ان يمسك عذاب من

الرحمن (٣٦) ١٨١

طه

الرحمن على العرش استوى (٦) ٥٥٥

يعلم السر و اخفى (٨) ٢٣٠٢٠٦

رب اشرح لى صدرى (٢٩-٢٦) ٣٠٠

افلا يرون الا يرجع اليهم قولاً (٩٠) ١٨٣

قل رب زدنى علماً (١١٥) ٣٦٠

و من اعرض عن ذكرى فان له معيشة

ضنكاً (١٢٥) ٨٠

الانبياء

ما يأتىهم من ذكر من ربهم (٢٤٣) ٢٩٣٢٩١٢٩٠

لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا (٢٣) ٥٩٢

والتى احصنت فرجها (٩٢) ٣٤٦

الشعراء

- انا لمدركون (٦٢) ٨٢
 كالا ان معى ربى سيهدين (٦٣) ٨٢
 الا من اتى الله بقلب سليم (٩٠) ٣٢٩
 نزل به الروح الامين (١٩٣) ٢٦٩

النمل

- ان هذا القرآن يقص على بنى اسرائيل (٤٤)
 ٥٨٩

القصص

- حرمنا عليه المراضع (١٣) ٢٢٨
 رب انى لما انزلت الى من خير فقير (٢٥) ٢٨١
 لتنذر قوما ما اتهم من نذير (٢٤) ٥٩٣
 احسن كما احسن الله اليك (٤٨) ٢٠٦

العنكبوت

- احسب الناس ان يتركوا (٣) ٤٨
 اتل ما اوحى اليك من الكتاب (٥٢٦٣٦)
 ٥٢٨١٩٠
 اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب (٥٢)
 ٢٨٣ ٢٢٢
 كل نفس ذائقة الموت (٥٨) ٢٥١
 والذين جاهدوا فينا لتهديهم سبلنا (٤٠) ١٣٣ ٩٢

الروم

- لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة
 ورحمة (٢٢) ٢٨٦
 من آيتهم خلق السموات و الارض (٢٣) ٥٣٣ ٣٣٨
 ظهر الفساد فى البر و البحر (٢٢) ٢٥٨

لقمان

- من خلق السموات و الارض ليقولن
 الله (٢٦) ٥٩

السجده

- قل يتوقكم ملك الموت (١٢) ٢٦٩
 انما يومن بايتنا الذين اذا ذكروا بها (١٦-١٧)
 ٣٠٢ ١٥٢
 افمن كان مومناً كمن كان فاسقاً (١٩) ٢

الاحزاب

- ان بيوتنا عورة (١٣) ١٠٦
 لقد كان لكم فى رسول الله اسوة
 حسنة (٢٢) ٣٠٣ ٥٨
 يا ايها النبى قل لازواجك (٢٩) ٢١٤
 ما كان لمؤمن و لامؤمنة (٣٤) ٣٠٢
 ولن تجد لسنة الله تبديلاً (٦٣) ١٥
 قولوا قولاً سديداً (٤١) ٥٥٤ ١٣٥

فاطر

- ارسل الرياح (١٠) ٢٣٤
 وما يعمر من معمر (١٢) ٢٦٨
 وان من امة الا خلا فيها نذير (٢٥) ٥٩٥ ١٢٠
 انما يخشى الله من عباده العلماء (٢٩) ٤٣ ٤٣
 الذى احلنا دار المقامة (٣٦) ٣٩٥

يس

- يا ليت قومى يعلمون (٢٤) ٨٠
 يا حسرة على العباد (٣١) ١٠٢

الصفات

- يا بى افعلى ما تؤمر (١٠٣) ٢٦

ص

- يا داؤد انا جعلناك خليفة فى الارض (٢٤) ٢٤١

الزمر

يستمعون القول فيتعون (١٩) ٢٣١

اللّه يتوفى الانفس حين موتها (٢٣) ٢٦٩

المؤمن

يصيبكم بعض الذى يعدكم (٢٩) ٢٣٦

انا لننصر رسلنا و الذين آمنوا (٥٢) ١٣٢٩١٣١٢٩١٢٨ ١٣٢٩١٣١٢٩١٢٨

ادعونى استجب لكم (٢١) ٢٠٣٦١٨٣

منهم من قصصنا عليك و منهم من

لم نقصص عليك (٤٩) ٥١٣

حَم السجدة

قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى (٤) ٥٩٠

فقطضهن سبع سموات فى يومين (١٣) ٢٢٤

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا (٣١) ٢٣٦٥١ ٢٣٦٥١

نحن اولياءكم فى الحياة الدنيا (٣٢) ٥٠٠

ادفع بالنى هى احسن (٣٥) ٣٩٦

لاياتيه الباطل من بين يديه (٢٣) ٥٢٩٥٣٨٢٢٢ ٥٢٩٥٣٨٢٢٢

الشورى

قراناً عربياً لتندر ام القرى (٨) ٥٩٣

ليس كمثله شىء (١٢) ٢٦٤٢٢٢١٦٨

لا استلکم عليه اجرأ (٢٣) ٢٩٥

فبما كسبت ايديكم (٣١) ٥٠٢

وامرهم شورى بينهم (٣٩) ٢٥٨

الزخرف

لوانزل هذا القران (٣٢) ١٢٩

ام انا خير من هذا الذى (٥٣) ٩٨

الاحقاف

قل ما كنت بدعاً من الرسل (١٠) ١٦٠

محمد

لايستلکم اموالکم (٣٤) ٢٩٥

والله الغنى و انتم الفقراء (٣٩) ٢٤٣

الفتح

ان الذين يباعدونك (١١) ٣٦٥

اشداء على الكفار (٣٠) ٣٩٦٢٥٩٨٢

الحجرات

لاتقدموا بين يدى الله ورسوله (٢) ٥٥

لاترفعوا اصواتکم فوق صوت النبى (٣) ٥٦

انما المؤمنون اخوة (١١) ٣٠٢

لايسخر قوم من قوم (١٢) ٢٨٤

يايها الذين آمنوا اجتمعوا كثيراً من الظن (١٣) ٥٨٣٢٤٨٢٤٤

ان اكرمکم عند الله اتقکم (١٢) ١٣٦

انما المؤمنون الذين آمنوا (١٦) ٣٠١

الذاريات

افلا تبصرون (٢٢) ٣٢٩

الطور

نتربص به رب المنون (٣١) ٣٩٥

النجم

ماضل صاحبکم و ماغوى (٣) ٣٤٢

ماينطق عن الهوى (٤) ١٣١٥

علمه شديد القوى (٦) ٣٤٢

وهو بالايق الاعلى (٨) ٣٤٢

القمر

ولقد يسرنا القران للذكر (١٨) ٥٥٠

مليک مقتدر (٥٦) ٣٣٤

الرحمن

الرحمن علم القرآن (٣٦)..... ١٨١

كل من عليها فان (٢٤)..... ١٥

كل يوم هو في شأن (٣٠)..... ٣٥٨

هل جزاء الاحسان الا الاحسان (٦١)..... ١٣٢

الواقعة

اذا وقعت الواقعة (٢)..... ٢٤٨

والسبقون السبقون اولئك المقربون (١٢١).....

٣٣٢.....

تنزيل من رب العالمين (٨١)..... ٥٣٨

المجادلة

كتب الله لاغلين انا ورسلى (٢٢)..... ٢٢٤

لا تجد قوما يؤمنون بالله (٢٣)..... ٣٠٢

الحشر

وما اتكم الرسول فخذوه (٨)..... ٢٢٤

السلام المؤمن المهيم (٢٣)..... ٣٩٥

المتحنة

يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات (١٣)..... ٣١

الصّف

هو الذي ارسل رسوله بالهدى (١٠)..... ٢٢٨

الجمعة

يسبح لله ما في السموات وما في الارض (٩٢٢)

..... ٢٢٣

فاذا قضيت الصلوة فانتشروا (١١)..... ٣٢٢

المنافقون

لله خزائن السموات والارض (٨)..... ١٩٤

ولله العزة ورسوله وللمؤمنين (٩)..... ١٣٨

التغابن

والله عليم بذات الصدور (٥)..... ١٨٨

الطلاق

من يتق الله يجعل له مخرجاً (٣)..... ٢٣٢

من حيث لا يحتسب (٢)..... ٢٢٨

الملك

لو كنا نسمع او نعقل (١١)..... ٢٢٠

القلم

ن والقلم وما يسطرون (٢)..... ٨٢

ما انت بنعمة ربك بمجنون (٣)..... ٨٥

وان لك لاجرا غير ممنون (٤)..... ٨٥

انك لعلى خلق عظيم (٥)..... ٣٤٠

لاتطع كل حلاف مهين (١١)..... ٥٠٩

الحاقة

انه لقول رسول كريم (٢١)..... ٢٦٩

فوح

اني لكم نذير مبين. ان اعبدوا الله (٢٣)..... ٣٠٣

المزمل

انا ارسلنا اليكم رسولا (١٨٢)..... ١٢٤

المدثر

يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر (٢)..... ٣٢٥

الدهر

هل اتى على الانسان حين (٢)..... ٢٢٠

الطارق

انه لقول فصل وما هو بالهزل (١٥)..... ٥٨٩

خير من الف شهر (٢)..... ١٩٣

البينة

لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب (٢-٢)

٥٩١٥٨٨٥١٣٨٢٨.....

القارعة

من ثقلت موازينه (٨٤)..... ٢٢٢

العصر

والعصر. ان الانسان لفي خسر (٢-٢) ٥٠٨٥٠٦.....

الكوثر

انا اعطيتك الكوثر (٢)..... ٦٨

الكافرون

لكم دينكم ولى دين (٤)..... ٣٨٤

النصر

اذا جاء نصر الله و الفتح (٢) ٣٥٩٢٢٩٨٦.....

الاعلى

سبح اسم ربك الاعلى (٢)..... ١٢٤

الشمس

قد افلح من زكّها (١٠)..... ٣١٤

الليل

والليل اذا يغشى (٥-٢)..... ٥١٠

ان علينا للهدى (١٣)..... ١١٤

الضحى

اما بنعمة ربك فحدث (١٢)..... ٢٩٥

التين

لقد خلقنا الانسان فى احسن تقويم (٥) ٥٣٣.....

العلق

اقرا باسم ربك الذى (٢)..... ٣٢٥

القدر

انا انزلناه فى ليلة القدر (٢)..... ٢٦٩



احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم

۳۳۱.....	قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ.....	۲۵۹.....	أَلَا هَلْ بَلَغْتُ.....
۲۲۳.....	كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ.....	۳۳۲.....	اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ.....
۵۹۳.....	لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَيَّ الْحَقِّ.....	۱۵۸.....	وَالْحَبَائِثِ.....
۲۶۴.....	لَمَّا خَلَقَ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ.....	۳۴۶.....	اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ.....
۳۴۰.....	مَرَضْتُ فَلَمْ تَعُدَّنِي.....	۱۸۹.....	إِمَامُكُمْ مِنْكُمْ.....
۳۹۶۱۷.....	الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.....	۱۵۹.....	إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُهَا دِينَهَا.....
۱۷۸.....	مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.....	۲۲۹، ۵۳.....	إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.....
.....	مَنْ لَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ فَقَدْ مَاتَ مِيتَةَ الْجَاهِلِيَّةِ.....	۵۸۴، ۵۶۸، ۴۷۷، ۲۶۳، ۲۶۲.....	إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ.....
۷۱.....	مِنْكُمْ أَمِيرٌ وَمِنَّا أَمِيرٌ.....	۱۵۹، ۱۵۵.....	ثُمَّ يَفْشُوا الْكُذِبَ.....
۱۹۸.....	احادیث بالمعنی	جُبِلَتِ الْقُلُوبُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا.....
.....	آ محضورے نصیفں چیرتے ہوئے آگے جانے سے منع فرمایا ہے۔.....	۳۳۲، ۱۸۱.....	حُبِّ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ.....
۱۷.....	احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے یا کم از کم یہ کہ یقین کر لے کہ اللہ تجھ کو دیکھتا ہے.....	۲۸۴.....	حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ.....
۶۴.....	ایک مٹھی جو کی جو آج قدر ہے آئندہ اُحد پہاڑ بنتا سونا دینے کی وہ قدر نہ ہوگی.....	۱۵۷.....	خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكُكُمْ.....
۶۹.....	سورۃ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے.....	۱۵۸، ۱۵۵.....	خَيْرُ الْقُرُونِ قُرْنِي.....
۷۸.....	احسان کی تعریف.....	۵۹۶.....	الذَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ.....
۱۰۰.....	مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے عام لوگ اور مسلمان محفوظ رہیں.....	۴۰۸.....	الْصَّدَقَةُ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ.....
۱۳۱.....	مہدی کے وقت رمضان میں کسوف و خسوف ہوگا اور اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا.....	أُعْبُدُ اللَّهَ كَمَا نَكَتَ تَرَاهُ فَإِنَّ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.....
۱۶۳.....	شراب جماع الاثم ہے.....	۳۹۸.....	الْعِلْمُ عِلْمَانُ عِلْمُ الْأَبْدَانِ وَعِلْمُ الْأَدْيَانِ.....
۱۷۳.....	جمعہ کے دن ایک قبولیت دعا کی گھڑی آتی ہے.....	۵۹۶.....	عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ.....
۱۹۱.....	۲۷۶.....	عَلَيْكَ بَدَاتِ الدِّينِ.....
.....	۱۵۸.....	عُفْرَانُكَ.....

فرشتہ نے پوچھا آپ نے کیا بنا ہے فرمایا عبد پھر پوچھا
 فرمایا۔ عبد..... ۳۳۰
 ابراہیم اگر چشمہ کے ارد گرد اینٹیں نہ رکھتے تو وہ ایک ندی
 کی صورت میں تبدیل ہو جاتا..... ۳۵۰
 شام کو گھروں کو بند کرو۔ بچوں کو باہر نہ جانے دو برتن
 ڈھانپ دیا کرو..... ۳۷۳
 جو آپ کی مجلس میں بیٹھا اللہ نے اسے قرب دیا۔ جو وہ ہیں
 بیٹھ گیا حیا سے اللہ بھی حیا کریگا اور جس نے منہ پھیرا اللہ
 بھی منہ پھیرے گا..... ۳۹۸، ۳۹۹
 قریشیوں کی سلطنت میں زوال نہ ہوگا جب تک
 دو بھی ہوں..... ۴۰۶
 تمہاری طبائع خواہشیں لباس خوراک مختلف ہے ان
 اختلافوں کی وجہ سے ایک دوسرے کی بدی مجھ تک
 مت پہنچاؤ..... ۴۱۴
 قریش میں امام ہیں۔ شریروں کے شریکے اور خیار کے خیار ۵۳۳
 جب کسی آدمی کا اللہ سے تعلق بڑھ جاتا ہے تو جبریل کو حکم
 ہوتا ہے کہ اس سے تعلق پیدا کرو..... ۵۳۶
 جنازہ پڑھانے سے قبل آپ متوفی کے قرض کے بارہ
 میں دریافت فرماتے۔ جب ذمہ دار اقرار کرتا تو جنازہ
 پڑھاتے..... ۵۸۳

جو جمعہ کی پرواہ نہیں کرتا ۱۴ حصہ دل سیاہ ہو جاتا ہے
 اور دو جمعہ کے ترک سے نصف اور چار جمعہ کے ترک
 سے سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے..... ۱۹۱
 جو جمعہ سے تخلف کرتے ہیں میرے جی میں آتا ہے
 کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دی جاوے..... ۱۹۱
 آپ کا جمعہ میں فتنہ دجال سے ڈرانا..... ۱۹۲
 پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجہ کو کہنا کہ مجھے اپنی جان کا
 ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ کا جواب کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں
 کرے گا..... ۲۲۰
 جنم میں عورتیں زیادہ جائیں گی بسبب لعن طعن اور خاوند
 کی نافرمانی کے..... ۲۲۲
 اپنی زبان قابو میں رکھو کیونکہ زبان دوزخ میں اوندھا گرا
 دیتی ہے..... ۲۲۳
 ملائکہ و شیاطین کو ہر وقت انسان کے دل سے تعلق رہتا ہے ۲۳۶
 قیصر و کسریٰ کی کنجیاں مجھے دی گئیں..... ۲۴۶
 احادیث میں مذکور ایمان کے شعبے..... ۳۰۶ تا ۳۰۸
 نماز مومن کی معراج ہے..... ۳۱۱
 اس وقت جو مٹھی بھر جو دے گا اس کا اجر اتنا ہے کہ آگے ایک
 قوم اُحد کے برابر بھی سونادے گی تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا ۳۱۹



کلید مضامین

		آ - ۱	
۵۰۰۲۳۲	ہمارے عقائد اور اعمال	۵۶۵۵	آداب الرسول
۲۹۹	ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے کہ وہ اسماء حسنیٰ کا مسٹی اور تمام نقائص سے منزہ ہے	۵۶	آداب مجلس
۲۰۸	جماعتی ترقی رک جائے تو عہدیداران صدقہ و خیرات استغفار اور دعاؤں سے کام لیں		آزادی اظہار
۸۱	قرآنی تعلیم سیکھنے کی ہماری ذمہ داری		میں اس بات کیلئے بالکل تیار نہیں کہ سب لوگ میرے
۵۰۲	حضور کی جماعت کو نصائح	۲۰۴	ساتھ متفق ہی ہوں بلکہ میں تو آزاد خیال بنانا چاہتا ہوں
	اخوت بر بھائی چارہ		آریہ دھرم
	جب مامور من اللہ آتا ہے تو ایک نئی برادری پیدا ہوتی	۵۸۹	اللہ تعالیٰ کے بارہ میں غلط عقائد
۱۳۵	ہے اس کا نام اخوان رکھتا ہے	۲۴۴	خدا کو روح کا خالق نہیں مانتے
	اسلامی اخوت کا کرشمہ آنحضورؐ کی پھوپھی زاد بہن		آریوں نے چار ارب کے اندر خدا کی بادشاہی کو
۱۳۶۱۳۵	زیب کا نکاح زید بن حارث سے ہو گیا	۵۱۳	محدود کیا
	اذان		وید کی عمر دو ارب سال اور اس کی لغت دو چار ہزار
	دین اسلام کے تمام اصول اور فروغ کے لئے	۵۹۶۲۰۱	سال برس بتاتے ہیں
۳۹۰	جامع کلمات پر مشتمل ہے	۵۹۳	کسی غیر قوم کو وید نہیں پڑھاتے
۲۸۳	اذان میں اصول اسلام کا اعلان ہے	۲۹۷	آریہ دھرم میں نیوگ کا عقیدہ
	ارکان ایمان دیکھئے ایمانیات	۲۹۷	دوسروں کی بدیاں بیان کرنے میں دلیر ہیں
	استغفار		آریہ دھرم پر حضرت مسیح موعودؑ کی کتب
	استغفار بہت ضروری چیز ہے اور انبیاء کا اجماعی	۲۵۴	اور حجت تمام کرنا
۲۴۸	مسئلہ ہے		ابتلاء
۳۵۴	استغفار انسان کو بہت سی بدیوں سے محفوظ رکھتا ہے	۷۸	ابتلاؤں کے آنے کی غرض
۵۶۵	تلافی نقصان کے لئے استغفار کریں		احسان
	اسلام	۱۰۰۶۴	احسان کی تعریف
۳۹۴	اسلام کے معنی صلح و آشتی کے ہیں		انسانی فطرت میں ہے کہ جو شخص اس سے احسان
		۳۳۲	کرے اس سے محبت کرتا ہے

۳۹۴	اس کے معنی فرمانبرداری کے بھی ہیں	سین اور فلسطین کی پرشکت اسلامی حکومتوں
۱۳۹	اسلام کی حقیقت۔ اپنی ساری طاقتوں کے ساتھ	نے پرانے معبودوں کو نہیں چھیڑا
۳۹۶	اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا	احسان عام کی اسلامی تعلیمات اور اس کے
۳۹۵	اسلام کے لفظ کوالٹ پلٹ کر دیکھا ہے سارے	امتیازی اصول
۵۷۷	لفظوں میں خوبیاں پائی جاتی ہیں	مذہب کے لحاظ سے اسلام میں سب مساوی ہیں
۳۹۵	اسلام سلمتی چاہتا ہے۔ عجیب قسم کی حفاظت مومن کو	اسلامی فرقوں میں کوئی بہت بڑا عقائد کا اختلاف نہ ہے
۵۷۷	عطا ہوتی ہے	اسلام کے تمام فرقے سورۃ فاتحہ کو نماز میں پڑھتے ہیں
۳۹	اسلام نے ایمان کے دو بڑے شعبے قرار دیئے ایک	خدا تعالیٰ نے وعدہ کے موافق رسول اللہ کی وفات کے
۵۷۷	تعلیم لامر اللہ اور دوسرا شفقت علی خلق اللہ	بعد اسلام کی شوکت کو ابو بکر صدیقؓ کے ہاتھ پر قائم کر دیا
۳۹	سعادت مندی اور عقل سے انسان اس نتیجے پر پہنچ	یہاں اسلام کا پھیلاؤ بزرگوں کی کوششوں اور پختہ
۵۷۷	جائے گا کہ اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو انسان کے	ارادوں کا نتیجہ ہے
۳۹	روحانی تقاضوں کو پورا کرتا ہے	اسلام پر عیسائی، آریہ، برہمن، دہریہ، طبعی اور فلسفی
۵۷۷	اسلام کے تمام احکام سے ہر انسان اپنی استطاعت	حملہ آور تھے اسی طرح اندرونی حملے تھے
۵۷۷	کے مطابق فائدہ اٹھا سکتا ہے	اندرونی مخالفتوں نے بھی اسلام کی عجیب طور پر مخالفت کی
۳۹	اسلام کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اور اب بھی کریگا	اسلام پر مختلف مذاہب کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں
۵۷۷	تو حیدر اسلام کا اصل ہے اور اس امر کو پورا کرنے کے	اسلامی جنگوں پر اعتراض کرنے والے مذاہب
۳۹	لئے اذان میں بلند آواز اللہ اکبر کا کلمہ رکھا ہے	خود اس میں مبتلا ہیں
۵۷۷	اسلام نے لا الہ الا اللہ کہہ کر تمام شرکوں کی جڑ	اسلام پر اعتراضات اور نابود کرنے کیلئے عیسائیوں
۳۹	کاٹ دی ہے	کے حربے
۵۷۷	اسلام کا دوسرا پہلو شفقت علی خلق اللہ ہے	اسلام پر اعتراضات اسی صدی کا کرشمہ ہے اور
۳۹	پانچ ارکان اسلام	انڈیا میں اس کو ترقی ہے
۳۹۰	اذان دین اسلام کے تمام اصول اور فروع کے جامع	مسیحیوں نے تین ہزار اعتراضات اسلام پر کیا ہے
۳۹۰	کلمات پر مشتمل ہے	دین کے لئے تلوار اٹھانے کے اعتراضات کا جواب
۳۹۰	تمام مخفی مذاہب کے مقابلہ میں اسلام پانچ وقت روزانہ	اسلام کی موجودہ حالت مزکی کی ضرورت کو چاہتی ہے
۳۹۰	بلند آواز سے اپنے عقائد کو کھول کر بیان کرتا ہے	جب تیرہ سو سال گزرے اور اسلام پر اہمیت غالب
۳۹۰	اسلام نے مذہبی آزادی کو قائم رکھا	آگئی تو اللہ تعالیٰ نے حسب ضرورت اپنا رسول بھیجا
۳۹۰	اسلام کے احسان عام کا دوسرا اصل کہ کسی دوسری قوم	اسلام اور دیگر مذاہب کے عنوان پر حضور کی تقریر
۳۹۰	کے موجود کو گالی نہ دیں	اصول تفسیر
۳۹۰	اسلامی تعلیم کا امتیاز خود حفاظتی کی تعلیم دے کر تمام معابد	تفسیر و فہم قرآن کے بعض گرا اور اصول
۳۹۰	کی حفاظت کی ضمانت دے دی	

ایک شخص کا اعتراض کہ مجھے کبھی الہام نہیں ہوا اور	اطاعت
مرزا صاحب کو الہام ہو گیا؟	اطاعت و فرمانبرداری پر یہی سارے کمالات کا مدار
۵۳۷	ہے اور تمام منکھوں کی جڑ ہے
اس اعتراض کا جواب کہ انگریزی کی طرح عربی وغیرہ	حصول کامیابی کا اگر اطاعت الرسول
مختصر نہیں ہوتیں	رسول کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت ہے
۵۵۷	اللہ اس کے رسول اور اولی الامر کی اطاعت،
اسلام پر عیسائیوں کے اعتراضات	ہم سب پر فرض ہے
۱۶۷۳۱۷۳۱۶۷۳۱۶۷	اولو الامر یعنی حکام کی فرمانبرداری کی تعلیم اسلام
اللہ تعالیٰ جل جلالہ	نے دی ہے
اللہ کی معنی	اطاعت و فرمانبرداری نے حضرت ابوبکرؓ کو آپؐ
۳۰۰	کا جانشین بنا دیا
اللہ کے لفظ پر کسی ساوی کتاب نے قرآن کے	اطاعت کی برکات
برابر زور نہیں دیا	صحابہ کرامؓ کی شاندار اطاعت کی مثال
۳۶۹	عبداللہ بن مسعودؓ کی شاندار اطاعت رسول کی مثال
ایمان باللہ کیا چیز ہے۔ اللہ کو تمام صفات کاملہ	اگر حضرت صاحب کی لڑکی لمتۃ الحفیظہ کو امام بنا لیتے
سے موصوف اور تمام نقائص سے منزہ یقین کرنا	تو میں سب سے پہلے بیعت کر لیتا اور ایسی اطاعت
۴۳۱۴۳	کرتا جیسی مرزا کی فرمانبرداری کرتا تھا
اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے بغیر کوئی نیک چلن اور	حضرت مسیح موعودؑ کے خاندان نے میری فرمانبرداری
راستباز نہیں ہو سکتا	کی ہے اور ایک ایک ان میں سے مجھ پر فدا ہے
۴۳	تہیں میری فرمانبرداری ضروری ہے
ہستی باری تعالیٰ کے دلائل	احمدیوں کو حضرت خلیفہ اولؓ کی نصیحت کہ گورنمنٹ
۵۹۲۴۳۸۳۹۲۰۵	کے سچے فرمانبردار بنو
مختلف مذاہب میں اللہ تعالیٰ کے بارہ میں	اطفال
غلط تصورات	حضرت حکیم الامت مولانا نور الدینؒ کی اطفال کو نصائح
۵۸۹۵۸۸	اعترضات
صرف اللہ ہی ہے جو کہ انسان کی ضروریات کی	الرحمن علی العرش استویٰ پر ایک شخص کا
تمام چیزیں مہیا کرتا ہے اور ان کو پیدا کرتا ہے	اعتراض اور حضور کا مسکت جواب
۵۶۱	دین کے لئے تلوار اٹھانے کے اعتراض کا جواب
فوق الفوق اور وراء الوراہ ہستی	عیسائی کے اعتراضات برقرآن کے جواب میں
۴	فصل الخطاب لکھی
اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی وفا دار نہیں	
۱۴۱	
محبت حقیقی کا سرچشمہ ہے	
۳۳۷	
محبوب حقیقی وہی ہے جو تمام صفات کاملہ کی جامع	
۳۳۱۳۳۷	
ہے کیونکہ اسے بچا بھی ہے	
۴۹۹۳۳۸	
وہ اسماء حسنیٰ کا مستحق اور نقائص سے منزہ ہے	
لا زوال خوبیوں کا مالک اور تمام عیبوں سے	
۳۳۸	
پاک محبوب ہے	
۵۹۲	
اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں	
صفات الہی پر کامل ایمان سے انسان بدیوں سے	
۴۳	
بچ جاتا ہے	
۲۸۵	
صفات الہیہ کی جلوہ گری مخلوق پر ہوتی ہے	

قرآن کریم نے صفات الہی کے مسئلہ کو خوب کھول کھول کر بیان کیا ہے	۴۳
وہ رب العالمین ہے اور وہی محبت کے قابل ہے ۲۸۲-۲۸۳	
قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کے تقاضا سے آیا ہے	۸۳
صفت مالکیت	۱۴۸
صفت قدوسیت	۳۶۳، ۱۴۸
صفت العزیز	۱۴۹
صفت الحکیم	۱۴۹
علیم وقادر خدا	۲۳۲
اللہ تعالیٰ کو علیم یقین کرنا ہر بڑی سے روکتا ہے	۳۶۳
السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے	۳۹۵
اللہ تعالیٰ کی صفت الصمد اور اس کے معنی	۳۹۹، ۲۸۵
صفت القاهر	۴۹۵
الہام	
حضرت مسیح موعودؑ کے الہام	
قرب اجلکم المقدر۔ قل میعاد ربک۔	
جاء وقتک	۲۵۱
الہام کی غلط تشریح	۴۲۴
ایک شخص کا کہنا کہ مجھ کو کبھی الہام نہیں ہوا اور	
مرزا صاحب کو الہام ہو گیا	۵۳۷
امام رامامت	
ضرورت امام	۱۵۹، ۱۵۶
امام کی ضرورت سے کوئی سلیم الفطرت انکار نہیں کر سکتا ۴۹	
کامل الایمان مسزنگی اور مطہر کی ضرورت	۱۶۶
امانت	
امانت کے معنی	۵۸۲
مومن کی کامیابی کا پانچواں گرا دئے امانت اور	
رعایت عہد ہے	۵۸۲
انبیاء و نبوت رسالت	
ایمان بالرسول بہت بڑی ایمانی جزو ہے	۴۵
ایمان بالرسول کی ضرورت	۳۰۸
ایمان بالرسول صرف زبانی اقرار کا نام نہیں بلکہ اس ایمان کے موافق عمل بھی ہو	۴۵
انبیاء و رسل اور دوسرے ریفارمر اور لیڈروں میں ایک عظیم الشان فرق	۴۵
سب انبیاء لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں	۳۹۴
انبیاء اور ان کے خلفاء کی عرض لا الہ الا اللہ رہی ہے	۲۷۵
ایک بڑی بھاری شناخت صادق کی ہے کہ وہ ایک وحدت کی روح اپنے ساتھ لے کر آتا ہے	۱۲۵
رسول مرصات اللہ کا مظہر اور خدا تعالیٰ کے ہاتھ کی کُل ہوتا ہے	۵
رسول کی ہر بات رضائے الہی اور اطاعت الہی کا نمونہ ہوتی ہے	۵
انبیاء نزا علم دینے کے لئے نہیں آتے بلکہ وہ اپنے اندر ایک کشش اور جذب کی قوت رکھتے ہیں اپنی قوت قدسی کا اثر ڈالتے ہیں	۵۹
انبیاء سے فیض کی ایک ہی راہ ہے ان کی صحبت میں رہنا ۵۸	
انبیاء و مرسلین کے کام اللہ کے اشارے اور ایما کے ماتحت ہوتے ہیں	۶۳
انبیاء علیہم السلام میں عبودیت کی حُب رکھی ہے	۳۳۰
رسول کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت ہے	۳۰۳
سنت اللہ ہے کہ مامورین کو اولاً غریب اور ضعیف لوگ قبول کرتے ہیں	۵۱۶
انبیاء اور صلحاء کی لائف میں جب سے دنیا پیدا ہوئی کوئی واقعہ خود کشی کا نہیں پایا جاتا	۶۵
تمام وعدے نبی کی زندگی میں پورے نہیں ہوتے	۲۴۶
دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی گزرے ہیں	۹
سب انبیاء کا ذکر قرآن میں نہ کرنے کی وجہ	۱۲۰

۶۹	مامور من اللہ کے ابتدائی زمانہ میں انفاق فی سبیل اللہ کی قدر و قیمت	۵۰۰	آئندہ آنحضرتؐ کی نبوت میں گم اور فنا ہونے کے بغیر کوئی نبوت نہیں مل سکتی
۲۹۶	چندوں کے بڑے عجائبات ہیں اور یہ چندے انبیاء کے ساتھ بھی رہے اور اولیاء کے ساتھ بھی	۵۰۱	حضرت مسیح موعودؑ کی نبوت کوئی مستقل چیز نہیں بلکہ نبوت محمدیہ کا ایک پھل اور نتیجہ ہے
۵۸۰ تا ۵۷۸	صدقات و خیرات کی برکات، عذاب بلائیں مل جاتی ہیں	۵۳۵	برہمولوج انبیاء کی پاک جماعت کے منکر ہیں
۲۹۵	حضرت خلیفہ اولؓ کا انفاق فی سبیل اللہ	۴۰۵	انجمن احمدیہ انجمنوں کے کارکنان کو حضورؐ کی نصائح
۲۹۶	حضرت حکیم فضل الدین بھیرویؒ کی مالی قربانی	۵۶۶	انجمن ترقی تعلیم امرتسر اس کو چندہ دینا قبیح نہیں ہے
۵۶۷ تا ۵۶۵	مالی تحریکات	۲۹۷	انجمن حمایت اسلام آپ کا فرمانا کہ میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں
۵۶۸ تا ۵۶۷	حضورؐ کی مالی تحریکات پر احباب کا لبیک	۵۵۷	انجمن ہمدرد اسلام قادیان انجمن ہمدرد اسلام قادیان کو حضرت حکیم نور الدین صاحب کی نصائح
۳۴۴ تا ۳۴۱	انگریزی زبان	۲۸ تا ۱۹	انسان انسان بڑے بڑے طاقتور اور خونخوار جانوروں کو قابو کر لیتا ہے
۵۵۷	انگریزی کی نسبت عربی زیادہ مختصر زبان ہے اولیاء	۵۳۳	انصار مدینہ خلافت مہاجرین مکہ کو ملنے اور انصار مدینہ کو نہ ملنے کی وجہ
۱۲	اولیاء کے کمالات میں تمام متعارف سلسلے اپنے اپنے سلسلہ کو حضرت علیؓ تک پہنچاتے ہیں	۱۹۸ تا ۶۶	انصار سے حضورؐ کا سوال کرنا کہ میں کون ہوں اور پھر خود جواب بتانا
۳۰۱	ایمانیات ارکان ایمان	۳۲۳	انعام الہی جدید ذرائع مواصلات و ایجادات یہ تمام انعام الہی ہیں
۳۰۶	ایمان کے ۷۰ کے قریب شعبے	۷۱	انفاق فی سبیل اللہ مالی قربانی
۳۰۶	احادیث میں مذکور ایمان کے شعبے	۲۹۵	انفاق فی سبیل اللہ کی ضرورت
۱۴۳	اسلام نے ایمان کے دو بڑے حصے شعبے قرار دیئے		چندہ کیوں لیا جاتا ہے؟
۴۴۱	ایک تعظیم لامر اللہ دوسرا شفقت علی خلق اللہ		
۴۴۱	ارکان ایمان کی تشریح		
۴۴۱	ایمان باللہ کیا چیز ہے؟		
۴۴	اللہ اور اس کی صفات پر ایمان پیدا نہیں ہوتے		
۳۰۸	جب تک صادق کی صحبت میں نہ رہے		
۳۰۸	ایمان بالرسول کی ضرورت		
۳۰۸	ملائکہ پر ایمان لانے کی حقیقت		
۴۶	مسئلہ جزا و سزا پر یقین اور ایمان لانے کا اہم اور ضروری عقیدہ		

ب-ب-ت

بقا

روح میں بقا کی تڑپ ہے

۳۵۹

بدظنی

بدظنی کے متعلق آنحضرتؐ نے بڑا سخت لفظ بولا ہے

۵۶۸

یا درکھو بدظنی کا کوئی علاج نہیں

۵۵۹

بدظنی سے غیبت نصیب ہوتی ہے

۴۷۸

بدظنی کرنے والوں نے حضرت عائشہؓ پر بھی بہتان

۲۲۵، ۲۲۴

لگا دیا تھا

بدظنی ترک کرنے کی نصیحت ۲۲۱، ۲۱۰، ۴۷۷، ۵۶۸، ۵۸۴

بدعات و لغویات

میں نے اپنے امام کی قبر کو پریشان نہیں بننے دیا تاکہ تم

۳۱۶

غلو نہ کرو

بدی و برائی

شہوت کے غلبہ کا علاج

۳۱۵، ۳۱۳

برہموسماج

۵۰۱، ۴۶۲، ۴۵

تمام انبیاء کو جھوٹا کہہ دیا کیونکہ الہام کی حقیقت کو

۵۳۵، ۲۲۴، ۳۶۶

نہیں سمجھے

ملائکہ کو ماننا مشرکانہ اعتقاد سمجھتے ہیں

۵۳۵

آپ علیہ السلام نے براہین احمدیہ لکھ کر برہمودھرم

۲۵۴

کو بیدار کیا اور حجت تمام کی

۴۶۸

میں ان کو سب سے بڑا دشمن اسلام سمجھتا ہوں

۵۳۸، ۵۳۷

ایک برہموسے دعا کے بارہ میں حضور کی بحث

بہشت و جنت

۳۹۵

بہشت کا نام دارالسلام بھی ہے

بیعت

بیعت بک جانے کا نام ہے

۳۵۲، ۲۲۸

بیعت کا مفہوم اپنے آپ کو بیچ دینے کا ہے۔ دین کو

۱۴۲

دنیا پر مقدم کرنا

بیعت کے بعد امام کی صحبت میں رہنا بھی ضروری ہے ۱۰۶

حضرت مسیح موعودؑ بیعت تو بہ لیتے تھے۔ اس سوال

پر کہ بیعت ارشاد کیوں نہیں لیتے؟ فرمایا۔ میں شکر

۴۳۳

کرتا ہوں کہ تو بہ ہی کر لیتے ہیں

حضرت مسیح موعودؑ نے احمد نام کے سوا کسی اور

۵۰۰

نام سے بیعت نہیں لی۔

۳۵۲

بیعت لیتے وقت تلوار کی دھار پر چلنا پڑتا ہے

الفاظ بیعت میں ان الفاظ کا اضافہ۔ آپس میں

۳۵۵

محبت بڑھائیں گے

۳۱

عورتوں کی بیعت لیتے وقت شرائط

پنجابی

حضرت مسیح موعودؑ کا حضرت حکیم نور الدینؒ کو پنجابی

۱۷۷

میں وعظ کرنے کا ارشاد

پیدائش

پیدائش جسمانی اور تکوین روحانی کے مدارج ۵۶۹ تا ۵۸۵

پیشگوئیاں

تمام وعدے نبی کی زندگی میں پورے نہیں ہوتے

آپ نے قلت رفقاء اور کثرت اعداء کے زمانہ میں

اپنے محفوظ رہنے کی پیشگوئی فرمائی جو پوری ہوئی

بعض مواعد الہیہ کسی دوسرے وقت پر ملتوی کئے

۲۴۶

جاتے ہیں

تاریخ

دوسری مذہبی کتب نے تاریخ عالم بتائی لیکن قرآن

۴۵۰

نے حد بندی نہیں کی کب سے قائم ہے

تاریخ میں جھوٹ اور بیچ میں فرق کرنا ہر شخص کا کام نہیں

۴۴۳

تجارت

۵۷۵

تجارت فی الحقیقت ایک علم ہے

۲۶۷	تقویٰ کے اصول	۲۷۶	تر بیت اولاد
۲۳۹	سامان تقویٰ یہ ہے۔ دعا نیک صحبت اور	۳۸۳	دوران حمل ہی تربیت کا عمل شروع ہو جاتا ہے
۲۳۱	صدقہ و خیرات دینا		بچپن کی سنی ہوئی بات کا گہرا اور لمبا اثر ہوتا ہے
۲۳۷، ۲۳۳	تقویٰ کے نتائج		والدین اپنے خیالات میں پاکیزگی پیدا کریں
	تقویٰ کی پانچ جڑ ہیں اور ان کے نتائج و پھل	۲۷۶	تا کہ بچے پاکیزہ خیالات کا اثر لے کر پیدا ہوں
۷۰	تقویٰ کی اصل روح پیدا نہیں ہوتی جب تک صدقوں	۲۸۷ تا ۲۷۶	خلیفہ اول کی پاکیزہ تربیت کے مختلف مراحل
۲۴۸	کی صحبت میں انسان نہ رہے		تصوف
۳۸۰	تقویٰ اختیار کرنے کی وصیت	۶۵	صوفیوں کی اصطلاح میں لقا کا مقام
	میں نے مسجد نور کی بنیاد تقویٰ پر رکھی		حضرت سید عبدالقادر کا قول کہ سالک پرکئی زمانہ
	توبہ	۲۹۴	گزرے ہیں
۳۱۰	توبہ کی حقیقت		مولانا رومی کے ہر قول کو وحدت الوجود والے
۱۰۶	اسلام میں توبہ کی پاک تعلیم	۴۷۳	وحدت وجود میں لے آتے ہیں
	توحید		صوفی اور گدی نشینوں کی حالت تو قریب بہ اباحت
	توحید اصل ہے اسلام کا اور اس کو پورا کرنے کے لئے	۱۳	پہنچ گئی ہے
۵۶۲	اذان میں بلند آواز اللہ اکبر کا کلمہ رکھا گیا ہے		تعلیم
	ج - بیچ - ح - خ	۳۲۱	تعلیم کا اصل منشاء وحدت کا ہے
	جرم رجم	۳۱۹	تعلیم بڑی مشکلات کے نیچے ہے
	اخلاقی جرائم شراب خوری، عیاشی وغیرہ سے صرف	۳۲۲	تعلیم حاصل کرنا تمہارا مقصود ہو
۲	مذہب کا قانون روکتا ہے		تفرقہ
	جرمن زبان	۴۴۴	اختلافات کو مٹا دو
	ایک جرمن نہ جانے والی عورت کا دورہ کی حالت میں		تفسیر قرآن
۳۸۳	جرمن زبان میں لیکچر دینا		تفسیر قرآن کے گراور جو آیت حل نہ ہو اس کے لئے
	جزیہ	۴۲۷	حضور علیہ السلام کا بیان فرمودہ طریق
	جزیہ غیر مسلم سے وصول کیا جاتا ہے اور اس کی		تقدیر الہی
۴۸۸	شرح زکوٰۃ وغیرہ سے کم ہے	۳۰۷	مسئلہ تقدیر کی پر معارف تشریح
	جزیہ کو برا سمجھنے والے آجکل کے بیٹا رٹیکسز کو	۴۴۷	مسئلہ تقدیر کا غلط تصور
	برانہیں سمجھتے		تقویٰ
۴۸۹			تقویٰ کی تعریف اور مفہوم ۴۳۳، ۲۳۳، ۲۳۸، ۲۶۶

۳۲۴	فلسفہ حُب پر حضرت خلیفۃ المسیح الاول کی تقریر	۴۸۸	جز یہ اسلام سے روکنے کی تائید کرتا ہے
۳۲۵	حُب (محبت) کی تعریف اور اس کے کرشمے		جلسہ
۳۲۶	حُب کس طرح پیدا ہوتی ہے	۳	جلسہ اعظم مذاہب کا مقصد
	حدیث		جلیق
۴۲۶	علم حدیث کے بغیر علم آتا ہی نہیں	۳۱۱	جلیق سے نفرت
	حکومت برطانیہ		جمعہ
	ہندوؤں کے بالمقابل ہمارے لئے حکومت برطانیہ	۱۹۱	جمعہ کی فضیلت و برکات
۲۴۴	کے ماتحت بہت امن ہے		جمعہ کی پرواہ نہ کرنے والے کے بارہ میں آنحضورؐ
۲۴۴	ہندوؤں نے حکومت برطانیہ کے تحت بہت فوائد اٹھائے	۱۹۱	کی سخت تشبیہ کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے
	ختم نبوت	۱۹۲	آپؐ نے معمولی جمعہ میں بھی فتنہ دجال سے ڈرایا ہے
	ختم نبوت کا راز کہ آئندہ آنحضرتؐ کی نبوت میں گم	۱۸۹	مسح موعود کا زمانہ بھی حقیقت میں ایک جمعہ ہے
۵۰۰	اور فنا ہونے کے بغیر کوئی نبوت نہیں مل سکتی	۱۹۲	جمعہ کے ساتھ مسیح موعود کو عظیم الشان تعلق ہے
۳۶۵	ختم نبوت کی دلیل		جنگ
۳۵۶	ختم نبوت پر حضرت خلیفۃ المسیح الاولؑ کی تقریر		جنگ دنیا سے کبھی دور نہیں ہوتی یہ ایک اٹل چیز ہے
	خلافت رخلافت احمدیہ	۴۸۹	اس کے اسباب الگ ہیں
۴۳۵	قرآن کریم میں چار قسم کے خلفاء کا ذکر		اسلامی جنگوں پر اعتراض کرنے والے خود اس میں
	آیت استخلاف میں قوم موسیٰ کی طرح امت محمدیہ	۴۹۱	بتلا ہیں
۹	میں بھی خلافت کا وعدہ دیا گیا ہے	۲۶۸	جنگ اُحد
	ابدالآباد کے لئے خلافت کا سلسلہ آپؐ کے	۲۵۸	جنگ ٹرانسوال
۱۸۲	کامل تبعین میں رکھ دیا		جھوٹ
	اللہ نے اپنا وعدہ خلافت ابوبکر صدیقؓ کے ذریعہ		بچپن میں جھوٹ کی عادت پڑ جائے تو عالم فاضل
۱۱	ثابت کر دکھلایا	۳۴۵	ہو کر بھی نہیں چھوٹی
	اطاعت و فرمانبرداری نے حضرت ابوبکرؓ کو آنحضورؐ		چائے
۳۹۴	کا جانشین بنا دیا		چائے پینے کے عادی عزیز دوست کے لئے آپؐ
	خلیفہ بنانا انسان کا کام نہیں یہ خدا تعالیٰ کا اپنا	۲۸۱	کا بڑی محبت سے چائے تیار کرانا
۴۷۰، ۴۳۵	کام ہے		حُب نیز دیکھئے محبت
۱۲	وعدہ خلافت میں اعمال صالحہ کی شرط ہے		

خودکشی	خلافت کی ضرورت۔ نئے نئے دشمن پیدا ہوتے رہتے ہیں ان کے مقابلہ کے لئے نئے خلیفوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے
انبیاء اور صلحاء کی لائف میں جب سے دنیا پیدا ہوئی کوئی واقعہ خودکشی کا نہیں پایا جاتا	۲۹۲، ۲۹۰
۶۵	اطاعت خلافت کیوں ضروری ہے کیونکہ وہ ملہم نہیں
	۲۹۰
	۱۹۸، ۶۶
	خلافت مہاجرین کو ملنے کی وجہ خلافت کے منکر کا نام خدا تعالیٰ کی کتاب میں فاسق رکھا ہے
	۴۷۳، ۲۹۰
	خلافت پر اعتراض رافضیوں کا کام ہے
	۴۷۶، ۲۷۳
	آدم، داؤد، ابوبکر و عمر کی طرح مجھے بھی خدا نے ہی خلیفہ بنایا ہے
	۴۷۷، ۲۷۱
	میں خلیفۃ المسیح ہوں اور خدا نے مجھے بنایا ہے۔
	۴۳۲
	خدا تعالیٰ نے مجھے یہ ردا پہنادی ہے
	مجھے خدا نے خلیفہ بنایا اور تمہارے کہنے سے معزول نہیں ہو سکتا اور نہ کسی میں طاقت ہے کہ وہ معزول کرے
	۵۸۲، ۴۷۸، ۴۳۵
	اللہ کی مشیت نے مجھے خلیفہ بنایا اب اگر اعتراض ہے تو جاؤ خدا پر اعتراض کرو مگر اس گستاخی اور بے ادبی کے وبال سے بھی آگاہ رہو
	۴۷۲، ۴۷۱
	اللہ میرے لئے ایک غیرت رکھتا ہے
	۵۸۳
	میرے بعد پھر وہی کھڑا ہوگا جس کو خدا چاہے گا اور خدا اس کو آپ کھڑا کر دے گا
	۴۷۸
	اب اس جبل اللہ کو مضبوط پکڑ لو یہ بھی خدا ہی کی رسن ہے جس نے تمہارے متفرق اجزا کو اکٹھا کر دیا ہے
	۴۳۵
	احمدیوں کی خلیفہ سے محبت اور اس کی دعائیں
	۴۴۶
	اگر کہو کہ لاہور کے لوگ خلافت میں روک ہیں تو میرے مخلص دوستوں پر بدظنی ہوتی ہے
	۴۷۹
	خوارج
	خوارج اہل بیت کو گالیاں دیتے ہیں
	۵۳۹
	خوارج کی کتابیں بھی میں نے پڑھی ہیں ایک کتاب
	۳۶۶
	۹۳ جلدوں میں ہے
	۴۰۸
	دوستی
	دوستی کی ایک قوم جو نماز کی غلط توجیہ کرتے ہیں
	۴۲۶
	دجال
	دجال کے مختلف معنی
	۱۹۲
	وہ ایک فرقہ عظیمہ ہوگا جو تجارت کے لئے پھرے گا
	۱۹۱
	آنحضرتؐ نے معمولی جمعہ میں بھی فتن دجال سے ڈرایا ہے
	۱۹۲
	درویش شریف
	درویش شریف پڑھنے سے آنحضرتؐ سے محبت بڑھتی ہے
	۳۵۴
	درویش شریف پڑھنے کی نصیحت
	۴۴۹
	دعا
	دعا کی حقیقت اور اس کے آداب
	۷۵
	تمام مشکلات کی کلید دعا ہے
	۲۸۰
	دعا تمام بیماریوں کا علاج ہے
	۳۵۵
	کرب قبولیت دعا کا ذریعہ ہوتا ہے
	۳۸۰
	کوشش دعا کا ابتدائی درجہ ہے
	۴۸۳
	دعا کا انکار کیا جائے تو ساری نبوتیں باطل ہو جاتی ہیں
	۴۸۲
	صحابہ رسولؐ دنیاوی اغراض کے حصول کے لئے آپؐ سے دعا نہیں کراتے تھے
	۷۶
	دعا ایک کارگر ہتھیار ہے میری آخری وصیت ہے کہ
	۴۰۳
	لا الہ الا اللہ کے ساتھ دعا کا ہتھیار تیز کرو
	۴۰۳
	جہاں جماعت کی ترقی رگ گئی ہے وہاں پریذیڈنٹ اور سیکرٹری صاحبان نماز پڑھیں۔ دعائیں کریں
	۴۰۸
	اور صدقہ و خیرات کریں

۴۸۵	جامع تعظیبات الہیہ کی دعا نماز ہے	دہریہ دہریت
	اهدنا الصراط المستقیم کی دعا آفاقی اور	۳۹۲ منکر خدا کو ہستی باری تعالیٰ کا ایک ثبوت
۴۸۲، ۴۸۱	احسان عام کی دعا ہے	۳۶۳ ایک دہریہ قرآن کریم کے طفیل بچ گیا
۳۵۴	الحمد شریف ایک بے نظیر دعا ہے	کالجوں میں دہریت پھیل رہی ہے اس بارے میں
	محبت پیدا کرنے والی دعا۔ اللہم انی اسئلت	۳۲۱ حضورؐ کا جواب
۳۴۴	حبث	دہریہ گورو بھگوان کی باقاعدہ جماعت ان کی
	اللہ نے نوحؑ کی دعا کو سنا اور انہیں کرب عظیم	۵۰۱ کتب و رسائل شائع ہوتے ہیں
۳۸۰	سے نجات دی	رافضی
	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم الشان دعا اور	خلافت پر اعتراض کرنے والے اور ابو بکر و عمرؓ پر
۷۷۷۶	اس کے ثمرات	اعتراض کرتے ہیں اسی طرح صحابہ کا انکار کرتے ہیں ۴۷۶
۳۵۷	حضرت ابراہیمؑ کی دعا ربنا اتنا فی الدنیا حسنة	یہ اعتراض کرنا کہ خلافت حقدا رکونہیں پہنچی یہ
۳۰۰، ۲۸۱	حضرت موسیٰ کی دعا	رافضیوں کا عقیدہ ہے
	انجیل میں مسیح کی آخری دعا ہے ایلی ایلی لہما سبقتنی	۴۷۳ ایک رافضی نے حضورؐ کو ایک رسالہ طریق نجات دیا جس
۵۳۸	اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا	میں اولیاء اور محدثین پر لعنت کا الگ الگ باب تھا ۴۷۶
۲۸۰	کسی گاؤں یا شہر میں داخل ہونے کی دعا	رہا رسود
	حضرت حکیم نور الدین صاحب دعاؤں کی ابتدا	مسئلہ رہا کہ بارہ میں بے حیائی کہ یہ خیال بھی کر لیا
۲۸۵	کس دعا سے کرتے	۲۵۷ کہ حضرت عمرؓ کو بھی اس کے معنی نہ آتے تھے
	حضرت خلیفۃ المسیح الاولؑ کی احباب جماعت	آجکل سود کے جائز ہونے کے لئے رسالے لکھے
۲۹۹	کے لئے دعائیں	۵۴۵ گئے ہیں
۴۰۴	میں تمہارے لئے تڑپ تڑپ کر دعائیں کرتا ہوں	رسول رسالت دیکھئے انبیاء
۲۸۳	آپؐ کے دل میں ڈالی جانے والی ایک جامع دعا	رسہ کشی
۳۸۱	مسجد نور کے لئے آپؐ کی دعا	رسہ کشی کے کھیل کی مثال برائے اعتصام بحبل اللہ ۲۹۱
۲۸۳	جب مضطر ہو کر رب سے مانگا تو وہ مجھے ملا	روح
	مولیٰ کریم سے مشتہر امور میں بذریعہ دعا راہنمائی	۳۵۹ روح میں بقا کی تڑپ ہے
۲۰۸	طلب کرنے کا طریق اور مولوی کا انکار	روزہ
۵۳۸، ۵۳۷	ایک برہمن سے حضورؐ کی دعا کے بارہ بحث	روزہ بڑی بابرکت چیز ہے۔ اس میں سکھایا کہ جائز
	دودھ	۵۶۲ چیز کو چھوڑتا ہے تو ناجائز کو تو ضرور چھوڑ دے گا
	دودھ بہت اعلیٰ درجہ کی چیز اور ہمارے نبی کریمؐ کو	رویا رکشوف
۳۴۶	بہت پسند تھا	۳۶۱ حضرت خلیفۃ المسیح الاولؑ کے بعض رویا و کشوف

س - ش

۵۶۱	دی ہے	۵۵۰	سائنس والے ایک یقین پر کبھی نہیں ٹھہرتے
۴۱۲	شرک کی عجیب عجیب راہیں ہوتی ہیں	۵۰۱	سکھ مت
۲۷۹	شرک کیونکر پیدا ہوتا ہے	۴۹۰	باوا صاحب کے شاگردوں کا نام سکھ تھا لیکن دسویں
۲۷۹	حوادث دنیا کے نتیجہ میں کمزور اور کم عقل لوگ	۲۵۴	خلیفہ سکھ کی بجائے سنگھ کہلائے
۲۷۹	شرک میں گرفتار ہو جاتے ہیں	۲۵۴	سکھ مت پر حضرت مسیح موعود نے حجت تمام کی
۲۷۹	ہندوستان میں بڑے درخت کی پرستش کی وجہ	۵۹۲	کس رشتہ میں نکاح کی ممانعت ہے؟ اس سوال
۲	انسان بالطبع قانون شریعت الہی کا محتاج ہے	۵۰۱	پر گرتھ صاحب خاموش ہے
	شعر و شاعری	۳۶۷	سناتن دھرم
	بعض اوقات ملہمیں کو بھی شعراء کے مصرعے اور		سنت
۴۱۸	اشعار الہام ہو جاتے ہیں		آپ کے عملدرآمد کو سنت کہتے ہیں
	مجھے شعر کہنے کی عادت نہیں ہاں میں شعر کو خوب		سوزاک
۴۱۷	سمجھ سکتا ہوں		ایک امیر زادے کے سوزاک کے علاج کے لئے
	اشعار بلحاظ ترتیب صفحات	۵۸۰	نسخہ تجویز کرنا اور اس کی شفا یابی
۱۵	ابن مریم ہوا کرے کوئی		سوفسطائی
۵۱۵۱۶۳۱۰۰	مشکلے دارم نہ دانشمند مجلس باز پرس	۳۸۹	ایک سوفسطائی سے حضور کی ملاقات اور مکالمہ
۱۲۰	مجلس وعظ رفتنت خط است		شاکت مت
۱۵۲	مردے از عیب بروں آید و کارے بکند	۴۸۵	ہندوؤں کا فرقہ جو اپنے مذہب کو مخفی رکھتا ہے
۵۱۵۱۶۳	واعظان کیں جلوہ بر محراب و منبر می کنند	۵۰۱	شاکت لوگ ایک وقت گائے کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں
۱۶۷	ایں خیال است و مجال است وجنوں		شراب نوشی
۱۹۷	ای خیانت بر توجرت از تو گنجی یا تم		لنڈن میں شراب کی دوکانیں اتوار کو بھی کھلنی ضروری ہیں ۱۷۳
۲۰۹	چاہا ہم نے مگر نہ چاہا تو نے		شرک
۲۳۳	ان کان منزلتسی فی الحب عند کم	۵۶۱	خدا کے سوا غیر کو پوجنا اور سجدہ کرنا اس کا نام شرک ہے
۲۳۷	گر جان طلبی مضاقتہ نیست		راستی ازوں کو کچھ عرصہ بعد ان کے ماننے والوں
۲۵۵	تراسد یا جوج کفر از زرت		نے خدا ٹھہرایا مثلاً راجندر جی، کرشن جی اور
۲۶۱	چہرہ دکھلا کر مجھے کر دیتے غم سے رہا		حضرت مسیح علیہ السلام
۲۶۱	وہ دن گئے کہ راتیں کٹتی تھیں کر کے باتیں	۵۶۲	
۳۵۰۲۸۷۲۶۱	ہر بلا کیں قوم راجت دادہ است		
۲۶۷	آنانکہ گشت کوچہ جانان مقام شاں		
۳۱۱	فلا تحسبن ہندالہا العدر و جدھا		

۳۳۴	عورتوں کو صبر کی نصیحت	۳۳۴	دنیا میں درگوش کن
۴۰۷	جب سیکرٹری اور پریذیڈنٹ سے منازعت ہو تو اللہ تعالیٰ کے لئے صبر کرو	۳۷۳	ختم شدہ برنس پاکش ہر کمال
	صحابہ رسولؐ	۳۷۶	اگر ماند شے ماند شے دیگر نمائد
۳۳۵	آپؐ کی خاطر سب کو قربان کر دیا	۴۱۷	قالوا اقتروہ شینا بخدمک طبخہ
۵۸	صحابہ کی ترقی کا راز اسوہ رسولؐ کی پیروی	۴۳۲	سرچشمہ شاید گرفتن بہ میل
۶۰	اطاعت رسولؐ کے پاک نمونے	۴۷۳	بشنوا زنے چوں حکایت می کند
۵۵	صحابہ کی تمام ترقیات اور مدارج کا اصل سبب	۴۷۳	وحدت اندر وحدت است ایں مثنوی
۵۵	آنحضرتؐ کی صحبت تھی	۵۰۳	اے دل تو نیز خاطر ایناں نگہ دار
۵۵	صحابہ کی آنحضرتؐ سے محبت اور پاک تبدیلی	۵۴۹	زفرق تا بقدم ہر کجا کہ مے نگرم
۳۲۳۱	قرآن اور آنحضرتؐ کی خاطر صحابہ کی شاندار قربانیاں	۵۷۷	من بہر جمعیتے نالاں شدم
۵۴۹	صحابہ نے کلام پاک کی اتباع سے دنیا میں زلزلہ ڈال دیا	۵۶۵	رزق ہر چند بیگماں برسد
	قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے سے وہ نہ صرف		شفقت علی خلق اللہ دیکھئے ہمدردی خلق
۵۲۵	بادشاہ بنے بلکہ بادشاہان ان کے خدمت گزار بنے		شکر
۵۶	صحابہ کا آداب الرسولؐ کا خیال رکھنا	۵۵۹	شکر کرو، سخاوت کرو یہ نعمت بڑھنے کا نسخہ ہے
۶۰	صحابہ کرام وحدت ارادی کے کامیاب راز کو سمجھ گئے تھے		شیعہ ازم
۶۱	صحابہ کی اولوالعزمی اور فرماست صحیحہ	۵۳۹۲۹۷	صحابہ کے بارہ میں عیب گوئی کرتے ہیں
	اس جماعت صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت معزز کیا ہے		لاہور کے شیعوں کے محلہ میں حضرت حکیم مولانا
۵۳۹	اور وہ آپس میں محبت رکھتے تھے	۱۶۶	نور الدین صاحب کا وعظ
۷۶	دنیاوی اغراض کے لئے آپؐ سے دعا نہیں کراتے تھے		ص - ض - ط
	مدینہ میں رہ کر علوم سیکھتے اور پھر اپنی قوم میں		صابی
۷۵	تبلیغ و اشاعت کرتے	۴۷۵	حضرت ادریس اور حضرت یحییٰ کو ماننے والی قوم
	صحابہ رسولؐ کو حبشہ کے عیسائی بادشاہ کے پاس		صبر
۲۴۳	بہت امن ملا	۴۱۴	دکھ پر صبر کرو
	صحبت صالحین / صادقین		انسان جب صبر کرتا ہے تو ایک نور اس کے قلب پر
	صادقوں کی صحبت کے بغیر تقویٰ کی اصل روح انسان	۴۳۰	اترتا ہے
۷۰	میں پیدا نہیں ہوتی	۳۳	صبر کا پھل - باجرہ کے صبر پر مقدس شہر آباد کر دیا
۴۲	صحبت صالحین سے روحانی بیماریوں کا علاج		صحابیہ کے صبر کے عظیم الشان اجر کا واقعہ - ایک بچے
۲۳۷	پاک لوگوں کی صحبت سے انسان نیک بنتا ہے	۳۰	کی وفات پر صبر کے بدلہ سات یا نو بچے عطا کئے
	بیعت کے بعد مامور کی صحبت میں رہنا بھی ضروری ہے		

۵۵۴	علم طب مجھے اللہ نے بخشا ہے۔ میری بیوی نے بھی طب سیکھ لی ہے	۴۴	صادق کی صحبت کے بغیر اللہ اور اس کی صفات پر کامل ایمان پیدا نہیں ہوتا
۲۸۸	بعض معمولی چیزیں ایسی مفید ہوتی ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے مثلاً جنگلی گوبر کی راکھ وغیرہ کے بہت فوائد نکلے	۳۷	امراض روحانی و جسمانی کے لئے طبیب حاذق کی صحبت کی ضرورت ہے
۲۹۸	طعن و تشنیع	۳۱۴	صحبت صالحین سے انسان ایک دوسرے کے رنگ دور کرتا ہے جس طرح قصاب چھریاں رگڑ کر انہیں صحیح رکھتا ہے
۲۷۴	طعن کا دروازہ کھولنا نالائق آدمیوں کا کام ہے طلبہ طبع مدرسہ تعلیم الاسلام سے حضور کا خطاب اور اطاعت و فرمانبرداری و عفت و طہارت کی زندگی بسر کرنے کی تلقین	۵۵	صحابہ کی تمام تر قیاں اور مدارج کا اصل سبب آنحضرتؐ کی صحبت تھی
	ع-غ	۵۳۶	اچھی صحبت میں گندہ انسان اپنی حالت کو تبدیل کر لیتا ہے
۳۱۱	عبادت نیز دیکھئے نماز عبادت کہتے ہیں تعظیم لامر اللہ کو	۴۲	امام الزماں کی صحبت میں رہ کر اپنی بیماریوں کا علاج کراؤ
۱۴۲	عبودیت کی اصل غرض کو پورا کریں۔ نیکی وہ ہے جس کا حکم اللہ نے دیا اور آنحضورؐ نے نمونہ دکھایا	۵۳	حضرت حکیم نور الدین صاحب کا کہنا کہ میں نے حضرت مسیح موعودؑ کی صحبت میں رہ کر اپنی بہت سی امراض روحانی کا علاج کیا
۵۵	عرب قوم	۳۷	مجھے کتابوں کے پڑھنے نے اتنا فائدہ نہیں دیا جس قدر خدا کے صادق بندوں کی صحبت نے پہنچایا
۳۴۴، ۳۴۱	صحبت رسولؐ کے بعد عرب قوم میں حیرت انگیز پاک تبدیلی	۳۵	اس موضوع پر حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب کا خطاب
۵۵۷	عربی زبان کی فصاحت و بلاغت	۵۲۹	صدر انجمن احمدیہ
۳۲۱	عربی زبان کے فوائد		صدقہ و خیرات
۳۴۳	عربی میری محبوب زبان ہے اس کی تائید میں اپنا فرض سمجھتا ہوں	۴۰۸	صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے
۳۱۶	عربی زبان کی طرف توجہ کی ضرورت		جماعتی ترقی رک جائے تو عہدیداران صدقہ و خیرات دیں
۳۳۱	عربی زبان میں جب مؤنث مذکر کو جمع کرتے ہیں تو غلبہ مذکر دیتے ہیں	۵۰۶، ۴۹	ضرورت امام
			طب و طبابت
		۲۸۵	میں نے عامۃ الناس کی ہمدردی کے لئے علم طب کو مناسب حال سمجھ کر سیکھا

۵۳۳	یہ خیال کہ عربی کے بغیر دین نہیں آسکتا درست نہ ہے۔ ابو جہل عربی دان تھا لیکن قبول نہ کیا	۲۹۷	علی گڑھ تحریک ایک ہندو مال کھا گیا جس سے مشکلات پیدا ہوئیں
۴۴۲	عقائد ہمارے عقائد	۵۶	عمل صالح عمل صالح کے لئے دو شرائط
۱۶۱	عقل عقل مقدم ہے یا نقل؟	۵۹	اعمال صالح کی حقیقت میں رسول کی سچی اتباع ضروری جزو ہے
۳۱۶	علم علم بڑی دولت ہے	۲۲۳، ۲۲۲	عورت عورت کا درشہ میں اسلامی حق۔ باقی جگہ عورتوں کے کوئی حقوق نہیں قرآن نے متعین کئے ہیں
۷۲	علم کی غرض و غایت یہ ہے کہ اللہ کا خوف پیدا ہو	۴۳۶، ۳۳۲	مستورات کو حضرت حکیم نور الدینؒ کی نصائح
۳۳۳	علم سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے اور علم محبوبیت کی شان رکھتا ہے	۲۱۷	عورتوں کو حضرت خلیفۃ المسیح الاولؒ کا وعظ
۷۷	دینی علوم سیکھنے کی ضرورت و اہمیت	۳۳	عورتوں کی بعض برائیوں کا ذکر اور اجتناب کی نصیحت
۳۵۷	سارے کمالات اور معرفت علم صحیح کے ساتھ وابستہ ہیں	۳۴	عورتوں کو صبر کی نصیحت
۳۵	علوم کی دو قسمیں	۴۰۵	عہد یداران جماعتی عہد یداران کو حضور کی نصائح
۳۵	علم الابدان کو علم الادیان پر مقدم کرنے کی وجہ	۵۰۲	عیسائیت عیسائی وفد کو آنحضرتؐ نے مسجد نبوی میں عبادت کی اجازت دی
۱	حصول علم کے جدید ذرائع رسل و رسائل و مواصلات	۷۸۳، ۱۰۲	حبشہ کے عیسائی بادشاہ کے پاس صحابہ رسولؐ کو بہت امن ملا
۴۴۱، ۴۴۰	انسان کی ابتدائی حالت کے علوم	۲۴۳	عیسائیوں نے حضرت مسیحؑ کی شان سے غلو کیا اور خدا ٹھہرا دیا۔ اس خدا نے دنیا میں آکر کیا کیا؟
۳۱۶	وہ علم جس کے ساتھ عمل نہیں بے کار ہے	۵۶۱، ۵۳۱، ۱۰۹	حضرت عیسیٰؑ اور ان کی والدہ کو موجود بنا دیا
	علماء مولوی	۵۸۹، ۵۸۸	عیسائی اپنے دعاوی بالخصوص یسوعؑ کی خدائی کے دعویٰ کی دلیل انجیل سے پیش کریں
	اسلام کے علماء کی حالت یہ ہے کہ ان کو تحقیقات سے مس تک نہیں رہی	۱۷۰	عیسائی اپنے مذہب کی کوئی خوبی نہیں بتا سکتے اور نبیوں کی معائب دہی کرتے ہیں
	مولویوں کے نام سے نفرت کی وجہ	۲۹۷	نصاری نے دین میں غلو کیا
	مولویوں سے نفرت کا واقعہ۔ مولوی نے عیسائی بنادیا اور پادری نے مسلمان بنادیا	۳۱۵	
	ایک مولوی کو بذریعہ دعا اللہ تعالیٰ سے راہنمائی حاصل کرنے کی تجویز مگر مولوی کا انکار		
	جھوٹے اور بے معنی قصے ایجا ذکر کے مخالفان دین کو انگشت نمائی کا موقع دیتے ہیں		

۱۷۲ مسیح کی موت عیسوی دین کی موت ہے

۲۵۵ عیسائی مذہب پر حضرت مسیح موعودؑ کی اتمام حجت

غیبت

۴۷۸ بدظنی سے غیبت نصیب ہوتی ہے

۴۴۶ عورتوں میں غیبت کی عادت ہوتی ہے

ف-ق-ک-گ

فرشتے دیکھنے ملائکہ

فری میسن

۴۸۵ یہ اپنے مذہب کو مخفی رکھتے ہیں

فلاح کا میاں بی

۵۷۱ مومن کے کامیاب ہونے کے گر

فلسفہ

میری طبیعت فلسفہ کو پسند کرتی ہے مگر اللہ کا احسان

۱۷۸ کہ اس نے قرآن جیسا فلسفہ مجھے دیا

آجکل کے نوجوان انگریزی فلسفہ کی چند کتابیں

۱۷۸ پڑھ کر مذہب پر ہنسی کرتے ہیں

چند معروف فلسفیوں کا ذکر مثلاً مل، پینسر، پلٹیو،

۱۷۸ فیثا غورث وغیرہ

فقہی مسائل

بسم اللہ جہر آیا خفاء وغیرہ کے مسائل نکلے جھگڑے

۴۳۱ ہیں۔ ان بحثوں میں نہ پڑیں

قانون

کوئی آدمی دنیا میں قانون کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتا

۲ اخلاقی برائیوں سے روکنے والا قانون مذہب ہے

۲ انسان بالطبع قانون شریعت الہی کا محتاج ہے

جس جس جگہ تک انسان تو انین فطرتی کی پابندی

۹۳ کرتا ہے اسی حد تک وہ سکھ پاتا ہے

کفارہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا میں فسق و فجور اور اباحت

۱۶۹ پھیل گئی

۱۰۶ پوپ کے سامنے بدیوں کے اقرار کی گندی تعلیم

غریبی اور حلیمی کی تعلیم دینے والوں کے جنگی ہتھیار

۴۹۱ سب نے دیکھ لئے۔ اب وہ تعلیم کہاں ہے

عیسائی قوم اپنی کتاب کے متعلق خطرناک مشکلات

۱۸۶ میں مبتلا ہے

انجیل کی اصل زبان پر ہی شک ہے۔ یہ زبردست

۱۸۷ زد عیسائی مذہب پر ہے

عیسائیوں نے بروٹلم جیسی مقدس جگہ کو بھی پاش پاش

۴۸۷ کیا اور وہاں سوز کی قربانی کی

عیسائیوں نے مخالف لوگوں کے معبودوں سے

۴۸۷ ناروا سلوک کیا انہیں مٹا ڈالا

کس رشتہ میں نکاح کی ممانعت ہے۔ اس پر عیسائیت

۵۹۲ خاموش ہے

مسیحی لوگوں کی رعایت رکھنے کے اقرار کے بعد

۳۷۱ پوپ نے یورپین شہزادوں سے ہاتھ ملایا

عیسائیوں اور ان کے بادشاہوں کو بھی اشاعت عیسائیت

۵۱۹ میں سرگرم رہنے کا شوق ہے

چرچ آف انگلینڈ سالانہ ۳۶ کروڑ روپیہ اشاعت

۳۷۱۱۲ عیسویت میں خرچ کرتا ہے

۱۸۳ کتاب مقدس کا ترجمہ ۲۷ سوزبانوں میں کر دیا

ممالک یورپ و امریکہ کی دنیاوی ترقی مذہب

۳۹۱ عیسائیت کے لئے قابل فخر بات نہیں

دنیاوی ترقی اور انجیل کی تعلیم کہ شیطان کو سجدہ کرو

۵۴۷ تو تمام سلطنتیں دوں گا

عیسائی مشنری عورتوں اور مردوں کے لوگوں کو

۱۷۴ پھنسانے کے حربے

مسیحیوں نے تین ہزار اعتراضات اسلام پر کئے ہیں ۴۶۸

۱۷۵ عیسائی مشنریوں کا تصانیف کے ذریعہ ہر افشانی

۱۶۷ اسلام پر مختلف حربوں سے حملے

۳۹	دل سے نکلا اللہم صلّ علی محمد	قتل اولاد
۴۹۳، ۴۶۳	قرآن شفاء للناس ہے	قتل اولاد کی چار صورتیں
	روحانی امراض کا مجرب نسخہ خدا کی پاک کتاب	قدرت
۳۶	قرآن شریف ہے	ہر نظارہ قدرت کو دیکھ کر کوئی الگ الگ طرح دیکھتا
۴۱	عرب کی بیمار قوم نے اس کے ذریعہ شفا حاصل کی	اور الگ نتیجہ نکالتا ہے
	جتنا قرآن پڑھیں اور غور کرتے جائیں اسی قدر	قرآن کریم
۸۷	لطف اور راحت بڑھتی جائے گی	۳۱۰، ۳۰۱، ۲۵۸، ۳۹، ۳۱، ۲۱، ۲۰
	قرآن کریم ہی تمام الہی رضامندیوں کی راہوں کا	تمام صد اقتوں کی جامع کتاب
۲۸۴	مجموعہ ہے	قرآن کی عظمت و کمال، مکمل تعلیم اور جامعیت
	اس کتاب کو پڑھ کر ہزاروں غوث بن گئے قطب	۵۹۱، ۳۶۷، ۶۲۸
۵۵۰، ۵۲۹	ولی بن گئے اور مشرف مکالمہ الہی ہو سکتے ہیں	قرآن کا نام رحمت، ہدایت، شفا، نور، فرقان
۲۱۳	کرۃ ارض پر حکمرانی قرآن کے ذریعہ کرتے ہیں	کتاب منیرہ وغیرہ ہیں
	وہ قرآن جس نے ایک متروک قوم کو دنیا کا فاتح بنا	قرآن کریم کو اپنا دستور العمل بناؤ کہ یہ شفا ہے
۱۳	دیا اب اس کو غیر ضروری شئی سمجھا جاتا ہے	رحمت ہے نور ہے ہدایت ہے
	قرآن پڑھنے اور عمل کرنے سے صحابہ کرام نہ صرف	قرآن کامل کتاب ہے اس نے دنیا کی حد بندی
	بادشاہ بنے بلکہ بادشاہان ان کے خدمت گزار بنے	نہیں کی کہ کب سے قائم ہے
۵۲۹، ۵۲۵، ۵۲۱	مخالف اندرونی ہو یا بیرونی اس پر قرآن کے ذریعہ	قرآن کریم کا نام مہیمن بھی ہے یعنی نگران کیونکہ
	ہی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے	تمام کتابوں کی شارح ہے
۲۸۴	انسان کی تمام ضرورتوں بچپن سے بڑھاپے تک کو	قرآن کا نزول رحمانی صفت ہی کا اقتضا تھا
۲۶	پورا کرتی ہے	۵۹۶، ۵۸۶
۴۴۹	سورۃ فاتحہ پڑھنے کی برکات	بیزرہ ہے جو ہمیں ہر مصیبت اور دکھ سے محفوظ رکھتی ہے
	اللہ کے لفظ پر کسی ساوی کتاب نے قرآن کے برابر	قرآن جبل اللہ ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو
۳۶۹	زور نہیں دیا	۴۶۹، ۴۲۹، ۱۳۶
	قرآن کریم کا فخر کہ کسی دوسرے معبود کو گالی دینے	قرآن کی کلام الہی ہونے کی دلیل
۴۸۶	سے روکتا ہے	۵۹۲
	قرآن کی ایک خوبی کہ اس نے صفات الہی کے مسئلہ	قرآن شریف آخضورؐ کی پاک سیرت ہے
۴۳	کو خوب کھول کھول کر بیان کیا ہے	قرآن پر آخضورؐ اور آپ کے صحابہؓ نے عمل
	قرآن کریم کا طرز استدلال کہ استدلال بالاولیٰ	کر کے دکھایا
۴۹۶	سے کام لیتا ہے	قرآن کریم کی خاطر آخضورؐ اور صحابہؓ کی قربانیاں
		۳۲، ۳۱
		قرآن کریم جیسی کوئی نعمت اور کتاب نہیں
		۳۶۶
		قرآن جیسی راحت بخش کتاب میں نے نہیں دیکھی
		۵۳۷، ۸۶
		قرآن کریم کی تعلیمات کی سچائی پر بے اختیار میرے

۵۴۳	قرآن کریم کا کوئی ایسا حکم نہیں جس پر عمل کرنا دشوار ہو	۵۴۳	عیسائی کے قرآن پر اعتراضات کے جواب میں
۵۵۳	یہ انگریزی سے تین مرتبہ سہل ہے۔ دو ہزار کے	۲۲۶	کتاب فصل الخطاب لکھی
۱۳۶	قریب الفاظ ہیں جن کے معنی سیکھنے ہیں	۱۳۶	اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ قرآن کے بارہ میں
۱۶۶	قرآن نے آ کر وحدت کی روح پھونکی۔ آج بھی	۲۱۷	تقریر کروں
۲۹۴	اختلاف قرآن ہی سے دور ہوگا	۳۶	قرآن کریم کا عشق اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا ہے
۹۳	لا ریب قرآن اختلاف مٹانے کے لئے حکم ہے	۳۶۳	ایک دہریہ قرآنی تعلیم پر عمل کر کے بچ گیا
۵۸۹	خوف و حزن سے بچنے کا علاج قرآن کریم کی اتباع	۱۳۵	قرآن شریف کے الفاظ دو اور تین ہزار کے درمیان ہیں
۵۹۲	سے ہوتا ہے	۲۲	قرآن کی پیشگوئی کہ ضعف اسلام ہوگا اور پھر زندگی
۲۱۳	قرآن شریف انسان کو قوانین فطریہ پر عامل کرانا	۸۰	چاہتا ہے
۲۲۹	اللہ اور انبیاء کے بارہ میں غلط عقائد کی درستی کے لئے	۵۵۵	قرآن کی ضرورت تھی
۵۸۳	قرآن کریم میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے	۵۸۳	قرآن کریم میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے
۵۸۳	آنحضورؐ کے زمانہ میں قرآن کریم کے علاوہ اور	۵۸۳	کوئی کتاب نہ لکھی گئی
۵۸۳	حضرت ابو بکرؓ نے جمع قرآن کا اہم کام سرانجام دیا	۵۸۳	قرآن شریف سے نفرت اٹھانے کے واسطے
۵۸۳	طہارت کی ضرورت ہے	۵۸۳	قرآن کریم کے فہم کے بعض گُر
۵۸۳	قرآن کریم کے فہم کے بعض گُر	۵۸۳	قرآن کے حل اشکال کے لئے ایک قیمتی گُر
۵۸۳	قرآن شریف آجانے کا حضورؐ کا بیان کردہ نسخہ	۵۸۳	قرآن کی قسموں کی حقیقت
۵۸۳	دیگر مذاہب اور کتب نے مجھے ضرورت قرآن	۵۸۳	کی طرف بھاری راہنمائی کی ہے
۵۸۳	قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھو	۵۸۳	تم میں سے ضرور کچھ نہ کچھ قرآن کے ماہر ہوں
۵۸۳	میں نے مجھ سے کر بڑھ کر کوئی چیز پیاری نہیں لگتی	۵۸۳	اللہ نے مجھے قرآن کی محبت اور اس کا فہم دیا ہے
۵۸۳	میں نے قرآن کریم بہت پڑھا ہے اور اب تو	۵۸۳	میری غذا ہے

حضرت موسیٰؑ کو کلمہ لا الہ الا اللہ الہام ہوا ۳۹۸
 کلمہ شہادت
 کلمہ شہادت اور اس کے دونوں حصوں کی اغراض ۲۷۵
 کھیل رکھلاڑی
 رسہ کشی کا کھیل ۲۹۱
 گناہ
 گناہ سے بچنے کا طریق ۷۳۷۲

ل-م-ن

لقا
 صوفیوں کی اصطلاح میں لقا کا مقام ۶۵
 لنگر خانہ قادیان
 لنگر خانہ پر قرض اور اہل سیالکوٹ کا ادائیگی کرنے
 کا وعدہ ۵۶۷
 لغویات
 مومن کی کامیابی کا دوسرا لُغویات سے اعراض
 کرنا ہے ۵۷۳
 لغویات کی مثالیں ۵۷۴
 اٹکل بازیاں بھی لغویات میں داخل ہیں ۵۷۵
 لغویات میں کن کن چیزوں سے اعراض کرنا ہے ۵۷۵
 جہاں لغو سے اعراض کریں وہاں حقائق الاشیاء کو
 ترک نہ کریں ۵۷۶
 مامور من اللہ نیز دیکھئے انبیاء
 مامور من اللہ کی ضرورت ۱۶۲۳۱۵۹
 صادق کی شناخت کا پہلا ذریعہ کہ وہ وحدت لیکر آتا ہے ۱۲۵
 صادق کی شناخت کا دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ آیا وہ دین
 کو مقدم کرتا ہے یا دنیا کو ۱۲۷

کالج (تعلیم الاسلام)
 کالج کی اصل غرض یہی ہے کہ دینی اور دنیوی تربیت ہو ۲۱۴
 کبر و غرور
 مسلمانوں کو کبریائی اور تکبر نے بڑا نقصان پہنچایا ہے ۵۵۹
 کتاب
 غیر ممالک کی عمدہ کتب آسانی سے گھر بیٹھے پہنچ جاتی ہیں
 کسر صلیب
 وفات مسیح کے ثابت ہونے سے کسر صلیب ہو گئی ۱۷۱
 مباحثہ امرتسر میں آپ نے کسر صلیب کر دی ۱۷۱۶۹
 کسوف و خسوف
 مہدی کے لئے چاند سورج گرہن کی نشانی اور اس کا
 پورا ہونا ۱۶۳
 عظیم الشان نشان۔ مگر دیکھنے والوں نے فائدہ
 نہیں اٹھایا ۱۷۷
 سورج چاند گرہن پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ آنحضرتؐ
 بھی گھبرا جاتے اور صدقہ و خیرات و دعائیں کرتے ۴۰۸
 کفر و کفار
 مسئلہ کفر کا لطیف بیان ۴۹۹۴۷۳
 کفر تو نہ ماننے کا نام ہے ماننے والے تو مومن ہی
 کہلاتے ہیں ۵۰۱
 مولویوں نے کفر کے فتوے دیئے ۵۰۲
 کلمہ طیبہ
 کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب ۲۰
 کلمہ لا الہ الا اللہ کے تین عظیم الشان فائدے ۳۹۴
 کلمہ کی خاطر اور اس کو پہنچانے کے لئے آنحضرتؐ
 نے شدید تکالیف برداشت کیں ۳۹۳
 آنحضرتؐ کی فضیلت کہ آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ
 کی تکمیل کر دی ۲۷۵

مدرسہ تعلیم الاسلام	مجدد/مجددیت
مدرسہ احمدیہ کو حضرت خلیفۃ المسیح الاول کا خطاب ۲۷۲	مجددیت کے دعاوی کرنے والے بعض بزرگان ہند ۲۵۴
یہ مدرسہ احمدیہ کے نام پر قائم کیا گیا ہے ۵۶۷	محاورے/ضرب الامثال
مدرسہ کے بہت سے بورڈرز اس جاڑے میں رات کو بغیر لحاف و توٹنگ کے سوتے ہیں ۵۲۹	لکال فرعون موسیٰ ۹
سہولتوں کا نامناسب انتظام ۵۵۷	میاں ایبہ جگ مٹھاتے اگلا کس ڈٹھا ۱۲۶
مذہب	گندم از گندم برید جو ز جو ۲۱۰
مذہب کی ضرورت ۱	جو کوئی آگ کھائے گا انگارہ گئے گا ۲۱۰
نہایت ضروری ہے کہ ہم مذہب کی نگہبانی کریں ۳	عربی ضرب المثل - ان الایمان تدع الارض بلاقع ۵۰۹
دنیا میں مذاہب کے تین بڑے مرکز گزرے ہیں ۳۶۹	منہ تو لٹھی لوئی تو کیا کرے گا کوئی ۵۶۸
آجکل مذہب سے ناواقفی ہو گئی ہے ۱۷۹	محبت نیز دیکھئے حُب
آجکل کے نوجوان انگریزی فلسفہ کی کتب پڑھ کر ۱۷۹	فلسفہ حُب پر حضرت خلیفۃ المسیح الاول کی تقریر ۳۲۳
مذہب پر ہنسی کرتے ہیں ۱۷۹	حُب کے مضمون نے مجھے قرآن سکھایا اور مرزا تک پہنچایا ۳۲۳
مذاہب باطلہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے انکار کے نتیجہ ۲۳	حُب کی تعریف اور اس کے کرشمے ۳۲۵
میں پیدا ہوئے ۲۳	آنکھ، کان، زبان، شہوت، ناک اور ٹٹولنے یعنی حواس کے ذریعہ محبت پیدا ہوتی ہے ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۳۲
بعض مذاہب اپنی تعلیم کو مخفی رکھتے ہیں مثلاً فری میسن اور شکاکت مت وغیرہ ۲۸۵	محبت احسان کی وجہ سے بھی پیدا ہوتی ہے ۳۳۲
مرض مرملیض	حُب کا وجود موجود سے ہوتا ہے بشرطیکہ اس وجود کے ساتھ کمال ہو اور کمال کے ساتھ بقاء ہو ۳۳۲
امراض کی دو اقسام	علم سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے اور علم بھی محبوبیت کی شان رکھتا ہے ۳۳۳
مسجد	حُب لذت کی خواہش ہے ۳۲۸
مسجد بنانے کی غرض و غایت ۳۸۰، ۳۷۸	حُب میں مراتب ہوتے ہیں اور فطرتا دنی کو اعلیٰ پر قربان کرتے رہتے ہیں ۳۳۱
مسجد کی بہت بڑی ضرورت ہے لیکن ضروری نہیں کہ عظیم الشان عمارت ہو ۱۰۲	ہمارے ملک میں سوئی بہنوال، ہیرا، نچھا، مرزا صاحبان کے مشہور قصبے حُب کے کرشمے ہیں ۳۲۶
حضرت مسیح موعودؑ نے بھی مسجد بنائی ۱۰۳	محسن
جس جگہ ہمارے بھائی رہتے ہیں تو سب سے مقدم اور ضروری کام کم از کم ایک چھوٹی سی مسجد بنالو ۱۰۴	محسن کی تعریف ۶۳، ۶۵
چینیوں والی مسجد لاہور کا ایک واقعہ ۲۲۲	محسن کے معنی کہ ہر وقت اللہ کو حاضر ناظر جان لے ۲۳
مسلمان	
مسلمان بننے کا نمونہ حضرت ابراہیم اور پھر کامل نمونہ رسول اللہؐ کی زندگی میں مشاہدہ کرو ۱۴۰	

۱۹۲	اس مسیح موعود کو آدم بھی کہا گیا ہے اور اس کے ہاتھ پر بھی اسلام کی تکمیل اشاعت کا کام رکھا گیا	۶۸	جنتی دعا اپنے بادی کے لئے مسلمان قوم مانگتی ہے اتنی اور کسی مذہب میں نہیں
۱۹۳	تکمیل اشاعت ہدایت کا وقت مسیح موعود کے ساتھ مقدر ہے	۳۰۳	مسلمانوں کو حکم کہ وہ سچے دل سے حاکم وقت کی اطاعت کریں
۱۹۲	جمعہ کے ساتھ مسیح موعود کو عظیم الشان تعلق ہے	۲۴۳	مسلمانوں کو عیسائیوں کی ماتحتی میں کس طرح رہنا چاہئے اس بارہ قرآنی تعلیم اور ہجرت حبشہ کی مثال
۱۹۰، ۱۸۹	مسیح موعود کا زمانہ بھی حقیقت میں ایک جمعہ ہے	۱۰۹	مسیح علیہ السلام کے بارہ میں غلط اعتقادات
۱۹۱	یہ مسیح اور مہدی کا زمانہ ہے اس میں دجال کا فتنہ بہت بڑا ہوگا	۵۲۱، ۵۱۴	مسلمانوں کی تنزلی اور ابتیری قرآن کریم پر عمل درآمد سے دوری کی وجہ ہوئی
	مشرک	۸۰، ۷۹	مسلمانوں کے افلاس کی اصل وجہ
	مشرک سے اپنے مالک حقیقی کا شکر ادا کرنے کی کیا امید ہو سکتی ہے	۵۲۰	مسلمانوں کی حالت پر غور کرتا ہوں تو میرا دل لرز جاتا ہے
۲۴۳	ملائکہ فرشتے	۵۲۶	مسلمانوں کی بارہ سلطنتیں میرے دیکھتے دیکھتے تباہ ہوئیں
۲۳۶	نیکی کے محرک کا نام فرشتہ ہے	۵۵۹	مسلمانوں کو کبریائی اور تکبر نے بڑا نقصان پہنچایا ہے
۵۳۶، ۴۶۷	فرشتے نیکی کی تلقین کرتے اور برائی کی ملامت کرتے ہیں	۵۰۲	جیل خانوں میں مسلمانوں کی تعداد دوسری اقوام سے زیادہ ہے
۴۴	وجود ملائکہ کے ثبوت	۵۸	یورپ کی اتباع اور مغربی فلسفہ کو اسوہ بنا کر مسلمان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے
۵۰۰	میں نے اپنی آنکھ سے فرشتوں کو دیکھا ہے		مسیح موعود
۴۶۷، ۲۳۶	ملائکہ پر ایمان کیا ہے اور کیوں ہے		آنحضورؐ کی بعثت آخر بروزی رنگ میں مسیح موعود کی صورت میں ہوئی
۴۴، ۳۰۸، ۴۴	ملائکہ پر ایمان لانے کی حقیقت	۱۹۲	مسیح موعود کا نام امامکم منکم اور حکم رکھنے کی وجہ
۵۷۰	ملائکہ پر ایمان کی برکات	۱۸۹	صلیبی فتنہ کے خاتمہ کے لئے کاسر الصلیب کا نام
	ایمان بالملائکہ کا ایک نکتہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا ہے	۱۶۲	مسیح موعود ہے
۵۳۵	ملائکہ کو ماننا رہموساؑ والے مشرکانہ اعتقاد سمجھتے ہیں		چودھویں صدی کا خلیفہ خاتم الخلفاء ہوگا اور وہ مسیح موعود ہوگا
	مولوی دیکھئے علماء مومن	۱۶۲	جس طرح آدمؑ کی پیدائش کی تکمیل جمعہ کو ہوئی اسی طرح ضروری تھا کہ آدمؑ ثانی کی بعثت بھی جمعہ ہی کہلائے
۱۴۳، ۱۴۲	مومنوں کی صفات		
	مومن کی فطرت میں ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔		
۵۷۰	کامل مومن کبھی اس کے بغیر رہ نہیں سکتا		
۵۷۱	مومن کی کامیابی کے گُر		

۵۹۲	کس رشتہ میں نکاح کی ممانعت ہے اس پر عیسائیت، ہندومت اور سکھ مت خاموش ہے	۱۹۸۶۶	مہاجرین کو خلافت ملنے کی وجہ
۱۹۰	نماز رصلوٰۃ رعبادت		مہدی معبود
۳۱۱	صلوٰۃ کیا ہے؟		مہدی کے لئے چاند سورج گرہن کی نشانی اور اس کا پورا ہونا
۳۱۱	عبادت کہتے ہیں تعظیم لامر اللہ کو	۱۶۳	ناسخ و منسوخ
۳۱۱	نماز کیسی عبادت ہے؟		ناسخ و منسوخ کا جھگڑا ہی غلط ہے
۴۸۵	جامع تعظیبات الہیہ کی دعا نماز ہے	۴۲۲	مسئلہ ناسخ و منسوخ پر حضور کا مطالعہ اور اسی مسئلہ پر پہلا مباحثہ
۱۰۱	نماز حضور قلب کے ساتھ اور باجماعت ادا کی جائے	۳۸۶	سر سید احمد خان اور ابو مسلم اصفہانی ناسخ و منسوخ کے قائل نہ تھے
۵۷۱	مومن کی فلاح کا پہلا گر نماز میں خشوع کرنا ہے		نبوت دیکھئے انبیاء
۴۸۳	نماز کے لئے وضو کی حکمت		نصیحت رانصاح
	نیکی وہ ہے جس کا اللہ نے حکم دیا اور آنحضرتؐ نے نمونہ دکھایا		حضرت خلیفۃ المسیح الاول کی طلبہ مدرسہ کو نصح ۳۳۶ تا ۳۴۵
۱۳۲	بھلائیوں کی فہرست		احباب جماعت کو عہد بیعت پورا کرنے اور تنازعات ختم کرنے کی نصیحت
۳۱۲	نیوگ		احباب جماعت کو حضورؐ کی متفرق نصح
۲۹۷	آریہ مذہب میں نیوگ کا عقیدہ		۵۵۹، ۵۵۸، ۵۰۲، ۴۴۶
	و-۵-ی		باہمی اختلاف ترک کرنے اور وحدت اختیار کرنے کی نصیحت
	واعظ مبلغ		بدظنی اور تفرقہ نہ کرنے کی نصیحت
	حضورؐ کی واعظان سلسلہ ملنے کی خواہش اور واعظین کی خصوصیات		قرآن کریم پڑھو، قرآن کریم پڑھو اور اس پر عمل کرو ۵۲
۳۰۰	واقعات		دین کو دنیا پر مقدم کرو
	صحابیہ کا بچے کی وفات پر شاندار صبر اور اس کا عظیم الشان اجر کا واقعہ		بدظنی سے بچنے کی نصیحت
۳۰	آپؐ کی گفتگوں کر ایک شخص کا مولوی سمجھنے کی وجہ سے نفرت ختم ہونے کا واقعہ		عورتوں کو حضور کی نصح
۱۷۵	ایک دہریہ کو ہستی باری تعالیٰ کی دلیل سے لاجواب کرنا ۲۰۵		نکاح رشادی
۲۸۸	مثنوی میں موجود ایک طوطی کے آزاد ہونے کا قصہ		شادی کی ضرورت اور غرض و نغایت
	رابعہ بصری کا دو روٹیاں سائل کو دے کر اللہ کی طرف سے ۲۰ ملنے کا واقعہ		حضرت خلیفۃ المسیح الاول نے تیس سال سے متجاوز ہو کر شادی کی
۵۷۸			۲۸۶

۵۸۸	ہندومت انبیاء کے بارہ میں غلط عقائد کس رشتہ میں نکاح کی ممانعت ہے اس سوال پر	۵۸۰ تا ۵۷۸	صدقات سے بلائیں ٹلنے کے واقعات خلیفہ اول کا واقعہ جس میں صدری چوری ہونے کے بدلہ اللہ نے مال و زر اور قیمتی پارچہ جات کا انتظام کر دیا
۵۹۲	ویدیں خاموش ہیں ہندوؤں کا ایک فرقہ شاکت مت جو کہ عام طور پر اپنے عقائد کو بیان نہیں کرتا	۲۷۴	وحدت و اتحاد وحدت پیدا کرنے کی ضرورت کثرت میں وحدت کی ضرورت ہے جب تک وحدت نہ ہو کثرت مفید نہیں ہو سکتی
۴۸۵ تا ۳۹۰	ہندو قوم میں جنگیں اس ملک کے ہندوؤں نے خدا کے فضل و احسان کا شکر یہ ادا نہیں کیا	۴۳۹	اتفاق و وحدت کی برکات اختلاف کا شغل نہ بناؤ اور وحدت کے مرکز کو نہ چھوڑو
۴۸۹	گورنمنٹ برطانیہ کے تحت ہندوؤں نے زراعت اور ملازمتوں میں بہت فائدہ اٹھایا	۴۳۹	وضو وضو کی حکمت وفات مسیح
۲۴۳	یونانی زبان مسیح اور انجیل کی زبان عبرانی تھی لیکن یونانی کو اصلی سمجھا گیا	۲۷۹	وفات مسیح پر زور دینے کی وجہ آپ نے تحریر و تقریر سے وفات مسیح ثابت فرمائی متونی کا رجوع قرآن سے ثابت نہیں ہے
۲۴۴	یہود پر یہودیت علماء یہود توراہ میں کمی بیشی میں بے باک تھے یہود نے اللہ تعالیٰ کی صفات میں تشبیہ تک نوبت پہنچائی	۱۷۱	ہمدردی خلق رشفقت علی خلق اللہ اللہ تعالیٰ کی صفت صمد شفقت علی خلق اللہ کی تعلیم دیتی ہے
۱۸۷	بہت سے نبیوں کو ماننے ہیں مگر مسیح کا انکار کرتے ہیں	۲۶۰	شفقت علی خلق اللہ سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے منعم علیہ بننے کے واسطے دوسری بات جو سکھانی گئی وہ شفقت علی خلق اللہ ہے
۵۰۲	مسیح کو پکڑ کر صلیب پر چڑھا دیا یہود مدینہ کی سازشیں اور ان کا انجام	۱۵	
۳۸		۲۸۵	
۵۸۹		۴۶	
۴۷۵		۱۱۰	



اسماء

اسماء		آ، ا	
۳۴۹	بادشاہ مصر نے آپ کی بیٹی کی وجہ سے اپنی بیٹی ہاجرہ آپ کو دے دی	۴۷۷، ۴۳۵، ۲۹۰، ۲۶۴	آدم علیہ السلام
۳۴۹	سارہ کے اصرار پر ہاجرہ کو دور دراز چھوڑ آئے	۱۸۹	آدم کی پیدائش کی تکمیل جمعہ کے دن ہوئی
۴۵۲	ابراہیم بن محمود غزنوی اس نے لاہور کو دارالسلطنت تجویز کیا	۴۷۰	آدم کو خلیفہ اللہ نے بنایا
۴۴۳	ابراہیم خنجی	۲۴۴	آتمارام، مجسٹریٹ
۴۴۳	ابن تیمیہ	۲۵۷، ۱۸۱	آذر
۴۴۳	ابن حجر	۵۴	آمنہ، حضرت
۴۴۳	ابن حزم	۱۲۸، ۱۰۳، ۹۸، ۳۳، ۲۶	ابراہیم علیہ السلام، حضرت
۴۶۰	ابن سینا	۵۸۹، ۲۹۰، ۲۷۳، ۱۹۳، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۴۰	
۱۳۰	ابن ملجم	۳۴۸	آپ کے مضبوط ایمان کی مثال
۴۴۳	ابن ہشام	۳۵۰	آپ کا ایمان کس قدر تھا۔ اسماعیل کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کے لئے تیار ہو گئے
۲۴۸، ۸۲، ۶۶، ۱۶	ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت	۴۵۳	خانہ کعبہ کا بنیادی پتھر دعاؤں کے ساتھ رکھا اور سات عظیم الشان دعائیں مانگیں
۴۴۳، ۴۳۲، ۳۸۶، ۲۹۵، ۲۹۴، ۲۹۰، ۲۵۶، ۲۵۳		۱۰۴	آپ کی دعاؤں کا مقصد
۵۶۷، ۵۲۷، ۴۷۷، ۴۷۶، ۴۷۲، ۴۷۱، ۴۷۰			آپ کی دعا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا اور اس کی ضرورت
۴۷۵	آپ کو مان کر سب سے افضل ہوئے	۱۵۸	اپنی اولاد میں رسول مبعوث ہونے کی دعا مانگی اور اس کے ثمرات
۱۱	رسول اللہ کے رخصت ہوتے ہی بلا فصل ابوبکر خلیفہ ہوئے	۷۷۷، ۷۶۶	
۳۹۴	آپ اور آپ کے والد صنادید مکہ میں سے نہ تھے لیکن اطاعت و فرمانبرداری نے آپ کا جائزین بنا دیا	۳۵۷	آپ کی دعا رَبَّنَا اتِّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا کہ اسماعیل کی اولاد ریت کے ذروں کی طرح ہوگی
۱۰	موافق آپ کے ہاتھ پر پڑھا دیا	۳۵۰	آپ کی قربانی کا عظیم الشان پھل
۱۹۷، ۱۹۶	آپ نے کیا چھوڑا تھا اور پھر کیا پایا	۶۷، ۶۶	آپ کے دشمن کا نام و نشان مٹ گیا۔ آپ زندہ و جاوید ہیں اور ریت کے ذروں کی طرح آپ کی اولاد ہے
۲۴۹	کامیاب رہے۔ جمع قرآن کا کارنامہ بھی سرانجام دیا		

۲۹۹	آپ کا تہ بند بھی ٹخنے سے نیچے گرا رہتا تھا	۲۹۹	اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ سے وعدہ کیا کہ اسماعیلؑ
۵۶۸، ۵۱۷	ابو جہل	۳۵۰	کی اولاد ریت کے ذروں کی طرح ہوگی
۵۳۳	تیرہ سال دلائل سننے کے باوجود دل پر اثر نہ ہوا اور انکار کیا اور مسلمان نہ ہوا	۲۷	سرور کائناتؐ بھی آپ کی اولاد میں سے ہیں۔
۲۲۳، ۳۶۷، ۲۵۹، ۱۵۷	ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ، امام	۲۷	یہ اطاعت کا اجر ملا
۳۲۳	ابوسعید	۲۹۲	اصمعی، لغت کا امام
۳۲۳	ابوعامر	۲۹۲	بارون الرشید کا اصمعی سے لغت کا امتحان لینا
۳۷۹	مسجد ضرار بنانے والا عیسائی	۳۲۲، ۱۷۸	افلاطون
۲۵۸، ۲۵۷، ۳۲۳	ابوعبیدہ بن جراحؓ	۲۳۸	اکبر، مغل بادشاہ
۵۶۸	ابولہب	۳۸۴	الیکزنینڈر، عیسائی مشنری راولپنڈی
۲۲۳، ۳۸۷	ابومسلم اصفہانی	۲۰۷	امتہ الحفیظہ بیگم، حضرت صاحبزادی سیدہ
۳۲۳	ابوہریرہؓ	۲۲۳	اولیس قرنیؓ
۲۲۳، ۲۵۴، ۵۲	احمد بریلویؒ، سید		ایاز
۲۲۳	احمد بن حنبلؒ	۱۵۲، ۲۵۱	ایک کشمیری پنڈت تھا جو مسلمان ہو گیا۔ محمود غزنوی کو اس سے بڑی محبت تھی
۶۲۹	احمد بیگ ہوشیار پوری، مرزا	۲۵۲	ایاز کی قبر کو لاہوری کم جانتے ہیں
۲۲۳، ۳۳۶، ۳۳۵	احمد خان، سرسید		
۲۵۶	آپ اور آپ کے حامیوں کے اصلاح کے لئے برکات الدعاء اور آئینہ کمالات اسلام میں چٹھی لکھی		
۳۶۶	حضرت خلیفہ اول نے ایک سو روپیہ آپ کی کتب منگوانے کے لئے دیا جو سرسید بھیجتے رہے		
۳۸۷	ناخ منسوخ کے قائل نہ تھے		
۲۲۳	احمد سرہندی، حضرت خواجہ		
۶۷	اسماعیل علیہ السلام، حضرت		
۳۲۹	آپ کی ایڑیوں کی ضرب سے چشمہ پھوٹ نکلا		
۲۷۳، ۲۶	آپ کی فرمانبرداری		
			ب-پ-ت-ث
۳۳۵	پن پال، بنگلا کا ہیرو		
۲۹۲، ۲۲۳، ۱۵۷	بخاری، امام		
۱۳	برائڈرس، ایک انگریز صاحب علم		
۲۷۲، ۲۵۳	بشیر احمدؒ، حضرت مرزا		
	احمد سرہندی، حضرت خواجہ		
۲۷۲، ۲۷۱، ۳۳۵، ۲۸۹، ۲۶۹	اسماعیل علیہ السلام، حضرت		
	آپ کی ایڑیوں کی ضرب سے چشمہ پھوٹ نکلا		
۲۲۵	آپ کی فرمانبرداری		
			بشیر الدین محمود احمد صاحب، حضرت صاحبزادہ مرزا
			خلیفہ اول کی خواہش کہ حضور علیہ السلام کے جانشین
			صاحبزادہ مرزا محمود احمد صاحب بنتے

۵۳۶۲۶۹۶۳	جبرئیل علیہ السلام	میاں محمود احمد میر ابھائی بھی ہے، میر ابینا بھی۔ اس کے ساتھ
۲۲۲	جرتج	میرے خاص تعلقات ہیں
۳۱۴	جوئی، مسماۃ بھیرہ کی ایک سنجی جس نے یہ پیشہ	میرا سچا فرما نبار ہے
۴۴۳	اختیار کرنے کی وجہ بیان کی	آپ کے خطبہ کی تعریف
۴۴۴	چراغ دہلویؒ	ان کے دل میں حق کا جوش ہے۔ ان کی نظم سن کر میں
۲۴۴	چندو لعل مجسٹریٹ	نے رور و کران کے لئے سجدہ میں دعا کی ہے
۵۶۷۲۱۱۳۳۳۲۴۷۲۴۵	حامد شاہ سیالکوٹیؒ، حضرت سید میر	۱۹۱۲ء میں حضرت خلیفۃ المسیح الاولؒ کے ساتھ سفر لاہور
۳۹۴	حذیفہؓ	میں شامل تھے
۱۳۶	حسانؓ	۵۳۹۱۳۶
۱۷۴	حسن، میر	بہاء الحق ملتانیؒ، حضرت شاہ
۲۳۷	مثنوی میر حسن کے اثر سے ہزاروں عورتیں اور مرد	بہاء الدین زکریا ملتانیؒ
۵۳۹۱۴۴۳	حسن بصری	بہلول ہارون الرشید بادشاہ کے بھائی
۳۲۳	حسن علی صاحب مولوی	بھگوان، گورو
۳۳۶	آپ کی کتاب تائید حق کی خرید کے لئے حضورؐ کی تحریک	بھگوان داس کشتہ، ماسٹر
۳۴۵	حسین رضی اللہ عنہ، امام	آپ کا مشرف باسلام ہونا اور حضور نے آپ کے لئے
۵۰۴	حسین شاہ	عبداللہ نام پسند فرمایا
۳۴۳	حسین کامی	پطرس
۳۴۵	خالد بن ولیدؓ	عیسائی کلیسا کے فاؤنڈیشن سٹون نے مسیح کو ملعون کہا
۴۵۹ تا ۴۵۷	جنگ میں آپ کی فہم و فراست کا واقعہ	ترندی، امام
۴۴۳، ۲۲۵، ۲۲۳	خدیدجہ الکبریٰؓ، حضرت ام المؤمنین	تلک مرہٹوں کا ہیرو
۲۲۰	بعثت کے وقت آنحضرتؐ کی گھبراہٹ پر آپؐ کا	ثناء اللہ امرتسری، مولوی
	حضورؐ کو تسلی کا جواب	جلسہ اعظم مذاہب کے مقرر
		۵۱۵، ۲۷۰، ۲۵۲
		۳
		ن - ج - ح - خ
		۳۳۴
		جابرؓ
		۵۱۷، ۵۱۷
		جارج پنجم

آپ کا نام اللہ نے غلام احمد رکھا۔ آپ کو احمد نام سے
ایسی محبت تھی کہ آپ نے احمد کے سوا کسی اور نام سے
بیعت نہیں لی
۵۰۰
آپ کا نام آدم بھی رکھا گیا اور تکمیل اشاعت اسلام کا
کام سپرد کیا گیا ہے
۲۶۴۱۹۲

آپ خدا کے مرسل ہیں۔ اگر نبی کا لفظ استعمال نہ کرتے
تو نبی اللہ والی حدیث کو نعوذ باللہ غلط قرار دیتے
۴۷۶
اس زمانہ کے مریضوں کے حاذق طبیب آپ ہیں
۴۲۱۳۷
آپ کے آنے کی غرض
۵۴۰۷۴
حضرت صاحب کے چار کام
۲۴۸

نصرت الہی

آپ کی سچائی کے نشانات
۳۷۶
علوم القرآن احمد کے غلام پر نازل ہو رہے ہیں
۱۳۶
آپ میں ایک شان مجبوبیت تھی جو دوسروں کو آپ کی
طرف کھینچتی تھی
۳۳۸

اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں
سے برکت ڈھونڈیں گے
۵۱۶
آپ نے رسالہ الوصیت لکھ کر اپنے بہت سے الہامات
کی عملاً تصدیق فرمادی
۲۶۱
آپ کی کتاب رسالہ الوصیۃ جس میں قدرت ثانیہ کی
پیش خبری دی گئی
۲۵۱

آپ کی مخالفت آپ کی کامیابی کو زور سے ثابت کر رہی ہے
چاروں طرف سے دشمن کے نرغہ میں مگر خدا کی سپر آپ
کو محفوظ رکھتی ہے
۱۲۹

تمام تر مخالفت کے باوجود آپ کا میاب رہے ہیں
۲۱۵
دنیا کے تمام سجادہ نشینوں اور سینئیں پڑھنے والوں کو کہا کہ
میرے لئے بد دعا کرو پھر دیکھو کہ وہ کس پر الٹ پڑتی ہے
۱۸۸

خدمت دین

قیام توحید کے لئے آپ کی سعی
۱۱۰۱۰۹
آپ نے چھت پر ہی مسجد بنالی
۱۰۳

آپ پر شہم تشریف لے گے تو وہاں کے بپ نے کہا کہ
یہاں نماز پڑھ لو آپ نے اس لئے نہ پڑھی کہ مسلمان
اس گرجے کو مسجد نہ بنا لیں
۴۸۷
بعض محققوں کا گمان کہ آپ کو رسا کے معنی معلوم نہ تھے
۲۵۷
آپ نے حسبنا کتاب اللہ کیوں کہا؟ اس سوال کا جواب
۲۸۴
عمر و بن العاصؓ

سویز کینال کا تخمینہ حضرت عمرؓ کو بھجوانا
۱۳۰
عیسیٰ علیہ السلام، حضرت
۵۹۰، ۵۸۶، ۵۷۷، ۵۷۰
آپ کی والدہ اپنی اولاد کے واسطے عیسیٰ دعائیں مانگتی ہیں
۲۲۶
متح کی مادری زبان عبرانی تھی جبکہ انجیل کی اصل یونانی
قراردی جاتی ہے
۱۸۷، ۱۸۶

آپ کا قول کہ کوئی نبی بے عزت نہیں ہوتا مگر اپنے وطن میں
انجیل میں آپ کی آخری دعا۔ ایسی ایلی لہما سبقتنی
۵۳۸
عیسیٰ کے بارہ میں مسلمانوں کے غلط عقائد
۱۰۹
عیسائیوں نے متح کی شان میں غلو کیا اور انہیں خدا ٹھہرا
دیا۔ اس خدا نے دنیا میں آکر کیا کیا؟
۱۵۳

عیسائیوں نے معبود بھی بنایا اور نعوذ باللہ ملعون بھی
۵۸۹، ۵۸۸
آپ کی تائید کیسی کمزور ثابت ہوئی کہ پطرس نے ملعون
کہا اور یہود اسکر بوطی کا سلوک بھی سب کو معلوم ہے
۵۹۵
شیطان نے حضرت متح سے کہا تھا کہ اگر مجھے سجدہ کرو تو
تمام دنیا کی سلطنتیں دوں گا
۵۴۷
متح کی موت عیسوی دین کی موت ہے
۱۷۲

غزالیؒ، امام
۴۶۰
غلام احمد قادیانی، حضرت مرزا،
متح موعود و مہدی معبود علیہ السلام
۲۷۱، ۲۵۸، ۵۲

مقام و مرتبہ و بعثت

آپ کو جو کچھ ملا یہ محمد رسول اللہ کی کامل اتباع اور
کامل محبت سے ملا ہے
۵۰۰
آپ کی نبوت مستقل چیز نہیں بلکہ نبوت محمدیہ کا ایک
پھل اور نتیجہ ہے
۵۰۱

۵۳۷	ایک شخص کا کہنا کہ مجھے کبھی الہام نہیں ہوا اور مرزا صاحب کو الہام ہو گیا۔ اس کا جواب	۹۱	آپ کی خدمت قرآن عظمت قرآن کریم کے لئے آپ کی جدوجہد اور
۱۷	<u>متفرق</u> آپ کی دعا: خشک ڈالی مجھ سے کاٹی جاوے	۱۱۰	مشکلات کا سامنا کرنا انگریزی کے مقابلہ میں عربی مختصر زبان نہیں اس اعتراض
۴۳۳	آپ بیعت توبہ لیتے تھے	۵۵۷	کا جواب دینا آپ نے مسلمانوں کے غلط عقائد مسئلہ حیات و ممات مسیح،
۴۷۲	آپ کی ساری اولاد دل سے میری فدائی اور فرمانبردار ہے	۲۵۶	دعا، خلافت وغیرہ کی اصلاح فرمائی مسیح کے بارہ میں مسلمانوں کے غلط عقائد پر آپ کی
۴۵۱	آپ نے شیخ رحمت اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کے مکان کا سنگ بنیاد رکھیں گے	۱۰۹	ایک مثال وفات مسیح ثابت کرنے کے لئے آپ کی جدوجہد
۵۰۴	حسین کامی کے اشتہار میں آپ نے لکھا تھا کہ حرمین ان کی حفاظت کرتے ہیں	۹۱	آپ نے مباحثہ امرتسر میں عیسائیت کو باطل کر دیا ۱۷۰، ۱۶۹
۲۴۷	غلام حسن اپٹاوریؒ، حضرت مولوی	۲۵۵	آپ کی بنائی ہوئی سد کو یا جوج ماجوج نہیں توڑ سکے گا ۲۵۵
۴۳۳	غلام رسول امرتسری، مولوی	۲۵۴	آپ کے علمی کارنامے اور آریہ دھرم، سکھ مت، برہم دھرم، عیسائیت اور مسلمانوں پر اتمام حجت
۳۱۷	غلام علی صاحب، حضرت	۸۱	آپ کی خاص توجہ سے مدرسہ کا قیام
۲۷۸	غلام محی الدین (واعظ)		<u>الہامات / اشعار</u>
۵۶۶	غلام نبی، مولوی	۱۱۵	قل انی امرت و انا اول المؤمنین
	<u>ف-ق-ک-گ</u>	۳۷۶، ۴۴۳	یأتون من کل فج عمیق
۴۷۲	فاطمہؑ	۲۶۱، ۲۵۸، ۲۵۱	وفات کے بارہ میں الہامات
	فرخ شاہ آف کابل	۱۱۵	کافر و ملحد و جال ہمیں کہتے ہیں
	ایک بزرگ جنہوں نے سلطنت جان بوجھ کر چھوڑ دی	۷۳	علم آں بود کہ نور فرست رفیق اوست
۴۰۶	اور تخت سے اتر کر اللہ کی عبادت چہوڑہ پر کی	۳۷۳	ختم شد بر نفس پاکش ہر کمال
۷	فرعون		<u>مخالفات</u>
۹۸	اللہ نے اس کا نام و نشان مٹا دیا		ہندو مجسٹریٹ نے مقدمہ میں آپ کو دو سال تک بہت
۴۴۳	فرید الدین گنج شکر	۲۴۴	تکلیف دی
۲۷۸	فضل الدین صاحب بھروی، حضرت حکیم	۲۶۳	یہ اعتراض کہ آپ قبل از وقت انتقال کر گئے اور پیشگوئی پوری نہ ہوئی
	حضرت خلیفہ اول کا فرمانا کہ یہ ہمارے لنگوٹھے دوستوں		ایک عورت سے شادی اور پانچویں اولاد کی بشارت پر
۲۹۶	میں سے ہیں	۲۶۷	اعتراض کا جواب
۲۹۶	آپ کی مانی قربانی کی مثال	۳۳۹	ایک شخص کا آپ کی پگڑی پر اعتراض

محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم	۲۲۸	فضل الرحمن صاحب، حضرت مفتی
۳۷۱۳۱۸۲۶۹۲۴۶۲۰۰۱۹۸۱۵۰۱۴۰۱۲۸۵۴۲۰	۱۷۸	فیثا غورث
۵۸۶۵۷۷۵۲۵۲۷۵۲۷۰۲۵۷۲۲۵۲۰۶۲۰۵۳۹۷	۴۴۳	قطب الدین، مختیار کاکلی
<u>مقام و مرتبہ اور بعثت</u>	۴۴۳	قشیری، امام
آپ کی ذات بابرکات ایک جامع کمالات تھی	۴۴۳	کالب بن یفنه
۲۹۰۱۱۸	۵۹۵	کرشن جی، سری
آپ جامع کمالات انسانیت، مکانیت، زمانیت اور	۵۹۰۲۹۰۲۸۹	ان کو بھی خدا ٹھہرایا گیا
جامع کمالات نبوت خاتم المرسل اور خاتم الانبیاء ہیں	۵۶۲	کمال الدین صاحب، خواجہ
۵۰	۳۲۸	کوچ بہار، مہاراجہ، کیشب بابو کے مرید
آپ تمام نبوتوں کے جامع اور خاتم تھے اور خاتم النبیین،	۳۳۶	کیشب بابو
خاتم المرسل اور خاتم کمالات انسانی تھے	۳۳۶۳۳۵	گارڈن، پادری
۴۴۲	۵۵۲	گلو (سقد)
آپ کے خاتم النبیین ہونے کے متفرق دلائل	۴۲۶	گوتم بدھ
۳۷۱۳۱۸۲۶۹۲۴۶۲۰۰۱۹۸۱۵۰۱۴۰۱۲۸۵۴۲۰	۵۸۷	<u>ل-م-ن</u>
محمد تمام خوبیوں کا جامع۔ یہ لفظ بھی خود ختم نبوت کی دلیل ہے۔	۳۳۵	لاچپت رائے
۳۷۰	۱۳۶	ماریہ
آپ کو اللہ تعالیٰ نے عظیم کہا ہے	۴۴۳	مالک، امام
آپ مثیل موسیٰ تھے۔ اسی طرح خلفاء محمدیہ کا سلسلہ	۶۹	مامون الرشید، خلیفہ
خلفاء موسویہ کی طرح وعدہ ہے	۲۷۰۲۶۹	مبارک احمد، صاحبزادہ مرزا (پسرتج موعود)
۱۶۲۷	۳۲۸	مبارک اسماعیل
آپ کا نام احمد بھی ٹھہرا	۲۵۴	مجدد الف ثانیؒ
۱۸۱		
آپ کے نام میں ہی رحمانیت کی طرف اشارہ ہے		
۱۸۱		
آپ اس پہلو سے بھی رحمانیت کے مظہر تھے کہ آپ		
۱۸۱		
قرآن جیسی رحمت، شفاء، نور امام کتاب لے کر آئے		
۱۹۴		
آپ کا ایک نام ذکر بھی ہے۔ ذکر سے مراد آپ		
۴۱		
کی بعثت ثانی ہے		
۲۷۵		
آپ کی بعثت کی ضرورت		
۳۷۲		
آپ کا آنا ہے		
۵۱۳		
آپ کے زمانہ کو عصر سے تشبیہ دی ہے		
۳۷۳		
آپ ہر قسم کی ظلمت سے نجات دیتے ہیں		
۶۸		
دنیا کے ہر حصہ میں ہر آن آپ کے لئے دعا اور درود		
پڑھا جا رہا ہوتا ہے		
۳۲۲		
آپ کا ایک مرتبہ انصار سے سوال کرنا کہ میں کون		
ہوں؟ اور پھر سوال کا جواب بھی بتانا		

۱۹۳	آپ کے ذریعے تکمیل ہدایت ہوگی	۹	قلبت صحابہ اور کثرت اعداء کے زمانہ میں اپنے محفوظ رہنے کی پیشگوئی فرمائی
	<u>خدمت دین</u>	۶	مکہ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے بڑے بڑے وعدے فرمائے
	آپ کی تعلیمات کا اصل اصول - اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد اعبدہ ورسولہ تھا	۹	آپ کے صحابہ کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار تھی
۲۵۹	آپ نے ہمیشہ کے لئے شرک کی بنیاد اکھیر دی اور ہر وقت کلمہ شہادت کا اعلان عام کرایا	۲۸۱	آپ کی صداقت کا ایک وجدانی ثبوت
۲۸۴	کلمہ کی حفاظت اور اس کو پہنچانے کے لئے شدید تکالیف کو برداشت کیا اور وطن بھی چھوڑنا پڑا	۵۵۲	بیان نبی الاسلام کے لکھنے والوں نے اور بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو پختہ کر دیا
	<u>اسوۂ حسنہ</u>		
۳۹۳	اللہ کے پاک کلام کو لوگوں تک پہنچانے میں شدید مشکلات برداشت کیں اور جان کی پروا بھی نہ کی	۵۷	آپ کی سیرت کل نبیوں کی سیرت کو پڑھ لینا ہے
۹۰	قرآن کو پہنچانے میں بہت مصیبتیں آئیں مگر آپ نے پہنچایا	۸۹، ۹۸	قول عائشہؓ کہ آپ کا خلق قرآن کریم ہے
۲۱۷	آپ کی زبان سے عورتوں کو وعظ تمام مشکلات کے باوجود ہر قسم کی فتوحات اور کامیابیوں	۵۴۳	آپ ایک نمونہ تھے اور آپ نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا
	<u>نصرت الہی</u>		
	آپ کو عطا ہوئیں	۱۴۳	آپ اللہ کی کامل اطاعت کا نمونہ تھے اس لئے آپ کو جو جماعت ملی وہ آپ کی اطاعت میں محو تھی
۱۲۹	آدم سے لیکر آپ تک سب سے زیادہ کامیابی آپ کو ملی		آپ کا شاندار صدق و اخلاص اور ایمان باللہ اور اس کا پھل ہے
	آپ کا کمال کہ دنیا میں مذاہب کے تینوں بڑے مرکز آپ نے فتح کر لئے	۱۵۷، ۱۵۶	آپ نے جو تعلیم دی اس پر عمل کر کے دکھایا
۳۶۹	آپ اپنے اعداء کے برداروں سے محفوظ رہے	۸۶	آپ کے اخلاق قیامت تک اسوہ حسنہ ہیں
۷	آپ کے خلاف کئی ناپاک منصوبے کئے گئے لیکن اللہ نے آپ کو بچانے کا وعدہ پورا کیا	۱۵۷	آپ کی عبادات کا نمونہ
۱۸۸	تنہائی میں آپ پر وار کرنے والا بھی وار نہ کرے گا بلکہ اس کی تلوار گر پڑی	۱۵۸	آپ کا دعائیں سکھانا
۱۳۰	وہ مکہ جہاں سے ہجرت کرنی پڑی آخر آپ فاتح سلطان کی طرح قابض ہوئے	۱۵۶، ۱۵۳	آپ کی صفت مرگی
۸۵	آپ کی عظمت کہ آپ کی زندگی میں ایک دشمن بھی باقی نہ رہا		وادی طائف میں تبلیغ دین کے لئے جانا اور آپ پر غنڈوں کا حملہ پھر بھی بد دعائیں دی
۸۵	مواعید الہی کے مطابق آپ کے مولد و مسکن میں آپ کا کوئی دشمن نہ رہا	۴۴۹	عیسائی وفد کو مسجد میں عبادت کی اجازت دی
۱۰		۴۸۷، ۱۰۲	آپ کے افعال کا عظیم الشان ثمرہ
			<u>قوت قدسیہ</u>
			تمام روحانی فیوض کے حاصل کرنے کا آپ ہی ایک ذریعہ ہیں
		۳۷۰	صحابہ کی تمام ترقیاں اور مدارج کا اصل سبب آنحضرت کی پاک صحبت اور معیت تھی
		۵۵	

۴۳۵	محمد علی شاہ	آپ کی نسبت مشہور ہے کہ آپ ابھی بلا دشام نہیں پہنچے
۲۴۶	محمد نواب خان صاحب	تھے کہ رستہ میں ہی فوت ہو گئے
۳۸	محمود غزنوی	توراہ میں موسیٰ کی وفات کا بھی ذکر ہے
۲۷۸	ایاز سے بہت محبت تھی اور اس کی وجہ	مہدی خان صاحب، منشی
۴۵۲، ۴۵۱	اس کے بیٹے نے لاہور کو دارالسلطنت تجویز کیا تھا	میاں میر، حضرت
۴۵۱	مدن چند	ناصر نواب، حضرت میر
۴۲۲، ۴۲۱، ۴۲۷، ۲۴۵	ایک ہندو استاد جسے حضور کی تعلیم کیلئے مقرر کیا گیا	نافع
۴۲۳	مریم علیہا السلام	نا تک، باوا گرو
۵۹۲، ۴۹۰	رومن کیتھولک نے ان کو معبود بنا دیا	نذیر حسین دہلوی، مولوی
۳۱۷	مسلم، امام	نسائی، امام
۴۴۳	معاویہؓ	نصرت جہاں بیگمؓ، ام المؤمنین
۴۷۱	معروف کرخی، حضرت	نظام الدین اولیاءؒ
۴۴۳	معین الدین چشتیؒ	نقشبند، حضرت خواجہ
۴۴۳	معین الدین صاحبؒ، حافظ	نمروء، حضرت ابراہیمؑ کا دشمن
۴۰۹	مقوقس	نوح علیہ السلام
۵۱۷	مل، مسٹر، ایک فلسفی	اللہ نے آپ کی دعا کو سنا اور کرب عظیم سے نجات دی
۱۷۸	منظور محمد صاحب، میاں	نور احمد شیخ، مالک ریاض ہند پریس
۳۳۰	موجز	نور الدین، خلیفۃ المسیح الاولؑ، حضرت حکیم مولانا
۳۴۲	موسیٰ علیہ السلام، حضرت	خاندانی حالات، والدین، بچپن، جوانی
۵۷۶، ۱۵۱، ۱۲۸، ۸۲، ۳۸، ۱۱	آپ کو کلمہ لا الہ الا اللہ الہام ہوا	آپ کا تعارف آپ کی زبانی
۳۹۸	آپ کی دعا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر	میری قوم (خاندان) کے آدمی یا عستان میں شاہزادے
۲۸۱	آپ کی دعا رب اشرح لی صدری.....	کہلاتے ہیں
۳۰۰	آپ کے مخالف تباہ ہوئے	ہمارے جد بزرگوار میں فرخ شاہ ایک بزرگ کابل میں
۷	آپ کے مخالف فرعون کا نام و نشان مٹا دیا گیا	گزرے جنہوں نے تخت چھوڑ کر عبادت الہی کو اختیار کر لیا
۹۸	آپ کے مخالفین نے نکاح جانے سے انکار کر دیا	۴۰۶
۵۹۵		

میری ماں ایک اعوانی عورت تھی۔ خدا کے فضل سے	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
پڑھی ہوئی تھی	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
میری ماں ایک زمیندار اعوانی تھی اور میرے والد مختصر	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
تجارت کرتے تھے	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
میرے ماں باپ سنی حنفی کہلانے والے مسلمان تھے	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
میرے والد صاحب قرآن بہت پڑھتے تھے	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
میری والدہ نے اسی برس تک قرآن پڑھایا اور ہم ان	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
کے نو بچے تھے۔ بجز میرے ساری اولاد ان کی زندگی	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
میں فوت ہوئی	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
میری ماں نے مجھے بہت سے مسائل پنجابی میں سکھادیے	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
تھے۔ ان میں ایک مسئلہ تقدیر بھی ہے	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
میں نے اپنی ماں سے بہت فائدہ اٹھایا اور میں اس کے	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
لئے بڑی بڑی دعائیں کرتا ہوں اور دل سے چاہتا ہوں	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
کہ ہماری اولاد کی مائیں ایسی ہوں	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
اپنے والدین کے لئے دعائیں کرنا	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
آپ کے والدین کی آپ کی تعلیم کیلئے بلند ہمتی اور	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
اخراجات اٹھا کر کوشش کرنا	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
میرے والدین پر انگریزی کی اہمیت آشکار ہوتی تو وہ	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
مجھے امریکہ بھیج دیتے	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
میرے والد میری تعلیم کے بہت خواہشمند تھے وہ میرے	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
لئے اکثر چیزیں لاہور سے منگواتے	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
میں نے اپنی ماں کی گود میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
کی آواز سنی	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
میری تربیت اور قرآن کا مجھ پر اثر ماں کے پیٹ سے ہی پڑا	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
میری اصل زبان ضلع شاہ پور کی ہے مگر وہ اب مجھ سے	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
بولی نہیں جاتی	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
اپنی والدہ کو کہنا کہ ایک بچہ قرآن کر دو اور اسے لڑائی	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
میں مسلمانوں کی مدد کے لئے بھیج دو	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
آپ کے بھائی سلطان احمد صاحب نے آپ کی عربی	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
تعلیم کی طرف توجہ کی	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
میری بھوج صاحبہ گہ والے مشہور خاندان میں سے تھیں	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
میں دودھ کے بعد ان کی تربیت کے نیچے آیا	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
دودھ چھرانے کا مجھے ہوش ہے	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
اپنی والدہ کو کہنا کہ آپ کی وفات پر میں شاید آپ کے	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
پاس نہ ہوں اور ایسا ہی ہوا	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
میں نے تین شادیاں کیں۔ حکومت کامزہ بھی دیکھا ہے	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
میں نے ۳۰-۳۲ برس کی عمر میں شادی کی لیکن بیوی کو	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
کہا کہ بچوں کی شادی جلدی کر دو	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
آپ نے اپنی ایک بیٹی کی شادی عبدالواحد غزنوی	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
ابن مولوی عبداللہ غزنوی سے کی	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
۱۹۰۸ء میں آپ کی عمر ستر برس کے قریب تھی	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
میں نے ۴۵ برس سے بھی زیادہ طب کی ہے	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
میری بیوی نے بھی طب سیکھ لی ہے	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
مجھے کتابوں کے پڑھنے نے اتنا فائدہ نہیں دیا جس قدر	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
خدا کے صادق بندوں کی صحبت نے پہنچایا	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
<u>حصول علم کا شوق</u>	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
مجھے کتابیں پڑھنے کا جنون ہے	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
جس قدر کتابیں میں نے پڑھی ہیں بہت تھوڑے ہوں	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
گے جنہوں نے اس قدر مطالعہ کیا ہو	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
کتابوں سے آپ کو عشق اور خریدنے کا شوق	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
آپ کے کتب خانہ میں بہت قیمتی اور نایاب کتب کا	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
خزانہ تھا	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
میرے پاس لاکھوں کی کتابیں ہیں	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
مختلف مذاہب اور فرقوں کی کتابوں کا آپ نے مطالعہ	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
کیا ہے	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
مجھے لکھنا آتا ہے اور خوب آتا ہے نیز اپنی کتب کا تذکرہ	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
نور الدین، تصدیق براہین احمدیہ، فصل الخطاب،	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
ابطال الوہیت مسیح	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷
میں نے مرثیہ کی بہت سی کتابیں پڑھی ہیں	۲۷۶۵۱۷۲۶۱۲۷۷

اللہ نے مجھ پر لاتعداد نعمتیں کیں اور مخلوق سے بے پروا کیا ۵۰۶
 آپ کے ساتھ کفالت الہی کے دو واقعات بھوک میں
 جلسیوں کا انتظام ہونا اور ضرورت نقدی کے وقت
 اشرفی ملنا ۵۵۶، ۵۵۵
 میں جموں سے جب آیا تو دو لاکھ کا زیر بار تھا مگر اللہ تعالیٰ
 نے یونہی ادا کر دیا ۵۶۶
 دو صدیاں بنوائیں ایک کسی نے چرائی کوئی تکلیف محسوس
 نہ کی بلکہ دوسری بھی کسی کو دے دی اللہ تعالیٰ نے اس کے
 بدلے بہت مال و زر اور اعلیٰ پارچہ جات بھجوا دیئے ۵۸۰
 میں صرف خدا کی رضا چاہتا ہوں۔ دنیا طلبی سے کوئی
 غرض نہیں ہے ۳۵۴
 اگر خواہش ہے تو یہ کہ میرا مولیٰ مجھ سے راضی ہو جائے ۲۴۷
 اپنے اللہ کو راضی کرنے کا گڑ کیسے سیکھا ۲۸۲
 مجھے اللہ کے حضور ہی عاجزی کرنا آتا ہے اور اس نے مجھے
 طرح طرح کی دعائیں کرنا سکھایا ہے ۴۱۳
 آپ کی دعاؤں کا ابتداء ۲۸۵
 جمعہ کے بعد دعاؤں کی عادت ۳۹۵
 میں مالوں کا خواہشمند نہیں میرا نام آسمان میں عبد الباسط ہے ۴۱۱
 اللہ نے مجھے مال کا حریص نہیں بنایا ۴۰۹
 میں اپنی ذات اور اپنے متعلقین کے لئے تمہارے کسی روپیہ
 کا محتاج نہیں ہوں اور کبھی خدا نے مجھے محتاج نہیں کیا ۴۳۴
 آپ کا انفاق فی سبیل اللہ ۲۹۵
 میں اپنے گھر کی کھاتا ہوں۔ میرے گھر میں لکڑی آنا وغیرہ
 سب میرا اپنا ہوتا ہے اور میرا مولیٰ مجھے خوب دیتا ہے ۵۶۷
 گھوڑے سے گرنے کے بعد اللہ نے ہی میری حفاظت
 کی اور آج میں پہلے سے بھی بلند آواز بول سکتا ہوں ۴۳۶
 اللہ تعالیٰ کی صفت صد پر غور کے نتیجے میں اللہ نے مجھے
 شفقت علی خلق اللہ کی تعلیم دی ۲۸۵
 میں نے بیٹے کے لئے ایک پیسہ کا ورثہ نہیں چھوڑا ۳۲۳
رویہ کشف الہامات
 آپ کے بعض رویہ کشف ۳۶۰

۴۲۱ ایک تفسیر کے شوق میں میں بمبئی گیا
 ۴۲۶ بائبل کو کوئی دفعہ پڑھا
 راولپنڈی نارل سکول میں تعلیم اور عیسائی پادری سے
 ملاقات ۳۸۴
 آپ پنڈ داؤنخان میں مدرس رہے ۳۲۷
 لکھنؤ میں حصول تعلیم کے لئے قیام ۳۸۴، ۲۸۴
 لکھنؤ میں شیعہ عقائد و اعمال دیکھنے اور سننے کا موقع ملا ۳۸۴
 لکھنؤ میں حصول تعلیم اور تکلف کی حقیقت سے واقفیت ۳۱۷
 دہلی کے قدامت بزرگان جن سے آپ نے فائدہ اٹھایا ۳۱۷
 سر سید احمد خان کی کتب کی خرید کیلئے ان کو ایک سو روپیہ
 دیا۔ چنانچہ وہ کتب بھجواتے رہے ۳۶۶
 سب سے پہلا مباحثہ مسئلہ تاج منسوخ کے متعلق تھا اور
 لاہور میں ہوا ۳۸۶
 میرے طب کے استاد نے پوچھا کہاں تک پڑھو گے میں
 نے کہا مجھے افلاطون بنا دو ۳۴۲
 مجھے امراض کے علاج کا وسیع تجربہ عطا کیا گیا ہے روحانی
 ۳۶
 امراض کا علم بھی مجھے عطا کیا گیا ہے
 میں نے عامۃ الناس کی ہمدردی کیلئے علم طب کو
 مناسب حال سمجھ کر سیکھا ۲۸۵
 میں بہت کم شعر پڑھتا ہوں ۳۱۱
 مجھے شعر کہنے کی عادت نہیں۔ ہاں میں شعر کو خوب سمجھ
 سکتا ہوں ۴۱۷
توکل علی اللہ اور کفالت الہی
 ۳۵۳ میرے خدا نے مجھے بہت کچھ دیا
 ۵۷۶ مجھے دنیا کمانے میں کوئی مزہ نہیں آیا
 ۵۳۶ میں نے فرشتوں کو دیکھا اور میری مدد کرتے دیکھا ہے
 ۳۷۸ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سے نشانات دکھائے
 اللہ تعالیٰ کا آپ سے غیر معمولی سلوک۔ جتنا میں چاہتا
 ہوں اتنا مجھے دیتا ہے ۳۱۶
 اللہ کیسے آپ کی ضروریات پوری کرتا ہے ۲۹۵، ۲۹۴

قرآن میری غذا ہے۔ یہ غذا اگر آٹھ پہر میں استعمال نہ کروں تو میں مر جاؤں۔ قرآن سمجھنے کا دیان آیا ۲۹۳
قرآن جیسی راحت بخش کتاب میں نے نہیں دیکھی ۸۶
میرے دل میں قرآن اور حدیث صحیح کی محبت بھری ہوتی ہے
اور سیرت کی کتاب ہزاروں روپیہ خرچ کر کے لیتا ہوں ۴۷۶
میں تقاسیر میں ان کو مقدم کرتا ہوں جو مجھے قرآن کریم کا تذکرہ کرادیں ۴۲۰

میں نے دوسری کتابیں بہت پڑھی ہیں تا وہ قرآن کے فہم میں معاون ہوں ۴۱۹

میں نے کل دنیا کی کتابوں میں سے قرآن کریم اور بخاری شریف کو پسند کیا ہے ۲۲۹

آپ کا ترجمہ قرآن کریم کی طرف توجہ کا سبب ۲۷۸۲۷۷
قرآن کے حل اشکال کے لئے حضرت صاحب نے آپ کو

ایک گرتایا جس کے بعد سب اشکال اللہ نے حل کر دیئے ۵۵۴
مقطعات قرآنیہ کے اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے

ایک سجدہ میں مجھ کو دے دیا ۵۵۵
میں مذاہب باطلہ کو قرآن شریف کے ایک لفظ کے

ساتھ رڈ کر سکتا ہوں ۴۳
آپ کا عشق قرآن کا ایک انداز۔ مخالفین پر اتمام حجت

بذریعہ قرآن ۲۸۴
قرآن شریف آجانے کے بارے میں آپ کا بیان کردہ نسخہ ۱۳۵

قرآنی آیت پر ایک معترض کے اعتراض کا مسکت جواب ۵۵۵
عشق مسیح موعودؑ

آپ کا عشق مسیح موعودؑ ۳۴
آپ کی اطاعت و محبت مسیح موعود علیہ السلام ۵۳

میں قادیان میں کیوں آیا؟ ۲۹۳
حضرت صاحب کا آپ کو اشارہ ارشاد کہ وطن کا خیال بھی

نہ کرنا۔ تو میں نے کبھی وطن کا خیال تک نہیں کیا ۳۲۳۲۳۸
میں قریشی تھا اور مرزا کا سچے دل سے مرید ہوا ۴۰۶

آپ کا حضور علیہ السلام کی صداقت پر کامل ایمان اور اس کی خاطر قربانی ۳۳۶

میں نے اپنی آنکھ سے فرشتوں کو دیکھا ہے ۵۰۰
آپ کا ایک خواب جس میں ایک مقتول کے اصل قاتلوں کی

نشا ندہی کی گئی اور ویسا ہی وقوع پذیر ہوا ۵۷۹
ایک کتاب کی نسبت الہام ہوا کہ وہ ہند میں نہیں ہے ۴۱۹

آپ کو عبد اللہ تیما پوری کے بارہ دکھایا گیا کہ وہ مجنون ہے ۴۳۳
آپ کے دل میں ڈالی جانے والی ایک جامع دعا ۲۸۳

آپ کو الہاماً ایک اعتراض کا جواب سکھایا گیا ۳۷۷
عشق قرآن

آپ کے عشق قرآن کی ابتدا ۲۸۴
میں نے سارا قرآن شریف ماں کی گود میں پڑھا ہے ۱۳۴

بچپن سے ہی میری طبیعت خدا نے قرآن شریف پر تدبیر کرنے والی رکھی ہے ۱۴۶

اللہ کا احسان کہ اس نے قرآن کا عشق میرے دل میں ڈال دیا ۳۶
علم قرآن اللہ نے مجھے دیا۔ و الفجر و النجم اذا هوى

کی تفسیر میری کتابوں میں دیکھو ۵۵۴
اللہ نے مجھے دو علم بخشے ہیں ایک قرآن اور دوسرا طب کا ۵۵۴

اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر منکر قرآن تجھ پر اعتراض کرے گا تو ہم اسی وقت اس کا جواب سمجھا دیں گے ۵۵۴۳۸۱

اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے قرآن کی محبت اور اس کا فہم دیا ہے ۴۱۹

میری طبیعت فلسفہ کو پسند کرتی ہے مگر اللہ کا احسان کہ اس نے قرآن جیسا فلسفہ مجھے دیا ہے ۱۷۸

اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ قرآن پر تقریر کروں ۴۱۷
مجھ کو قرآن کریم سے محبت ہے ۵۵۸۱۳۳۵۹۵

قرآن کریم جیسی کتاب میں نے نہ دیکھی نہ سنی ۵۳۷
قرآن کریم کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف پر

مجھے ایمان اور اس پر کامل محبت ہے ۵۴۹
مجھے قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی چیز پیاری نہیں لگتی ۴۱۸

حُب کے مضمون نے مجھے قرآن سکھایا اور مرزا تک پہنچایا ۳۴۴
قرآن ہی میری غذا اور میری روح کی فرحت کا ذریعہ ہے

۵۶۴۱۴۶۱۳۴

استحکام خلافت

مجھے خدانے آپ خلیفہ بنایا ہے ۵۸۲، ۵۳۰، ۴۷۱

جس طرح ابوبکر اور عمرؓ آپ کے بعد خلیفہ ہوئے اسی ۴۷۷

طرح اللہ نے مجھے مرزا صاحب کے بعد خلیفہ کیا ۴۷۷

اللہ کی مشیت نے مجھے تمہارا امام اور خلیفہ بنایا ۴۷۲

میں خلیفۃ المسیح ہوں اور خدانے مجھے بنایا ہے خدا تعالیٰ ۴۳۲

نے مجھے یہ ردا پہنادی ہے ۴۳۲

مجھے کسی انسان یا انجمن نے خلیفہ نہیں بنایا اور نہ اب کسی میں ۴۷۱

طاقت ہے کہ وہ اس رداے خلافت کو مجھ سے چھین سکے ۴۷۱

مجھے خدانے خلیفہ بنایا اور تمہارے کہنے سے نہ معزول ہو ۴۷۱، ۳۳۵

سکتا ہوں اور نہ کسی میں طاقت ہے کہ وہ معزول کرے ۴۷۱، ۳۳۵

میرے ساتھ لڑائی کرنا خدا سے لڑائی کرنا ہے ۴۷۸

اللہ میرے لئے ایک غیرت رکھتا ہے ۵۸۳

میری چٹان سے جو سوارے گا اس کا سر ٹوٹ جاوے گا ۳۸۰

مجھے تم میں سے کسی کا خوف نہیں صرف خدا ہی کا خوف ۴۳۷

رکھتا ہوں

یہ خدا کا فضل ہے کہ میں خلافت کا بوجھ برداشت کر سکا تم ۴۳۲

اس کو محسوس نہیں کر سکتے ۴۳۲

میں کبھی امام بننے کا خواہشمند نہیں ہوا ۲۴۷

میرے دل میں کبھی بیعت لینے کی آرزو پیدا نہیں ہوئی ۳۵۲

انتخاب خلافت کے موقع پر تقریر ۲۴۵

خلافت کے بعد پہلی تقریر ۲۴۶

میں نے اپنے امام کی قبر کو ہر شان نہیں بننے دیا کہ تم غلو نہ کرو ۳۱۶

میں نے اس مسجد (نور قادیان) کی اینٹ رکھی تھی اور ۳۷۸ تا ۳۸۰

مذہب ترقوی تھا ۳۸۱

مسجد نور کے لئے آپ کی دعا ۴۰۴، ۳۲۳

میں تمہارے لئے تڑپ تڑپ کر دعا میں کرتا ہوں ۴۱۰، ۲۹۹

میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں اور تمہارے لئے دعا کرتا ہوں ۴۱۰، ۲۹۹

قوم میں تفرقہ کے خیال سے بھی میرے دل کے درد سے ۴۳۲

تم واقف نہیں

مجھے حضرت مرزا صاحب نہایت ہی پیارے ہیں۔ ۳۳

آپ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا ۳۳

اگر میرے پچاس بیٹے ہوں تو میں آپ کے ایک بیٹے ۳۳

پر ان پچاس کو قربان کر دوں ۱۲

میں نے اپنی تمام امراض کا علاج امام کی شناخت میں پایا ۱۲

میں تو مرزا کو دیکھ کر اس قدر ایمان میں ترقی کرتا ہوں ۱۲۹

کہ اس کا نظہار بھی نہیں ہو سکتا

جب میں نے راستباز کو پایا تو ایک منٹ بھی اس سے ۱۸۳

دور نہیں رہنا چاہتا

میری دولت میری ضرورتیں امام کے اتباع میں ہیں ۱۹۸

کوئی مجھے ایک لاکھ کیا ایک کروڑ روپیہ یومیہ بھی دے اور ۱۹۸

قادیان سے باہر رکھنا چاہے میں نہیں رہ سکتا۔ ہاں امام ۱۹۷

علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں خواہ ایک کوڑی بھی نہ ملے ۲۵۴

مجھے قادیان سے باہر مزہ نہیں آتا

اگر میری لڑکی ہو اور مرزا صاحب اس کو سو برس کے ۱۳۳

بڑھے سے بیاہنا چاہیں تو ہرگز عذر نہ ہو

اگر حضرت صاحب کی لڑکی ائمۃ الخلیفہ کو بھی امام بنا لیتے ۴۰۷

تو سب سے پہلے میں بیعت کر لیتا اور ایسی میں

اطاعت کرتا جیسی مرزا کی فرمانبرداری کرتا تھا

آپ کی پگڑی کے پتوں میں بھی ایک محبت کا جذبہ ۳۳۹

معلوم ہوتا ہے

مجھے مرزا صاحب نے بہت بڑا آدمی بنا دیا ۵۱۷

آپ کے وعدہ کو پورا کرنے کی خاطر شیخ رحمت اللہ ۴۵۱

صاحب کے مکان کا سنگ بنیاد رکھنے باوجود بیمار ہونے

کے لاہور گئے

حضور کے ارشاد پر آپ کا میاں محمد خان صاحب کی ۲۰۲

علاقت طبع پر کپور تھلہ جانا اور وہاں تقریر

حضور علیہ السلام کے کہنے پر عیسائی کے اعتراضات کے ۴۲۶

جواب میں کتاب فصل الخطاب لکھی

لاہور میں دوران تقریر آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام ۴۵۵

کے صاحبزادگان و داماد صاحب کو کرسیوں پر بٹھایا

تحریرات و نصح

جلسہ سالانہ ۱۹۱۳ء کے موقع پر آپ کی متفرق مالی تحریرات

۵۶۷۵۶۵

الحق اخبار کی مشکلات دور کرنے اور اس کی خریداری

۵۶۶

بڑھانے کی تحریک

صاحب الحکم کی زیریاری دور کرنے کے واسطے آپ کی

۵۶۵

احباب سے چھ ہزار کی تحریک

۵۶۵

احباب کو عرفانی صاحب کی کتب خریدنے کی تحریک

۳۳۲

جماعتی اخبارات و رسائل کی اعانت کی تائید

۵۶۶

انجمن ترقی تعلیم امرتسر کو چندہ دینا قیج نہیں ہے

میری یہ آخری وصیت ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ دعا

۴۰۳

کا ہتھیار تیز کرو

احباب کو عہد بیعت نبھانے اور تنازعات ختم کرنے کی نصیحت

۴۳۶۲۹۸

احباب جماعت کو نصح

۳۳۳

میں کار خیر کرنے والے سب کا مؤید ہوں

۵۲۸

مخروجین ترکی کے لئے چندہ پر آپ کا قول فیصل

متفرق

۴۳۷

آپ کی سنت رسول کی پیروی کی مثال

۴۷۲

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اولاد دل سے میری فدائی ہے

۲۳۷

(مرزا) میاں محمود احمد میرا بھائی بھی ہے میرا بیٹا بھی

مرزا سلطان احمد صاحب کے بیوی بچے میرے مرید ہیں

۴۷۹

اور وہ خود بھی مرزا صاحب کی زندگی میں میرا معتقد تھا

۴۱۰

میں اپنی بیوی کو محدود خرچ مہینہ میں دیتا ہوں

۱۸۵۱۸۴

میرا لڑکا عبداللہی آیتہ اللہ ہے

۲۸۳

میرے نو بچے فوت ہوئے

حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کی آپ کے بارہ میں

۳۱۶

خواب اور حضرت مسیح موعود کا تعبیر کرنا

حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کا آپ کے بارہ کہنا کہ

نور الدین بہت نرم لکھتا ہے حضرت صاحب نے فرمایا

۴۴۸

ہم بھی ان کی نرمی پر حیران ہیں

میں عبدالکریم مرحوم سے خدا کے لئے محبت رکھتا تھا۔

۴۳۱

ان کی بسم اللہ جہرا پڑھنے پر بھی فدا تھا

حضرت مولانا عبدالکریم صاحب نے آپ سے

۳۳۱

بخاری شریف پڑھی

میرے لنگوٹے دوستوں میں ایک حکیم فضل الدین

۲۹۶

صاحب ہیں

بھیرہ کا گھریا غ میں بنوایا اور قادیان میں جو بنایا وہاں

۱۴۰

حکام کی ڈیوڑھی تھی

میں بیٹھ کر تقریر کرنے کا عادی نہیں اور نہ ہمارے سلف

۴۵۵

سے یہ ثابت ہے

میرا دماغ خدا تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ میں مختلف

۴۵۷

مضامین پر بول سکتا ہوں اور خوب بول سکتا ہوں

۴۵۱

مجھے بدعات اور رسومات سے نفرت ہے

مجھے دودھ پینے کی مطلق عادت نہیں پھر بھی دماغی کام

۳۳۶۳۳۵

کرتا ہوں

سفر میں بہت دعائیں کرتا اور کسی گاؤں کو دیکھتا تو یہ دعا

۲۸۰

اللہم رب السموات السبع..... پڑھتا

تقویۃ الایمان اور رفاہ المسلمین کتابوں نے میرا ایمان

۲۷۹

بہت قوی کیا

آپ کے دوست شاہہ جی عبدالرزاق صاحب جنہوں نے

صحبت صالحین کے لئے قصاب کے چھریوں کے

۳۱۳

رگڑنے کی مثال دی

۲۰۵

ایک دہریہ کو ہستی باری تعالیٰ کی دلیل دے کر لا جواب کرتا

۳۸۹

ایک سو فسطائی سے آپ کی ملاقات

حضور علیہ السلام سے تہائی میں مباحثہ کرنے کے

۲۰۸

خواہش مند مولوی کو آپ کا طریق فیصلہ

۵۵۲

پادری گارڈن سے آپ کی گفتگو اور اس کا لا جواب ہو جانا

لاہور کے ایک پنڈت کا اپنے بیٹے کا علاج کے لئے آنا

۵۳۳

اور مباحثہ کرنا اور آپ سے لا جواب ہونا

۵۰۸

سفر لاہور سے واپسی پر امرتسر میں خطاب

۳۳۹	ہیس	۳۸۲	اسلام اور دیگر مذاہب کے عنوان پر آپ کی تقریر
۳۶۹، ۲۱۲	یرمیاہ نبی	۳۷۵	مسیح نور میں ۲۳ مارچ ۱۹۱۰ء کو تقریر
۳۳۶	یزید	۲۷۲	طلبہ مدرسہ احمدیہ (تعلیم الاسلام) کو آپ کا وعظ
۳۶۴	یعقوب علیہ السلام، حضرت	۱۷۷	حضور علیہ السلام کا آپ کو پنجابی میں وعظ کرنے کا ارشاد
۳۰۵	یغلط ہے کہ رونے سے آپ اندھے ہو گئے تھے	۱۶۶	لاہور کے شیعوں کے محلہ میں آپ کا وعظ
۳۲۸	یعقوب بیگ صاحب، مرزا	۲۸۱	دوست کے لئے بڑی محبت سے چائے تیار کرانی
۴۵۴، ۳۴۲	یعقوب علی عرفانی، ایڈیٹر الحکم، حضرت شیخ	۵۴۸	دوران تقریر ایک نامعلوم شخص کا بذریعہ چٹھی قرآن پڑھ کر سنانے کی فرمائش کرنا
۵۶۵	سلسلہ کی انہوں نے بڑی خدمت کی ہے۔ آپ کی زیر باری کے لئے حضور کی مالی تحریک	۵۶۶	ایک دفعہ ضرورت پر ایک کتاب فروخت کر دی ایک شخص کا اعتراض کہ آپ کا پاجامہ ٹخنہ سے نیچے گرتا ہے
۱۸۴	ایک واقعہ میں آپ کو بطور گواہ پیش فرمانا حضور کی آپ کو نصیحت کہ کتب جس قیمت پر بھی بک سکتی ہیں بیچ دیں اور استغفار بہت کریں	۴۹۹	جلیق سے نفرت کا بیان
۳۳۳، ۳۲۶، ۲۷۷، ۳۱۲، ۲۸	یوسف علیہ السلام، حضرت	۳۱۱	
۲۲۶۱	آپ کی کہانی بچپن سے اقتدار تک		وہ۔ ی۔
۲۳	آپ نے بچپن میں ہی اپنے اللہ کو خوش کر لیا تھا	۴۴۳، ۳۱۷، ۲۵۴	ولی اللہ صاحب دہلوی، شاہ
۲۳	آپ کے قصہ کو احسن القصص قرار دیا گیا	۳۰	ہاجرہ علیہا السلام
۲۶، ۲۴	غریب الوطنی میں والدین کے بغیر بڑی کامیابی حاصل کی	۳۳	آپ شاہ مصر کی لڑکی تھیں اور مالدار تھیں۔ آپ کی قربانی بادشاہ مصر نے اپنی بیٹی ہاجرہ حضرت ابراہیم کو دی
۶۹، ۶۸	آپ کی اللہ کی خاطر عزت و آرام کو کلات مارنا اور پھر اللہ تعالیٰ کا آپ سے سلوک	۳۴۹	حضرت ابراہیم سارہ کے اصرار پر ہاجرہ کو دور دراز چھوڑ کر آئے
۲۱۴	بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور آئندہ عروج کی خبر دے دی	۴۵۳	آپ نے سات چکر لگائے
۲۷۴	آپ کی عفت و طہارت کا اعلیٰ نمونہ	۴۲۴	ہاروت ماروت
۲۱۶	کس طرح اللہ کے فضل سے آپ کو جاہ و جلال ملا	۴۹۲، ۶۹	ہارون الرشید، عباسی خلیفہ اپنے بھائی بہلول کو بازار کی خبر گیری کے لئے مقرر کرنا
۵۹۵، ۱۱	یوشع بن نون		ہامان
۵۹۵	یہود اور اسکر یوطی	۴۵۹، ۲۵۸	ہرقل کی افواج کا کمانڈر انچیف
		۵۱۷، ۲۵۸	ہرقل



مقامات

مقامات	
ایران ۵۴۶، ۴۳۶، ۴۳۵، ۱۵۱، ۴۰	آ-)
ایشیا ۲۱۳	آسام ۳۶۹
ب- پ- ت	
بابل ۵۸۷	آسٹریا ۵۴۵، ۴۳۸
بٹالہ ۵۱۹	انک ۵۱۹
بٹالہ میں حضرت خلیفۃ المسیح الاول کی تقریر ۵۱۸	أحد پہاڑ ۳۱۹، ۶۹
بخارا ۵۴۶	اجودھیا ۴۸۹
برہما ۵۲۸	استنبول ۳۶۶
بریلی ۳۳۶	افغانستان ۵۸۶
بصرہ ۵۳۹	افریقہ ۵۸۷، ۵۸۶، ۳۶۹، ۲۱۳
بنچہ سرائے ۳۲۱	الجزائر ۱
بغداد ۵۴۵	امرتسر ۱۰۳، ۳
بلخ ۵۴۰	۵۶۶، ۴۵۸، ۴۴۹، ۴۳۳، ۲۶۳، ۱۷۱، ۱۶۹
بمبئی (ممبئی) ۵۲۳، ۴۲۱، ۳۶۲، ۱۷۴	سفر لاہور سے واپسی پر امرتسر میں احباب کو خطاب ۵۰۸
بنارس ۳۳۳	امریکہ ۳۹۱، ۳۶۱، ۳۲۰
بنگال ۲۷۷	۵۸۷، ۵۸۶، ۵۴۳، ۴۹۵، ۴۸۳
بہاولپور ۵۴۰	انطاکیہ ۵۸۷
بھوپال ۴۲۳	انگلستان ۴۳۸، ۳۷۱، ۲۵۸، ۶۲
بھیرہ ۵۴۰، ۴۷۷، ۴۲۳، ۳۱۴، ۲۰۳	عورت کا فتنہ اور شراب نوشی کا زور ۱۷۴
پرتگال ۴۳۵	چرچ آف انگلینڈ سالانہ ۳۶ کروڑ روپیہ
	اشاعت عیسویت میں خرچ کرتا ہے ۱۲

جواز ۲۸۱
خوشاب
خوشاب کے قیام کا حضورؐ کا ایک واقعہ ۳۲۵

د-ر

دکن ۲۹۰
دمشق ۳۷۷
دھارا نگر ۲۲۵
دہلی ۵۴۶، ۵۱۹، ۳۱۷
دیار بکر ۵۴۵
رام پور ۲۲۵، ۲۲۳
راولپنڈی
نارمل سکول راولپنڈی میں حضور کی تعلیم ۳۸۴
روس ۲۵۸، ۳۲
روم ۵۹۶، ۵۳۳، ۳۲
روہیل کھنڈ ۵۲

س-ش-ص

سرحد (خیبر پختون خواہ) ۵۱۹
سمرقند ۵۴۶
سندھ ۵۹۴، ۵۸۶، ۲۲۰
سویز کینال ۱۳۰
عمرو بن العاصؓ کا نہر سویز کا تخمینہ حضرت عمرؓ
کو بھجوانا ۱۳۰

پشاور ۵۴۰، ۴۴۰، ۴۳۹، ۴۳۱، ۲۰۷
پنڈ دادن خان جب حضورؐ یہاں مدرس تھے تو
آپ کے ایک ماتحت ہندو مدرس کوراگ کے ساتھ
خطرناک حُب تھی ۳۲۷

پنجاب ۲۹۰
پورٹ سعید ۵۲۳
پیرس ۵۲۳
تاتارستان ۵۹۶
ترکی ۲۳۵
مجر و چین ترکی کے لئے چندہ کے بارہ میں حضور کا
قول فیصل ۵۲۸

چندہ دینے سے اگر ترکی سلطنت بچ سکتی ہے تو خوشی
کی بات ہے اور چندہ میں حصہ لو ۵۲۸
تیونس ۵۴۶، ۱

ج-چ-ح-خ

جاپان ۲۸۹، ۳۶۲، ۲۵۸
جرمنی ۵۴۵، ۵۴۳، ۴۱۸، ۳۸۳
جموں ۵۶۸، ۵۶۶، ۵۵۷، ۵۵۵
چین ۵۹۱، ۵۸۶، ۴۹۵، ۴۳۸، ۳۶۹، ۲۰۷
چینیاں والی مسجد لاہور ۲۲۲
حبشہ ۳۰۳
حبشہ کے عیسائی بادشاہ کے پاس صحابہ رسول کو بہت
امن ملا ۲۴۳

قادیان مسیح اور مہدی کے لئے آئیں۔	۵۶۱
بستروٹی کے لئے نہ آویں..... ۲۰۰	۲۰۷
حضرت خلیفۃ الاول کا قادیان میں آنے کا مقصد ۲۹۳	۵۶۷، ۴۶۸، ۴۶۰، ۴۴۶، ۴۳۱، ۲۲۸
قازان ۳۲۱	۲۴۰
قسطظنیہ ۵۴۶، ۵۲۹، ۱	۵۹۶، ۵۳۳، ۴۰
قصور ۵۴۰	۵۵۳، ۲۰۳
قنوج ۴۵۱	۳۵۰، ۳۴۹، ۳۳۳، ۳۰
کابل ۴۰۶	۴۴۹
کانگرہ ۳۳۳	۹۰
کپورتھلہ ۳۷۱	۵۴۶، ۴۴۳، ۴۳۵، ۱
حضورؐ کے ارشاد پر حضرت میاں محمد خان صاحب کی	۲۰۷
علاقت پر حضرت حکیم نور الدین صاحب کا کپورتھلہ	۱۵۱، ۱۳۵، ۱۲۵، ۸۵، ۵۴، ۴۰، ۱۰
جانا اور وہاں تقریر..... ۲۰۲	۴۱۷، ۲۶۹، ۲۵۹، ۲۱۳، ۲۱۲، ۱۹۳
کراچی ۵۴۵، ۵۲۸	۵۹۶، ۵۸۸، ۵۸۷، ۵۸۶، ۵۸۰
کشمیر ۵۱۶، ۵۱۲	متزلزل عرب رسول کریمؐ کی وفات کے بعد وعدہ کے
کلکتہ ۵۲۸، ۴۴۰، ۴۳۹، ۲۷۷، ۲۰۷	موافق ابوبکر صدیقؓ کے ہاتھ پر ٹھہر گیا..... ۱۰
کنعان ۵۹۵	علیگڑھ ۳۳۵
کلینی ۳۶۲	ف-ق-ک-گ
کولمبو ۵۲۸	فرانس ۵۴۵، ۴۱۸
کوہاٹ ۵۴۰، ۲۷۸	فیروزپور ۵۶۷
کھنی وال (بہاولپور) ۵۴۰	قادیان ۲۹۱، ۱۸۴، ۱۴۰، ۱۱۹، ۵۴، ۵۳، ۱۹
گجرات ۴۲۶، ۱۳	۴۷۷، ۴۵۴، ۳۷۷، ۳۰۸، ۲۹۵
	۵۶۹، ۵۶۷، ۵۶۵، ۵۴۰، ۵۳۹، ۵۱۶

لاہور میں سید مٹھا سے ایک شخص حضور سے مباحثہ کرنے آیا..... ۵۳۴	گوجرانوالہ ۲۷۰
لاہور متعدد مقامات انارکلی، کوڑی باغ، شاہدرہ، راوی وغیرہ کا ذکر..... ۵۳۴	گورداسپور ۲۴۴، ۱۶۰
لدھیانہ..... ۱۸۴، ۱۳	
لکھنؤ..... ۲۲۳، ۲۸۴	
لکھنؤ میں حضور کا حصول تعلیم..... ۳۸۴	
لنڈن ۵۴۵، ۵۴۳، ۵۴۱، ۳۶۲، ۲۰۷، ۱۷۳	
مالیر کوٹلہ..... ۳۳۶	
مدراں..... ۵۲۸	
مدینہ منورہ ۱۳۰، ۱۰۳، ۱۰۲، ۷۵، ۶۳، ۱۷، ۱۱	
۱۹۹، ۱۹۸، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۵۹، ۳۰۳، ۳۳۳، ۳۹۷، ۴۲۱، ۴۵۳	
مراد آباد..... ۴۲۳	
مراکش..... ۵۴۶، ۱	
مردہ (پہاڑی)..... ۳۵۰، ۳۴۹، ۳۰	
مسجد اقصیٰ قادیان	
حضورؐ کے والد ایک کنال رقبہ میں بنانا چاہتے تھے..... ۱۱۹	
مسجد الحرام	
اس کے معمار حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل تھے ۱۰۳	
آنحضرتؐ اور قرآن کی سچائی کا نشان ہے..... ۱۰۲	
مسجد شاہی لاہور..... ۱۰۳	
مسجد ضرار..... ۳۷۹	
مسجد نبوی..... ۴۵۳	
لاہور کا کوئی آدمی نہ میرے امر خلافت میں روک بنائے نہ بن سکتا ہے..... ۴۷۷	
اگر کہو کہ لاہور کے لوگ خلافت میں روک ہیں تو میرے مخلص دوستوں پر بدظنی ہوتی ہے..... ۴۷۹	
لاہور میں حضورؐ کی تقریر بر موقع سنگ بنیاد مکان شیخ رحمت اللہ صاحب..... ۴۵۰	
خدا تعالیٰ کے منکرین کی بھی جماعت یہاں ہے اور ان کا اخبار بھی نکلتا ہے..... ۵۳۳	
لاہور کے ایک پنڈت کا حضور کے پاس بیٹے کے علاج کے لئے آنا۔ دوران مباحثہ لا جواب ہونا..... ۵۳۴	

نجران ۲۸۷
 نیل دریا دریائے نیل کا منبع جبل القمر ۱۳
 نیوزی لینڈ ۵۸۷

و-۵-ی

وزیر آباد ۵۵۶۱۳۳
 ہالینڈ (نیو ہالینڈ) ۵۸۷
 ہندوستان ۱۷۳۱۵۱۶۲۴۰
 ۲۱۹۶۲۸۱۲۷۹۲۵۸۲۲۷۲۰۳
 ۵۹۶۵۸۶۵۵۶۵۲۸۵۱۴۳۹۵۲۸۷
 یاغستان ۵۵۵۴۰۶۲۷۷
 یروشلم ۵۸۷۳۸۷۳۶۹۲۵۷۱۸۷
 یمن ۲۸۱
 یورپ ۱۳۰۶۰۵۸۳۸
 ۲۹۵۴۱۷۳۹۱۳۷۱۳۶۹۳۶۴۲۱۳
 ۵۸۷۵۸۶۵۵۸۵۵۲۵۴۷۵۴۲۵۰۴
 لوگ یورپ کی ہر بات اور ہر ادا کو پسند کرتے ہیں ۴۱۸

اس کو بھی باپ بیٹوں نے بنایا ۱۰۳
 معمولی کھجور کے پتوں کی چھت ڈالی گئی ۱۰۲
 مسجد نور قادیان ۵۶۹۳۷۵
 اس مسجد کی بنیاد خلیفۃ المسیح الاولؑ نے رکھی تھی اور
 مد نظر تقویٰ تھا ۳۸۰۶۳۷۸
 مسجد نور کے لئے آپؐ کی دعا ۳۸۱
 مسجد وزیر خان لاہور ۱۰۳
 مسقط ۵۴۶
 مصر ۵۲۹۳۲۱۳۳۲۱۹۱
 ۵۹۶۵۹۵۵۴۶۵۴۵۵۳۳
 بادشاہ مصر کا حضرت ابراہیمؑ کو ان کی نیکی کی وجہ سے
 اپنی بیٹی ہاجرہ دے دینا ۳۴۹
 مکہ مکرمہ ۱۰۴۹۰۸۵۶۷۷۵۴۲۷۶
 ۳۳۴۳۲۲۳۰۹۳۰۳۲۵۹۱۹۸۱۵۰۱۲۹
 ۵۸۷۵۵۲۵۵۱۵۴۵۵۴۳۵۲۹۴۵۳
 مقدس شہر کی ابتداء ۳۳
 یہاں مسجد الحرام تعمیر ہوئی۔ یہ امام القرئی اور دنیا کی
 ناف کہلاتی ہے ۱۰۳



کتابیات

ب-پ-ت	آ-ا
۲۸۹..... بالک	۴۳۲ آثار امام محمد
۲۸۷، ۲۸۶، ۲۶۸، ۲۲۶، ۲۵۸..... بانیل	۲۵۴ آریہ دھرم
۲۵۶..... برکات الدعا	۲۵۶ آئینہ کمالات اسلام
۳۶۵..... بحار الانوار	۵۸۵ آیات بینات از شیخ رحیم بخش نومسلم
۲۲۹، ۲۲۰..... البخاری الصحیح	۴۷۹ ابطال الوہیت مسیح
۵۰۱، ۴۷۶، ۴۴۳، ۳۶۸، ۳۶۷، ۳۶۶، ۲۳۱	۴۱۴ ابو داؤد سنن
۲۵۴..... براہین احمدیہ	۴۲۲، ۳۸۶ اتقان
۳۸۷..... بیضاوی	۳۶۶ استبصار
۲۵۸، ۲۵۵..... پیغام صلح	۳۷۱، ۳۰۱، ۲۷۰، ۲۰۸، ۱۵۳، ۱۴۰، ۳۹ انجیل
۴۰..... تاریخ دنیا از لیکھرام	۵۵۲، ۵۴۷، ۵۳۸، ۵۱۹، ۴۸۶، ۳۷۲
۴۹۱..... تاریخ ہند	۵۹۲، ۵۹۰، ۵۸۶، ۵۵۸
۳۲۳..... تائید حق از مولوی حسن علی صاحب	انجیل کی زبان عبرانی تھی لیکن اس کے مقابل یونانی
۵۵۴..... ترک اسلام از دھرپال	۱۸۷ کو اصل سمجھا گیا.....
۲۶۳..... ترمذی الجامع	زندگی کے کسی حصہ اور شعبہ کے لئے انجیل کی ہدایت
۴۷۹..... تصدیق براہین احمدیہ	۶۲..... نہیں مل سکتی.....
۷۲..... تعزیرات ہند	۱۸۳..... کتاب مقدس کا ترجمہ غیر زبانوں میں.....
۴۶۰، ۴۲۳..... تفسیر کبیر امام رازی	۱۸۵..... انوار الاسلام از حضرت مسیح موعود.....
۲۷۹..... تقویۃ الایمان	۴۲۳ اوامر و نواہی قرآن مجید از سید عبدالحی عرب
۴۰..... تکذیب براہین احمدیہ از لیکھرام	

۲۵۶	سر الخلافہ	۲۸۹	تلسی رامائن
۲۵۴	سرمہ چشم آریہ	۵۹۰، ۵۸۶، ۴۵۰، ۳۰۱، ۲۰۸، ۱۴۰، ۷۷	توراۃ
۲۸۶	سفرنگ		موئی کی طرف منسوب کتاب میں موئی کی وفات کا
۲۵۱	سفینۃ الاولیاء	۳۸	بھی ذکر ہے
۵۵۱	سنن الہدیٰ	۳۶۶	تہذیب
۲۵۴	شعۃ حق		ج۔ ج۔ ج۔ ح۔ خ
۳۶۶	طبری	۲۵۵	جنگ مقدس
	طریق نجات: رافضیوں کا ایک رسالہ جس میں	۲۵۸، ۲۵۴	چشمہ معرفت
۲۷۶	اولیاء اور محدثین پر لعنت کا الگ الگ باب ہے	۲۶۱، ۲۵۸	حقیقۃ الوحی
۳۸۴	طریق الحیات	۴۱۹	حلیہ ابی نعیم
	ف۔ ق۔ ک۔ گ	۴۴۳	خصوص
۳۸۷	فتح العزیز، تفسیر		د۔ ز۔ ر۔ ژ
۲۶۵	فتوح الغیب از حضرت سید عبدالقادر گیلانی	۲۶۴	در منثور، تفسیر
۳۸۶	فوز الکبیر	۵۹۰، ۴۵۰، ۳۶۵	دساتیر
۴۷۹	فصل الخطاب	۳۷۳	دین الحق یا ہمارا مذہب
۴۲۶	کتاب فصل الخطاب لکھنے کی وجہ	۳۰۸	دیوان خنساء
۲۶۱، ۲۵۴	قادیان کے آریہ اور ہم	۲۶۲	الذکر الحکیم
۳۶۷	قدوری	۳	رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب
	قرآن کریم دیکھنے کی کلید مضامین	۲۷۹	رفاہ المسلمین
۳۶۵	کافی	۵۹۰، ۴۸۶، ۴۵۰، ۳۶۵	ژنداوستا
۵۳۹	کلینی		س۔ ش۔ ط
۳۶۸	کیدانی	۲۵۴	ست پنجن
۴۸۶، ۴۵۰، ۳۶۵	گاتھ		

